

اعرِبُوا الْقُرْآنَ وَالتَّمَسُّوا غَرَائِبَهُ (ایض)

مَعَارِفُ الْمَبَائِدِ

فِي

اَعْرَابِ الْقُرْآنِ

جلد ثانی سُورَةُ الْأَعْرَافِ تا سُورَةُ الْكَهْفِ

www.KitaboSunnat.com

تالیف

استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا

المؤلف عبد الرحمن بن حبان بن اودھوی حفظہ اللہ

فاضل جامعہ خیر المدارس ملتان

مدیر: جامعہ نور القرآن والسنة پل شاہ نال لودھراں

و استاذ محریث: جامعہ سراج العلوم لودھراں

ناشر

مکتبہ اقبال لائبریری

ملتان، پاکستان 061-4544965  
0300-7828402





## معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

### تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے  
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی  
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے  
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ [KitaboSunnat@gmail.com](mailto:KitaboSunnat@gmail.com)

🌐 [library@mohaddis.com](mailto:library@mohaddis.com)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَعْرَبُوا الْقُرْآنَ وَالنَّحْسُوهَا غَوْرًا (المع)

# مَعَارِفُ الْبَيَانِ

فِي

# إِعْرَابِ الْقُرْآنِ

جند ثانی

سُورَةُ الْأَعْرَابِ تَا سُورَةُ الْكَهْفِ

تالیف

استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا

ابو اسامہ عبد الرحمن صاحب لودھروی حفظہ اللہ

فاضل: جامعہ خیر المدارس ملتان

مدیر: جامعہ نور القرآن ڈالٹہ ٹیپل شاہ نال لودھراں

واستاد الحدیث: جامعہ سراج العلوم لودھراں

ناشر

مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان

www.kitaabosunnat.com

کتاب کے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: **مَعَارِفُ الْبَيَانِ فِي إِعْرَابِ الْقُرْآنِ** جلد ۱

سُورَةُ الْأَعْرَافِ تَا سُورَةُ الْكَهْفِ

تالیف: ابو اسامہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب لودھروی

ناشر: **مکتبہ امدادیہ ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان**

فون نمبر ۰۲-۸۲۸۳۰۲-۰۳۰۰-۰۳۵۴۹۶۵/۰۳۱

المکتبۃ المدادیہ  
جے نائل ٹاؤن - لاہور

ملنے کے پتے

☆ کتب خانہ مجیدیہ ملتان ☆ ادارہ اشاعت الخیر ملتان ☆ مکتبہ حقانیہ ملتان

☆ مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور فون ۰۳۲-۳۲۲۲۲۲۲۸/۳۲۲۱۳۹۵

☆ مکتبہ خلیل لاہور

☆ مکتبہ العلم اردو بازار لاہور فون ۰۳۲-۳۲۲۳۱۷۸۸/۳۲۲۱۱۷۸۸

☆ قدیمی کتب خانہ بالمقابل آرام باغ کراچی فون ۰۲۱-۳۲۲۱۲۲۲۱/۳۲۲۱۲۲۲۰

☆ مکتبہ الشیخ بہادر آباد کراچی

۰۲۱-۳۲۲۱۳۰۵۸

☆ کتب خانہ اشرفیہ کراچی فون نمبر

۰۲۱-۳۲۲۱۳۷۶۸

☆ دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون نمبر

اس کتاب کی عجمی حوالہ جات کو حوش کی گئی ہے۔ اگر اس کے باوجود کہیں کوئی غلطی  
نظر آئے تو تشریح فرمائیں تاکہ آٹھ ماہیہ پٹن میں اس کی عجمی جگہ جاسکے۔ تجراک امداد حسن انجمن  
(ادارہ)

ضروری گڈاڑش

## فہرست

## سُورَةُ الْأَعْرَافِ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۴۲	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱۳	۷	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱
۴۳	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱۳	۹	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۲
۴۸	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱۵	۱۳	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۳
۴۹	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱۶	۱۶	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۴
۵۳	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱۷	۲۰	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۵
۵۷	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱۸	۲۳	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۶
۵۹	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱۹	۲۶	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۷
۶۲	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۲۰	۲۸	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۸
۶۵	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۲۱	۳۰	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۹
۶۹	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۲۲	۳۳	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱۰
۷۳	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۲۳	۳۷	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱۱
۷۵	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۲۳	۴۰	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱۲

## سُورَةُ الْأَنْفَالِ

۹۶	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۶	۸۱	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱
۹۷	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۷	۸۳	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۲
۱۰۰	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۸	۸۷	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۳
۱۰۲	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۹	۸۹	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۴
۲۰۳	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱۰	۹۲	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۵

## سُورَةُ التَّوْبَةِ

۱۱۳	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۳	۱۰۸	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۱
۱۱۷	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۴	۱۱۰	ترکیب دو کون نمبر۔۔۔ ۲

۱۳۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۱	۱۱۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵
۱۳۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۲	۱۲۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶
۱۳۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۳	۱۲۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷
۱۵۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۴	۱۳۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۸
۱۵۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۵	۱۳۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۹
۱۵۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۶	۱۳۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۰

### سُورَةُ يُوسُفَ

۱۸۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷	۱۵۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۱۸۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۸	۱۶۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
۱۸۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۹	۱۶۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳
۱۹۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۰	۱۷۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴
۱۹۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۱	۱۷۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵
		۱۷۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶

### سُورَةُ هُودِ

۲۲۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶	۱۹۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۲۲۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷	۲۰۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
۲۲۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۸	۲۰۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳
۲۳۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۹	۲۱۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴
۲۳۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۰	۲۱۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵

### سُورَةُ يُوسُفَ

۲۵۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵	۲۳۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۲۵۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶	۲۳۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
۲۵۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷	۲۳۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳
۲۶۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۸	۲۳۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴

۲۷۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۱	۲۶۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۹
۲۷۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۲	۲۶۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۰

### سُورَةُ الرَّعْدِ

۲۹۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳	۲۸۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۲۹۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵	۲۸۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
۲۹۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶	۲۸۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳

### سُورَةُ اِبْرَاهِيمَ

۳۰۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵	۲۹۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۳۱۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶	۳۰۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
۳۱۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷	۳۰۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳
		۳۰۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴

### سُورَةُ الْحَجَرِ

۳۲۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳	۳۱۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۳۲۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵	۳۱۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
۳۳۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶	۳۲۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳

### سُورَةُ التَّحْلِی

۳۵۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۹	۳۳۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱
۳۵۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۰	۳۳۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۲
۳۵۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۱	۳۴۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۳
۳۶۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۲	۳۴۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۴
۳۶۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۳	۳۴۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۵
۳۶۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۴	۳۴۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۶
۳۶۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۵	۳۴۹	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۷
۳۷۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۱۶	۳۵۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔ ۸

### سُورَةُ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ

۳۹۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۷	۳۷۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۱
۳۹۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۸	۳۷۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۲
۴۰۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۹	۳۸۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۳
۴۰۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۱۰	۳۸۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۴
۴۰۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۱۱	۳۸۶	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۵
۴۰۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۱۲	۳۹۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۶

### سُورَةُ الْكَهْفِ

۴۳۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۷	۴۱۲	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۱
۴۳۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۸	۴۱۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۲
۴۳۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۹	۴۱۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۳
۴۳۷	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۱۰	۴۲۰	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۴
۴۴۱	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۱۱	۴۲۳	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۵
۴۴۵	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۱۲	۴۲۸	ترکیب رکوع نمبر۔۔۔۔۔ ۶





## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### ترکیب سُورَةُ الْأَعْرَافِ

● رُكُوعُ نَمْرًا ●

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ النَّصُّ ۝ كَتَبْنَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ  
لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

**آیت نمبر ۱:** کتبہ موصوفہ انزل فعل مجہول ہو مستزہب قائل الیک جدا بجز و متعلق تینوں مل کر صفت، موصوفہ بہ صفت مبتدا محذوف ہذا کی خبر، فقاء نصیحہ امر شرط محذوف ہے، اذ کان الامور كذلك یا تتابع لڑوؤہ، لا یکن فعل ناقص فی صدرک ظرف مستقر کا کتنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم حرج موصوفہ عنہ طرف مستقر کا کتن کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ بہ صفت اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ جزاء شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لاکہ حرف جر و تعلیل اور اس کے بعد ان مقدم ہے لیتذیر فعل آت مستزہب علیہ جدا بجز و متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق بتول معدر بجز و جدا بجز و متعلق ہوئے انزل کے۔ و او عاقلہ ذکری موصوفہ للمؤمنین طرف مستقر کا کتنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ بہ صفت مجرور تقدیراً لیتذیر موصوفہ ہے۔

اَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَدَّكُرُونَ ۝

**آیت نمبر ۲:** اتبعوا فعل امر و او ضمیر قائل مامور انزل فعل مجہول ہو مستزہب قائل الیکم جدا بجز و متعلق ہوئے، من ربکم ظرف مستقر کا کتنا کے متعلق ہو کر انزل الیکم ضمیر سے حال ہے، فعل مجہول بہتہب قائل و متعلق سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ و او عاقلہ لا تکتبعوا فعل نہی و او ضمیر قائل من دونہ جدا بجز و طرف مستقر کا کتنا کے متعلق ہو کر حال مقدم، اولیاء ذوالحال مؤخر، دونوں مل کر مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متساوہ ہو، قلیلاً بواسطہ محذوف سنذکروا کے مفعول مطلق مقدم، معاً ناکدہ برائے تاکید کتدکرون فعل و او ضمیر قائل، فعل با قائل و مفعول مطلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنَاتٍ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ۝

**آیت نمبر ۳:** و او استیغنیہ کد خبریہ میز میں جاہ قریہ کبیر، میز تیز مبتدا اهلکنا فعل ناقص ضمیر قائل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ فقاء عاقلہ جاء فعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ، ہا سنا کرب اضافی قائل، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ متساوہ ہو بیئاتا بمعنی بالکثیرین کے ہو کر معطوف علیہ، او عاقلہ ہم قائلون قائلون مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال ہے جاء کی ضمیر مفعول سے۔

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

**آیت نمبر ۶:** عَفَاءَ عَاطِفَةٍ مَآءٍ فِی كَآءٍ نَفْسٌ نَاقِصٌ دَعْوَى مَصْدَرٌ مَضْفٍ هُمُ مَضْفٌ إِلِیْهِ إِذْ تُرْفَعُ نَمَانٌ مَضْفٌ جَاءَ فَعْلٌ هُمُ ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ بِأَسْمَائِكَ مَرْكَبٌ اِسْمَانِيٌّ قَاعِلٌ تَمِيزٌ لَمْ كَرْمِضٌ اِلِیْهِ مَضْفٍ بِاِمْتِنَانِ اِلِیْهِ دَعْوَى كَامِعْمُولٌ فِیهِ مَصْدَرٌ مَضْفٍ اِلِیْهِ مَضْفٍ اِلِیْهِ وَ مَفْعُولٌ فِیهِ سَعَلٌ كَرْمِزٍ مَقْدَمٌ بِالْاِحْرَافِ اِسْتِثْنَانٌ مَصْدَرِیْہٖ قَالُوْا فَعْلٌ وَاوَضَمِیرٌ قَاعِلٌ سَعَلٌ كَرْمِزٍ اِلِیْهِ حَرْفٌ حَقِیْقٌ تَا ضَمِیرِ اِس كَامِ كُنَّا فَعْلٌ نَاقِصٌ تَا ضَمِیرِ اِس كَامِ اِسْمَا كَالْمُؤْمِنِیْنَ خَبْرٌ فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ مَقْوَلٌ قَوْلٌ یَا مَقْوَلٌ یَتَوَلَّى مَصْدَرٌ اِسْمٌ مَوْضِعٌ فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ فَعْلِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ مَعْطُوْفَةٌ هُوَل

**فَلَنْتَسَلَنَّ الَّذِیْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ لَنْتَسَلَنَّ الْمُؤْسَلِیْنَ ۝**

**آیت نمبر ۶:** اِسْتِثْنَاءٌ لِاَمْرٍ مَوْضِعٌ لِقَمِّ اِسْمٍ مَحْذُوفٌ بِهٖ نَسْتَسَلَنَّ فَعْلٌ نَحْنُ مُشْتَرَكٌ قَاعِلٌ اَلَّذِیْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ اُرْسِلَ فَعْلٌ بِمَجْمُوْلٍ هُوَ مُشْتَرَكٌ بِقَاعِلِ اَللّٰهِمْ جَدًا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَل فَعْلٌ بِمَجْمُوْلٍ بِاِتَابِ قَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ سَعَلٌ كَرْمِزٍ جَمْلَةٌ فَعْلِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ صِلَةٌ مَوْصُولٌ بِاِصْلَةٍ مَفْعُولٌ بِهٖ فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهٖ جَوَابٌ سَمٌ جَوَابٌ سَمٌ مَعْطُوْفٌ عَلَیْہٖ وَاوَضَمِیرٌ لِقَمِّ اِسْمٍ مَحْذُوفٌ بِهٖ نَسْتَسَلَنَّ فَعْلٌ نَحْنُ مُشْتَرَكٌ قَاعِلٌ اَلْمُؤْسَلِیْنَ مَفْعُولٌ بِهٖ تَمِيزٌ لَمْ كَرْمِزٍ مَقْدَمٌ جَوَابٌ سَمٌ جَوَابٌ سَمٌ مَعْطُوْفٌ عَلَیْہٖ بِاِصْلَةٍ جَمْلَةٌ

مستأنف ہوں

**فَلَنْتَقْصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ مَا كُنَّا غٰلِبِیْنَ ۝**

**آیت نمبر ۷:** عَفَاءَ عَاطِفَةٍ لَآءٍ مَوْضِعٌ لِقَمِّ اِسْمٍ مَحْذُوفٌ بِهٖ نَقْصَنَّ فَعْلٌ نَحْنُ مُشْتَرَكٌ ذُو اِلْحَالِ بِعِلْمٍ غَرْفٌ مُشْتَرَكٌ كَالْمُؤْمِنِیْنَ كَسَمٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرْمَلٌ اَوَّلٌ وَاوَضَمِیرٌ مَآءٍ فِی كَآءٍ نَفْسٌ نَاقِصٌ تَا ضَمِیرِ اِس كَامِ اِسْمَا كَالْمُؤْمِنِیْنَ اِسْمٌ قَاعِلٌ نَحْنُ مُشْتَرَكٌ قَاعِلٌ سَعَلٌ كَرْمِزٍ جَمْلَةٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ ذُو اِلْحَالِ بِاِحْمَالِیْنَ قَاعِلٌ عَلَيْهِمْ جَدًا بِمَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَل فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعْلِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ مَعْطُوْفَةٌ هُوَل

**وَ اَلْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِیْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝**

**مَوَازِیْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ اَلَّذِیْنَ حَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰلِیْتِنَا یَظْلُمُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۸:** وَاوَضَمِیرِ اَلْوَزْنِ مَوْصُولٌ اَلْحَقُّ مَفْعٌ مَوْصُوْفٌ بِاِصْفِ مَبْتَدَاً یَمِیْنِیٌّ مَرْكَبٌ اِسْمَانِیٌّ كَالْوَزْنِ كَامِعْمُولٌ فِیهِ هُوَ كَرْمِزٍ مَبْتَدَاً بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ مَسْتَأْنَفٌ هُوَل قَاعِدٌ اِسْتِثْنَاءِیَّةٌ مِّنْ اِسْمِ شَرْطٍ مَبْتَدَاً تَقَلَّتْ فَعْلٌ مَوَازِیْنُهُ مَرْكَبٌ اِسْمَانِیٌّ قَاعِلٌ دُوْنُوں لَمْ كَرْمِزٍ مَقْدَمٌ جَزَائِیَّةٌ اُوْلٰٓئِكَ اِسْمٌ اِشْرَآءٌ مَبْتَدَاً هُمُ ضَمِیرٌ فَعْلٌ اَلْمُفْلِحُونَ خَبْرٌ مَبْتَدَاً بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ جَزَائِیَّةٌ شَرْطٌ بِاِجْرَآءِ مِّنْ كِیْ خَبْرٌ مَبْتَدَاً بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ مَعْطُوْفٌ عَلَیْہٖ وَاوَضَمِیرٌ مِّنْ اِسْمِ شَرْطٍ مَبْتَدَاً حَقَّقَتْ فَعْلٌ مَوَازِیْنُهُ مَرْكَبٌ اِسْمَانِیٌّ قَاعِلٌ دُوْنُوں لَمْ كَرْمِزٍ مَقْدَمٌ جَزَائِیَّةٌ اُوْلٰٓئِكَ اِسْمٌ اِشْرَآءٌ مَبْتَدَاً اَلَّذِیْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ حَسِرُوْا فَعْلٌ وَاوَضَمِیرٌ قَاعِلٌ اَنْفُسَهُمْ مَرْكَبٌ اِسْمَانِیٌّ مَفْعُولٌ بِهٖ بِاِصْفِ جَدَّاهُ مَصْدَرِیَّةٌ كَانُوْا فَعْلٌ نَاقِصٌ وَاوَضَمِیرِ اِس كَامِ اِسْمَا كَالْمُؤْمِنِیْنَ اِسْمٌ قَاعِلٌ نَحْنُ اُوَضَمِیرِ اِس كَامِ اِسْمَا كَالْمُؤْمِنِیْنَ اِسْمٌ قَاعِلٌ نَحْنُ مُشْتَرَكٌ قَاعِلٌ اَلْمُفْلِحُونَ فَعْلٌ نَحْنُ مُشْتَرَكٌ قَاعِلٌ اَلَّذِیْنَ اِسْمٌ مَوْصُولٌ حَسِرُوْا فَعْلٌ وَاوَضَمِیرٌ قَاعِلٌ اَنْفُسَهُمْ مَرْكَبٌ اِسْمَانِیٌّ قَاعِلٌ دُوْنُوں لَمْ كَرْمِزٍ مَقْدَمٌ یَظْلُمُوْنَ فَعْلٌ وَاوَضَمِیرٌ قَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ مَقْدَمٌ سَعَلٌ كَرْمِزٍ جَمْلَةٌ فَعْلِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ خَبْرٌ فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ وَخَبْرٌ جَمْلَةٌ یَتَوَلَّى مَصْدَرٌ جَمْرُورٌ جَدًا بِمَجْرُورٍ حَسِرُوْا كَسَمٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَل فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهٖ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمْلَةٌ فَعْلِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ صِلَةٌ مَوْصُولٌ بِاِصْلَةٍ خَبْرٌ مَبْتَدَاً بِاِخْبَرِ جَمْلَةٍ اِسْمِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ هُوَ كَرْمِزٍ جَمْلَةٌ بِاِجْرَآءِ مِّنْ

کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متعلق ہوں

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰** اتواوا استثنایہ لاکر موطن القسم اور قسم محذوف ہے۔ قَدْ حرف تحقیق مَكَّنَّا فعل نا ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ۔ فی الأرض ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے۔ یہ تمام مل کر معطوف علیہ ہوا و عاطف جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لَكُمْ جملہ باخبر و کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم میں تھا ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم مَعَايِش ذوالحال باحال مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم محذوف کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ متعلق ہوں قَلِيلًا بواسطہ موصوف محذوف شکر کے مفعول مطلق مقدم مَعَايِش براءے تاکیدی تَشْكُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہوا

﴿۱۰﴾ رکوع نمبر ۲

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ۗ اِلَّا

اٰیۡلِسَ ۙ اَلَمْ يَكُنْ مِنَ السَّٰجِدِيْنَ ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱** اتواوا استثنایہ لاکر موطن القسم اور قسم محذوف ہے۔ قَدْ علامت فعل خَلَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطف صَوَّرْنَا فعل نا ضمیر فاعل کُمْ ضمیر منسوب مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف اول، ثُمَّ عاطف قُلْنَا فعل نا ضمیر فاعل لِلْمَلٰئِكَةِ جملہ باخبر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول اسْجُدُوا و فعل واو ضمیر فاعل لِآدَمَ جملہ باخبر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق مقولہ، قول با مقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ تسمیہ ہوں لقاء تسمیہ سَجَدُوا و فعل واو ضمیر مستثنیٰ منہ اِلَّا حرف استثنایہ اٰیۡلِسَ ذوالحال لَمْ یَكُنْ فعل ناقص ہو مستتر اسم من السَّٰجِدِيْنَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۗ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۗ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ﴿۱۲﴾

**طین**

**آیت نمبر ۱۲** قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول معاً استفہامیہ مبتدہ مَنَعَ فعل ہو مستتر فاعل کاف ضمیر منسوب مفعول بہ آن حرف مصدری و نسب لانا کہ تَسْجُدَ فعل اَنْت مستتر فاعل سے مل کر تبول مصدر منسوب بزعم الخافض ہے، حرف جر مقدم ہے، جملہ باخبر و مَنَعَ کے متعلق ہوئے۔ اِذْ ظرف زمان مَضَى اَمَرْتُ فعل تاکہ مضمومہ فاعل کاف ضمیر منسوب مفعول بہ، تینوں مل کر اِذْ کا مضاف الیہ، مرکب انسانی مفعول فی مَنَعَ کا، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدہ باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں



ثُمَّ لَا يُلِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿۱۷﴾

آیت نمبر ۱۷: ثُمَّ عاقلہ لاکر موثر لشم اور قسم مخروف ہے اَیْمَانٍ فعل انا ضمیر قائل ہُم ضمیر مفعول بہ۔ ومن جہدہ یبین اَیْدِيَهُمْ مرکب انسانی مجرور، جہدہ باجرور معطوف علیہ، واو عاقلہ من خَلْفِهِمْ جہدہ باجرور معطوف الیل، واو عاقلہ عن شَمَائِلِهِمْ جہدہ باجرور معطوف ثانی، معطوف علیہ باحطوفات ثلاثہ طرف لغرائین کے متعلق ہوئے، فعل با قائل ومفعول بہ، متعلق قسم کا جواب ہے، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو، واو استثنائیہ لاکچھ فعل اَنْتَ مستتر قائل اَكْثَرَهُمْ مرکب انسانی مفعول بہ الیل مشاکرین مفعول بہ ثانی، فعل با قائل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلْنَا جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: قَالَ فعل ہو مستتر قائل سے ل کر قول، اخْرُجْ فعل امر ہو ضمیر مسترزوالیل مَذْمُومًا مَدْحُورًا حال ثانی، ذواللیل باحالیین قائل مِنْهَا جہدہ باجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل ومتعلق جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ لاکر موثر لشم اور قسم مخروف ہے مَن اسم شرط مبتدہ، یُخْرِجْ فعل ہو مسترزوالیل مِنْهُمْ ظرف مستقر کا کتا کے متعلق ہو کر حال، ذواللیل باحال قائل کا ف ضمیر منسوب مفعول بہ، فعل با قائل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لاکر جوابیہ اَمَلْنَا فعل انا مستتر قائل جَهَنَّمَ مفعول بہ، ومن جہدہ کُفْرٌ ضمیر مؤکد، اَجْمَعِينَ تاکید، مؤکد با تاکید مجرور، جہدہ باجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل ومفعول بہ ومتعلق قسم مخروف کا جواب ہے، اور شرط کی جزاء مخروف ہے جس پر جواب قسم دال ہے، شرط با جزاء مَن کی خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: واو استثنائیہ یاء حرف عداد اَدْعُو کے قائم مقام اَدْعُو فعل انا مستتر قائل اَدْعُو متلاذی مفرد معروض، ملامت منسوب مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ انشائیہ ہو کر عداد اسْكُنْ فعل امر اَنْتَ مستتر مؤکد، اَنْتَ ضمیر منضمّل تاکید، مؤکد با تاکید معطوف علیہ، واو عاقلہ زَوْجُكَ مرکب انسانی معطوف معطوف علیہ با معطوف قائل الْجَنَّةَ توسعا مفعول بہ، فعل با قائل ومفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، قائم عاقلہ کلا فعل الف ضمیر قائل من جہدہ حَيْثُ مضاف شِئْتُمَا فعل با قائل مضاف الیہ، مرکب انسانی مجرور، جہدہ باجرور کلا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل ومتعلق جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف الیل، واو عاقلہ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ لَا یُکِنُّ مِنْكَ قُرْبٌ هَذِهِ الشَّجَرَةَ کی بتاویل میں ہے، لاکین فعل ناقص مِنْكُمْ جہدہ باجرور ظرف مستقر کا کتا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، قُرْبٌ هَذِهِ الشَّجَرَةَ مرکب انسانی معطوف علیہ مقام سببیہ عاقلہ اور اس کے بعد اَنْتَ مقدر ہے تَكُونَا فعل ناقص الف ضمیر اس کا اسم جو مِنَ الظَّالِمِينَ ظرف مستقر کا یزید کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف کُفْرٌ یُکِنُّ کا اسم موثر، فعل

ناقص با اسم و خبر جملہ انتہایہ معطوف ثانی معطوف علیہ با معطوفین نداء کا جواب، نداء کا جواب نداء جملہ انتہایہ نداء ہے۔

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۲۰﴾

**آیت نمبر ۲۰:** قائم عطف اور معطوف علیہ محذوف ہے اِذَا كُنْتُمْ اللّٰهُ عَنْ قُرْبٍ الشَّجَرَةَ لِيُقْبِرَ كَوَسْوَسَ لِقَوْلِهِمَا جبرود متعلق ہوئے اَلشَّيْطَانُ فاعل لاہر جملہ تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یُبْدِي لِقَوْلِهِمَا جبرود متعلق ہوئے عَمَّا موصول و وُورِيَ لِقَوْلِهِمَا جبرود متعلق ہوئے، فعل مجہول با تاجب فاعل و متعلق صلہ، موصول با صلہ ذوالحال میں جملہ سَوَاتِهِمَا مرکب اضافی جبرود، جملہ جبرود ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال با حال مفعول ہے، فعل با فاعل و متعلق مفعول بہ بتول مصدر جبرود، جملہ جبرود و وَسْوَسَ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

واو عطف قال فعل ہو مستقر فاعل سے ل کر قول، مآثریہ لقی فعل کما ضمیر مفعول بہ رَبُّكُمَا مرکب اضافی فاعل عن جار مجذوبہ الشَّجَرَةَ مرکب توصیفی جبرود، جملہ جبرود متعلق ہوئے بِالْآخِرِ استثناء عن حرف مصدری و نصب تَكُونَا فعل ناقص الف ضمیر اس کا اسم مَلَكَتَيْنِ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ با و عطف تَكُونَا فعل ناقص تا ضمیر اس کا اسم مِنَ الْخَالِدِينَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتول مصدر بواسطہ مضاف محذوف کَرَاهَةً کے متعلق مفرغ ہو کر مفعول لہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَقَالَتْهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَيْنٌ النَّصِيحِينَ ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۱:** واو انتہایہ قاسمہ فعل ہو مستقر فاعل ہما ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ قسم بان حرف تخبیر لیاہ ضمیر اس کا اسم لَكُمَا جار جبرود متعلق مقدم لاہر مدخلہ میں جارہ اَلنَّاصِيحِينَ اسم فاعل ہمہ مستقر فاعل و متعلق مقدم سے ل کر خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم دونوں ل کر قائل ہے۔

فَدَلَّهِمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاكَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهَا مِنْ وَّرَاقِ الْجَنَّةِ وَوَدَّاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۲:** قائم عطف دل فعل ہو مستقر فاعل ہما ضمیر مفعول بہ بِغُرُورٍ جار جبرود متعلق ہوئے چاروں ل کر جملہ معطوفہ ہوں قائم انتہایہ لکنا ضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم ذَاكَ لِقَوْلِهِمَا جبرود متعلق ہے، تینوں ل کر شرط بَدَتْ لِقَوْلِهِمَا جملہ جبرود متعلق ہوئے، سَوَاتُهُمَا مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطف طَفِقَا لِقَوْلِهِمَا جبرود متعلق ہے، ضمیر فاعل عَلَيَّہمَا جار جبرود متعلق ہوئے، میں جار و رِقِي الْجَنَّةِ مرکب اضافی جبرود، جار جبرود متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین خبر، فعل متدب لپنے اسم و خبر سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عطف

کَآذِبٍ فَعِلُّهُمَا مَفْعُولٌ بِهِمَا مَرْبٌ اِنشائي فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، مضمونہ حرف استفہام لَمْ جملہ مفعول  
فعل اَنَّا مستتر فاعل کَمَا ضمیر مفعول بہ عَنْ جملہ یَلِکُمَا الشَّجَرَةَ مَرْبٌ توصیفی مجرور، جملہ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ  
و متعلق معطوف علیہ، وَاَوْعَاظُهُ اَقْلٌ فعل اَنَّا مستتر فاعل لِنُکْمَا جملہ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول اِنَّ حَرْف  
تحتین اَللّٰی یُنَاطِقُ اِسْمٌ لِنُکْمَا جملہ مجرور مَرْبٌ کَانَ مَعْدُوْمٌ مَعْنٰی مَرْبٌ توصیفی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر اِنَّ اِسْمٌ  
و خبر مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفسر، مفسر یا مفسر بَدَلَتْ کَا معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین، جزاء، شرط  
باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفُرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۱۴﴾

آیت نمبر ۱۴: قَالَ فعل الف ضمیر فاعل سے مل کر قول، رَبُّنَا کیا اصل میں یَا رَبُّنَا ہے اور یہ ندا ہے، فَكَلَّمْنَا فعل تا ضمیر فاعل  
اَلْاَنْفُسُ مَرْبٌ اِنشائي مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَاظُهُ اِنْ حَرْفٌ شرط لَمْ جملہ مفعول  
فعل اَلَّتْ مستتر فاعل لِنَا جملہ مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف علیہ، وَاَوْعَاظُهُ تَرْحَمُهُ فعل اَلَّتْ مستتر فاعل تَا ضمیر  
مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط لَنَكُوْنَنَّ فعل ناقص اَنْحَنُ مستتر اِسْمٌ کَا مَعْنٰی  
اَلْخٰسِرِيْنَ لَنْحَرَفُ مستتر کَا مَعْنٰی کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص اِسْمٌ و خبر جزاء، شرط باجزاء مَلَکُمْ کَا مَعْنٰی ہے، معطوف علیہ با معطوف  
ندا کا جواب، ندا کا جواب ندا ہوا، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ اِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَاُولٰٓئِكَ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰی حِيْنٍ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۵: قَالَ فعل ہُوْ مستتر فاعل سے مل کر قول، اِهْبِطُوْا فعل امر وَاَوْ ضمیر ذوالحال بَعْضُكُمْ مَرْبٌ اِنشائي مبتدأ، يَهْبِطُ  
جملہ مجرور ظرف مستقر کَا مَعْنٰی کے متعلق ہو کر حال مقدم عَدُوٌّ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ،  
وَاَوْعَاظُهُ لَكُمْ ظرف مستقر کَا مَعْنٰی کے متعلق ہو کر خبر مقدم فی الْاَرْضِ جملہ مجرور ظرف مستقر کَا مَعْنٰی کے متعلق ہو کر حال مقدم مُسْتَقَرٌّ  
ذوالحال مؤخر، وَاُولٰٓئِكَ مل کر معطوف علیہ، وَاَوْعَاظُهُ مَتَاعٌ موصوف اِلٰی حِيْنٍ ظرف مستقر کَا مَعْنٰی کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت  
معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال اِهْبِطُوْا  
کا فاعل، فعل با فاعل جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالَ فِيْهَا اَنْحِيْبُوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا اُخْرِجُوْنَ ﴿۱۶﴾

آیت نمبر ۱۶: قَالَ فعل ہُوْ مستتر فاعل سے مل کر قول، فِيْهَا جملہ مجرور ظرف لغو متعلق مقدم اَنْحِيْبُوْنَ فعل وَاَوْ ضمیر فاعل  
و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَاظُهُ فِيْهَا جملہ مجرور متعلق مقدم تَمُوْتُوْنَ فعل وَاَوْ ضمیر فاعل و متعلق مقدم  
سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَنْحِيْبُوْنَ جملہ مجرور متعلق مقدم اُخْرِجُوْنَ فعل مجہول وَاَوْ ضمیر نائب فاعل و متعلق مقدم  
سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین، مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

﴿ ۳ ﴾

لِيَبَيِّنَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سُوَاتِكُمْ وَرِيثًا مِمَّا دَوَّلْتُمْ لِتَقْوَىٰ ذَٰلِكَ حَيُّوْا ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳﴾

**آیت نمبر ۳:** یہ آدھ حرف نداء مذکور کے قائم مقام یاد کرو، فعل آنا مستتر فاعل یبیین آدھ منافی مضاف مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء، علامت فعل آنا، فاعل تا ضمیر فاعل علیکم جدا بجز و متعلق ہوئے، لیباسا موصوفہ یوارئی فعل ہو مستتر فاعل سواتیکم مرکب انشائی مفعول بہ، پھر یہ تینوں مل کر لیباسا کی صفت، موصوفہ با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ ریثا معطوف، معطوف علیہ با معطوف آنا، فاعل کا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء کا جواب نداء جملہ انشائیہ نداء ہے۔

واو استیفاء لیباسا التَّقْوَىٰ مرکب انشائی مبتدا، اذل ذلک مبتدا، ثانی، حیووا اسم تفضیل ہو مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا خبر مبتدا اذل کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، اول ذلک اسم اشارہ مبتدا، من آیات اللہ ظرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، اول لعل حرف ترمی، ہڈ میرا اس کا اسم پکڑ کر توڑوں فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لعل با اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معللہ ہو، یا اذلی التذکر کی بتول میں ہو کر آنا، لعل کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

لِيَبَيِّنَ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَنْوَهُهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴﴾

**آیت نمبر ۴:** لیبیین آدہ کی ترکیب ابھی گزری ہے اور یہ نداء ہے لایفتننکم فعل کڈ ضمیر منصوب مفعول بہ، الشیطان فاعل کا جارہ ما مصدریہ اخراج فعل ہو مستتر فاعل ابویکم مرکب انشائی مفعول بہ، من الجنة ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتول مصدر مجرور، جدا بجز و ظرف مستقر کایتہ کے متعلق ہو کر واسطہ حذف، فتنہ کے مفعول مطلق، فعل با قائل و مفعول بہ، نداء، نداء کا جواب نداء، جملہ انشائیہ نداء ہے۔

یَنْزِعُ فعل ہو مستتر فاعل عنہما جدا بجز و متعلق ہوئے، لیباسہما مرکب انشائی مفعول بہ، لاہ جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد اس قدر ہے یورئی فعل ہو مستتر فاعل ہما ضمیر مفعول بہ، اذل سواتہما مرکب انشائی مفعول بہ، ثانی، پاروں مل کر بتول مصدر مجرور، جدا بجز و یَنْزِعُ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ اخراج کی ضمیر فاعل سے حال ہے، ان حرف تخبیثہ ضمیر منصوب اس کا اسم پڑائی فعل ہو مستتر مؤکد ہو منقل تا کیہ، مؤکد با تا کیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قبیلہ مرکب انشائی معطوف معطوف علیہ با معطوف فاعل کڈ ضمیر منصوب مفعول بہ، من جہہ حیث مضاف لا توڑوں فعل واو ضمیر فاعل ہڈ ضمیر مفعول بہ سے مل کر مضاف الیہ، پھر مرکب انشائی مجرور، جارہ یا مجرور پڑائی کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر،



إِنَّ بِاسْمِهِ جَمَلٌ مَسِيءٌ خَبْرِيَةٌ مَعْلُومَةٌ

إِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اسم جملتنا فعل نا ضمیر قائل الشَّيْطَانِ مفعول بہ اَنْلَ اَوْلِيَاءَهُ موصوف لہم جملہ اَلَّذِيْنَ اسم موصول لَئِيْضًا مَعْنُوْنٌ فعل واو ضمیر قائل سے مل کر صلہ موصول بلسلہ کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت موصول با صفت مفعول بہ جملی فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بیانِ با اسم خبر جملہ ماسیہ خبریہ معلقہ ہو۔

وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاجِحَةً قَالُوْا وَ جَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَ اللّٰهُ اَمَرْنَا بِهَا اَقْلٰنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ اَتَقْوُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: اَوَّ اِشْتِغَايَہِ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم فَعَلُوْا فعل واو ضمیر قائل فَاجِحَةً مفعول بہ چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطہ قَالُوْا فعل واو ضمیر قائل سے مل کر قول و جَدْنَا فعل نا ضمیر قائل اَبَاءَنَا مرکب اضافی مفعول بہ فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ اَللّٰهُ اسم الجلالہ مبتدأ اَمَرْنَا فعل ہو مستتر قائل نا ضمیر منسوب مفعول بہ پتھا جملہ با مجرور متعلق ہوئے چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدأ خبر معطوف معطوف علیہ با معطوف مقولہ قول با مقولہ جزاء شرطہ با جزاء جملہ شرطیہ ہوئے قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل سے مل کر قول اِنَّ حرف تحقیق لِنظا اَللّٰهُ اسم لا یأْمُرُ فعل ہو مستتر قائل بِالْفَحْشَاۗءِ جملہ با مجرور متعلق ہوئے پھر یہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بیانِ با اسم و خبر مقولہ قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوئے ہمدہ حرف استفہام تَقْوُوْنَ فعل واو ضمیر قائل عَلٰى اللّٰهِ جملہ با مجرور متعلق ہوئے ہما اسم موصول لا تَعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر قائل سے مل کر صلہ موصول بلسلہ مفعول بہ فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

قُلْ اَمْرٌ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ مَرُوْا اَقْبِيْمُوْا وَ جُوْهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ اَدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ كَمَا بَدَاۤ اَكْمَرْتُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل سے مل کر قول اَمْرٌ فعل ربی مرکب اضافی مرفوع تقریراً قائل بِالْقِسْطِ ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے تینوں مل کر مقولہ قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہواو عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے اَقْبِيْمُوْا اَقْبِيْمُوْا فعل امر واو ضمیر قائل و جُوْهُكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ مرکب اضافی مفعول فیہ فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف اَنْلَ ہواو عاطفہ اَدْعُوْا فعل امر واو ضمیر ذوالحال مُخْلِصِيْنَ اسم قائل اَلَكُمْ مستتر قائل لَہُ ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے اَلَّذِيْنَ مفعول بہ اسم قائل با قائل و متعلق و مفعول بہ شہ جملہ ہو کر حال ذوالحال با حال اَدْعُوْا کا قائل نا ضمیر منسوب مفعول بہ فعل امر با قائل و مفعول بہ مثنوی معطوف علیہ محذوف با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں کاف جارحہ مصدریہ پکدا فعل ہو مستتر قائل اَلَكُمْ ضمیر مفعول بہ تینوں مل کر متداول مصدر مجرور جملہ با مجرور کائنات کے متعلق ہو کر واسطہ موصوف محذوف نحو کا کے مفعول مطلق مقدم تَعُوْدُوْنَ فعل واو ضمیر قائل اور مفعول مطلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فَرِيْقًا هٰدِيْ وَ فَرِيْقًا حَقًّا عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۙ اِنَّهُمْ اتَّخَذُوْا الشَّيْطٰنِ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ

## يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰:** سَنَفِيْنَا مَعَدَىٰ مفعول بہ مقدم ہدیٰ فعل ہو مستتر فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواؤ عطف فریقاً موصوف حقیقی فعل علیہم جہا بجز و متعلق ہونے کی بنا پر مستتر فاعل، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف ہافت مفعول بہ فعل معذوف حذال کا (بختری) حذال فعل ہو مستتر فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف حذال کی ضمیر فاعل سے حال ہے یا جملہ متانفہ ہے ان حرف تحقیق ہنضمیر منسوب اسم اتحدوا فعل واؤ ضمیر فاعل اکتیابا یطین مفعول بہ اول اولیاء موصوف من ذوی اللہ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفت، موصوف ہافت مفعول بہ مل، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواؤ عطف فریقاً یحسبون فعل واؤ ضمیر فاعل ان حرف تحقیق ہنضمیر اس کا اسم مہتدون اسم مفعول ہنضمیر فاعل سے مل کر خبر ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ دو مفعول کے قائم مقام، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف خبر ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

يُبَيِّنَ آدَمَ خُدُوا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

## المُسْرِفِينَ ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱:** یبیین آدم اس کی ترکیب ابھی اوپر گزری ہے اور یہ عداہ ہے خدوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل زینتکم مرکب اضافی مفعول بہ عند کل مسجید مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ ہواؤ عطف کلوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی ہواؤ عطف لا تسرفوا فعل نبی واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ ہواؤ عطف اشربوا فعل امر واؤ عطف اشربوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ ہا معطوفات ثلاثہ عداہ کا جواب، عداہ اور جواب عداہ مل کر جملہ انشائیہ عداہیہ ہواؤ خبر ان حرف تحقیق ہنضمیر اس کا اسم لا یحیب فعل ہو مستتر فاعل المفسرین مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر ان کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

## ﴿۱۲﴾

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلذَّيْنِ

أَمْتُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً تِيْمَرِ الْعِزْمَةِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۲﴾

**آیت نمبر ۱۲:** قل فعل امر آتت مستتر فاعل سے مل کر قول، معنی استفہامیہ مبتدا، حرم فعل ہو مستتر فاعل زینت اللہ مرکب اضافی موصوف آتی اسم موصول آخرج فعل ہو مستتر فاعل لعیبادہ جہا بجز و ظرف لغو متعلق ہونے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصوف ہاسلہ مفت، موصوف ہافت معطوف علیہ ہواؤ عطف الطیبات ذوالحال من الرزق ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف حرم کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقول، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

قُلْ نَفْسٌ أَمْرًا تَسْتَفْهَلُ سَلِّمْ عَلَيَّ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ لَمِنْ مُّجْرِمِيْنَ  
 متعلق اول ہوئے، یعنی جہاد الحویوۃ الذنیۃ مرکب تو لیس مجرور، جہاد با مجرور ظرف لفظ متعلق ثانی کا کائنۃ ام قائل ہے، مستز  
 ذوالحال خالصۃ ام قائل ہے، مستز تا یوم القیامۃ مرکب اضافی مفعول فیہ، ام قائل با قائل و مفعول فیہ حال، ذوالحال با حال قائل، اسم  
 قائل با قائل و متعلقین شہرہ جملہ ہو کر خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقلوبہ، قول با مقلوبہ جملہ اضافیہ امریہ ہوں۔  
 کذا لیک طرف مستز کا کائنۃ کے متعلق ہو کر واسطہ موصوفہ مخدوفہ تفصیلاً کے مفعول مطلق مقدم افضل نفعن مستز  
 قائل آیات مفعول بہ، لاہر جہاد قویر موصوفہ یعملون نفعن واؤ ضمیر قائل سے ل کر قویر کی مفعول، موصوفہ با مفعول با مفعول جہاد  
 مجرور متعلق ہوں، نفعن با قائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قُلْ اِنَّمَا حَزَمَ رَبِّيْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ  
 تُشْخِرُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُخَيَّرْ لَكُمْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۳

آیت نمبر ۳۳: قُلْ نَفْسٌ اَمْرًا تَسْتَفْهَلُ سَلِّمْ عَلَيَّ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ لَمِنْ مُّجْرِمِيْنَ  
 الْفَوَاحِشَ مبدل منہ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ کی ترکیب سورۃ الانعام آیت (۱۵۱) میں دیکھئے اور یہ معطوف علیہ با معطوف بدل ہے،  
 مبدل منہ بدل مفعول علیہ، واؤ عاطفہ الْاِثْمَ معطوف اول، واؤ عاطفہ الْبَغْيَ ذوالحال بَغْيِ الْحَقِّ طرف مستز کا کائنۃ کے متعلق ہو کر  
 حال، ذوالحال با حال معطوف ثانی، واؤ عاطفہ اَنْ مصدریہ ناصب تُشْخِرُوْا نفعن واؤ ضمیر قائل یا اللہ جہاد با مجرور متعلق ہوئے، ماصوصولہ اَنْ  
 يُخَيَّرَ نفعن مستز قائل پہ کا کائنۃ کے متعلق ہو کر حال مقدم سُلْطٰنًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ، نفعن با قائل و مفعول بہ جملہ  
 فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ تُشْخِرُوْا کا مفعول بہ، نفعن با قائل و متعلق و مفعول بہ بتویل مصدر معطوف ثالث، واؤ عاطفہ اَنْ حرف  
 مصدری و نصب تُقُوْلُوْا نفعن واؤ ضمیر قائل عَلٰی اللّٰہ جہاد با مجرور متعلق ہوئے، ماصوصولہ لَکُمْ تَعْلَمُوْنَ نفعن واؤ ضمیر قائل سے ل کر  
 صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، نفعن با قائل و متعلق و مفعول بہ بتویل مصدر معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اربع حَزَمَ کا مفعول  
 بہ، نفعن با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقلوبہ، قول با مقلوبہ جملہ اضافیہ امریہ ہوں۔

وَلٰكِنْ اُمَّةٍ اٰجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اٰجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَفْهِمُوْنَ ۝۳۴

آیت نمبر ۳۴: واؤ استینا فیہ لاہر جہاد كَلِّ اُمَّةٍ مَّرْكَبٌ اِنشائی مجرور، جہاد با مجرور طرف مستز کا کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم  
 اَجَلٌ مبتدایہ مؤخر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متناقدہ ہوں، قاء استینا فیہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ نفعل اَجَلُهُمْ مرکب اضافی قائل،  
 نفعن با قائل و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ، لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ نفعن واؤ ضمیر قائل سَاعَةً مفعول فیہ، تیوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ  
 معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَا يَسْتَفْهِمُوْنَ نفعن واؤ ضمیر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزا، شرط با جزا جملہ  
 شرطیہ ہوں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ فَاِذَا نَزَلَ بِرِسْوَاتٍ مِّنْهُنَّ اٰيٰتٌ فَتَسْمَعُوْنَ اِلَيْهَا وَاِنْ يَدْعُوْا فَاِذَا دُعُوْا فَسَمِعْتُمْ اِلَيْهَا ۚ ذٰلِكَ لِيُعَذِّبَ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ فَاِذَا نَزَلَ بِرِسْوَاتٍ مِّنْهُنَّ اٰيٰتٌ فَسَمِعْتُمْ اِلَيْهَا وَاِنْ يَدْعُوْا فَاِذَا دُعُوْا فَسَمِعْتُمْ اِلَيْهَا ۚ ذٰلِكَ لِيُعَذِّبَ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ فَاِذَا نَزَلَ بِرِسْوَاتٍ مِّنْهُنَّ اٰيٰتٌ فَسَمِعْتُمْ اِلَيْهَا

**عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَتُونَ ۝**

**آیت نمبر ۳۵:** یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ كُنْتُمْ سِرْفٌ لِّرَبِّكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۝۳۴  
 کلمہ ضمیر مفعول بہ، رسولؐ موصوف ہو کر کائنات کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، یُقَسَّمُونَ فعل واو ضمیر فاعل عَلَیْكُمْ  
 جار مجرور متعلق ہوئے، اٰیاتی مرکب اسانی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ثانیہ، موصوف  
 بالمستغنیٰ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط قائمہ جزائے ہم نام شرط مبتدأ، اِنِّیْ فاعل ہو مستتر فاعل  
 سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اَصْلَحَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ، معطوف شرط قائمہ جزائے لامشابه، یہ  
 لیکس "خَوِّفْ اِسْ اِسْ کَا اِسْمِ عَلَیْهِمْ غَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَانَتُمْ كَالْمَعْشَقِ لِهَيْبَةِ رَبِّكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو  
 عاطفہ لَا تَرَاهُمْ ضَمِيْرٌ مُبْتَدَاً یَخْرَتُوْنَ فاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ، معطوف جزاء،  
 شرط جزاء مَنْ كَفَرَ، مبتدأ خبر شرط لال کی جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ ہو کر نداء کا جواب، نداء جہاں نداء جملہ انشائیہ نداء ہے ہوا۔

**وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۶:** واو عاطفہ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اس موصول کذبوا فاعل واو ضمیر فاعل بِآيَاتِنَا جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ  
 فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اسْتَكْبَرُوْا فاعل واو ضمیر فاعل عَنْهَا جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ  
 بالمعطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ اُولٰٓئِكَ، اُولٰٓئِكَ مبتدأ ثانی، اَصْحَابُ النَّارِ مرکب اسانی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اول کی  
 خبر اول هُمْ ضمیر مبتدأ خَبْرٌ مَبْتَدَاً جَارِ مَجْرُورٌ اَصْحَابُ النَّارِ جار مجرور متعلق مقدم، خَالِدُوْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدأ اول کی  
 خبر دوم، مبتدأ خبر جن جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، ہوا۔

**فَمَنْ اٰظَمَرَ مِنْ اٰقْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اُولٰٓئِكَ يٰنَالَهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ**

**الْكِتٰبِ حَتّٰی اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْهُمْ قَالُوْا اٰیٰنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ**

**اللّٰهِ قَالُوْا صَلٰوْا عٰنَا وَشَهِدُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۷:** فَمَنْ اٰظَمَرَ مِنْ اٰقْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ مِمَّنْ اسْتَهَامَ بِمَبْتَدَاً اٰظَمَرَ اسم تفضیل ہو  
 مستتر فاعل، جن جارہ مَنْ موصول اِقْتَرٰی فاعل ہو مستتر فاعل عَلٰی اللّٰهِ ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے، اٰظَمَرَ مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق  
 و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَذَّبَ فاعل ہو مستتر فاعل بِآیَاتِهِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف  
 معطوف علیہ بالمعطوف صلہ، موصول باصلہ جار مجرور اٰظَمَرَ کے متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ  
 با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، اِنِّیْ فاعل ہُو ضمیر مفعول بہ نَصِيْبُهُمْ مرکب اسانی ذوالحال، ذوالحال مِنَ الْكِتٰبِ ظرف  
 مستقر ہو کر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ

حَقِّ اِبْتِدَائِيًا اِذَا شَرَطِيه مَفْعُول فِيهِ مَقْدِم حَاطَتْ لُفْلُ هُمْ ضَمِيْر مَفْعُول بِهِ يَوْمَئِذٍ تَرْكِب اِنْسَانِي زَوَالِحَال يَكُوْنُوْنَ لُفْلُ وَاوْ ضَمِيْر فَاعِل هُمْ ضَمِيْر مَفْعُول بِهِ، تَمِيْن ل كَرْجَله فِعْلِيه خَبْرِيه حَال، وَزَوَالِحَال بَاهَال فَاعِل، لُفْلُ بَاهَال و مَفْعُولِيْن جَمْلَه فِعْلِيه خَبْرِيه شَرْطِيه، قَالُوْا لُفْلُ وَاوْ ضَمِيْر فَاعِل سَل كَرْقُوْل، وَاَيْن لُفْلُ نَهْن كَلْبِيْن كَيْ مَفْعُول فِيْهِ هُو كَرْجَله مَقْدِم، هَا اِسْم مَوْصُوْل كُنْتُهْم لُفْلُ بَا قَصْبُ هُمْ ضَمِيْر اِسْم كَالاِسْم لَنْ عُوْن لُفْلُ وَاوْ ضَمِيْر فَاعِل مِيْن عُوْن اللُّجُجِل بِجُجُ وُفْر طرف مَسْتَقَر كَلْبِيْنَا كَيْ مَتَعَلَق هُو كَرْقُوْل عُوْن كَيْ مَفْعُول بَا ضَمِيْر مَخْدُوْف سَل حَال هُو، لُفْلُ بَا فَاعِل و مَفْعُول بِهِ مَخْدُوْف جَمْلَه فِعْلِيه خَبْرِيه هُو كَرْجَل، لُفْلُ بَا قَصْبُ بَا اِسْم وَخَبْر جَمْلَه فِعْلِيه خَبْرِيه صَلِه، مَوْصُوْل بَا صَلِه مَبْتَدَا مَوْخِر، مَبْتَدَا بَا خَبْر جَمْلَه اِسْمِيه اِنْشَائِيه هُو كَرْقُوْل، قَوْل بَا مَقْوُوْلَه جَمْلَه فِعْلِيه خَبْرِيه هُو۔

قَالُوْا لُفْلُ وَاوْ ضَمِيْر فَاعِل سَل كَرْقُوْل، مَخْدُوْلَا لُفْلُ وَاوْ ضَمِيْر فَاعِل عَيْنًا جَلَدًا بَجُجُ وُفْر مَتَعَلَق هُو، لُفْلُ بَاهَال و مَتَعَلَق جَمْلَه فِعْلِيه خَبْرِيه مَعْرُوْف عَلِيْهِ هُو، وَاوْ عَاطِفٌ شَهْدُوْا لُفْلُ وَاوْ ضَمِيْر فَاعِل عَلَى اَلْفِيْهْمُ جَلَدًا بَجُجُ وُفْر مَوْخِر مَعْتَقَل هُو، اَنْ حَرْف تَحْقِيْل هُمْ ضَمِيْر اِسْم كَالاِسْم كَالُوْا لُفْلُ بَا قَصْبُ وَاوْ ضَمِيْر اِسْم كَالاِسْم كَافُوْا اِيْن اِسْم فَاعِل هُمْ ضَمِيْر فَاعِل سَل كَرْجَل، لُفْلُ بَا قَصْبُ بَا اِسْم وَخَبْر اِيْن كِي خَبْر اِيْن بَا اِسْم وَخَبْر تَمِيْن مَفْرُوْد مَوْضُوْب بِيْرَع اَلْفَا نَفْسُ هُو حَرْف جُجُ مَقْدِم هُو اُوْرِيه شَهْدُوْا كَيْ مَتَعَلَق هُو، لُفْلُ بَا فَاعِل و مَتَعَلَقِيْن مَعْرُوْف، مَعْرُوْف عَلِيْهِ بَا مَعْرُوْف مَقْوُوْل، قَوْل بَا مَقْوُوْلَه جَمْلَه فِعْلِيه خَبْرِيه هُو۔

قَالَ اِذْ خُلُوْا اِيْضًا اَمَمًا قَدْ حَلَلْتُمْ مِيْن قَبِيْلِكُمْ مِيْن الْجِيْنِ وَ الْاِنْسِ فِي النَّارِ كَلَمًا دَخَلَتْ اَمَّةٌ لَعَنْتْ اُخْتَهَا حَقِّ اِذَا اَدَارَ كَو اَفِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِاَوْلِهِمْ رَبَّنَا هُوَّا لَوْلَا اَصْلُوْنَا فَاتِهِمْ عَذَابًا بَا ضِعْفًا مِيْن النَّارِ قَالِ لَكِنْ ضِعْفٌ وَ لَكِيْن لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

آيَت نمبر ۳۸: قَالَ لُفْلُ هُو مَسْتَقَر فَاعِل سَل كَرْقُوْل، اِذْ خُلُوْا لُفْلُ اِسْم وَاوْ ضَمِيْر زَوَالِحَال فِي جَاهه اَمَمًا مَوْصُوْفٌ حَاطَتْ لُفْلُ هُو مَسْتَقَر فَاعِل سَل كَرْصِفْت اُوْلِي، مِيْن قَبِيْلِكُمْ جَلَدًا بَجُجُ وُفْر طرف مَسْتَقَر كَلْبِيْنَا كَيْ مَتَعَلَق هُو كَرْصِفْت ثَانِيه، مِيْن جَاهه اَلْجِيْنِ وَ الْاِنْسِ مَعْرُوْف عَلِيْهِ بَا مَعْرُوْف جُجُ وُفْر، جَلَدًا بَجُجُ وُفْر طرف مَسْتَقَر كَلْبِيْنَا كَيْ مَتَعَلَق هُو كَرْصِفْت ثَالِث، مَوْصُوْف بَا سِفَاتٌ ثَالِث جُجُ وُفْر، جَلَدًا بَجُجُ وُفْر مَبْدَل مَعْنَى النَّارِ جَلَدًا بَجُجُ وُفْر مَبْدَل، مَبْدَل مَعْنَا بِا بَدَل كَلْبِيْنِيْن كَيْ مَتَعَلَق هُو كَرْحَال، وَزَوَالِحَال بَاهَال اِذْ خُلُوْا كَالاَسْم، لُفْلُ بَاهَال جَمْلَه اِنْشَائِيه هُو كَرْقُوْل، قَوْل بَا مَقْوُوْلَه جَمْلَه فِعْلِيه خَبْرِيه هُو۔

كَلِمَةً لُفْلُ نَهْن مَتَحْمِيْن مَعْنَى شَرْطِيه مَفْعُول فِيْهِ مَقْدِم حَاطَتْ لُفْلُ اَمَّةٌ فَاعِل، تَمِيْن ل كَرْشَرْطِيه، لَعَنْتْ لُفْلُ هُو مَسْتَقَر فَاعِل اِذْ خُلُوْا لُفْلُ مَرْكِب اِنْسَانِي مَفْعُول بِهِ، تَمِيْن ل كَرْجَزَاو، شَرْط بَا اِسْم جَمْلَه شَرْطِيه اَمَمًا كِي صِفْت رَابِع هُو، حَقِّ اِبْتِدَائِيًا اِذَا شَرَطِيه مَفْعُول فِيْهِ مَقْدِم اِذَا رَكُوْا لُفْلُ وَاوْ ضَمِيْر زَوَالِحَال جَمِيْعًا حَال، وَزَوَالِحَال بَاهَال فَاعِل فِئْتًا جَلَدًا بَجُجُ وُفْر مَتَعَلَق هُو، لُفْلُ بَا فَاعِل و مَتَعَلَق و مَفْعُول فِيْهِ جَمْلَه فِعْلِيه خَبْرِيه شَرْطِيه قَالَتْ لُفْلُ اُخْرَاهُمْ مَرْكِب اِنْسَانِي فَاعِل لَوْلَا هُمْ مَرْكِب اِنْسَانِي جُجُ وُفْر، جَلَدًا بَجُجُ وُفْر مَتَعَلَق هُو، لُفْلُ بَاهَال و مَتَعَلَق و مَفْعُول فِيْهِ جَمْلَه فِعْلِيه خَبْرِيه قَوْل اُوْلِيْن كَيْ اَصْل مِيْن اِيْتَا رَكْبَتَا هُو اُوْرِيه نَدَا هُو هُو لَوْلَا مَبْتَدَا مَخْدُوْلَا لُفْلُ وَاوْ ضَمِيْر فَاعِل نَا ضَمِيْر مَفْعُول بِهِ، لُفْلُ بَا فَاعِل و مَفْعُول بِهِ جَمْلَه فِعْلِيه خَبْرِيه خَبْر، مَبْتَدَا بَا خَبْر جَمْلَه اِسْمِيه خَبْرِيه نَدَا كَالاِسْمِ نَدَا هُو بَا اِسْمِ نَدَا هُو بَا اِسْمِ نَدَا مَقْوُوْل، قَوْل بَا مَقْوُوْلَه جَزَاو، شَرْط بَا اِسْمِ نَدَا جَمْلَه شَرْطِيه هُو۔

شَرْطِيه هُو۔

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

قَاءَ نِصْمِ اِوْرَاسِ كِي شَرْطِ مَحْذُوفِ هِإِذَا كَتَبْتَ مِنْهُمُ الْإِخْلَاقَ (از فقیر) اِنَّا كَانُوا اَيَسْتَجِئُونَ الْعِقَابَ اِي نِصْلِ اِوْرَاسِ  
مستتر فاعل هُم ضمير مفعول به عَذَابًا بِاِوْرَاسِ موصوف ضِعْفًا صفت اولی، مِنْ التَّارِ لُزْفِ مستقر کائنا کے متعلق ہو کر صفت ثانی، موصوف  
با مضمین مفعول به ثانی، نِصْلِ بِالْفَاعِلِ وَمُضَوِّعِیْنَ جملہ انشائیہ جزاء، شَرْطِ بِالْجَزَاءِ جملہ شرطیہ ہول قائل نِصْلِ هُوَ مستتر فاعل سے مل کر قول  
لِکِنِّ لُزْفِ مستقر ہو کر کائنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ضِعْفٌ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ  
خبریہ ہول و اِوْرَاسِ ماعطف لکن حرف استدراک مہمل لَکَعْلَمُونَ نِصْلِ و اِوْرَاسِ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہول۔

وَقَالَتْ اُولٰٓئِهٖمْ لَا خُرْهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُو قُوَا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ  
تَكْسِبُونَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹، و اِوْرَاسِ ماعطف قَائَتْ نِصْلِ اُولٰٓئِهٖمْ مرکب انسانی فاعل لَکُمْ جارحاً خُرْهُمُ مرکب انسانی مجرور، جارحاً مجرور ظرف لغو  
متعلق ہوئے، نِصْلِ بِالْفَاعِلِ وَمُضَوِّعِیْنَ جملہ فعلیہ خبریہ قول، قَاءَ نِصْمِ اور شرط مقدر ہِإِذَا کَانَ كَذَا لَکَ (روح المعانی) مَآ تَانِيَهٗ کَانَ نِصْلِ  
تاقص لَکُمْ ظرف مستقر ہو کر کائنا کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَلَيْنَا جارحاً مجرور ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال مقدم، مِنْ جَارِحِ  
زائدہ فَضْلٍ غلام فرغ ذال لیل، ذوال لیل باحال اسم مؤخر، نِصْلِ تاقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شَرْطِ مَحْذُوفِ بِالْجَزَاءِ مفعول، قول  
یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول قَاءَ نِصْمِ اور اس کی شَرْطِ مَحْذُوفِ هِإِذَا كَتَبْتَ مِنْهُمُ، ذُو قُوَا نِصْلِ اور اِوْرَاسِ مفعول فاعل الْعَذَابِ مفعول بہ،  
بِاِوْرَاسِ مَآ مصدر یہ کُنْتُمْ نِصْلِ تاقص شَمُ ضمیر اسم تَكْسِبُونَ نِصْلِ و اِوْرَاسِ مفعول سے مل کر خبر، نِصْلِ تاقص با اسم و خبر بتلاویل مصدر  
مجرور، جارحاً مجرور ذُو قُوَا کے متعلق ہوئے، نِصْلِ بِالْفَاعِلِ وَمُضَوِّعِیْنَ یہ و متعلق جملہ انشائیہ امر یہ جزاء، شَرْطِ بِالْجَزَاءِ جملہ شرطیہ ہول۔

﴿۳۹﴾ رُكُوعِ نَمْبِرِ ۵ ﴿۳۹﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰، اِنَّا حَرْفِ تَحْقِيقِ الَّذِينَ كَذَّبُوا نِصْلِ و اِوْرَاسِ مفعول فاعل بِآيَاتِنَا جارحاً مجرور متعلق ہوئے، نِصْلِ بِالْفَاعِلِ  
و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ و اِوْرَاسِ ماعطف اِسْتَكْبَرُوا نِصْلِ و اِوْرَاسِ مفعول فاعل عَنْهَا جارحاً مجرور متعلق ہوئے، نِصْلِ بِالْفَاعِلِ وَمُضَوِّعِیْنَ  
معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصل اِنَّا كَلَامٌ لَا تُفَتِّحُ نِصْلِ مجہول لَہُمْ جارحاً مجرور متعلق ہوئے اَبْوَابُ السَّمَاءِ مرکب انسانی  
جہب فاعل، نِصْلِ مجہول با تاجب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و اِوْرَاسِ ماعطف لَا يَدْخُلُونَ نِصْلِ و اِوْرَاسِ مفعول فاعل الْجَنَّةَ توسعا  
مفعول بہ، حَتَّىٰ حَرْفِ جَارِحِ غَايَةِ اِوْرَاسِ كِي اِبْعَادَانَ مَقْدَرِہٖ يَلِجُ نِصْلِ الْجَمَلُ فاعل فِي حَرْفِ جَارِحِ سَمِّ الْخِيَاطِ مرکب انسانی  
مجرور، جارحاً مجرور متعلق ہوئے، نِصْلِ بِالْفَاعِلِ وَمُضَوِّعِیْنَ جملہ فعلیہ خبریہ بتلاویل مصدر مجرور، جارحاً مجرور لَا يَدْخُلُونَ کے متعلق ہوئے، نِصْلِ  
بالفَاعِلِ وَمُضَوِّعِیْنَ یہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنَّا كَلَامٌ وَ خَيْرَانَ بِاسْمِ وَ خَيْرِ جملہ اسمیہ خبریہ ہول و اِوْرَاسِ مفعول  
کَذَّبُوا جارحاً مجرور ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف جَزَاءٌ کے مفعول مطلق مقدم، نَجْزِي نِصْلِ لُزْفِ مستتر

فاعل الْمُعْجِرِ مَبْنِيٌّ مَفْعُولٌ بِهِ، چاندوں کی جملہ فعلیہ خبریہ استغنیہ ہو۔

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۳۱:** لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾  
 کاؤن اسم فاعل ہو ضمیر فاعل و متعلق سے مل کر خبر مقدم، مِهَادٌ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاطفہ میں فَوْقِهِمْ ظرف مستقر کاؤن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، غَوَاشٍ مرفوع تقدیراً مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ معطوف جملہ متانفہ ہو۔ یا الْمُعْجِرِ مَبْنِيٌّ سے حال ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اس کی ترکیب و کَذَلِكَ نَجْزِي الْمُعْجِرِ مَبْنِيٌّ کی مثل ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْ لِيكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۲﴾

**آیت نمبر ۳۲:** وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْ لِيكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۲﴾  
 فاعل الْأَصْحَابِ مَفْعُولٌ بِهِ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدا، وَلِيكَ مبتدا وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ مَفْعُولٌ فِيهَا خَالِدُونَ کی ترکیب اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کی طرح ہے جو آیت نمبر ۳۶ میں گزری ہے یعنی یہ دو خبریہ مبتدا با خبر ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا نَحْنُ مُسْتَقَرٌّ فاعل نَحْنُ مُسْتَقَرٌّ نَفْسًا مَفْعُولٌ بہ اَوَّلُ بِالْأَحْرَفِ اسْتِغْنَاءُ مَعَهَا رَبُّ انْشَاءً مَشْتَبِهٌ مَفْرُوعٌ ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین، جملہ فعلیہ خبریہ معرضہ ہو۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْعَرِيٍّ مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۚ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ وَتُودُّونَ أَنْ تَلَگُمُ الْجَنَّةَ أَوْ رُئِمْتُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾

**آیت نمبر ۳۳:** وَتُودُّونَ أَنْ تَلَگُمُ الْجَنَّةَ أَوْ رُئِمْتُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾  
 صلہ، موصول با صلہ ذوالحال میں غَلٍّ جملہ با خبر در ظرف مستقر ہو کر کاؤن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔ تَجْعَرِيٍّ فعل میں تَحْتِهِمْ جملہ با خبر در ظرف متعلق ہوئے، الْأَنْهَارُ فاعل، تینوں مل کر صُدُورِهِمْ کی ضمیر سے حال ہے۔ او او عاطفہ قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، الْحَمْدُ مبتدا، لَہُ جارہ لفظاً لِلَّهِ موصوف الّذی اسم موصول ہڈی فعل ہو مستقر فاعل تا ضمیر مفعول بہ، یُودُّونَ جملہ با خبر در متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔

او او عاطفہ یا استغنیہ مَآ نَا فَا فَا كُنَّا فاعل تا ضمیر تا ناقص تا ضمیر اس کا اسم جارہ جمعہ اور اس کے بعد اَنّ مقدر ہے نَهْتَدِيَ فعل نَحْنُ مُسْتَقَرٌّ فاعل سے مل کر تینوں مل کر مصدر مجرور، جارہ با خبر در ظرف مستقر کاؤن کے متعلق ہو کر خبر، فعل با ناقص تا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء مقدم ہو کر





وَيَبْنِيَهُمَا حِجَابًا ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كَلِمَاتٍ بِسِيْمَتِهِمْ ۚ وَكَانُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ۚ أَنْ سَلِمَ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٣٦﴾

**آیت نمبر ۳۶:** او او استیغیر بیتیہما مرکب انسانی کا کثیر کا مفعول ہے ہو کر خبر مقدم حِجَابٌ مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو اور او عاطفہ علیٰ الاعرابی طرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر خبر مقدم رِجَالٌ موصوف یَعْرِفُونَ فعل واو ضمیر قائل کَلِمَاتٍ مفعول بہ بیاہ جادہ سیمتہا کثرت مرکب انسانی مجرور، جادہ مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق صفت، موصوف بہ صفت مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

او او عاطفہ تَاذُوْا فعل واو ضمیر قائل أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مرکب انسانی مفعول بہ، اَنْ مخفف من الشقلہ ضمیر شان مقدراں کا اسم سَلِمُوا مبتدا، عَلَیْكُمْ ظرف مستقر ہو کر کثیر کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا یا خبر اَنْ کی خبر اَنْ تَاذُوْا اسم و خبر منصوب بزعم القاض متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو لَمْ یَدْخُلُوْا فعل واو ضمیر ذوالل واو حال یہ ہُوْا ضمیر مبتدا، یَطْمَعُونَ فعل واو ضمیر قائل سے ل کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالل با حال قائل ہَا ضمیر مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ تَاذُوْا کی ضمیر قائل سے حال ہو۔

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٧﴾

**آیت نمبر ۳۷:** او او عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول ہے مقدم صُرِفَتْ فعل مجہول أَبْصَارُهُمْ مرکب انسانی نائب قائل تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ مرکب انسانی مفعول ہے، فعل مجہول نائب قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطاً قَالُوا فعل واو ضمیر قائل سے ل کر قول، و رَبَّنَا یہ اصل میں تَاذُوْا ہے اور یہ ندا ہے لَا تَجْعَلْ فعل نمی آت مستقر قائل تَا ضمیر مفعول ہے مَعَ مضاف الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مرکب توصیلی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول ہے، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ جواب ندا، ندا ہا جواب ندا، مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرطاً با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہو۔

﴿ ۳۷ ﴾ رکوع نمبر ۶

وَتَأَذَىٰ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ نَهْمًا بِسِيْمَتِهِمْ قَالُوا مَا آغْنِي عَنْكُمْ جَنَعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٨﴾

**آیت نمبر ۳۸:** او او استیغیر تَاذَىٰ فعل أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ مرکب انسانی قائل رِجَالٌ موصوف یَعْرِفُونَ فعل واو ضمیر قائل ہُوْا ضمیر مفعول بہ بیاہ جادہ سیمتہا کثرت مرکب انسانی مجرور، جادہ مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ رِجَالٌ کی صفت، موصوف بہ صفت مفعول ہے، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو لَمْ یَدْخُلُوْا فعل واو ضمیر قائل سے ل کر قول، ہَا تَاذَىٰ آغْنِي فعل عَلَیْكُمْ ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے جَنَعُكُمْ مرکب انسانی معطوف علیہ، او او عاطفہ مَّا مصدر یہ كُنْتُمْ فعل ناقص کُنتُمْ ضمیر اس کا اسم تَسْتَكْبِرُونَ فعل واو ضمیر قائل سے ل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر معطوف

معطوف علیہ بمعطوف أغنی کا نال، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مفسر اور مبیہ ہوں

أَهْوَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَتَّالَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

**آیت نمبر ۳۹:** ہمزہ حرف استفہام ہُوْلَاءِ مبتدأ الَّذِيْنَ اسم موصول أَقْسَمْتُمْ فعل ضمیر فاعل سے مل کر ضمیر لا یزال فعل ہُمْ ضمیر مفعول بہ لفظا لَلَّہُ نال پر حَصَمَةٌ جہا بجز طرف لغو ہو کر متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ضم، قسم با جواب قسم صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں اَدْخُلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل الْجَنَّةِ مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ مقولہ، قول محذوف قِيْلَ لَهُمْ کا قول با مقولہ هُوْلَاءِ کی دوسری خبر ہے لَآ یَا، یہ مہملہ خَوْفٌ مبتدأ عَلَیْكُمْ ظرف مستقر کَالَّذِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَآ رَاہِہُ اَنْتُمْ مبتدأ تَحْزَنُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف اَدْخُلُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہوں

**سوال:** خَوْفٌ تو کمر ہے اس کا مبتدأ بنا کیسے صحیح ہے؟

**جواب:** جس طریقہ سے مَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِنْکُمْ میں تخصیص ہوتی ہے اسی طریقہ سے لَا خَوْفٌ عَلَیْكُمْ میں تخصیص ہوئی لہذا مبتدأ واقع ہونا درست ہے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۗ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَكَيْبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ نُنَسِّسُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ۖ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝

**آیت نمبر ۵۰، ۵۱:** واو استہانہ نَادَىٰ فعل أَصْحَابِ النَّارِ فاعل أَصْحَابِ الْجَنَّةِ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں اَنْ حرف تفسیر أَفِيضُوا فعل امر واو ضمیر فاعل عَلَیْكُمْ ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے، مِنَ الْمَاءِ جہا بجز طرف معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ مِنَ جہا ما موصول رَزَقَ فعل کُمہ ضمیر مفعول بہ لفظا لَلَّہُ نال، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ بجز، جہا بجز طرف معطوف، معطوف علیہ بمعطوف طرف لغو ہو کر أَفِيضُوا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل باقاعل و متعلقین جملہ انشائیہ مفسرہ ہوں

قَالُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول بَإِنَّ حرف تحقیق لفظا لَلَّہُ اس کا اسم حَرَمَ فعل مستتر فاعل هُمَا ضمیر مفعول بہ، علی جہا الْكَافِرِيْنَ موصول الَّذِيْنَ اسم موصول اِتَّخَذُوا فعل واو ضمیر فاعل دِيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اِنَّ لَهْوًا وَكَيْبًا معطوف علیہ بمعطوف مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین معطوف علیہ، واو عاطفہ غَرَّتْ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مرکب

توصیفِ نائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف صلہ، موصولہ، موصولہ یا صلہ الکافیہ کی صفت، موصوفہ یا صفت مجرور، جہاں مجرور نحوہ کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق ان کی خبریں ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

فام نصیر اور شرط مخدوف ہے اِذَا اَتَّخَذُوا دِيْنَهُمْ لِهٰوَاهُمْ وَاَعْبَا (از فقیر) اَلَّذِيْنَ مَرَّ مَعُوْلُوْنَ فِيْهِ مَقْدَمٌ نُّعِيْنُ (فعل نَحْنُ مستتر قائل هُنَّ ضمیر مفعول بہ، کاف جاہہ ما مصدریہ نَسُوْا فعل وَاو ضمیر قائل لِقَاءَ مضاف يَوْمَ مِهْمٍ مرکب انشائی مبدل من هٰذَا مبدل، مبدل منہ یا بدل لِقَاءَ کا مضاف الیہ، مضاف یا مضاف الیہ نَسُوْا کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتولی م مصدر معطوف علیہ، وَاو عاطفہ ما مصدریہ بگاؤوا فعل ناقص، وَاو ضمیر اس کا اسم یا یا کُنَّا جاہا مجرور متعلق مقدم ہوئے، يَجْحَدُوْنَ فعل وَاو ضمیر قائل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتولی مصدر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مجرور، جہاں مجرور طرف مستقر کا کُنَّا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوفہ مخدوفہ نَسِيْمًا کا مفعول مطلق، فعل با قائل و مفاعیل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط مخدوف با جزاء، شرطیہ ہو۔

وَلَقَدْ جَنَّبَهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَلْنٰهُ عَلٰی عِلْمٍ هُدٰى وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝۵۲

**آیت نمبر ۵۲:** اَوَا سْتَبٰنِیْہِ لَکُمْ مَوْضِعٌ لِّلْعِلْمِ اور قسم ہے قَدْ علامت فعل، چُنَّبْنَا فعل ناقص قائل هُنَّ ضمیر مفعول بہ یاہ جاہہ کی کتاب موصوفہ فَصَلْنَا فعل ناقص ضمیر قائل، ضمیر ذوالحال علی علم طرف ہنقر ہو کر مُشْتَبٰہًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ ہُدٰی معطوف علیہ، وَاو عاطفہ رَحْمَةٍ مصدر لاکر جاہہ قَوْمٍ موصوفہ يُؤْمِنُوْنَ فعل وَاو ضمیر قائل سے مل کر صفت یا صفت مجرور، جہاں مجرور متعلق ہوئے، مصدر متعلق سے مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف فَصَلْنَا کا مفعول لہ، فعل با قائل و مفعولین کی کتاب کی صفت، موصوفہ یا صفت مجرور، جہاں مجرور چُنَّبْنَا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم یا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاوِيْلَهُ ۚ اَيُّوْمٍ يَّاتِيْ تَاوِيْلُهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ سَمُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ قَهَلْنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝۵۳

**آیت نمبر ۵۳:** هَلْ حرف استفہام يَنْظُرُوْنَ فعل وَاو ضمیر قائل اِلَّا حرف استثنائی تَاوِيْلَهُ مرکب انشائی مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں یَوْمَ تَاوِيْلُهُ مرکب انشائی قائل، فعل با قائل مضاف الیہ، مضاف یا مضاف الیہ مفعول فی مقدم يَقُوْلُ فعل الَّذِيْنَ اسم موصول نَسُوْا فعل وَاو ضمیر قائل، ضمیر مفعول بہ مِنْ قَبْلُ جاہا مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق صلہ، موصولہ یا صلہ لِقَاءَ کا قائل، فعل با قائل و مفعول فی مقدم جملہ فعلیہ خبریہ قول، قَدْ علامت فعل جَاءَتْ فعل رُسُلٌ رَبِّنَا مرکب انشائی قائل بِالْحَقِّ جاہا مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ



موصوف ربّ العالمین مرکب انشائی مفعول، موصوف بہ مفعول فاعل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ مستأنفہ ہوں

**أَدْعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۵۵﴾**

**آیت نمبر ۵۵:** ادْعُوا فعل امر واؤ ضمیر قائل رَبِّكُمْ مرکب انشائی مفعول بہ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً بواسطہ مفعول معطف مذموم دُعَاءُ کے مفعول مطلق، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ ہوں یا تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً مفعول لہ ہے ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لا یحبُّ فعل ہو مشترک قائل الْمُعْتَدِينَ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر بیانِ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

**وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ**

**الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۶﴾**

**آیت نمبر ۵۶:** اذ و استیذانہ لَا تُفْسِدُوا فعل نہی واؤ ضمیر قائل فی الْأَرْضِ ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے بَعْدَ إِصْلَاحِهَا مرکب انشائی ہو کر مفعول فیہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول فیہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو عاطفہ ادْعُوا فعل امر واؤ ضمیر قائل تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً مفعول بہ، خَوْفًا وَطَمَعًا معطوف علیہ با معطوف مفعول لہ، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستأنفہ ہوں ان حرف تحقیق رَحْمَةَ اللّٰهِ مرکب انشائی اسم قَرِيبٌ مینہ مفعول ہو مشترک قائل مِنَ الْمُحْسِنِينَ جدا ہو کر متعلق ہوئے، مینہ مفعول با قائل و متعلق خبر بیانِ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

**سوال:** اِنَّ کا رَحْمَةَ اللّٰهِ مؤنث ہے اور قَرِيبٌ خبر مذکر ہے یہ کیسے درست ہے؟

**جواب:** رَحْمَةُ اللّٰهِ اُنْثَرُ حَرْف کی تاول میں ہے لہذا اسم اور خبر دونوں مذکر ہو گئے اور یَقْرِيبُ حَرْف کی مفعول ہے اور قَرِيبٌ مَعْرُوف نہیں ہے لہذا اسم اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری نہیں ہے

**وَهُوَ الَّذِي يُوسِلُ الَّرِّيحَ بَشْمًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَاقِقًا إِذَا قَالَتْ سَحَابًا نِّعَالًا سُقْنَهُ لِيَكِدَ مَتَيْتَ فَأَلْزَمْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۷﴾**

**آیت نمبر ۵۷:** اذ و او عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ الَّذِي اسم موصول يُوسِلُ فعل ہو مشترک قائل الَّرِّيحَ ظرف ذوالحال بَشْمًا حال، دونوں مل کر مفعول بہ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ مرکب انشائی مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں حَاقِقًا حرف ابتداء و نایبہ إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَقْلَّتْ فعل ہیج مشترک قائل سَحَابًا نِّعَالًا مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط سُقْنَهُ مفعول نا ضمیر قائل تَا ضمیر مفعول بہ، لاکر جدا ہو بَلَدًا مَعْرِيَّتِ مرکب توصیفی مجرور، جدا ہو کر متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ فَاءَ عَاطِفًا اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر قائل یہ جدا ہو مجرور متعلق ہوئے اَلْمَاءَ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول فَاءَ عَاطِفًا اَخْرَجْنَا فعل نا ضمیر قائل یہ جدا ہو مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف ز فَاء کے مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف

علیہ بمعطوفین جزاء، شرطاً باجزاء مجاز، مجرباً بجزء و مؤنثاً بجزء، یا جملہ متانفہ ہوں۔

کذا لکن جہداً مجرباً و ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اِخْرَاجًا کے مفعول مطلق مقدم اِخْرَجُ فعل تَعْنُ مستقر قائل اَلْمَوْثُوْنِ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں لَعَلَّكُمْ تَدْرُوْنَ اس جیسی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر راجعی التَّذَكُّرِ کی تاویل میں ہو کر اِخْرَجُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي حَبَّتْ لَآيَحْيَىٰ جُحُوجُ إِلَّا تَكْدًا ۚ كَذَلِكَ نَصَّرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾

**آیت نمبر ۵۸:** او او استیناراً اَلْبَلَدِ الطَّيِّبِ مرکب توصیفی مبتدأ، يَخْرُجُ فعل نَبَاتُهُ مرکب اضافی ذوالحال بِإِذْنِ رَبِّهِ ظرف مستقر مُتَكَبِّرًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاطفۃ الَّذِي اسم موصول حَبَّتْ فعل ہو مستقر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، اَيَحْيَىٰ جُحُوجُ فعل ہو مستقر قائل اَلَا حَرْف استثناء، تَكْدًا بواسطہ موصوف محذوف خُرُوجًا کے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول بہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانفہ ہوں کذا لکن جہداً مجرباً و ظرف کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَضَرُّفًا کے مفعول مطلق مقدم مُصَرَّفُ فعل تَعْنُ مستقر قائل اَلْآيَاتِ مفعول بہ، لا ہر جہادہ قَوْمٍ موصوف يَشْكُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صفت، موصوف با صفت مجرب، جہداً مجرباً و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

﴿۵۸﴾ رکوع نمبر ۸

لَقَدْ آزَسَلْنَا نُوْحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ اِقْبُرُوْا عِبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ اِنِّىۡ اِنۡ اٰخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۹﴾

**آیت نمبر ۵۹:** لاہر موطنہ قسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل آزَسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل نُوْحًا مفعول بہ، اِلَىٰ قَوْمِهِ جہد باجرب و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ عَقَاہَ عاطفۃ قَالَ فعل ہو مستقر فاعل سے مل کر قول، يٰۤاَقْرَبِيۡہِ اصل میں یٰۤاَقْرَبِيۡہِ ہے اور یہ نداء ہے اَعْبُدُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل لفظ اللّٰه مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جواب نداء، نداء با جواب نداء موقوف، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں صَا نَابِہِ لَعْنُ طرف مستقر ہو کر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم میں جہادہ نَادُوْا اللّٰهَ عِلْمًا نَوْعِ موصوف غَيْرُ فَرْكِ اضافی صفت، موصوف با صفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اِنۡ حَرْف تحقیق، یَاہِ ضمیر اس کا اسم اٰخَافُ فعل اَنَا مستقر قائل عَلَيْكُمْ جہداً مجرباً و متعلق ہوئے عَذَابِ مَضَافٍ يَوْمٍ عَظِيْمٍ مرکب توصیفی مَضَافِ اِیہ، مَضَافِ اِیہ، مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِنۡ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

قَالَ الْمَلٰٓئِیْمِۡنَ قَوْمِہٖ اِنَّا لَنَرٰکَ فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۶۰﴾

**آیت نمبر ۶۰:** قَالَ نَسِلَ الْاَمْلَآءُ ذُلًا لِمَنْ قَوْمُهُمْ جَاهِدًا بَعْرًا وَرَكَئِيًّا كَيْفَ تَمْتَظِقُ هُوَ كَرِهًا لِمَنْ يَبَالُ قَاعًا فَعَلَّ بِمَا قَاعًا جَمَلَةً فَعَلِيَةً خَبْرِيَةً قَوْلَ اِبْنِ اَرْفٍ حَقَّقْنَا صَمِيرًا مَ لَا مَرَّةً فَلَمْ تَدْرِي فَعَلَّ نَحْنُ مُسْتَرْقَاعًا كَافٍ صَمِيرَ مَفْعُولٍ بِهِ اَوَّلُ فِي جَاهِدَةٍ ضَلَّالَةٍ مُبِينَةٍ مَرْكَبٌ تَوْصِيْلٌ بِجَرِّ وُجُوهٍ جَاهِدًا بِجَرِّ وَرَكَئِيًّا كَيْفَ تَمْتَظِقُ هُوَ كَرِهًا لِمَنْ يَبَالُ قَاعًا فَعَلَّ بِمَا قَاعًا جَمَلَةً فَعَلِيَةً خَبْرِيَةً هُوَ خَبْرُ اِبْنِ اَرْفٍ بِاسْمِ وَخَبْرُ مَقْوَلٍ قَوْلَ بِاَقْوَالِهِ جَمَلَةً فَعَلِيَةً خَبْرِيَةً مَسْتَانَفَةً هُوَ

**قَالَ يَقْوَمِرٍ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَ لَيْكِنِّي رَسُوْلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۶۱:** قَالَ نَسِلَ هُوَ مُسْتَرْقَاعًا سے ل کر قول يَقْوَمِرُ یہ اصل میں يَقْوَمِيٌّ ہے اور یہ ندا ہے لَيْسَ فعل باقاعل جملہ ظرف مستقر ہو کر رَكَئِيَّةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم ضَلَالَةٌ اسم مؤخر فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ معطوف علیہ ہواو عاطف لیکن حرف استمداد کنون و قایہ کتابہ صمیر اس کا اسم رَسُوْلٌ موصوف میں جادہ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مَرْكَبٌ اضافی مفعول بہ اولیٰ جادہ و عرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر رَسُوْلٌ کی صفت، موصوف ہفت خبر، لیکن با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف ندا کا جواب، ندا ہا جواب ندا مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

**اٰیَاتِكُمْ رَسَلَتْ رَبِّيْ وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۶۲:** اٰیَاتِكُمْ فعل آتا مستقر قاعل کُم ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ سَالَتِ رَبِّيْ مَرْكَبٌ اضافی مفعول بہ ثانی فعل باقاعل و مفعولین معطوف علیہ ہواو عاطف اَنْصَحُ فعل آتا مستقر قاعل لَكُمْ مستقر متعلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّلِ ہواو عاطف اَعْلَمُ فعل آتا مستقر قاعل مِنَ اللّٰهِ جادہ خبر و متعلق ہوئے مَا موصول لا تَعْلَمُوْنَ فعل آتا ضمیر قاعل سے ل کر صلہ، موصول ہا صلہ مفعول بہ فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستانفہ ہوں

**اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقَوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۶۳:** حَمْزُهُ حرف استفہام ہواو عاطف معطوف علیہ محذوف ہے كَذَّبْتُمْ مَعَجِبْتُمْ فعل ضمیر قاعل اَنْ حرف مصدری و نصب جَاءَ فعل کُم ضمیر مفعول بہ ذِكْرٌ موصوف میں رَبِّكُمْ جادہ باجر و رَكَئِيْنَ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، علی جادہ رَجُلٍ موصوف میں رَبِّكُمْ جادہ باجر و رَكَئِيْنَ کے متعلق ہو کر ذِكْرٌ کی صفت، موصوف ہفت خبر، جادہ باجر و رَكَئِيْنَ کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف ہا صفتین جَاءَ کا قاعل لآہر جادہ تعلیلیٰ اور اس کے بعد اَنْ محذوف ہے يُنذِرُ فعل هُوَ مستقر قاعل کُم مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ بتولید مصدر مجرور، جادہ باجر و معطوف علیہ ہواو عاطف لآہر جادہ تعلیلیٰ اور اس کے بعد اَنْ محذوف ہے تَتَّقُوا فعل واو ضمیر قاعل سے ل کر تاویل مصدر مجرور، جادہ باجر و معطوف اَوَّلِ ہواو عاطف لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُوْنَ جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین جَاءَ کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتولید مصدر منصوب بنزع الناقص عَجِبْتُمْ کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف ہا معطوف جملہ مستانفہ ہوں

كَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَاعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا

قَوْمًا عَمِينَ ﴿۷﴾

**آیت نمبر ۱۲:** فقہاء فیسیر اور شرط مخدوف ہے إذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَمْرَهُمْ كَذَّبُوا لُفْلٌ واو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ فقہاء عاقلہ انجینا لُفْلٌ تا ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، واو بمعنی مع الَّذِينَ اسم موصول معہ مرکب اضافی مفعول بہ ہو لُفْلٌ مخدوف کِبَيْتٌ، ذاب فی الْفُلِكِ ظرف لغو ہو کر کَبَيْتُوا کے متعلق ہوئے، لُفْلٌ با فاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ انجینا کا مفعول معہ، لُفْلٌ با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اذل، واو عاقلہ اعرفنا لُفْلٌ تا ضمیر فاعل الَّذِينَ موصولہ کَذَّبُوا لُفْلٌ واو ضمیر فاعل یا آیتنا جلد با مجرور متعلق ہوئے، لُفْلٌ با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اعرفنا کا مفعول بہ، لُفْلٌ با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط مخدوف کی جزا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لُفْلٌ حرف تحقیق لُفْلٌ ضمیر اسم کاؤ لُفْلٌ ناقص واو ضمیر اسم قَوْمًا عَمِينَ مرکب توصیفی خبر، لُفْلٌ ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

﴿۷﴾ رکوع نمبر ۹

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸﴾

**آیت نمبر ۲۵:** واو عاقلہ ای عادی جلد با مجرور متعلق ہوئے لُفْلٌ مخدوف اَرْسَلْنَا کے، أَخَاهُمْ مرکب اضافی مبدل منهُ هُوْدًا بدل مبدل منهُ بدل مفعول بہ، لُفْلٌ با فاعل و متعلق و مفعول بہ اَرْسَلْنَا پر معطوف ہے قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اس کی ترکیب آیت نمبر ۵۹ میں کرچکی ہے، ہمزہ حرف استفہام فقہاء عاقلہ معطوف علیہ مخدوف ہے لَا تَتَّقُفْكُرُونَ، لَا تَتَّقُونَ لُفْلٌ واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متنافہ انشائیہ ہو۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ ۚ وَإِنَّا لَنَنْظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿۹﴾

**آیت نمبر ۲۶:** قَالَ لُفْلٌ الْمَلَأُ موصوف الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا لُفْلٌ واو ضمیر ذوالحال جن قَوْمِهِ ظرف مستقر كَذِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ہذا با اِنْ، باحال فاعل، لُفْلٌ با فاعل صلہ، موصول باصلہ الْمَلَأُ کی صفت، موصوف با صفت قَالَ كَا فاعل، لُفْلٌ با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول بیان حرف تحقیق تا ضمیر اسم لآمرہ مذقلہ لَرَّى لُفْلٌ تَحْنُ مستقر فاعل كاف ضمیر مفعول بہ اذل، فی سَفَاهَةٍ ظرف مستقر كَذِبِينَ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، لُفْلٌ با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاقلہ اِنْ حرف تحقیق تا ضمیر اسم لآمرہ مذقلہ نَنْظُنُّ لُفْلٌ تَحْنُ مستقر فاعل كاف ضمیر مفعول بہ، یومِنُ الْكَافِرِينَ ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٍ ۚ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾



**آیت نمبر ۶۷:** قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ فِي سَفَاهَةِ وَّلِيِّكُمْ سُبْحَانَهُ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ اس کی ترکیب آیت نمبر ۶۸ میں دیکھئے

**اَيَّلِعْكُمْ رَسَلَتِ رَبِّي وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اٰمِيْنَ ﴿٦٨﴾**

**آیت نمبر ۶۸:** اَيَّلِعْكُمْ رَسَلَتِ رَبِّي کی ترکیب آیت نمبر ۶۷ میں گزری ہے اور یہ رَسُوْلُ کی صفت ثانیہ ہے، اوواو حالیہ انا ضمیر مبتدا لکم، جاہ مجرور، ناصح کے متعلق مقدم ہے، اور ناصح اٰمِیْن ذخر، مبتدا باخبر بن اَيَّلِعْ ضمیر فاعل سے ملتا ہے۔

**اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِّنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَّ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْعَةً ۗ فَاذْكُرُوْا اَلّآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾**

**آیت نمبر ۶۹:** اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ کی ترکیب آیت نمبر ۶۸ میں گزری ہے، اوواو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے، تَذَكَّرُوْا اَمْرُكُمْ اذْكُرُوْا فعل امر و او ضمیر فاعل اذ طرف زمان مضاف جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل لکم ضمیر مفعول بہ اول خُلَفَاءُ موصوفہ من جاہ بعد قَوْمِ نُوْحٍ مرکب اضافی مجرور، جاہ مجرور، کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہفت مفعول ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اوواو عاطفہ زَادَ فعل ہو مستتر فاعل لکم ضمیر مفعول بہ اول فی الْخَلْقِ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم بَضْعَةٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف معطوف علیہ با معطوف اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہو اذْكُرُوْا، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے، تَذَكَّرُوْا فِيْ اَمْرِكُمْ فَاذْكُرُوْا مفسر اور شرط محذوف ہے اذْكُرُوْا فَاذْكُرُوْا وَتَذَكَّرُوْا اذْكُرُوْا فعل امر و او ضمیر فاعل اَلّآءُ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستأنف، ہو لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر راجح الفلاح کی بناوٹ میں ہو کر اذْكُرُوْا کی ضمیر فاعل سے ملتا ہے۔

**قَالُوْٓا اٰجِبْتَنَا لَتَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَاَن نَّزَرَ مَا كَانَ يُعْبَدُ اٰبَاؤُنَا ۚ فَاتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾**

**آیت نمبر ۷۰:** قَالُوْٓا فعل و او ضمیر فاعل سے مل کر قول، ہمزہ حرف استفہام چشت فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل نا ضمیر منسوب مفعول بہ لاکر جاہ تعلیلہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے تَعْبُدَ فعل تَحْنُ مستتر فاعل لَتَقَالَ لَتَقَالَ لَتَقَالَ وَحْدَهُ وَحْدَهُ مرکب اضافی مُتَوَجِّدًا کے معنی میں ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، اوواو عاطفہ تَذَكَّرَ فعل تَحْنُ مستتر فاعل نا موصولہ کائنات فعل ناقص، ہو مستتر اسم یَعْبُدَ فعل نا با و تاکر مرکب اضافی فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصولہ بصلہ تَذَكَّرَ کا مفعول بہ، پھر یہ تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بنا و اول مصدر مجرور، جاہ مجرور چشت کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق

جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فَاذْهَبْ فَاذْهَبْ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ اَبَاؤَنَا (انقریب) یَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقًا بِمَا تَكْفُرُونَ بِاٰیٰتِ نِعْمِ اٰرَآءِکُمْ  
فَاعَلٰی نَا ضَمیر مفعول بہ، بہاء جارہ ما موصول بعد فعل اَنْتُمْ متستر فاعل نَا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ مجرور،  
متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط مخدوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں ان شرطیہ کُنْتُمْ فعل ناقص  
تاء مفتوحہ اس کا اسم من الصّٰدِقِیْنَ ظرف مستقر ہو کر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء  
مخدوف ہے فَاذْهَبْ بِمَا تَعْبُدُ نَا، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ ۗ اَنْتُمْ جَادِلُوْنِیْ فِیْ اَسْمَاءٍ سَمَّیْتُمْوهَا  
اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ فَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۗ اِنِّیْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِ ۙ ۞

آیت نصبی ۱۷: قَالَ فعل متستر فاعل سے مل کر قول، قَدْ علامت فعل، وَقَعَ فعل عینکے جارہ مجرور، متعلق ہوئے، مِنْ رَبِّكُمْ  
ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم رِجْسٌ وَ غَضَبٌ معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل  
و متعلق مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو، ہمزہ حرف استفہام اَنْتُمْ جَادِلُوْنِیْ فعل واو ضمیر فاعل نون و قالیہ کا، یاء ضمیر مفعول بہ  
فِیْ جارہ اَسْمَاءٍ موصوف سَمَّیْتُمْ فعل شُذ ضمیر مؤکد اَنْتُمْ تاکید، مؤکد با تاکید معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبَاؤُكُمْ مرکب اضافی معطوف،  
معطوف علیہ با معطوف فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر اَسْمَاءٍ کی صفت اولیٰ معانیہ، ذَوَّلَ فعل لفظ اللہ فاعل یہاں طرف لغو  
ہو کر متعلق ہوئے، مِنْ جارہ زائدہ سُلْطٰنٍ ملامت مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اَسْمَاءٍ کی صفت ثانیہ، موصوف  
با صغیر مجرور، جارہ مجرور اَنْتُمْ جَادِلُوْنِیْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق مل کر جملہ انشائیہ استفساریہ ہو۔

فَاذْهَبْ فَاذْهَبْ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ اَبَاؤَنَا (انقریب) یَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقًا بِمَا تَكْفُرُونَ بِاٰیٰتِ نِعْمِ اٰرَآءِکُمْ  
فَاعَلٰی نَا ضَمیر مفعول بہ، بہاء جارہ ما موصول بعد فعل اَنْتُمْ متستر فاعل نَا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ مجرور،  
متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط مخدوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں ان شرطیہ کُنْتُمْ فعل ناقص  
تاء مفتوحہ اس کا اسم من الصّٰدِقِیْنَ ظرف مستقر ہو کر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء  
مخدوف ہے فَاذْهَبْ بِمَا تَعْبُدُ نَا، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ ۗ اَنْتُمْ جَادِلُوْنِیْ فِیْ اَسْمَاءٍ سَمَّیْتُمْوهَا  
اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ فَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۗ اِنِّیْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِ ۙ ۞

آیت نصبی ۱۷: قَدْ علامت فعل، وَقَعَ فعل عینکے جارہ مجرور، متعلق ہوئے، مِنْ رَبِّكُمْ  
ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم رِجْسٌ وَ غَضَبٌ معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل  
و متعلق مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو، ہمزہ حرف استفہام اَنْتُمْ جَادِلُوْنِیْ فعل واو ضمیر فاعل نون و قالیہ کا، یاء ضمیر مفعول بہ  
فِیْ جارہ اَسْمَاءٍ موصوف سَمَّیْتُمْ فعل شُذ ضمیر مؤکد اَنْتُمْ تاکید، مؤکد با تاکید معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبَاؤُكُمْ مرکب اضافی معطوف،  
معطوف علیہ با معطوف فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر اَسْمَاءٍ کی صفت اولیٰ معانیہ، ذَوَّلَ فعل لفظ اللہ فاعل یہاں طرف لغو  
ہو کر متعلق ہوئے، مِنْ جارہ زائدہ سُلْطٰنٍ ملامت مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اَسْمَاءٍ کی صفت ثانیہ، موصوف  
با صغیر مجرور، جارہ مجرور اَنْتُمْ جَادِلُوْنِیْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق مل کر جملہ انشائیہ استفساریہ ہو۔

کلام مؤمنین اسم قائل ہُوْمُ مستقر قائل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ کا پورا کماضاف الیہ، مضاف باضاف الیہ کٹھنغا کا مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف جملی، معطوف علیہ محذوف ہا معطوفین جملہ معطوف ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۱۰ ﴾

وَالِیْ تَمُوْدَ اَخَاهُمْ ضِلْحَانَ قَالَ یَقُوْمِرِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنَ الْیٰهٍ غَیْرَہٗ ؕ قَدْ جَاءَ تِلْکُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَبِّکُمْ ؕ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰیَةٌ فَاذْرُوْهَا تَاکُلْنَ فِیْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَمَا یَاْخُذْکُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝

**آیت نمبر ۳۱** سو او عاطف والی تَمُوْدَ اَخَاهُمْ ضِلْحَانَ قَالَ یَقُوْمِرِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنَ الْیٰهٍ غَیْرَہٗ اس کی ترکیب والی عاؤ اَخَاهُمْ هُوْدَا قَالَ یَقُوْمِرِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنَ الْیٰهٍ غَیْرَہٗ کی مثل ہے جو آیت نمبر ۲۵ میں گزر چکی ہے۔ قَدْ علامت فعل، جَاءَتْ فعل کُھ ضمیر مفعول بہ بَیِّنَةٌ موصوفہ مِّنْ رَبِّکُمْ طرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ صفت قائل، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ ہذہ اسم اشارہ مبتدئہ، نَاقَةُ اللّٰهِ ذوالحال آیۃ حال، ذوالحال با حال خبر اول لَکُمْ طرف مستقر ہو کر کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر ثانی، مبتدئہ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قَامَ نسیحہ اور شرط محذوف ہے۔ اِذَا کَلَّتْ هٰذِیْہ نَاقَةُ اللّٰهِ (از تقریر) یا اِنْ کُنْتُمْ اَهْلًا لِیْلِ الْبَیْطَانِ، مَذْرُوْبَا فعل امر و ضمیر قائل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جزم، اور شرط ہا جزم، اور شرطیہ ہوں تَاکُلْنَ فعل ہی مستقر قائل فی اَرْضِ اللّٰهِ جدا باجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزم ہے۔ جزم امر ہے، شرط ہا جزم، جملہ شرطیہ ہوں او عاطف لَکُمْ سُوْا فعل نئی و ضمیر قائل ہا ضمیر مفعول بہ بِسُوْءٍ جدا باجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ مَذْرُوْبَا پر معطوف ہے اور یہ لَیْکُنْ مَسْکُوْمًا اِیَّهَا بِسُوْءٍ کی تاویل میں ہے۔ قَامَ سببیہ عاطف اور اس کے بعد ان مقدر ہے یَاْخُذْکُمْ فعل کُھ ضمیر مفعول بہ عَذَابٌ اَلِیْمٌ مرکب توصیفی قائل، تینوں مل کر تاویل مصدر معطوف ہے مَسْکُوْمًا پر۔

وَاذْکُرُوْا الَّذِیْ جَعَلْکُمْ خُلُقَاءً مِّنْۢ بَعْدِ عَادٍۭ وَبَوَّآکُمْ فِی الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سَهْلِیْہَا قُصُوْرًا وَتَنْجِحُوْنَ الْجِبَالَ بَیُوْتًا ؕ فَاذْکُرُوْا الْاِلٰهَ اللّٰهَ وَلَا تَعْبُوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝

**آیت نمبر ۳۲** سو او عاطف اذْکُرُوْا فعل امر و ضمیر قائل اِذْ طرف زمان مضاف جَعَلَ فعل ہو مستقر قائل کُھ ضمیر منصوب مفعول بہ لذل خُلُقَاءً موصوفہ مِّنْۢ بَعْدِ عَادٍ جدا باجرور کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت مفعول بہ جملی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاطف بَوَّآ فعل ہو مستقر قائل فی الْاَرْضِ جدا باجرور متعلق ہوئے، کُھ ضمیر منصوب ذوالحال تَتَّخِذُوْنَ فعل و ضمیر قائل مِّنْ سَهْلِیْہَا طرف لغو ہو کر متعلق ہوئے قُصُوْرًا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاطف تَنْجِحُوْنَ فعل و ضمیر قائل الْجِبَالَ منصوب بنزع لفظی مِّنْ الْجِبَالَ کی اصل میں ہو کر متعلق ہوئے بَیُوْتًا مفعول بہ، چاروں

مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مُتَّحِدٌ ضمیر کامل، ذوالحال باحال بِوَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوفِ اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اِذْ کُوُوْا کا مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ معطوف

ہو۔

قام نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْكُمْ نِعْمًا غَیْبِيَّةً (ترجمہ) اِذْ کُوُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل الْاَنْعَامِ اللّٰهُ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، مواو عا ملقولا تَتَعَوُّوا فعل نہی واو ضمیر ذوالحال مُفَسِّدِیْنَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل فی الْاَرْضِ جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جزاء، شرط محذوف جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ

اَنَّ صِلِحًا مُّرْسَلًا مِّنْ رَبِّهِمْ قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ ۝۵

آیت نمبر ۵: قَالَ فعل المَلَأُ موصوف الذّٰیْنَ اسم موصول اسْتَكْبَرُوا فعل واو ضمیر ذوالحال مِنْ قَوْمِهِ ظرف مستقر کَلِیْبِيْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف کا فعل کا فاعل لآہ جارہ الذّٰیْنَ اسم موصول اسْتَضَعُّوْا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور مبدل من لآہ جارہ مِنْ موصولہ اَمَنَ فعل ھُوْ مستتر ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر ہو کر کَلِیْبًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اَمَنَ کا فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور بدل، مبدل منہ یا بدل ظرف لغو ہو کر قَالَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، ھمزہ حرف استفہام تَعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اَنَّ حرف تحقیق صَالِحًا اس کا اسم مُرْسَلٌ اسم مفعول ھُوْ مستتر نائب فاعل مِنْ رَبِّهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، اسم مفعول نائب فاعل و متعلق خبر اَنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ تَعْلَمُوْنَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالُوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول اِنَّ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم نَبَا جارہ مآ موصول اُرْسِلَ فعل مجہول ھُوْ مستتر نائب فاعل یہ جار باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور متعلق مقدم ہوئے، ھُوْ صِلِحًا اسم فاعل اَنْحُنْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِيْ اٰمَنْتُمْ بِهِ كَفِرُوْنَ ۝۶

آیت نمبر ۶: قَالَ فعل الذّٰیْنَ اسم موصول اسْتَكْبَرُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول اِنَّ حرف تحقیق نَا ضمیر اس کا اسم نَبَا جارہ الذّٰی اسم موصول اَمَنْتُمْ فعل ھُوْ ضمیر فاعل یہ جار باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور متعلق مقدم کا كَفِرُوْنَ اسم فاعل اَنْحُنْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

فَعَقَرُوا وَالنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ اَنْتِنَابِمَا تَعْدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنْ

الْمُرْسَلِيْنَ ۷۷

**آیت نمبر ۷۷:** فقہ فیسح اور شرط محذوف ہے اذکا انہ تکبوا واذکفوا (از فقیر) عَقَرُوا فاعل واو ضمیر فاعل الناقاة مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَتَوْا فاعل واو ضمیر وذلحال عن جارہ امر ربہم مرکب اضافی مجرور، جارہا مجرور ظرف مستقر مُسْتَقْبِرٌ تَکْبِرٌ یُنِیْن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ قَالُوا فاعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، یہاں حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فاعل انا مستتر فاعل صالح متنازی مفرد معروض مضاف منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر نداء، اَلَّتِ فاعل امر اَنْتِ مستتر فاعل تا ضمیر مفعول بہ یہاں جارہ ما موصولہ تَعَدُّ فاعل اَنْتِ مستتر فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصولہ، جارہ مجرور اَلَّتِ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو لینا کُنْتَ مِنْ الْمُرْسَلِيْنَ کی ترکیب ان کُنْتَ مِنْ الصَّادِقِيْنَ کی مثل ہے آیت نمبر ۷۸ میں دیکھیں۔

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِيْ دَارِهِمْ جِثِيْمِيْنَ ۷۸

**آیت نمبر ۷۸:** فقہ عاطفہ اَخَذَتْ فاعل ضم ضمیر منصوب مفعول بہ اَلَّتِ رَجْفَةٌ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقہ عاطفہ فَاصْبَحُوا فاعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم فی دارہم ظرف لغو ہو کر متعلق مقدم ہوئے، جِثِيْمِيْنَ اسم فاعل ضمہ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَقُوْمٌ لَقَدْ اَبْلَغْتُمْ رِسَالَاتِيْ وَنَضَحْتُمْ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِيْبُوْنَ

النَّصِيْحِيْنَ ۷۹

**آیت نمبر ۷۹:** فقہ عاطفہ تَوَلَّوْا فاعل ہو مستتر فاعل عنہ جارہ مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قَالَ فاعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول یَقُوْمٌ یہ اصل میں یٰۤاَقُوْمِیْ ہے اور یہ نداء ہے لاکر موطن لضم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل اَبْلَغْتُ فاعل تاء مضمومہ فاعل ضم ضمیر مفعول بہ اول رِسَالَاتِيْ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نَضَحْتُ فاعل تاء مضمومہ فاعل لَكُمْ ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم با جواب قسم نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔ واو عاطفہ لٰكِنْ حرف استدراک ملامت لَّا تُحِيْبُوْنَ فاعل واو ضمیر فاعل النَّصِيْحِيْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔

وَلَوْ كَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۸۰

**آیت نمبر ۸۰:** واو استیذان لَوْ كَا مفعول بہ ہے فعل محذوف اَذْ كَا واو اِذْ كَا باذ ظرف زمان معارف قال فاعل ہو مستتر فاعل لِقَوْمِهٖ جارہ

باجزء حعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، ھمزہ حرف استفہام تائون فعل، واو ضمیر قائل، اَلْفَاحِجَّةُ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انتہائی ہو کر متعلقہ قول، با مقولہ اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اذ کو مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول بہ و مفعول فیہ جملہ انتہائی امریہ ہوئے، مآک فی سببِ قول کلمہ ضمیر منسوب مفعول بہ، یہاں جملہ باجزء حعلق ہوئے، میں جملہ نامہ اَحَدِی کلمہ مفعول موصوف بہ، مِنَ الْعَالَمِیْنَ جملہ باجزء حعلق ہوا، مفعول کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ، مفعول بہ، مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہو یا تائون کی ضمیر قائل سے مل ہو۔

**اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۷۰﴾**

**آیت نمبر ۷۰:** اِنَّ حرف تحقیق کلمہ ضمیر اس کا لام مد ملحقہ تائون فعل، واو ضمیر قائل، اِنَّ الرِّجَالَ مفعول بہ، شَهْوَةً مفعول لہ، مِنَ دُونِ النِّسَاءِ جملہ باجزء حعلق ہوا، مفعول کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ، مفعول بہ، مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ، اِسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلقہ ہوئے، اِنَّ حرف عطف و اشراب اِنَّکُمْ ضمیر مبتدئ، اِنَّکُمْ مفعول مرکب تو صیغی خبریہ، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ**

**آیت نمبر ۷۱:** واو استہزا مآک فی کون فعل، ناقص جواب قومیہ مرکب اضافی خبر مقدمہ، اَلْاَحْرَافُ استثناء مفعول بہ، قَالُوا فعل، واو ضمیر قائل سے مل کر قول، اَخْرِجُوهُمْ فعل، امر واو ضمیر قائل، اَخْرِجُوهُمْ مفعول بہ، مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے، یہاں مل کر جملہ انتہائی متعلقہ قول، با مقولہ بتدریج مصدر کائن کا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہوئے، اِنَّ حرف تحقیق کلمہ ضمیر اس کا اسم موصوف، يَتَطَهَّرُونَ فعل، واو ضمیر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف بہفت خبریہ، اِسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ملحقہ ہو۔

**فَاَنْجَبْنَهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ لِي كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۷۲﴾**

**آیت نمبر ۷۲:** فاء عاطفہ اور معطوف علیہ معطوف ہے، لَوْلَا عَلَیْهِمُ الْعَذَابُ اَنْجَبْنَاهُ فعل، نا ضمیر قائل، اَمْرَاَتَهُ مفعول بہ، واو معنی مع " اَهْلُهُ " مرکب اضافی مششئ، مِّنْ اِلَّا حرف استثناء، امْرَاَتَهُ مرکب اضافی مششئ، مششئ مند با مششئ مفعول معہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف معطوف علیہ با معطوف جملہ متعلقہ ہوئے، لِي كَانَتْ فعل ناقص ہی ضمیر اس کا اسم موصوف مِنَ الْغَابِرِينَ ظرف مستقر ہو کر کائنۃ کے حعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہو۔

**وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۗ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۷۳﴾**

**آیت نمبر ۷۳:** واو استہزا، یا حالہ، اَمْطَرْنَا فعل، نا ضمیر قائل، عَلَيْهِمْ جملہ باجزء حعلق ہوئے، مَطَرًا مفعول بہ، یہاں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہوئے، مِنَ الْغَابِرِينَ میں ضمیر قائل سے مل ہو، فاء استہزا، اَنْظُرْ فعل امر، اَنْتَ مستتر قائل، كَيْفَ ظرف زمان، کائنات

کامفول فی ہو کر خبر مقدم کان فعل ناقص عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ مرکب اضافی اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر مقدم جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر اُنظُرُ کامفول بہ، فعل باقاعل و مفول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

﴿ رکوع نمبر ۱۱ ﴾

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۸۵﴾

آیت نمبر ۸۵: وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ کی ترکیب آیت نمبر ۷۳ میں دیکھیے

قاع نصیر اور شرط محذوف جدا آجاء کُنْتُمْ مُعْجِدًا اَوْ جَبَّتِ الْأَخْدَانُ بِمَا أَمَرْتُمْ بِهِ اَوْ فُوا فعل امر واو ضمیر قاعل الکیل وَالْمِيزَانَ معطوف علیہ با معطوف مفول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَبْخَسُوا فعل نمی واو ضمیر قاعل النَّاسِ مفول بہ اول اشیاءَهُمْ مرکب اضافی مفول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفول بہ جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا تُفْسِدُوا فعل نمی واو ضمیر قاعل فی الْأَرْضِ جدا با مجرور متعلق ہوئے بَعْدَ إِصْلَاحِهَا مرکب اضافی مفول فیہ، فعل باقاعل و متعلق و مفول فیہ جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط محذوف جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو۔

ذَلِكُمْ اسم اشارہ مبتدئ، خَيْرٌ اسم تفضیل ہو مستتر قاعل لَكُمْ جدا با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر، مبتدئ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔ اِن حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم مؤمنین اسم قاعل اَنْتُمْ ضمیر قاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے فَيَا قَوْمِ وَالْإِنِّیْ اِنْ شَاءَ اللَّهُ مَرسل، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا

عِوَجًا ۗ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثُرْتُكُمْ ۗ سَوَّانُظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۶﴾

آیت نمبر ۸۶: وَاوَّاعِلًا لَا تَقْعُدُوا فعل نمی واو ضمیر ذوالحال بناء جدا ہا کل صِرَاطٍ مرکب اضافی مجرور، دونوں مل کر متعلق ہوئے تُوْعِدُونَ فعل وَاوَّاعِلًا قاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَصُدُّونَ فعل وَاوَّاعِلًا قاعل عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جدا با مجرور متعلق ہوئے مِّنْ مَّوْصِلًا مِّنْ فَعْلٍ ہو مستتر قاعل پہ جا رہا مجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ مفول بہ تَصُدُّونَ فعل با قاعل و متعلق و مفول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ تَبْغُونَ فعل وَاوَّاعِلًا قاعل ہا ضمیر منصوب بزج الحاق فعل اس کی اصل فیہا ہے متعلق ہوئے عِوَجًا مفول بہ، چاروں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین حال، ذوالحال باصلہ قاعل، فعل نمی باقاعل و متعلق جملہ انشائیہ خبریہ معطوف ہو۔

واو عاطف اذْ كُرُوْا فاعل امر واو ضمیر قائل اذْ طرف زمان مضاف كُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اسم قَلِيْلًا خبر، فعل ناقص با اسم  
و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ فَعَا عاطف كُرُوْا فاعل هو مستتر قائل كُرُوْا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف معطوف علیہ  
با معطوف اذْ کامضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اذْ كُرُوْا کامفعول فیہ، فعل با قائل ومفعول فیہ جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ،  
واو عاطف اَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ کی ترکیب اَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ پر قیاس کر لو دیکھیں آیت نمبر ۸۳  
اور یہ معطوف ہے معطوف علیہ با معطوف جملہ لا تَقْعُدُوْا پر معطوف ہے۔

وَ اِنْ كَانَ كَاطِفَةً مِنْكُمْ اَمْنُوا بِالَّذِيْ اَرْسَلْتُمْ بِهِ وَ كَاطِفَةٌ لَّمْ يُوْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى  
يُحْكَمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

آیت نمبر ۸۷: اِنْ اَوْ اِسْتَبْرٰ اِنْ شرطیہ کان فعل ناقص كَاطِفَةً موصوفہ جنكُم طرف مستتر كَاطِفَةً کے متعلق ہو کر صفت  
موصوفہ ہفتگان کا اسم اَمْنُوا فاعل امر واو ضمیر قائل بآء جامعہ الذی اسم موصول اَرْسَلْتُمْ فعل مجہول بآء مضمومہ تہم فاعل پہلے پہل  
مجروح متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مجروح، جہاں مجروح اَمْنُوا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ کان کی  
خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، واو عاطف كَاطِفَةً یہ کان کے اسم پر معطوف ہے لَمْ يُوْمِنُوْا یہ کان کی خبر پر معطوف  
ہے فَعَا جزائیہ اَصْبِرُوْا فاعل امر واو ضمیر قائل حَتّٰى حرف غایت و جزا اس کے بعد اَنْ حَقْدَرِ یہ یُحْكَمُ فعل لفظ اللّٰہ فاعل بَيْنَنَا مرکب  
اضافی مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ بتداول مصدر مجروح، جہاں مجروح متعلق ہوئے، فعل امر با قائل و متعلق جملہ  
انشائیہ امریہ جزا، شرط با جزا، جملہ شرطیہ ہو لو واو عالیہ یا استثنیہ ہو ضمیر مبتدأ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ  
خبریہ لفظ اللّٰہ سے حال ہے جملہ متانفہ ہو۔

بِحَمْدِهِ تَعَالٰى ۲۶ شعبان ۱۴۳۷ھ کو پارہ ۹ کی ترکیب لکھا شروع کی ہے

قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰ شُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ  
قَوْمِنَا اَوْ لَنَعُوْدَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا قَالَ اَوْ لَوْ كُنَّا كَرِهِيْنَ ۝

آیت نمبر ۸۸: قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ کی ترکیب آیت نمبر ۷۵ میں دیکھیے اور یہ قول ہے لآہ موطئ  
القسم اور قسم مخدوف ہے نُخْرِجَنَّ فعل لَنْحْن مستتر قائل کا ضمیر معطوف علیہ واو عاطف الَّذِيْنَ اسم موصول اَمْنُوا فاعل امر واو ضمیر  
فاعل مَعَكَ مرکب اضافی مفعول فیہ سے مل کر صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ مِنْ قَوْمِنَا جہاں مجروح متعلق  
ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب قسم معطوف علیہ واو عاطف لآہ موطئ القسم اور قسم  
مخدوف ہے لَنَعُوْدَنَّ فعل واو مخدوف لَ التلقائے الساکنین قائل فی مِلَّتِنَا جہاں مجروح متعلق ہوئے، تینوں مل کر جواب قسم، قسم با جواب قسم  
معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب عداء مقدم، يٰ شُعَيْبُ جملہ انشائیہ تعابیہ ہو کر عداء مؤخر، عداء با جواب عداء معقول، قول با معقول جملہ  
فعلیہ خبریہ متانفہ ہو لو قَالَ فعل هو مستتر قائل سے مل کر قول، هَمْزًا حرف استنہاد واو اعتراضیہ (رند ہب رضی) لَوْ شرطیہ كُنَّا فعل



ناقصًا ضمیر اسم کا رہیں اسم فاعل نَحْنُ مستقر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء محذوف ہے نَعُوذُ، شرط با جزاء متولہ، قول با متولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا اللَّهُ مِيثَاقًا بِنُوحٍ إِذْ يَنْصُرُكُمْ مِنْهُ وَمَا يُكُونَ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا بِرَبِّنَا افْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰:** قد علامت فعل افترینا فعل ناقص ضمیر فاعل علی اللہ طرف لغو ہو کر متعلق ہوئے کذباً مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو، ان شریہ عُدْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل فی مِلَّتِكُمْ طرف لغو ہو کر متعلق ہوئے، بَعْدَ مضاف إذ طرف زمان مضاف لَیْ فاعل ناقص ضمیر مفعول بہ لفظاً اللہ فاعل مِثَاقًا جدا با مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر اِذْ، کما مضیاف الیہ، مضاف با مضیاف الیہ بَعْدَ کا مضیاف الیہ، مضاف با مضیاف الیہ عُدْنَا کا مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جزاء محذوف ہے فَقَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

واو اشیائیہ مانا یہ نیکون فعل ناقص لَنَا طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم ان حرف مصدری و نصب نَعُوذُ فعل نَحْنُ مستقر فاعل فیہا متعلق ہوئے، الْأَحْرَفِ اسْتَمَلْنَا أَنْ حرف مصدری و نصب یَشَاءُ فعل اللہ مبدل من رَبِّنَا مرکب اضافی بدل، مبدل منہ بدل فاعل، فعل با فاعل بتولید مصدر وَقَدْ محذوف مضاف کا مضیاف الیہ، مضاف الیہ مَشْتَقًّی مفرغ ہو کر مفعول فیہ نَعُوذُ کا فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ بتولید مصدر اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

وسیع فعل رَبِّنَا مرکب اضافی فاعل کُلُّ شَیْءٍ مرکب اضافی مفعول بہ جملتاً تَمِیز، فعل با فاعل و مفعول بہ و تَمِیز جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو۔ عَلَی اللہ طرف لغو ہو کر متعلق مقدم تَوَكَّلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ رَبِّنَا کی اصل میں نَا رَبِّنَا ہے اور یہ عدم ہے افْتَحَ فعل امر اَنْتَ مستقر ذوالحال واو عالی اَنْتَ مبتداء خَيْرُ الْفَاتِحِينَ مرکب اضافی خبر، مبتداء با خبر حال، ذوالحال با حال فاعل بَيْنَنَا مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ بَيْنَ قَوْمِنَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول فیہ بِالْحَقِّ طرف لغو ہو کر متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ اشیائیہ جواب عدم، عدم با جواب عدم جملہ اشیائیہ عدمیہ ہو۔

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنَّكُمْ شُعْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰:** ۱۰ واو اشیائیہ نہ، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اس کی ترکیب آیت نمبر ۶۶ میں دیکھیں، اور یہ قول ہے لاکر موطر القم ان حرف شرط اَنْتَعَمْتُ فعل ضمیر فاعل شُعْبًا مفعول بہ، تَمِیز مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط بیان حرف تحقیق کُمْ ضمیر اس کا اسم اذا حرف جزاء و جواب مہمل، لاکر موطر قَوْمِهِ اس کا فاعل اَنْتُمْ ضمیر فاعل سے مل کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم ہے اور شرط کی جزاء محذوف ہے۔

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثِيمِينَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: فاء عاطفہ اخذتہم الرجفة فأصبحوا فی دارہم جثیمین کی ترکیب آیت نمبر ۷۸ میں دیکھیں۔

الذِّينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَخْتَوُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: الذین اسم موصول کذبوا الفعل والا ضمیر فاعل شعيبًا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصولہ باصلہ مبتدأ مکان مخفف من الشغل ضمیر شان اس کا اسم کذبوا یختموا فعل والا ضمیر فاعل فیہا جادہ باجزر متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ کذبوا خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں الذین کذبوا شعيبًا موصول باصلہ مبتدأ کذبوا فعل والا ضمیر اس کا اسم ہم الخاسرین خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

فَقَتَلُوا عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِي رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَأُ

عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۲۱: فاء عاطفہ قتلوا عنهم وقال یاقوم لقد ابلاغتکم رسانی ربی و نصحت لکم کی ترکیب آیت نمبر ۷۹ میں دیکھیں۔ فاء استثنیہ کیفیہ ظرف ران کا کائنات کا مفعول فیہ ہو کر اسی کی ضمیر فاعل کا مل مقدم ہے اسی فعل انا مستتر فاعل علی جادہ قوم موصوف کافرین اسم فاعل ہم مستتر فاعل سے مل کر صفت موصوف با صفت مجرور، جادہ باجزر و اسی کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ استثنیہ استقبالیہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۱۳ ﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّ عُونًا ﴿۲۲﴾

آیت نمبر ۲۲: واؤ استثنیہ فیہ مانا فیہ ارسلنا فعل تا ضمیر فاعل فی قریۃ جادہ باجزر متعلق ہوئے، ہون جادہ نامہ نبیؑ علیٰ منسوب مفعول بہ الراح استثناء اخذنا فعل تا ضمیر فاعل اهلہا مرکب اضافی مفعول بہ جادہ البأساء والضراء معطوف علیہ با معطوف مجرور، جادہ باجزر اخذنا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مستثنیٰ مفرغ حال ہے اور مستثنیٰ منہ مفرغ ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں لعل حرف ترمی ہم ضمیر اس کا اسم یضرو عون فعل والا ضمیر فاعل سے مل کر خبر لعل با اسم و خبریہ استثنیٰ کی دلیل میں ہو کر اهلہا ہے حال ہے

ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَ

السَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: ثم عاطفہ بدلنا فعل تا ضمیر فاعل مکان السیئۃ مرکب اضافی مفعول بہ اول الحسنۃ مفعول بہ ثانی، حتیٰ حرف

غایت و جرحاً فعل واو ضمیر قائل سے مل کر معطوف علیہ ہوا و عاقل قائل فعل واو ضمیر قائل سے مل کر قول مَعَدَّ عَلَامَاتِ فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ اِبَاءً تَا مَرْكِبِ اِنْسَانِي مفعول بہ مقدم اَلْفَصْرُ اَمَّ وَالسِّرَّةُ اَمَّ و معطوف علیہ یا معطوف قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ معطوف اهل عاقل ماعقل اخذنا فعل تا ضمیر قائل هُمْ ضمیر ذوالاجل ہوا و حالیہ هُمْ ضمیر مبتدا ہلا يَطْعُونُ فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ مَعَدَّ عَلَامَاتِ فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ اِبَاءً تَا مَرْكِبِ اِنْسَانِي خبریہ حال، ذوالاجل باحال مفعول بہ بِتَفْتِيَةٍ بِوَاسِطَةِ موصوف محذوف اخذنا کے مفعول مطلق ہوا، فعل یا قائل مفعول بہ و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی معطوف علیہ یا معطوفین بتول مصدر مجرور، جہاں مجرور بدل لئنا کے متعلق ہوئے، فعل یا قائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقَرْيَةِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِن كَذَّبُوْا فَاخَذْنَا مِنْهُم بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۹۶:** او ایستیغیر لوشرطیہ آن حرف تحقیق اهل القرى مرکب انسانی اسم اَمَنُوا فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ مَعَدَّ عَلَامَاتِ فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ اِبَاءً تَا مَرْكِبِ اِنْسَانِي خبریہ ہو کر بتول مفرد فعل محذوف بَيِّنَاتٍ کا قائل ہوا، فعل یا قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لام جوابیہ فَتَحْنَا فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ مَعَدَّ عَلَامَاتِ فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ اِبَاءً تَا مَرْكِبِ اِنْسَانِي خبریہ متعلق ہوئے بَرَكَاتٍ موصوف ہوا السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ مفعول علیہ یا معطوف مجرور، جہاں مجرور طرف مستقر كَانُوْا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت فَتَحْنَا کا مفعول بہ، فعل یا قائل و متعلق بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط ہوا جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔ و او حالیہ لَٰكِن حرف استدراک مہملہ كَذَّبُوْا فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ مَعَدَّ عَلَامَاتِ فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ اِبَاءً تَا مَرْكِبِ اِنْسَانِي خبریہ خبریہ معطوف علیہ عاقل اخذنا فعل تا ضمیر قائل هُمْ ضمیر ذوالاجل ہوا و حالیہ هُمْ ضمیر مبتدا ہلا يَطْعُونُ فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ مَعَدَّ عَلَامَاتِ فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ اِبَاءً تَا مَرْكِبِ اِنْسَانِي خبریہ خبریہ متعلق ہوئے، فعل یا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف فَتَحْنَا کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

اَقَامِن اَهْلَ الْقَرْيَةِ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بِاَسْنٰتِ بَيِّنَاتٍ وَ هُمْ نٰلِيْمُوْنَ ۝ اَوْ اٰمِن اَهْلَ الْقَرْيَةِ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بِاَسْنٰتِ ضَعِيٍّ وَ هُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۹۸، ۹۷:** ہمزه حرف استفہام عاقل ماعقل اس کا عطف ہے اخذنا هُمْ بِتَفْتِيَةٍ اَمِن فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ مَعَدَّ عَلَامَاتِ فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ اِبَاءً تَا مَرْكِبِ اِنْسَانِي خبریہ ہو کر بتول مفرد فعل محذوف بَيِّنَاتٍ کا قائل ہوا، فعل یا قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لام جوابیہ فَتَحْنَا فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ مَعَدَّ عَلَامَاتِ فِعْلٍ مَسَّ فِعْلٍ اِبَاءً تَا مَرْكِبِ اِنْسَانِي خبریہ خبریہ متعلق ہوئے، فعل یا قائل و مفعول بہ بتول مصدر اَمِن کا مفعول بہ، فعل یا قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، او عاقل اَمِن اَهْلَ الْقَرْيَةِ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بِاَسْنٰتِ ضَعِيٍّ وَ هُمْ يَلْعَبُوْنَ کی ترکیب

اوپر والی آیت کی طرح ہے اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہوں۔

اَقَامِنُوْا مَكَرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يٰمِنُ مَكَرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۹۹:** ہمزہ حرف استفہام فقاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَمْ یُؤْمِنُوا (ان فقیر) آمِنُوا فعل واو ضمیر قائل  
مکرو اللہ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ معطوف ہے فقاء استثنائی لا یأمن فعل مکرو اللہ مرکب اضافی مفعول بہ،  
الآ حرف استثناء القوم الخیسون مرکب توصیفی قائل، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۱۳ ﴾

**أَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ  
وَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْعُونَ ﴿۱۰۰﴾**

**آیت نمبر ۱۰۰:** ہمزہ حرف استفہام واو عاطفہ لَمْ یَهْدِ فعل لآمر جارہ الذین اسم موصول یَرْتُونَ فعل واو ضمیر قائل الأرض  
مفعول بہ من جارہ بَعْدِ أَهْلِهَا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول  
باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، ان مخفف من الشکل ضمیر شان مقدرا اسم لَوْ شرطیہ نَشَاءُ فعل نَحْنُ مستتر قائل سے ل کر شرطاً أَصْبَنَا  
فعل نا ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ بِذُنُوبِهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء شرط  
با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر لَمْ یَهْدِ کا قائل، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوفہ ہوں واو  
استثنائیہ نَطْبَعُ فعل نَحْنُ مستتر قائل علی حرف جر قُلُوبِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر معطوف علیہ فقاء عاطفہ  
هُم ضمیر مبتدأ اَلَّذِينَ یَسْعُونَ فعل باواو ضمیر قائل خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

**تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۚ وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا  
لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۱﴾**

**آیت نمبر ۱۰۱:** اِتْلَکَ الْقُرَى مرکب توصیفی مبتدأ نَقُصُّ فعل نَحْنُ مستتر قائل عَلَیْکَ جار مجرور متعلق اول ہوئے، من جارہ  
اَنْبِآءِهَا مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ  
ہوں واو استثنائیہ لآمر موطئ لقمہ قَدْ علامت فعل جَاءَتْ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ رُسُلُهُمْ مرکب اضافی قائل بِالْبَيِّنَاتِ جار مجرور متعلق  
ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

فقاء عاطفہ مَا نَا فی کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم لآمر حمیہ اس کے بعد ان مقدر ہے لِيُؤْمِنُوا فعل واو ضمیر قائل تاکہ حرف جر  
مَا موصول کَذَّبُوا فعل واو ضمیر قائل من قَبْلِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق بتاییل مصدر مجرور، جار مجرور کا کَائِدِينَ کے  
متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں کَذَّبَتْکَ طرف مستتر کَائِدَاتِ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف کَبَعًا  
کے مفعول مطلق مقدم ہوئے نَطْبَعُ فعل لفظاً اللہ قائل علی جارہ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل  
با قائل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

**وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۚ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿۱۰۲﴾**

**آیت نمبر ۰۳** وَاَوْسَرْتُمْ سَعَابِي وَعَدَّ عَلْمًا غَيْرًا لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳﴾  
 اور ہے جن چاہے نام نہ عقیدہ فلا منسوب منقول ہے، فعل بااقل و متعلق و منقول بہ جمل فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ ان متعلق سن  
 اشط ضمیر شئن مقدم اس کا اسم جہذا فعل نا ضمیر فاعل اکثر کھڑ مرکب انسانی منقول بہ اول الامر ہارتہ فکیقین منقول بہ  
 جمل فعل بااقل و منقولین جمل فعلیہ خبریہ معطوف معطوف علیہ با معطوف جمل مستتر ہوں

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ هَلَاكِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ  
 كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۴﴾

**آیت نمبر ۰۳** ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ هَلَاكِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ  
 ذوالحال متعلق، ذوالحال باحال منقول ہے، یا ایاتنا جملہ باجرور متعلق اول ہے علیٰ ہدیٰ عَوْن معطوف علیہ واو عاطفہ ہَلَاكِهِ معطوف، معطوف  
 علیہ با معطوف، جرور ہدیٰ باجرور متعلق ثانی ہے، فعل بااقل و منقول بہ دو متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ فاعل ظلموا کلمتوا فعل  
 واو ضمیر فاعل یقینا باجرور متعلق ہوتے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف  
 ہوں فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ کی ترکیب آخروں پر سے کے آخر میں دیکھیں۔

وَ قَالَ مُوسَىٰ لِيُفِرُّ عَوْنُ اِيٍّ رَسُوْلٍ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۵﴾

**آیت نمبر ۰۳** وَاَوْسَرْتُمْ سَعَابِي وَعَدَّ عَلْمًا غَيْرًا لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳﴾  
 رَسُوْلٍ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ طرف مستقر کا تعلق ہو کر صفت، موصوف بہفت خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ  
 جواب ہوا، وہاں جواب نامہ متعلق، قول با متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہوں۔

حَقِيْقِيْ عَلَىٰ اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلَىٰ اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنٰتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ فَارْسِلْ  
 مَرْسِيْنَ بَيْنِيْ وَ اٰرِيْلَ ﴿۶﴾

**آیت نمبر ۰۵** حَقِيْقِيْ مِيْن صفت ہو مستتر فاعل علی حرف جہاں حرف مصدری و حسب لا اقول انما مستتر فاعل علی اللہ  
 جملہ باجرور متعلق ہوتے، اَلْحَقُّ اسئلہ الحقیقیہ بواسطہ موصوف مذکور اَقُوْلُ کے منقول مطلق، فعل بااقل و متعلق و منقول مطلق  
 جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر جرور، جملہ باجرور متعلق ہوتے، صیغہ صفت بااقل و متعلق خبر جہاں کا جو مبتدہ ائمہ ہوتے، جملہ باجرور جملہ  
 اسمیہ خبریہ ہوں۔

قَدْ عَلِمَات لَمَل سَجِيْتٌ فاعل کلمہ ضمیر منقول ہے تاکہ ہاںہ بَيِّنٰتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ طرف مستقر کا تعلق کے  
 متعلق ہو کر صفت، موصوف بہفت جرور، جملہ باجرور متعلق ہوتے، فعل بااقل و منقول بہ دو متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ رسول کی صفت ثانیہ  
 ہے فاعل ضمیر ہواں کی شرط مذکور ہے، اَلْمَرْسِيْنَ فاعل امر آت مستتر فاعل متعلق مرکب انسانی منقول ہے لیتھا  
 اِسْرَآءِيْلَ مرکب اضافی منقول ہے، فعل بااقل و منقولین جملہ اضافیہ ہر یہ جزا، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۰۱:** قَالَ فعل ہو مستقر قائل سے مل کر قول اِنْ كُنْتَ فعل ناقص قائم مفتوح اسم جِئْتَ فعل ناقص قائم مفتوح قائل بِآيَةٍ جہد باجمر و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ فَاذًا جزائیہ اَلَّتِ فعل امر اَلَّتِ مستقر قائل پہا جہد باجمر و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ اِنْ كُنْتَ حرف شرط کُنْتَ فعل ناقص قائم مفتوح اس کا اسم ہون الصّٰدِقِيْنَ جہد باجمر و کائِنَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہوا اور جزاء مخدوف ہے قَاتِ بِهَا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

**فَأَلْفِ عَصَاةً فَإِذَا هِيَ تَعْبَانُ مُبِينٌ ۝**

**آیت نمبر ۱۰۲:** فَأَلْفِ عَصَاةً اَلْفِ فعل ہو مستقر قائل عَصَاةً مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ عَصَاةً عطفہ ادا کا مناجاتیہ مہملہ ہے ضمیر مبتدأ تَعْبَانُ مُبِينٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔

**وَنَزَعِيْدَةٌ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءٌ لِلْمَنْظُرِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۰۸:** وَ نَزَعِيْدَةٌ اِنْوَاو عطفہ نَزَعِيْدَةٌ فعل ہو مستقر قائل يَكُوْنُ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ عَصَاةً عطفہ ادا کا مناجاتیہ مہملہ ہے ضمیر مبتدأ بِيْضَاءٌ موصوف لِلْمَنْظُرِيْنَ ظرف مستقر کائِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدأ با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔

﴿ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۱۳ ﴾

**قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلَيْنَا ۝ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ**

**أَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝**

**آیت نمبر ۱۰۹:** قَالَ لَمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلَيْنَا کے متعلق ہو کر مال، ذوالحال با حال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول اِنْ كُنْتَ حرف تحقيق هَذَا اس کا اسم لاهر مذ حلقہ سِحْرٌ موصوف عَلَيْنَا صيغه صفت ہو مستقر قائل سے مل کر صفت اولیٰ، يُرِيدُ فعل ہو مستقر قائل اَنْ حرف مصدری و نصب يُخْرِجُ فعل ہو مستقر قائل كُمْ ضمیر مفعول بہ مِنْ أَرْضِكُمْ جہد باجمر و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق بتاویل مصدر يُرِيدُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف با صغیر اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فَاذًا عطفہ صا استفہاسیہ مبتدأ، کا محسن الَّذِي اِسْم موصول تَأْمُرُونَ فعل وَاو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ استفہاسیہ ہوا۔

**قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝**



**آیت نمبر ۱۲۱:** قَالَ لَنْ مَسْتَرِفًا نَالٍ سے ل کر قول، الْقَوَا نَالٍ امر و ضمیر نال سے ل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوئے۔ قَاءَ استیعری لَمَّا متضمن سنی شرط مفعول فی مقدم الْقَوَا نَالٍ و ضمیر نال سے ل کر شرط مَسْتَرِفًا نَالٍ امر و ضمیر نال عَلَوْنَ النَّاسِ مرکب انشائی مفعول بہ، نال یا نال و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ واو عاطفہ نَالُوا هَبُوا نَالٍ امر و ضمیر نال هَبُوا ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول اول واو عاطفہ جَاءُوا نَالٍ امر و ضمیر نال بَاءَ جلد ہی مَعْنَى عَظِيمٍ مرکب تواسنی مجرور، دونوں ل کر متعلق ہوئے، نال یا نال و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفعول جملی مفعول علیہ یا مفعولین جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَ اَوْ حَيْنًا اِلَى مُوسَى اَنْ اَلْتِي عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿۱۲۱﴾ فَوْقَ الْحَقِّ وَ بَطْلًا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۲﴾

**آیت نمبر ۱۲۲:** اَو حَيْنًا اِلَى مُوسَى جلد ہی مجرور متعلق ہوئے اَنْ حرف مصدری نصب اَلْتِي نال امر اَلْتِي مستتر نال عَصَاكَ مرکب انشائی مفعول بہ، نال یا نال و مفعول بہ بتدریج مصدر اَوْ حَيْنًا کا مفعول بہ پکاروں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوئے۔ قَاءَ عاطفہ مفعول علیہ مَدْرُوفٍ سِبْطًا لَهَا اِنَّا مَخَافَتِي هِيَ ضَمِيرٌ مُبْتَدَأٌ تَلْقَفُ نَالٍ مَسْتَرِفًا نَالٍ مَآ موصولہ يَأْفِكُونَ نَالٍ امر و ضمیر نال، نالوں ل کر صلہ موصولہ یا صلہ مفعول بہ، تینوں ل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسبب خبریہ مفعول بہ عَصَا عاطفہ وَقَعَ نَالٍ الْحَقِّ نَالٍ، دونوں سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ واو عاطفہ بَطْلًا نَالٍ مَآ موصولہ كَانُوا نَالٍ امر و ضمیر نال کا اسم بَيِّنَاتٍ نَالٍ امر و ضمیر نال سے ل کر خبر، نال یا نال مَآ موصولہ یا صلہ بَطْلًا نَالٍ مَآ موصولہ مفعول جملی مفعول علیہ یا مفعولین جملہ مفعول اول۔

فَعَبُّنَا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوا صَاحِرِينَ ﴿۱۲۳﴾ وَ اَلْتِي السَّحَرَةَ سَاجِدِينَ ﴿۱۲۴﴾

**آیت نمبر ۱۲۳:** قَاءَ عاطفہ عَلِيمًا نَالٍ مجہول امر و ضمیر تائب نال هُنَالِكَ ظرف مکان مفعول فیہ، نال مجہول پہنچ نال و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ واو عاطفہ انْقَلَبُوا نَالٍ امر و ضمیر ذوالکمال صَاحِرِينَ حال ذوالکمال یا نال نال، دونوں ل کر مفعول اول، واو عاطفہ اَلْتِي نَالٍ مجہول السَّحَرَةَ ذوالکمال سَاجِدِينَ حال ذوالکمال یا نال تائب نال، دونوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول جملی مفعول علیہ یا مفعولین جملہ مفعول اول۔

قَالُوا اَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۵﴾ رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ ﴿۱۲۶﴾

**آیت نمبر ۱۲۵:** قَالُوا نَالٍ امر و ضمیر نال سے ل کر قول اَمَّا نَالٍ امر و ضمیر نال بَاءَ جلد ہی رَبِّ الْعَالَمِينَ مرکب انشائی موصوف رب مضاف مؤنسی و هَارُونَ مفعول علیہ یا مفعول مضاف فیہ، مرکب انشائی مضاف علیہ موصوف باضمت مجرور، جلد ہی مجرور اَمَّا نَالٍ متعلق ہوئے، نال یا نال و متعلق مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوں۔

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَدْنَا لَكُمْ ۚ اِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرُومَةٌ فِي الْمَدِينَةِ



**لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۵۳﴾**

**آیت نمبر ۵۳:** فَكَلَّمْنَا فِرْعَوْنَ فَاعْلَمَ لعل کر قول ہوا مَا عَلَّمْتُمُ لعل ثُمَّ ضمیر اولیٰ بہید باجر و متعلق ہوئے تَعْلَمُونَ متعلق آن حرف مصدری و نصب اَنْ لعل انا مستتر قائل لَكُمْ جہد باجر و طرف لعل متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق بتوکل مصدر متعلق الیہ، متعلق با مضارع مفعول الیہ مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔  
 اِنْ حرف تفتیح هَذَا ام اشدہ ام لا مرئیہ مَعْلَمٌ مَوْسُوْفٌ مَعْلَمٌ مَعْلَمٌ ضمیر قائل ضمیر مفعول بہ بی التَّوْبَةِ مَعْلَمٌ باجر و متعلق اول ہوئے لا مرئیہ تعلیہ اس کے بعد اَنْ مقدر ہے لُتُخْرِجُوا لعل والا ضمیر قائل بیٹھا جہد باجر و طرف لعل ہو کر متعلق ہوئے، اَهْلَهَا مَرْکَبٌ اِنْسَانِیٌّ مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق بہ بتوکل مصدر باجر و جہد باجر و مَعْلَمٌ مَعْلَمٌ کے متعلق بنائی ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق مَعْلَمٌ مَعْلَمٌ مفت مَوْسُوْفٌ ہفت خبر اِنْ با ام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلق ہوا لِسَاءِ فِیہ اور شرط محذوف ہے اِنْ فَعَلْتُمْ مَوْسُوْفٌ طاعت لعل تَعْلَمُونَ لعل بلا ضمیر قائل جزاء، شرط محذوف جزاء، جملہ شرطیہ ہو۔

**لَا قِطْعَنَ اَيْدِيكُمْ وَاَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلْبَيْتُكُمْ اَجْمَعِينَ ﴿۵۴﴾**

**آیت نمبر ۵۴:** اَلَا مَرْسُوْمٌ لِقِمْ اَوْ حِمٌّ مَحْذُوْفٌ لعل انا مستتر قائل اَيْدِيكُمْ مَرْکَبٌ اِنْسَانِیٌّ مَعْلُوْفٌ علیہ واؤ ماخذ اَوْ جُلُومٌ مَرْکَبٌ اِنْسَانِیٌّ مَعْلُوْفٌ علیہ مَعْلُوْفٌ مفعول بہ مِنْ خِلَافٍ جہد باجر و متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم قسم با جواب قسم مَعْلُوْفٌ علیہ مَعْلُوْفٌ مَوْسُوْفٌ لِقِمْ اَوْ حِمٌّ مَحْذُوْفٌ ہے اَصْلَيْتُكُمْ لعل انا مستتر قائل لَكُمْ ضمیر مَوْکَدٌ اَجْمَعِيْنَ تاکیدیہ، مَوْکَدٌ تاکیدیہ مفعول بہ، تَمِيْلٌ مَرْکَبٌ جَمٌّ، جَمٌّ با جواب قسم قسم، جَمٌّ با جواب قسم مَعْلُوْفٌ، مَعْلُوْفٌ علیہ مَعْلُوْفٌ جملہ متعلقہ ہو۔

**قَالُوا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۵۵﴾**

**آیت نمبر ۵۵:** قَالُوا اَنْ لعل والا ضمیر قائل سے ل کر قول اِنَّ حرف تفتیح اَنْ ضمیر اس کا اسمی و رَبِّنَا ظرف لعل ہو کر متعلق مقدم مُنْقَلِبُونَ ام قائل لَعْنٌ مستتر قائل و متعلق مقدم سے ل کر خبر اِنْ با ام و خبر مقولہ قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔  
 وَ مَا تَنْقِمْ مِّنَّا اِلَّا اَنْ اَمْنًا بِاَيْتٍ رَبِّنَا اَفْرَغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَاَوْ تَوْفَنَّا

**مُسْتَلِمِينَ ﴿۵۶﴾**

**آیت نمبر ۵۶:** اَوْ مَا خَلَّفْتُمَا مِنْ تَقِيْمٌ لعل اَنْتَ مستتر قائل و نجا جہد باجر و متعلق ہوئے والا حرف استنساخ آن حرف مصدری و نصب اَمَّا لعل انا ضمیر قائل اَيْدِيكُمْ رَبِّنَا جہد باجر و متعلق ہوئے عَلَيْنَا ظرف زمان متعلق جاؤت لعل ہی مستتر قائل انا ضمیر مفعول بہ، تَمِيْلٌ مَرْکَبٌ جَمٌّ با جواب قسم الیہ مضارع مفعول الیہ مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول لہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ قول پر رَبِّنَا اَمْلٌ سَمٌّ اَوْ رَبِّنَا ہے اور یہ نہاد ہے اَفْرَغْ لعل امر اَنْتَ مستتر قائل عَلَيْنَا ظرف لعل ہو کر متعلق ہوئے صَبْرًا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ اشارتیہ

معطوف علیہ، واو عاطفہ کوئی فعل امر آتے مستتر قائل کا ضمیر ذوالحال حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ، معطوف، عوام کا جواب، عوام با جواب، عوام جملہ انشائیہ نہایتیہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۱۵ ﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ  
الْهَيْكَلِ ۚ قَالَ سَنَقْبِتُنَّ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۷﴾

آیت نمبر ۷: واو استغنیہ قائل فعل الملأ ذوالحال من جہاد قَوْمِ فِرْعَوْنَ مرکب انشائی مجرور، دونوں مل کر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمیزہ استغنیہ تَدْرُ فعل آتے مستتر قائل مُوسَىٰ معطوف علیہ، واو عاطفہ قَوْمَهُ مرکب انشائی معطوف، دونوں مل کر مفعول بہ لاکر حرف جہد رائے تلیل اور اس کے بعد اَن مقدم ہے یُفْسِدُوا فعل واو ضمیر قائل فی الْأَرْضِ مجرور متعلق، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَذَرَ فعل ہو مستتر قائل کا ضمیر مفعول بہ واو بمعنی مَعَ الْهَيْكَلِ مرکب انشائی مفعول معہ، فعل با قائل و مفعولین معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاولی مصدر لاکر مجرور، جہاد مجرور تَدْرُ کے متعلق، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قَالَ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر قول سیدین علامت فعل نَقْبِتُنَّ فعل نَحْنُ مستتر قائل اَبْنَاءَهُمْ مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ نَسْتَحْيِي فعل نَحْنُ مستتر قائل نِسَاءَهُمْ مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو عالیہ اِن حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم فَوْقَهُمْ مرکب انشائی مفعول بہ مقدم فَوْقَهُمْ اسم قائل با نَحْنُ مستتر قائل و مفعول بہ مقدم خبر اِن با اسم خبر نَقْبِتُنَّ کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّذِينَ يُؤْتِرُهَا مِنْ يَشَاءُ  
مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸﴾

آیت نمبر ۸: قَالَ فعل مُوسَىٰ قائل لاکر جہاد قَوْمِهِ مرکب انشائی مجرور، جہاد مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول اسْتَعِينُوا فعل واو ضمیر قائل بِاللَّهِ جہاد مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اصْبِرُوا فعل واو ضمیر قائل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِن حرف مشبہ بالفعل الْأَرْضِ اس کا اسم لِلَّذِينَ طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر اول یُؤْتِرُ فعل ہو مستتر قائل ہَا ضمیر مفعول بہ، اول، مَن اسم موصول يَشَاءُ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر صلہ موصول ہاسلہ ذوالحال من جہاد عِبَادِهِ مرکب انشائی مجرور، جہاد مجرور طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثانی اِن با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

واو استغنیہ الْعَاقِبَةُ مبتدأ الْمُتَّقِينَ طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۗ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ

**عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾**

**آیت نمبر ۱۹:** قَالُوا لَنْ نَدْرِي مَا نَصِيرُ قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ماؤذیننا فعل مجہول نا ضمیر نائب فاعل من جارہ قبلی مضارع حرف مصدری ونسب کا ٹی فعل اَنْتَ مستتر قائل نا ضمیر مفعول بہ، تیوں مل کر بتاویں مصدر مضارع علیہ، مضاف بمضارع علیہ مجرور، جار مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ من جارہ یعنی مضاف ما مصدریہ چُتُّت فعل تاکد مفتوحہ ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، تیوں مل کر بتاویں مصدر مضارع علیہ، مضاف بمضارع علیہ مجرور، جار مجرور معطوف، معطوف علیہ بمعطوف ظرف لغو اؤذیننا کے متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالَ لَنْ نَدْرِي مَا نَصِيرُ قائل سے مل کر قول عَصَى فعل مقاب رَبُّكُمْ مرکب انشائی اس کا اسم ان حرف مصدری ونسب یُفْلِكُ فعل ہو مستتر قائل عَدُوْكُمْ مرکب انشائی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویں مصدر خبر، فعل مقاب با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائی مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

واو عاطفہ یَسْتَخْلِفُ فعل ہو مستتر قائل کُمْ ضمیر مفعول بہ فی الارض جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ یُفْلِكُ پر معطوف ہے قاء عاطفہ یَنْظُرُ فعل ہو مستتر قائل کَيْفَ ظرف زمان کا لیتا کا مفعول فیہ ہو کر بواسطہ موصوف منصرف علما کے مفعول مطلق مقدم یَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر فاعل و مفعول مطلق مقدم جملہ انشائیہ یَنْظُرُ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ یُفْلِكُ پر معطوف ہے۔

﴿۱۹﴾ رکوع نمبر ۱۹

**وَلَقَدْ اخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَدْرِكُونَ ﴿۲۰﴾**

**آیت نمبر ۲۰:** اَوَاوِسْتَانِیَ لَآهَر مَوْطِ الْقِسْمِ اور قسم منصرف ہے اخذنا فعل نا ضمیر فاعل آل فِرْعَوْنَ مرکب انشائی مفعول بہ بتام جارہ السِّنِينَ معطوف علیہ، واو عاطفہ نَقَصْ مصدر من الشَّجَرِ ظرف لغو متعلق ہوئے، مصدر با متعلق معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مجرور، جار مجرور ظرف لغو اخذنا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو لَعَلَّ حرف مشبہ بالفعل هُمْ ضمیر اس کا اسم یَدْرِكُونَ فعل واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ راجعی الشَّجَرِ کی بتاویں مل ہو کر اخذنا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

فَاذْجَأَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ج وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَحَنَمَعَةٍ ۗ اَلَا لِنَمَّا ظَلَمْنَاهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ اَكْتَرْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۱:** اَفَاءَ عَاتِقًا شَرِيه مفعول فیہ مقدم جَاءَتْ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ الْحَسَنَةُ فاعل یہ تمام مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوا لَنَا هَذِهِ مستقر کا لیتا کے متعلق ہو کر خبر مقدم هَذِهِ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان شرطیہ تُصِيبُ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ مقدم

سَيِّئَةٌ قَاعِلٌ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط یکتَیْزُواً فعل واو ضمیر قاعِل بآء جارہ مؤنثی معطوف علیہ، واو عاطفہ من اسم موصول معنًہ مرکب اضافی فعل معذوف گن کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جارہا مجرور ظرف لغو یکتَیْزُواکے متعلق ہوتے، فعل با قاعِل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

الاحرف تمیزان کھونہ ما کا ذکر آئیو کھمہ مرکب اضافی مبتدأ عند اللو مرکب اضافی ظرف مستقر کا تین کامفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لیکن حرف مشبہ بالفعل اکتَیْزُواکے مرکب اضافی اسم لا یفعلکون فعل واو ضمیر قاعِل سے مل کر خبر لیکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متعلقہ ہوں۔

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرْنَا بِهَا ۗ قَمِيًا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝

آیت نمبر ۳۲: واو استیخارہ قَالُوا فعل واو ضمیر قاعِل سے مل کر قول، مہمما اسم شرط مفعول فیہ مقدم ہجأت فعل آتت مستتر قاعِل تا ضمیر مفعول بہ بآء جارہ ہ ضمیر ذوالحال من آیۃ ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جارہا مجرور متعلق اول ہوتے، لآہ جارہ تظلیہ اور اس کے بعد ان مقدم ہے تسحر فعل آتت مستتر قاعِل تا ضمیر مفعول بہ ہجأ جارہا مجرور متعلق ہوتے، فعل با قاعِل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جارہا مجرور متعلق ثانی ہوتے، فعل با قاعِل و متعلقین و مفعول فیہ مقدم و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط معنًہ جزائیہ ما مشابہ "بہ کیس نَحْنُ اس کا اسم لکت جارہا مجرور متعلق مقدم ہوتے، بآء جارہ نامکہ مؤمنین اسم قاعِل نَحْنُ مستتر قاعِل و متعلق مقدم سے مل کر خبر معاً اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معقول، قول با معقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہوں۔

فَآرَسَلْنَا عَلَيْهِمُ الظُّفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَةً مُفَصَّلَاتٍ ۝

فَأَسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ۝

آیت نمبر ۳۳: فآء عاطفہ آرسَلْنَا فعل تا ضمیر قاعِل عَلَيْهِم جارہا مجرور متعلق ہوتے الظُّفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ معطوف علیہ با معطوفات اربعہ ذوالحال آیات مُفَصَّلَاتٍ مرکب توصیفی حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با قاعِل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ معنًہ عطف استکبرُوا فعل واو ضمیر قاعِل سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم قَوْمًا مَجْرِمِينَ مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُ قَالُوا يُمُوسَى اذْعُ لَنَا رَبَّنَا بِمَا عٰهَدْتَ عِنْدَكَ ۗ لَٰكِن كَشَفْتِ

عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ۗ وَكَذٰىبًا مَعَكَ يٰٓنِي ۗ اَسْرَآءِ لِي ۝

آیت نمبر ۳۴: واو استیخارہ لَمَّا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم وَقَعَ فعل عَلَيْهِم جارہا مجرور متعلق ہوتے الرِّجْزُ قاعِل، بھریہ تمام مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوا فعل واو ضمیر قاعِل سے مل کر قول، بآء جارہ عٰهَدْتَ کے قائم مقام،

اَدْخُو لُفْلًا مِمَّرٌ مَسْتَرْقَا لَ عُوْسِي مَسْبُوبٌ تَقَرَّرَ اَمْفُولٌ يَهْ تَحِيْلٌ لُ كَرْدَانِهْ اَنْخُ لُ اَمْرَاكْتِ مَسْتَرْقَا لَ لِكُنَا بَدَا جَزْرٌ مَسْتَقٌ  
 ہوئے ہوئیکہ مرکب اِضَائِي مْفُول ہے تاکہ جملہ صا مَصْدُوْر یہ عَجْدَل لُ لُ مَسْتَرْقَا لَ عُوْسِي لُ ک مرکب اِضَائِي مْفُول ہے تَحِيْلٌ لُ ک کہ بتول  
 مَصْدُوْر جَزْرٌ جَدْبَا جَزْرٌ اَدْخُ لُ ک مَسْتَقٌ جَمِي لُ ہوئے لُ لُ بِقَا لَ مْفُول ہے و مَحْتَلِّقِيْنِ جَمَلٌ اِنْشَائِيَّةٌ جَدْبَا جَزْرٌ اَمْرَاكْتِ جَزْرٌ مَسْتَقٌ  
 مْفُولٌ قَوْلٌ بِمَقْتَوْلٍ جَزْرٌ اَمْ شَرَطٌ بِاِجْرَاءِ مَحَلٍ شَرْطِيَّةٌ ہوں

لَا مَرْطُوْرٌ مِمَّ اور قسم مَحْدُوْفٌ بَعِيْنَ حُرُفٍ شَرْطِيَّةٌ كَشَفْتُ لُ لُ كَلْمٌ مَسْتَوْجِدٌ قَا لَ عُوْسَا جَدْبَا جَزْرٌ عَرَفَ لُ مَفُوْعٌ مَسْتَقٌ ہوئے اَلْوَجُوْزُ  
 مْفُول ہے لُ لُ قَا لَ و مَحْتَلِّقٌ و مْفُول ہے جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ جَزْرٌ جَوَابِيَّةٌ لُ لُ مَسْتَقٌ مَسْتَرْقَا لَ لِكُنَا جَدْبَا جَزْرٌ مَسْتَقٌ  
 ہوئے لُ لُ قَا لَ و مَحْتَلِّقٌ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْلُوْفٌ طِيَّةٌ اَوَّلًا مَانْعُوْلًا جَزْرٌ جَوَابِيَّةٌ لُ لُ مَسْتَقٌ مَسْتَرْقَا لَ مَسْكُوكٌ مَرْكَبٌ اِضَائِي  
 مْفُولٌ فِي تَقْوَا اِسْمًا اَيْزِيْلٌ مَرْكَبٌ اِضَائِي مْفُولٌ ہے لُ لُ قَا لَ و مْفُوْلِيْنِ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْلُوْفٌ طِيَّةٌ مَعْلُوْفٌ اَعْلُوْفٌ مِمَّ  
 مَحْدُوْفٌ جَزْرٌ مِمَّ جَوَابٌ مِمَّ جَمَلٌ اِنْشَائِيَّةٌ لُ لُ ہوں اور شَرْطِيَّةٌ اَجْرَاءِ مَحْدُوْفَةٍ ہے۔

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ اِلَ آجَلٍ لَّهُمْ لِيَلْعُوْا اِذَا هُمْ يَنْكَبُوْنَ ﴿٥٠﴾

آيَةٌ نَصِيْبٌ ٥٠: ٥٠ كَلْمٌ مَانْعُوْلًا مَرْكَبٌ اِنْشَائِيَّةٌ نَزْهٌ مَحْدُوْفٌ مَسِي سَمِي شَرْطٌ مْفُولٌ فِي مَقْدَمٍ كَشَفْنَا لُ لُ لُ مِمَّرٌ قَا لَ عُوْسِي مَفُوْعٌ جَدْبَا جَزْرٌ  
 مَحْتَلِّقٌ اَلْوَجُوْزُ نَدَائِلٌ اِلَ اَمْرٌ اَجَلِيٌّ مَوْصُوْفٌ هُوَّ مِمَّرٌ مَبْتَدَا، اِلَ لُ لُ مَرْكَبٌ اِضَائِي خَبْرٌ مَبْتَدَا جَزْرٌ جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْتٌ مَوْصُوْلٌ  
 بِمَعْتٌ جَزْرٌ جَدْبَا جَزْرٌ عَرَفَ مَسْتَرْقَا لَ كُنَا مَسْتَقٌ مَسْتَقٌ ہُوْ كَرْمَلٌ نَدَائِلٌ بِاَمَلٍ مْفُولٌ ہے لُ لُ قَا لَ و مَحْتَلِّقٌ و مْفُول ہے و مْفُولٌ فِي  
 مَقْدَمٍ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ اِنْكَا مَحَابِيَةِ مَعْلُوْفٌ طِيَّةٌ مِمَّرٌ مَبْتَدَا، يَنْكَبُوْنَ لُ لُ اَوَّلًا مَانْعُوْلًا قَا لَ عُوْسِي مَفُوْعٌ لُ لُ مَسْتَقٌ جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ  
 جَزْرٌ شَرْطٌ بِاِجْرَاءِ مَحَلٍ شَرْطِيَّةٌ ہوں

فَاَلْتَقَمْنَا مِنْهُمْ قَاعًا قُرْنِهِمْ فِي الْيَمِّ يَأْتُهُمْ كَذْبًا وَاٰيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿٥١﴾

آيَةٌ نَصِيْبٌ ٥١: ٥١ قَا مَانْعُوْلًا مَلْتَقَمْنَا لُ لُ لُ مِمَّرٌ قَا لَ عُوْسِي مَفُوْعٌ جَدْبَا جَزْرٌ مَحْتَلِّقٌ ہوئے تَحِيْلٌ لُ لُ كَرْمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْلُوْفٌ طِيَّةٌ  
 قَا مَانْعُوْلًا اَعُوْفًا لُ لُ لُ مِمَّرٌ قَا لَ عُوْسِي مَفُوْعٌ جَدْبَا جَزْرٌ مَحْتَلِّقٌ لُ لُ مَسْتَقٌ اِلَ ہوئے تاکہ جملہ اَنْحُ حُرُفٌ مَبِيَّةٌ بِاِلْحَالِ هُوَّ مِمَّرٌ اِسْمِيَّةٌ  
 كَا مَسْتَقٌ كَذْبًا لُ لُ اَوَّلًا مِمَّرٌ قَا لَ عُوْسِي مَفُوْعٌ جَدْبَا جَزْرٌ مَحْتَلِّقٌ لُ لُ اَوَّلًا مِمَّرٌ قَا لَ عُوْسِي مَفُوْعٌ جَدْبَا جَزْرٌ مَحْتَلِّقٌ لُ لُ اَوَّلًا  
 خَبْرِيَّةٌ مَعْلُوْفٌ طِيَّةٌ اَوَّلًا مَانْعُوْلًا كَا مَسْتَقٌ اِلَ اَمْرٌ اِسْمِيَّةٌ اِضَائِيَّةٌ مَسْتَقٌ مَسْتَقٌ اَمْرٌ اِسْمِيَّةٌ اِضَائِيَّةٌ مَسْتَقٌ مَسْتَقٌ مَسْتَقٌ مَسْتَقٌ  
 مَقْدَمٌ مَسْتَقٌ لُ لُ خَبْرٌ لُ لُ قَا لَ اَمْرٌ و خَبْرٌ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْلُوْفٌ طِيَّةٌ مَعْلُوْفٌ اَعْلُوْفٌ مِمَّ جَمَلٌ اِنْشَائِيَّةٌ لُ لُ ہوں تاکہ جملہ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَبْتَدَا  
 مَفْرُوْدٌ جَزْرٌ جَدْبَا جَزْرٌ عَرَفَ لُ لُ اَعُوْفًا كُنَا مَسْتَقٌ مَسْتَقٌ جَمِي لُ ہوئے مَانْعُوْلًا لُ لُ قَا لَ و مْفُول ہے و مَحْتَلِّقِيْنِ جَمَلٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ  
 مْحَدُوْفٌ طِيَّةٌ مَعْلُوْفٌ جَمَلٌ مَعْلُوْفٌ ہوں

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّذِيْنَ بَوَّكُنَا  
 فِيْهَا ؕ وَكُنْتُمْ كَلِمَتٍ رَبَّنَا الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرٰٓءِيْلَ ؕ بِمَا صَبَرْتُمْ وَاَوْدَعْنٰٓكُمْ مَا كَانُ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

**يُضَعِّعُ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿٥٠﴾**

**آیت نمبر ۷۱۳** اور او استیغابہ اور کثرتاً فعل تا ضمیر فاعل الْقَوْمِ موصوف الذین اسم موصول کا نوا فعل ناقص وا ضمیر اسم يُضَعِّعُ فِرْعَوْنَ فعل مجہول وا ضمیر نائب فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص یا اسم وا خبر صلہ موصول با صلہ صفت، موصوف بہ صفت منقول بہ اذل مَشَارِقِ الْأَرْضِ میں مرکب اضافی معطوف علیہ، واؤ عطف مَعَالِ بَیْتِہَا مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف موصوف الیٰہ اسم موصول باؤ کثرتاً فعل تا ضمیر فاعل بقیہ جہا مجرور متعلق ہوتے، بتینوں مل کر صلہ موصول با صلہ صفت، موصوف بہ صفت اور کثرتاً کا منقول بہ ثانی فعل ناقص با نازل و متعلقین جملہ تعلقہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عطف کَثَّتْ فعل کَثَّتْ مرکب اضافی موصوف الخسفی صفت، موصوف بہ صفت فاعل علی جہا یعنی اِسْرَآءِ یٰلَیْنِ مرکب اضافی مجرور، جہا مجرور متعلق اذل ہوتے، بہا جہا ما مصدر یہ ضابطہ نوا فعل وا ضمیر فاعل سے مل کر تا ویں مصدر مجرور جہا مجرور متعلق ثانی ہوتے، فعل ناقص و متعلقین جملہ تعلقہ خبریہ معطوف اذل، واؤ عطف دَعَوْنَا فعل تا ضمیر فاعل ما اسم موصول کَنَ فعل ناقص ہو ضمیر شان اس کا اسہ یَضَعُّعُ فعل فِرْعَوْنَ معطوف علیہ، واؤ عطف قَوْمَهُ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل ناقص خبر، فعل ناقص یا اسم وا خبر صلہ موصول با صلہ صفت، موصوف علیہ، واؤ عطف مَا اسم موصول کا نوا فعل ناقص، وا ضمیر اسم یَضَعُّعُ فعل وا ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص یا اسم وا خبر جملہ تعلقہ خبریہ صلہ موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف دَعَوْنَا کا منقول بہ، فعل ناقص و متعلق بہ جملہ تعلقہ خبریہ معطوف جالی معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہوں۔

**وَجُوْرُنَا یٰبَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ قَاتُوْا عَلٰی قَوْمٍ یَّعْکُفُوْنَ عَلٰی اَصْنَآہِمْ لَہُمْ مَا قَالُوْا یٰمُوسٰی اجْعَلْ لَنَا اِلٰہًا کَمَا لَہُمْ اِلٰہَةٌ ؕ قَالَ اِنِّکُمْ قَوْمٌ تَجْہَلُوْنَ ﴿٥١﴾**

**آیت نمبر ۷۱۴** اور او استیغابہ جہاؤ کثرتاً فعل تا ضمیر فاعل بہا جہا یعنی اِسْرَآءِ یٰلَیْنِ مرکب اضافی مجرور، جہا مجرور متعلق ہوتے اَلْبَحْرَ منقول بہ، فعل ناقص یا نازل و متعلق منقول بہ جملہ تعلقہ خبریہ معطوف علیہ عَکَّاهُ عَکَّاهُ اَنْکَا فعل وا ضمیر فاعل علی جہا کَوْمٍ موصوف یَعْکُفُوْنَ فعل وا ضمیر فاعل علی جہا اَصْنَآہِمْ موصوف لَہُمْ جہا مجرور طرف مستقر کَثَّتْ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت ہفت مجرور، جہا مجرور متعلق ہوتے، فعل ناقص یا نازل و متعلق جملہ تعلقہ خبریہ کَوْمٍ کی صفت، موصوف بہ صفت ہفت مجرور، جہا مجرور اَنْکَا کے متعلق ہوتے، فعل ناقص یا نازل و متعلق جملہ تعلقہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

**قَالُوْا** فعل وا ضمیر فاعل سے مل کر قول یا تَمَاسُی جملہ تعلقہ انشائیہ ہو کر نہا اَجْعَلْ فعل امر انت متستر نازل کثرتاً طرف مستقر کَثَّتْ کے متعلق ہو کر منقول بہ اذل اِلٰہًا موصوف کاف جہا ما موصول لَہُمْ جہا مجرور طرف مستقر فعل مخدوف کَثَّتْ کے متعلق ہو کر صلہ موصول با صلہ مجرور، جہا مجرور کَثَّتْ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت منقول بہ معنی، فعل ناقص یا نازل و متعلقین عداہ کا جواب، عداہ با جواب نہا متول، قول با مقولہ جملہ تعلقہ خبریہ ہوں اور اِلٰہَةٌ کَثَّتْ کی ضمیر سے بدل ہے۔ قَالَ فعل ہو متستر فاعل سے مل کر قول اِنَّ حرف تحقیق کُنْ ضمیر اسم کَوْمٍ موصوف تَجْہَلُوْنَ فعل وا ضمیر فاعل یا وا ضمیر فاعل سے مل کر صفت، موصوف بہ صفت خبر اِنَّ با اسم وا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ تعلقہ خبریہ متانفہ ہوں۔

إِنَّ هُوَ لِأَعْمَدٍ مُمْتَدٍّ مَا هُمْ فِيهِ وَبِطَلٍّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۹﴾

**آیت نمبر ۳۹** ایلان حرف تحقیق ہولاء اسم اشدہ اس کا اسم ممتد اسم مفعول ما اسم موصول ہضمیر مبتدا فیہ ظرف مستقر کا یون کے متعلق ہو کر خبر مبتدا خبر حملہ موصول باصلہ تہب فاعل اسم مفعول ہاتھب فاعل شبہ جملہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ باطل اسم فاعل ما موصول کا فاعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یعملون فعل ہواو ضمیر فاعل خبر فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول باصلہ فاعل اسم فاعل با فاعل معطوف معطوف علیہ با معطوف خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

قَالَ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعِيْكُمْ الْهَاءَ وَهُوَ فَضَلُّكُمْ عَلَى الْعَالِيْنَ ﴿۴۰﴾

**آیت نمبر ۴۰** ایلان فعل ہو مستقر فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول حمزہ حرف استفہام عیرو اللہ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم آئیقی فاعل نا مستقر فاعل کف ضمیر منصوب بزبح ہا ناقص متعلق ہوئے الہا ذوالحال واو حالیہ ہو ضمیر مبتدا فضّل فعل ہو مستقر فاعل کف ضمیر مفعول بہ علی العالیین ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے پھر چاروں مل کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال ہا ل آئیقی کا مفعول بہ ثانی فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ انتہائیہ استفہامیہ مقولہ قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتَتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ

يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۴۱﴾

**آیت نمبر ۴۱** واو استہنایہ اذ مضاف انجینا فعل نا ضمیر فاعل کف ضمیر مفعول بہ من آل فرعون ذوالحال ذوالحال یسومون فعل ہواو ضمیر فاعل کف ضمیر مفعول بہ اول سوء العذاب مرکب اضافی مفعول بہ ثانی فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مبدل من یقتلون فعل ہواو ضمیر فاعل انباء کف مرکب اضافی مفعول بہ پھر تینوں مل کر معطوف علیہ ہواو عاطفہ یستحیون فعل ہواو ضمیر فاعل نساء کف مرکب اضافی مفعول بہ پھر تینوں مل کر معطوف معطوف علیہ با معطوف بدل مبدل من بدل حال ذوالحال با حال مجرور جہا مجرور انجینا کے متعلق ہوئے فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ خبریہ اذ کا مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ فعل معذوفاذ کوزوا کا اذ کوزوا فعل امر ہواو ضمیر فاعل و مفعول بہ سے ل کر جملہ انتہائیہ امریہ متانفہ ہواو استہنایہ فی ذلکم ظرف مستقر کا یون کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہواو موصوف من ذلکم ظرف مستقر کا یون کے متعلق ہو کر مفت اول عظیم مفت ثانیہ موصوف با صفتین خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

﴿۴۱﴾ رکوع نمبر ۱۷

وَإِعْدْنَا مَوْلَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتَمَّنْهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴿۴۲﴾

قَالَ مَوْلَى لِأَخِيهِ هُرُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۴۳﴾

**آیت نمبر ۴۲** واو استہنایہ واعدنا فعل نا فاعل نا ضمیر فاعل مولى مفعول بہ اول ثلاثين ليله ميزا تميز مفعول بہ ثانی فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ اتمنتنا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ بعشر جہا مجرور متعلق ہوئے فعل با فاعل

ومضول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مسطوف اذل عفاہ ماخذتکھ فعل ویسقت رتہ مرکب انشائی فہما ل ازل و یسقت لیتلہ تمیز بایز مال و ذہل باجل باطل فعل بقائل جملہ فعلیہ خبریہ مسطوف مانی مسطوف علیہ باسطوفین جملہ متصفحہ ہوں۔

واو استخیرہ قال فعل مؤنسی قائل لاکر جملہ آجیبیہ مرکب انشائی مبدل من عھا ذون بدل مبدل من با بدل مجرور مبدل باجمر و متعلق ہوئے فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول اخلت فعل امر اکت مستتر قال من ولے وقایہ یتا مخریر مضول بیٹی کوئی مبدل باجمر و متعلق ہوئے فعل با قائل و مضول بہ و متعلق جملہ انشائیہ مسطوف علیہ واو ماخذ اخلت فعل امر اکت مستتر قائل سے مل کر مسطوف اذل واو ماخذ لا یکتب فعل فی اکت مستتر قائل سببیل المنطقیہ مرکب انشائی مضول بہ فعل ہی بقائل و مضول بہ جملہ انشائیہ مسطوف مانی مسطوف علیہ باسطوفین متورہ قول یا متورہ جملہ فعلیہ خبریہ متصفحہ ہوں۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ اُرِنِي اٰيٰتِكَ فَقَالَ لَنْ اُنزِلَ عَلَيْكَ ذِكْرًا وَّ حَزْرًا مِّنْ اٰيٰتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ اُنزِلْ عَلٰى الْجَبَلِ الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوِّفَ تَظُنُّنِيْ فَسَوِّفَ تَكْبُرُنِيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ حَزْرًا مِّنْ اٰيٰتِنَا صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

**المؤمنين**

**آیت نمبر ۱۳۳:** واو ماخذتکھ حرف زمان متضمن معنی شرط مضول نہ مقدم جآء فعل مؤنسی قائل لاکر جملہ آجیبیہ مرکب انشائی مجرور مبدل باجمر و متعلق ہوئے مبدلین لں کر جملہ فعلیہ خبریہ مسطوف علیہ واو ماخذتکھ فعل ل مخریر مضول بہ رتہ مرکب انشائی قائل باجر تیں لں کر جملہ فعلیہ خبریہ مسطوف مسطوف علیہ باسطوفین جملہ شرط قال فعل امر اکت مستتر قائل سے مل کر قول رب قائل ملکہ کا تازیانی ہے اور یہ مقدمہ ہا فعل امر اکت مستتر قال من ولے وقایہ کا تیا مخریر مضول بہ تیں لں کر جملہ انشائیہ ہو کر جواب نداء نداء باجر ہ نداء متورہ قول یا متورہ جزاء شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں انکھو فعل مضارع اکت مستتر قال لیتک مبدل باجمر و طرف لغو ہو کر متعلق ہوئے فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جواب امر اور شرط مخدوف لیں ٹہرنی کی جزاء ہے شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قال فعل مؤنسی قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول لمن کوئی فعل امر اکت مستتر قال من ولے وقایہ کا تیا مخریر مضول بہ تیں لں کر جملہ فعلیہ خبریہ مسطوف علیہ واو ماخذتکھ لیکن حرف استدراک انکھو فعل امر اکت مستتر قال لیں الجبیل مبدل باجمر و متعلق ہوئے فعل امر با قائل و متعلق مسطوف مسطوف علیہ باسطوفین متورہ قول یا متورہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا عفاہ ماخذ ان حرف شرط باسقتکھ فعل مؤنسی قائل مستتر قال لیں مکتاہ مرکب انشائی مضول نہ تیں لں کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عفاہ جزائیہ سوف علامت فعل متوزی فعل امر اکت مستتر قال من ولے وقایہ کا تیا مخریر مضول بہ تیں لں کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء شرط باجزاء جملہ شرطیہ مسطوف ہوں۔

فآء ماخذتکھ حرف زمان متضمن معنی شرط مضول نہ مقدم کجلی فعل رتہ مرکب انشائی قائل للجبیل مبدل باجمر و متعلق ہوئے فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط جعل فعل مؤنسی قائل مستتر قال لیں مخریر مضول بہ لیل دکا مضول بہ معنی فعل با قائل و مضولین جملہ فعلیہ



خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ حذو فعل مؤنسی مرفوع تقدیراً ذوالحال صحیحاً حال، ذوالحال باحال باعلی، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فَاء عاطفہ لثانی طرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فی مقدم افعال فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ماقال فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول سبباً تاکد مرکب انسانی مفعول مطلق ہے فعل محذوف سبباً تاکد کا، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ متول، قول باقولہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو، ثبت فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل الیک جہا بجزء متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو، واو عاطفہ انا ضمیر مبتدأ، اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ مرکب انسانی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسیم خبریہ معطوف ہو۔

قَالَ يُؤْمِسِي اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِ سَلْتِي وَ بِكَلَامِي عَلَيْهِ فَحُذَّ مَا آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

آیت نمبر ۱۳۳: قَالَ يُؤْمِسِي اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ  
فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل کا ف ضمیر مفعول بہ عَلَى النَّاسِ جہا بجزء متعلق اذل ہوئے بآء جہا و سَلْتِي مرکب انسانی بجزء جہا بجزء معطوف علیہ، واو عاطفہ بآء جہا بجزء جہا بجزء متعلق دوم معطوف، معطوف علیہ با معطوف طرف لغو ہو کر متعلق دوم ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسیم خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب نداء متول، قول باقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فَاء ضمیر اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ يَا اِنَّ اَتَيْتُكَ اِيَّاكَ، حُذَّ فعل امر آتت مستتر فاعل ما موصولہ آتت فعل تاء مضمومہ فاعل کا ف ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ موصولہ باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کُنْ فعل امر آتت مستتر کا اسم من الشَّاكِرِينَ جہا بجزء طرف مستتر کا تینا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط محذوف کی جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَحُذَّهَا بِقُوَّةٍ وَ اْمُرْ قَوْمَكَ يَا اٰخُدْ وَا بِاِحْسَنِهَا سَاوِرِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ

آیت نمبر ۱۳۵: وَاوَا سْتِغْيِرْ كَتَبْنَا لِعَلَّ ضَمِيرُ فاعِلٌ لَهْ جِهًا بجزء متعلق ہوئے فی الْاَلْوَابِ طرف مستتر کا تینا کے متعلق ہو کر حال مقدم، من جہا نداء کی ضمیر مرکب انسانی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ مَوْعِظَةً معطوف علیہ، واو عاطفہ تَفْصِيلاً مصدر لہا جہا كُلِّ شَيْءٍ مرکب انسانی بجزء جہا بجزء متعلق ہوئے، مصدر با متعلق متعلق، معطوف علیہ با معطوف مفعول لہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

فَاء ضمیر اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ، حُذَّ فعل امر آتت مستتر فاعل ما موصولہ آتت فعل تاء مضمومہ فاعل کا ف ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ موصولہ باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَفْصِيلاً مصدر لہا جہا كُلِّ شَيْءٍ مرکب انسانی بجزء جہا بجزء متعلق ہوئے، مصدر با متعلق متعلق، معطوف علیہ با معطوف مفعول لہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

علیہ ہوا وواضعاً مؤنزل من امر آتت مستقر تامل قولتک مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ مفعول، مفعول علیہ با مفعول جزاء بہ شرط مفعول کی، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں یا تَخَذُوا قَوْلُ وَاذْ ذَمِیر قائل ہاء جملہ آخرتہا مرکب انشائی مجرور، جہاں مجرور متعلق ہونے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جو با جزاء ہے شرط مفعول ان تَأْمُرُوْكُمْ مَتَّكًا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں، بین ملامت فعل با رثی فعل آتا مستقر قائل تَنْذِیر مضموب مفعول بہ لال معانَ الْقَائِلِیْنَ مرکب انشائی مفعول بہ، مللی فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہوں۔

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعَذَابِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۳۶: میں ملامت فعل با صرف فعل آتا مستقر تامل عن آياتی جہاں مجرور طرف لال متعلق ہونے، اللذین اسم موصول یَتَكَبَّرُونَ فعل واذ ذمیر قائل فی الأرض جہاں مجرور متعلق ہونے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول با صلہ فاعل با یَغْفِرُ الْحَقِّ حرف مستقر مَتَّكِيْنَ کے متعلق ہو کر ملہ ذوالکلیل با حال مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو ماضیان حرف شرط یَرَوْا فعل واذ ذمیر قائل کل آیتہ مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لَا يُؤْمِنُوا فعل واو ضمیر قائل یہاں جہاں مجرور متعلق ہونے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مفعول علیہ ہوا وواضعاً حرف شرط یَرَوْا فعل واو ضمیر قائل سَبِيلَ الرُّشْدِ مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط مَلَائِكَةً وَاصل واو ضمیر قائل وا ضمیر مفعول بہ اول سَبِيلًا مفعول بہ مللی، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مفعول علیہ با مفعولین جملہ مفعولہ ہوں۔

واو ماضیان حرف شرط یَرَوْا فعل واو ضمیر قائل سَبِيلَ الْعَذَابِ مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط یَتَّخِذُوْا فعل واو ضمیر قائل وا ضمیر مضموب مفعول بہ اول سَبِيلًا مفعول بہ مللی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مفعول ہوں ذالک اسم اثناء مبتدأ انھم کذبوا یا آياتنا وکانوا عنہا غافلین اس کی ترکیب آیت نمبر ۱۳۶ میں دیکھئے، اور یہ کلین کے متعلق ہو کر خبر ہے، مبتدأ خبر جملہ اسیہ خبریہ ہوں۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

آیت نمبر ۱۳۷: ہوا وواضعاً اللذین اسم موصول کذبوا فعل واو ضمیر قائل ہاء جہاں آياتنا مرکب انشائی مفعول علیہ ہوا وواضعاً لِقَاءِ الْآخِرَةِ مرکب انشائی مفعول، مفعول علیہ با مفعول مجرور، جہاں مجرور متعلق ہونے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول با صلہ مبتدأ حَبِطَتْ فعل اَعْمَالُهُمْ مرکب انشائی قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسیہ خبریہ متعلقہ

ہو۔ کل حرف استفہام یَجُزُّوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل یا الأَحرَف استثناء موصولہ کا کُفُوَا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَجْعَلُوْنَ فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصولہ بصلہ مفعول بہ، فعل مجہول نائب فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

﴿ رکوع نمبر ۱۸ ﴾

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ عَجَلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا ذَا أَلْمِيزٍ وَ اِنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَ لَا يَهْدِيهِمْ سَبِيْلًا ۙ اتَّخَذُوْهُ وَ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿

**آیت نمبر ۱۳۸** : واو استفہامیہ اتَّخَذَ فعل ناقص مُوسَىٰ مرکب انسانی فاعل من جادہ بَعْدِهِ مرکب انسانی مجرور، جادہ مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے من حرف جار خَلْقِهِمْ مرکب انسانی مجرور، جادہ مجرور متعلق دوم ہوئے عَجَلًا مبدل منہ جَسَدًا موصوف لہٰ طرف مستقر کا کُفُوَا کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ خُورًا و مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت، موصوف بہ صفت بدل، مبدل منہ بدل مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

ہمزہ حرف استفہامیہ لَمْ یَزِدْ وَاو ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق لَیْکُمْ فعل ہو مستتر فاعل ہُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَیْکُمْ فعل ہو مستتر فاعل ہُمْ ضمیر مفعول بہ اول سَبِيْلًا مفعول بہ ثانی سپردوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتوکل مفرد لَمْ یَزِدْ وَاو کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔ اتَّخَذَ وَاو ضمیر فاعل اَمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کا کُفُوَا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم کَالِیْمِیْنَ اسم فاعل ہُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

وَ لَمَّا سَقَطَ فِيْ اَیْدِيْهِمْ وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَیْن لَّمْ یَزِ حَمٰنًا رَبِّنَا وَ یَغْفِرْ لَنَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿

**آیت نمبر ۱۳۹** : واو استفہامیہ لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم سَقَطَ فعل مجہول فی اَیْدِيْهِمْ جادہ مجرور قائم مقام نائب فاعل، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ وَ رَاَوْا فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق ہُمْ ضمیر اس کا اسم قَدْ علامت فعل صَلُّوْا فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اَنْ با اسم و خبر بتاویل مفرد وَ رَاَوْا کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط قَالُوْا فعل باوا ضمیر فاعل قول، لَآءِ موصوف تقسم اور قسم محذوف ہے اَنْ حرف شرط لَمْ یَزِدْ حَمٰنًا فعل ناقص ضمیر مفعول بہ رَبِّنَا مرکب انسانی فاعل، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ یَغْفِرْ فعل ہو مستتر فاعل لَمَّا جادہ مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط لَآءِ جوابیہ لَتَكُوْنَنَّ فعل لَحْنٍ مستتر اس کا اسم مِنَ الْخٰسِرِيْنَ طرف مستقر کا کُفُوَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر قسم کا جواب ہے، اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم وال ہے، قسم

باجواب قسم مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۚ  
 أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَابَ ۚ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمِّ  
 إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي ۖ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ ۖ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ  
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾

آیت نمبر ۵۸: ۱۵۰ واو استغنیہ لَنَا حصن معنی شرط مفعول فیہ مقدم رَجَعَ فعل مؤنثی ذوالحال غَضْبَانَ حال اولیٰ، اسفًا حال دوم ذوالحال با مائلین فاعل الیٰ جادہ قَوْمِهِ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے ل کر قول، بِئْسَ فعل ذم ہو مستتر معنی ما موصوفہ خَلَفْتُمْ فعل شتم ضمیر فاعل نون و قالیہ کا بیاد ضمیر مفعول بہ من بعدیٰ ظرف مستقر کا کینین کے متعلق ہو کر خَلَفْتُمْ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوفہ ہفت قیزیہ، تمیز یا تمیز بیئس کا فاعل، فعل ذم با فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ خبر مقدم، مخصوص بالذم مبتدا محذوف ہے۔ خَلَفْتُمْ، مبتدا خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ ہذا حرف استفہام عَجَلْتُمْ فعل شتم ضمیر فاعل اَمْرَ رَبِّكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

واو عطف اَلْقَى فعل ہو مستتر فاعل اَلْوَابَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطف اَخَذَ فعل ہو مستتر فاعل بہاد جادہ رَأْسِ أَخِيهِ مرکب اضافی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَالَ پر معطوف ہے۔ يَجُرُّ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، اَلَيْهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، جادوں مل کر اَخَذَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے ل کر قول، ابْنِ أُمِّ اصل میں ابْنِ اُمِّ ہے اور یہ ندا ہے ان حرف تحقیق الْقَوْمِ اس کا اسم استضعفوا فعل اولیٰ ذم ضمیر فاعل نون و قالیہ کا بیاد ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطف كَادُوا فعل متقارب واو ضمیر اس کا اسم يَقْتُلُونَ فعل اولیٰ ذم ضمیر فاعل نون و قالیہ کا بیاد ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر خبر، فعل متقارب باسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ندا کا جواب، ندا ہا جواب ندا مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فادہ فیسیمہ اور شرط ہے اِذَا عَلِمْتَ عَلْمِي، لَا تُشْمِتْ فعل نئی آلت مستتر فاعل فی جاد با مجرور متعلق ہوئے۔ اَلْأَعْدَاءَ مفعول بہ، جادوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عطف لَا تَجْعَلْ فعل نئی آلت مستتر فاعل نون و قالیہ کا بیاد ضمیر مفعول بہ معنی مضاف الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و مفعول فیہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا تَجْعَلْ لِي رَحْمَتَكَ مِثْلَ رَحْمَةِ الرَّاحِمِينَ ﴿۵۹﴾

آیت نمبر ۵۹: ۱۵۱: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے ل کر قول، رَبِّ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ ندا ہے اغْفِرْ فعل امر آلت مستتر فاعل

لی جہد باجرور معطوف علیہ ہواؤ عطفہ لاکر جہد آئی مرکب انسانی مجرور، جہد باجرور معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہواؤ عطفہ اذخُلْ فعل امر آتت مستتر قائل نا ضمیر منسوب مفعول بی فی وَ حَتْمِکَ جہد باجرور متعلق ہوئے، چادوں ل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف، عداہ کا جواب، عداہ با جواب عداہ مقولہ، قولہ ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں ہواؤ استیثنا فیہ یا حالیہ آتت ضمیر مبتدأ اذخُلْ مستتر قائل مرکب انسانی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں یا اذخُلْ کی ضمیر قائل سے مل ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۱۹ ﴾

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿۱۵۲﴾

آیت نمبر ۱۵۲: إِنَّ حرف تَحْتِیْنِ الَّذِينَ اسم موصول اتَّخَذُوا فعل واؤ ضمیر قائل العِجْلُ مفعول بہ، تینوں ل کر صلہ، موصول ہاسلہ اسم بیین علامت فعل یَنَالُ فعل ہَمْ ضمیر مفعول بہ غَضَبٌ موصوف من رَّبِّهِمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف علیہ ہواؤ عطفہ ذِلَّةٌ موصوف فی جہاد آ الحیوة الدنیا مرکب توسیعی مجرور، جہد باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف یَنَالُ کافعال، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، إِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں ہواؤ عطفہ کذالک ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر واسطہ موصوف محذوف جہد آت کے مفعول مطلق مقدم نَجْزِي فعل نَحْنُ مستتر قائل اَلْفَسْفِسُ مفعول بہ، چادوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔

وَ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ كَانُوا مِن بَعْدِهَا وَ أَمْنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعْدِهَا لَعَفُوٌّ وَ رَحِيمٌ ﴿۱۵۳﴾

آیت نمبر ۱۵۳: تہاؤ عطفہ الَّذِينَ اسم موصول عَمِلُوا فعل واؤ ضمیر قائل السَّيِّئَاتِ مفعول بہ، تینوں ل کر معطوف علیہ، تَعَفُوٌّ عطفہ کَانُوا فعل واؤ ضمیر قائل مِن بَعْدِهَا ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں ل کر معطوف اَمْنُوا فعل واؤ ضمیر قائل ہاؤ ضمیر قائل معطوف جہل، معطوف علیہ ہا معطوفین صلہ، موصول ہاسلہ مبتدأ ان حرف تَحْتِیْنِ رَبِّکَ مرکب انسانی اس کا اسم من بَعْدِهَا ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے عَفُوٌّ اور رَحِيمٌ کے بالتتابع لاکر نہ ملے عَفُوٌّ وَ رَحِيمٌ دو خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبریہ مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ لَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ وَ فِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يُوْهَبُونَ ﴿۱۵۴﴾

آیت نمبر ۱۵۴: تہاؤ استیثنا فیہ لَمَّا ضمیر معنی شرط مفعول فیہ مقدم سَكَتَ فعل عن مُّوسَى مؤنسی جہد باجرور متعلق ہوئے اَلْغَضَبُ قائل، چادوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اخذ فعل ہو مستتر قائل اَلْوَابِحَ ذوالاواؤ حالیہ فی جہاد نُسْخَتِهَا مرکب انسانی

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ ۙ

مجرور، جارِ مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہڈی معطوف علیہ ہواؤ عاظفہ رَحْمَةً موصوف لاکہ جارِ اَلَّذِيْنَ اِسْم موصول ہڈی ضمیر مبتدأ لِرَبِّهِمْ جارِ مجرور متعلق مقدم ہوسے یُذْهِبُوْنَ فعل واو ضمیر قائل و متعلق مقدم سے ل کر خبر، مبتدأ جارِ خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارِ مجرور کائنات کے متعلق ہو کر رَحْمَةً کی صفت، موصوف باصفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ مؤخر، مبتدأ جارِ حال، ذوالحال باحال اَخَذَ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستأنفہ ہوں۔

وَ اَخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَاۙ فَاَلَمَّا اَخَذْتَهُمْ الرَّجْفَةَ قَالَ رَبِّ لَوْ  
 شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَاِيَّاىٕۙ اَتٰهُمْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُۙ اِمْتٰۤاۙ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ  
 تُضِلُّ بِهَاۙ مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِيۙ مَنْ تَشَاءُ ؕ اَنْتَۙ وَاِنَّا لَفَاغِظُ لَنَاۙ وَاَرْحَمٰنَاۙ وَاَنْتَۙ حٰخِيۙ

### الْعَفْرِیْنَ ۙ

آیت نمبر ۱۵۵: او استیغیر اختارَ فعل مؤنسی قائل قَوْمَهُ مرکب اضافی منصوب بجز انما فاعل متعلق ہوئے سَبْعِيْنَ رَجُلًا میزباً تیز مفعول بہ لِمِيْقَاتِنَا ظرف لغو متعلق ہوئے، یہ تمام ملکہ جملہ فعلیہ خبریہ مستأنفہ ہوں فاء عاظفہ لَمَّا متعین معنی شرط مفعول فیہ مقدم اَخَذْتَ فعل ہڈی ضمیر مفعول بہ اَلرَّجْفَةُ قائل یہ تمام ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط وقال فعل ہو متقرر قائل سے ل کر قول ہو رہی یہ اصل میں یا کرتی ہے اور یہ عدا ہے لَوْ حرف شرط شِئْتَ فعل تاکہ متفرد قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اَهْلَكْتَ فعل تاکہ متفرد قائل ہڈی ضمیر معطوف علیہ واو عاظفہ اِيَّاىٕ مفعول با معطوف مفعول بہ، معنی قَبْلِ جارِ مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جواب نداء، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

ہمدہ حرف استفہام تَهْلِكُ فعل اَنْتَ متقرر قائل تا ضمیر مفعول بہ یاہ جارہ ماصدریہ فَعَلَ فعل السُّفَهَاءُ ذوالحال ہتکاً ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل، فعل با قائل بتول مصدر مجرور، جارِ مجرور تَهْلِكُ کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں اِنْ تَفِيْهِ هِیْ ضمیر مبتدأ اِلَّا حرف استفہام فِتْنَتُكَ مرکب اضافی مستثنیٰ مفرغ خبر، مبتدأ جارِ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

تُضِلُّ فعل اَنْتَ متقرر قائل بِهَا جارِ مجرور متعلق ہوئے مِّنْ اِسْم موصول تَشَاءُ فعل اَنْتَ متقرر قائل سے ل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاظفہ تَهْدِيْ فعل اَنْتَ متقرر قائل مِّنْ تَشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف فِتْنَتُكَ سے حال ہے اَنْتَ ضمیر مبتدأ و لَمَّا جارِ مرکب اضافی خبر، مبتدأ جارِ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

فاء نصیر اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، يٰۤاِنَّ اَكْذِبْنَاۙ اِغْفِرْ فعل امر اَنْتَ متقرر قائل لَمَّا جارِ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں ل کر معطوف علیہ واو عاظفہ اَرْحَمْ فعل امر اَنْتَ متقرر قائل تا ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں واو استیغیر اَنْتَ ضمیر مبتدأ حٰخِيۙ العافِیْنَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ جارِ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ اَكْتَبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُنَا لَنَا لَيْك ۚ قَالَ عَدَا بِي اَصِيْبُ بِهِ  
 مِنْ اَشَاعٍ وَ زَحْمَتِي وَ سَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ۚ فَسَا كَتُبَهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَ  
 الَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٦﴾

آیت نمبر ۵۶: او او اعطف اکتب فعل امر اکت مستتر قائل لانا جدا بحر و ظرف لغو متعلق ہوئے فی حرف جدا ہذا الذی بنا مرکب  
 توسل بحر و جدا بحر و معطوف علیہ او اعطف فی الاخرۃ جدا بحر و معطوف، معطوف علیہ با معطوف کلئذ کے متعلق ہو کر حال  
 مقدم حسنة ذوال ل مؤخر ذوال ل بال معقول ہے، فعل با قائل و متعلق و معقول یہ جملہ انشاء اغفر پر معطوف ہے ان حرف تحقیق  
 تا ضمیر اس کا اسم ہذا تا فعل تا ضمیر فاعل لایک جدا بحر و متعلق ہوئے تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ  
 معللہ ہو۔

قال فعل هو مستتر قائل سے ل کر قول عدا بی مرکب انسانی مبتدا اصاب فعل انا مستتر قائل یہ جدا بحر و متعلق ہوئے من اسم  
 موصول اشاء فعل انا مستتر قائل سے ل کر صلہ موصول بصلہ معقول ہے، فعل با قائل و متعلق و معقول یہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر مبتدا  
 با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ او اعطف زحمتی مرکب انسانی مبتدا و سعت فعل ہی مستتر قائل کل شئی مرکب انسانی معقول ہے،  
 تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متناہ ہوں

فاما استیغافہ سین علامت فعل اکتب فعل انا مستتر قائل ہا ضمیر معقول یہ لامر جاہ الذین اسم موصول یتقون فعل داؤ ضمیر  
 قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ او اعطف یتقون فعل داؤ ضمیر فاعل الزکوة معقول ہے، فعل با قائل و معقول یہ جملہ فعلیہ  
 خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ موصول بصلہ معطوف علیہ، او اعطف الذین اسم موصول ہم ضمیر مبتدا ہا جاہ انا یتنا  
 مرکب انسانی بحر و جار بحر و متعلق مقدم ہوئے، یتقون فعل باؤ ضمیر قائل و متعلق خبر مبتدا با خبر صلہ موصول بصلہ  
 معطوف، معطوف علیہ با معطوف بحر و جار بحر و اکتب کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و معقول یہ و متعلق ہلہ فعلیہ خبریہ متناہ ہوں۔

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
 وَ الْاِنْجِيْلِ يُاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ  
 يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ  
 قَالِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النَّوْرَ الَّذِيْ اُنزِلَ مَعَهُ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُوْنَ ﴿٥٧﴾

آیت نمبر ۵۷: الذین اسم موصول یتبعون فعل داؤ ضمیر فاعل الرسول کئی مفت اولی الامی مفت ثانیه الذی اسم  
 موصول یتقون فعل داؤ ضمیر فاعل ضمیر معقول یہ اول مکتوبا اسم معقول هو مستتر جب قائل عندهم مرکب انسانی معقول فی





یَا مُعِیرِ اس کا اسم و رسول یعنی اسم مفعول مضارع اللہ مضارع الیہ الائنکُم جہا بجز متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء، نداء با جواب نداء مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

جینے کا معنی مُجْتَبِعُونَ کے ہو کر الائنکُم کی کُفُ ضمر سے حال ہے الذی اسم موصول لہ طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم ملکہ مضارع السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضارع الیہ، مرکب انشائی مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مبدل منہ، لآلہ الاھو کی ترکیب متحدہ ہرگز رکھی ہے یہ پہلا بدل ہے، یعنی فعل ہو مستقر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفی یُنِیْتُ فعل ہو مستقر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بدل ثانی مبدل منہ بدلین لفظ اللہ کی صفت ہے۔

قَالَ نسیب اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانِ الْأَمْرُ كَذَا لَكَ، يَا اِنَّ اُرْتُدُّكُمْ الْهَدَايَةَ وَالْفَوْزَ بِالْحَقِّ اَمْ يَتَوَا اَصْل امر واو ضمیر قائل تاء جارہ اللہ معطوف علیہ، واو عاطفی رسولیہ مرکب انشائی موصوف الکنی صفت اولی الامر صفت ثانی الذی اسم موصول یُنِیْتُ فعل ہو مستقر قائل تاء جارہ لفظ اللہ معطوف علیہ، واو عاطفی کَمَا یَرٰہِ مرکب انشائی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جارہ بجز متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ صفت ثالث، موصوف با صفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جارہ بجز متعلق ہوئے، فعل امر با قائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفی اَتَّبِعُوا اَصْل امر واو ضمیر قائل تاء جارہ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط محذوف کی جزام ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں لکن حرف ترمی کُفُ ضمر اس کا اسم تَهْتَدُونَ فعل واو ضمیر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر لکن با اسم و خبر جملہ انشائیہ راجعی الإیعتاد او کی تینوں میں ہو کر اَتَّبِعُوا کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤَسَّىٰ أُمَّةً يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۵۹﴾

آیت نمبر ۱۵۹: واو عاطفی من جارہ قَوْمٍ مؤسسی جارہ مرکب انشائی مجرور، جارہ بجز طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم اُمَّةٌ موصوف یَّهْدُونَ فعل واو ضمیر قائل بِالْحَقِّ جارہ بجز متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفی بہ جارہ بجز متعلق مستقر یَّهْدُونَ فعل واو ضمیر قائل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صفت، موصوف با صفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوا۔

وَقَطَّعْنَهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ سَبَاكًا اُمَّمًا ذُو اَوْحَيْنَا اِلٰى مُؤَسَّى اِذِ اسْتَسْقَمَهُ قَوْمُهُ اَنْ اَضْرِبَ بَعْصَاكَ الْحَجَرِ فَالْتَبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اِنْسَانٍ مَّشْرَبَهُمْ ذُو كَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَالزَّلْنَا عَلَيْهِمُ السَّنَّ وَالسَّلْوٰى كَلُّوا مِنْ طَيِّبَتٍ مَا رَزَقْنٰكُمْ ذُو مَا كَلَّمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾

**آیت نمبر ۶۰** وَاَوْاسِيَا فِي قَتْلَانَا فِي مَكْرِ قَوْمِكُمْ فَاعْتَبِرْ يَحْيٰى بَدَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْبُدُوْنَ ۗ اِنَّهُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُوْنَ  
 مبدل منہ با بدل مبدل منہ ازل کا بدل، مبدل منہ با بدل حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَوْ حَيْثُ مَا فَعَلَ اِنَّا صَمِيرًا قائل الیٰی مُؤْمِنِيْ جَدًا بِجَرٍّ وَّ عَرْفٍ لِّقَوْمٍ مُّتَعَلِّقٍ ہُوئے اِذَا مَضٰى مَضٰى اِسْتَنْسَفِيْ لَعَلَّ نَا صَمِيرًا مفعول بہ قَوْمُهُ مرکب اضافی قائل، تینوں مل کر مضاف الیہ، مرکب اضافی اَوْ حَيْثُ مَا فَعَلَ کا مفعول بہ، اَنّ حرف مصدریہ اِضْرَابِ لَعَلَّ امر آتت مشتق قائل بآء جَدہ حَصَاکَ مرکب اضافی جَرٍّ وَّ عَرْفٍ جَدًا بِجَرٍّ وَّ عَرْفٍ ہُوئے اَلْحَجَّوْ مفعول بہ، چاروں مل کر تینوں مصدر منصوب بزجر الخافض اَوْ حَيْثُ مَا فَعَلَ کے متعلق ثانی ہُوئے، فعل با قائل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔  
 قاء عاطفہ معطوف علیہ مخدوف ہے فَصَوَّبَ اِنَّہٗ جَسَسَتْ لَعَلَّ صِنْدًا جَدًا بِجَرٍّ وَّ عَرْفٍ متعلق ہُوئے اِذْ اَلْقَيْنَا عَشْرَةَ مَرْكَبٍ بَنٰی مِيز حَيْثُ مَا تَمِيز، مِيز یا تَمِيز قائل، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے قَدْ عَلِمْتَ لَعَلَّ عَلِمَ لَعَلَّ اَنْ تَاْسِيْ مَرْكَبٍ اِسْطِیْ قائل عَشْرَةَ مَرْكَبٍ اِسْطِیْ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ فَكَلَّمْنَا لَعَلَّ نَا صَمِيرًا قائل عَلَيْنَهُمْ جَدًا بِجَرٍّ وَّ عَرْفٍ ہُوئے اَلْعَمَاةَ مفعول بہ، چاروں مل کر معطوف اول، واو عاطفہ اَلْوَلٰٓئِقَ لَعَلَّ نَا صَمِيرًا قائل عَلَيْنَهُمْ جَدًا بِجَرٍّ وَّ عَرْفٍ ہُوئے اَلْمَنّٰ وَ السَّلٰوٰی مفعول علیہ با معطوف اَلْوَلٰٓئِقَ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہوں۔

كُلُّوا فَعَلَ اَمْرًا وَّ صَمِيرًا قائل مِنْ جَدہ كَلِمَاتٍ مَضٰى مَا مَوْصُوْلہ رَزَقْنَا فَعَلَ نَا صَمِيرًا قائل كُمْ صَمِيرًا مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ جَرٍّ وَّ عَرْفٍ جَدًا بِجَرٍّ وَّ عَرْفٍ متعلق ہُوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ قول مخدوف کا مقولہ ہے، قول یا مقولہ اَلْوَلٰٓئِقَ کی صَمِيرًا قائل سے حال ہے وَاَوْاسِيَا مَنَا فِيْ كَلْمَا فَعَلَ وَاَوْاسِيَا قائل نَا صَمِيرًا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں، واو حالہ لیکن حرف استدراک کھل کُلُّوا فَعَلَ نَا قَصٍ وَاَوْاسِيَا قائل نَا صَمِيرًا مفعول بہ، تینوں مل کر مقدمہ كَلْمَا فَعَلَ وَاَوْاسِيَا قائل و مفعول بہ مقدم سے مل کر خبر، فعل نَا قَصٍ با م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ كَلْمَا کی صَمِيرًا قائل سے حال ہے۔

وَ اِذْ قَبِلْتُمْ لَهُمُ اسْكُنُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كَلُّوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَاَسْأَلُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا اِلٰهًا غَيْرًا مِّمَّا عْبَدْتُمْ ۗ اِنَّكُمْ لَعٰمِلُوْنَ ۙ  
**آیت نمبر ۶۱** وَاَوْاسِيَا فِيْ رَاٰى عَرَفَ زَمَانَ مَضٰى قَبِلْتُمْ لَهُمُ اسْكُنُوا فَعَلَ اَمْرًا وَّ صَمِيرًا قائل مِنْ جَدہ كَلِمَاتٍ مَضٰى مَا مَوْصُوْلہ رَزَقْنَا فَعَلَ نَا صَمِيرًا قائل كُمْ صَمِيرًا مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ جَرٍّ وَّ عَرْفٍ جَدًا بِجَرٍّ وَّ عَرْفٍ متعلق ہُوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ قول مخدوف کا مقولہ ہے، قول یا مقولہ اَلْوَلٰٓئِقَ کی صَمِيرًا قائل سے حال ہے وَاَوْاسِيَا مَنَا فِيْ كَلْمَا فَعَلَ وَاَوْاسِيَا قائل نَا صَمِيرًا مفعول بہ، تینوں مل کر مقدمہ كَلْمَا فَعَلَ وَاَوْاسِيَا قائل و مفعول بہ مقدم سے مل کر خبر، فعل نَا قَصٍ با م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ كَلْمَا کی صَمِيرًا قائل سے حال ہے۔

وَ اِذْ قَبِلْتُمْ لَهُمُ اسْكُنُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كَلُّوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَاَسْأَلُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا اِلٰهًا غَيْرًا مِّمَّا عْبَدْتُمْ ۗ اِنَّكُمْ لَعٰمِلُوْنَ ۙ  
**آیت نمبر ۶۲** وَاَوْاسِيَا فِيْ رَاٰى عَرَفَ زَمَانَ مَضٰى قَبِلْتُمْ لَهُمُ اسْكُنُوا فَعَلَ اَمْرًا وَّ صَمِيرًا قائل مِنْ جَدہ كَلِمَاتٍ مَضٰى مَا مَوْصُوْلہ رَزَقْنَا فَعَلَ نَا صَمِيرًا قائل كُمْ صَمِيرًا مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ جَرٍّ وَّ عَرْفٍ جَدًا بِجَرٍّ وَّ عَرْفٍ متعلق ہُوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ قول مخدوف کا مقولہ ہے، قول یا مقولہ اَلْوَلٰٓئِقَ کی صَمِيرًا قائل سے حال ہے وَاَوْاسِيَا مَنَا فِيْ كَلْمَا فَعَلَ وَاَوْاسِيَا قائل نَا صَمِيرًا مفعول بہ، تینوں مل کر مقدمہ كَلْمَا فَعَلَ وَاَوْاسِيَا قائل و مفعول بہ مقدم سے مل کر خبر، فعل نَا قَصٍ با م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ كَلْمَا کی صَمِيرًا قائل سے حال ہے۔

کامضاف الیہ مرکب انشائی فعل مخدوف مذکور کا مفعول فیہ تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہوں۔ سین علامت فعل تَنْزِيْلُ فعل ماضی متستر  
فَاعِلُ الْمُحْسِنِيْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**قَبَدَالَّذِيْنَ كَلَّمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ يَظْلِمُوْنَ ﴿٦٦﴾**

**آیت نمبر ۶۶:** فَاَوْعَظُوْا الَّذِيْنَ اَسْمَ موصول مَلَكُوْا فاعِل وَاَوْعِظُ فاعِل سے مل کر صلہ موصولہ بابت ذوالحال مِنْهُمْ طرف متعلق مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال فاعل قَوْلًا موصوفہ غَيْرُ مضاف الَّذِيْنَ اسم موصول قِيْلَ فعل مجہول ہو متستر نائب فاعل لَهُمْ جدا بجزر متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ موصولہ بابت مضاف الیہ مرکب انشائی قَوْلًا کی صفت، موصوفہ ہفت بَدَل کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مقام عاظُوا اَرْسَلْنَا فعل ناقص فاعل عَلَيْهِمْ جدا بجزر متعلق ہوئے رِجْزًا موصوفہ مِنَ السَّمَاوَاتِ طرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہفت مفعول بہ بابت جدا ہمتا مصدر یہ کا نوا فعل ناقص وَاَوْعِظُ اسم کا اسم بظلمُوْنَ فعل با وَاَوْعِظُ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتدوین مصدر بجزر، جدا بجزر متعلق مانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف قِيْلَ پر معطوف ہے۔

﴿ ۶۶ ﴾ رکوع نمبر ۲۱

**وَسَلَّمُوْهُم مِّنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةً اَلْبَحْرِ مَادَّيْعُدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيَهُمْ  
حِيْتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ اِلَّا تَاْتِيَهُمْ ؕ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا  
كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٦٧﴾**

**آیت نمبر ۶۷:** وَاَوْعَظُوْا اِسْتَلَمَ فعل امر اَنْتَ مَسْتَرَفِ فاعِل هُمْ ضمیر مفعول بہ عن جدا القَرْيَةِ موصوفہ الَّتِي اسم موصول كَانَتْ فعل ناقص ہی مستقر اسم حَاضِرَةً اَلْبَحْرِ مرکب انشائی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ موصولہ بابت مضاف ہفت بجزر، جدا بجزر طرف لغز استلَمَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امر یہ ہوں۔ اِذْ طرف زمان مضاف يَعُدُوْنَ فعل وَاَوْعِظُ فاعِل فِي السَّبْتِ جدا بجزر متعلق ہوئے۔ اِذْ مضاف تَاْتِيْ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ حِيْتَانَهُمْ مرکب انشائی فاعل اور شُرْعًا اس سے حال ہے۔ يَوْمَ سَبْتِهِمْ مرکب انشائی مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ وَاَوْعِظُ فاعِل وَاَوْعِظُ فاعِل سے مل کر مضاف الیہ، مرکب انشائی مفعول فیہ مقدم، لَا تَاْتِيْ فعل ہی مستقر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، یہاں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف معطوف علیہ بمعطوف اِذْ کامضاف الیہ، مرکب انشائی يَعُدُوْنَ کا مفعول فیہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف ہفت مضاف الیہ حَاضِرَةً اَلْبَحْرِ کا مفعول فیہ ہے۔ كَذٰلِكَ طرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوفہ مخدوف بلام کے مفعول مطلق مقدم نَبْلُوْ فعل ماضی متستر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بابت جدا ہمتا مصدر یہ کا نوا فعل ناقص وَاَوْعِظُ اسم کا اسم بظلمُوْنَ فعل با وَاَوْعِظُ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتدوین مصدر بجزر، جدا بجزر متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ و مفعول مطلق

جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا يَّأْتِيهِمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مُّهِينٍ أَوْ مَعَذِبُهُمْ عَذَابًا بَآشِيدًا إِذْ قَالُوا أَمْعِذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۲۳﴾

**آیت نمبر ۱۲۳:** اووا عطفہ از مضاف قَالَتْ لعل اُمَّةٌ موصوفہ حیثہم عطفہ ظرف مستقر کا ذیقہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہا صفت قائل، فعل یا قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول بلکہ یہ اصل میں ایسا ہے کہ ہر جملہ عطفہ استقبالیہ عطفہ مجرور، جار یا مجرور متعلق مقدم ہوں تَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر قائل قَوْمًا موصوفہ اللہ مبتدأ مہلکھم مرکب انسانی معطوف علیہ، اووا عطفہ معذیب اسم قائل ہم ضمیر مضاف الیہ، عَذَابًا بَآشِيدًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ قَوْمًا مآل صفت، موصوفہ ہا صفت تَعْبُدُونَ کا مفعول بہ، فعل یا قائل و مفعول بہ و متعلق مقدم جملہ انشائیہ مقولہ، قول مقولہ از کا مضاف الیہ، مرکب انسانی معطوف ہر اذ یَعْبُدُونَ ہا قائل واو ضمیر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول مَعَذِرَةٌ مصدر لانی رَبِّکُمْ جار یا مجرور متعلق ہوئے، مصدر ہا متعلق معطوف علیہ، اووا عطفہ لکل حرف تہنئ ہم ضمیر اس کا اسم یَتَّقُونَ لعل واو ضمیر قائل سے مل کر خبر لعل ہا اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مفعول لہ ہوا فعل مرفوع و عَطَفْنَا کما، فعل یا قائل و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بَیِّنٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۲۴﴾

**آیت نمبر ۱۲۴:** فآء استثنائی لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم نَسُوا لعل واو ضمیر قائل مآل اسم موصول ذُكِّرُوا لعل مجہول واو ضمیر تائب قائل پہ جار یا مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول تائب قائل و متعلق صلوہ، موصول ہاسلہ مفعول بہ، فعل یا قائل و موصولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط اَنجَيْنَا لعل نا ضمیر قائل الَّذِينَ اسم موصول یَنْهَوْنَ لعل واو ضمیر قائل عَنِ السُّوءِ جار یا مجرور متعلق ہوئے، فعل یا قائل و متعلق صلوہ، موصول ہاسلہ اَنجَيْنَا کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اووا عطفہ اَخَذْنَا لعل نا ضمیر قائل الَّذِينَ اسم موصول فَكَلَّمُوا لعل ہا واو ضمیر قائل صلوہ مجہول ہاسلہ مفعول بہ بناء جار عطفہ بِعَدَابٍ بَیِّنٍ مرکب توصیفی مجرور، جار یا مجرور متعلق اول ہوئے بناء جار ماصدریہ کَانُوا لعل نا ضمیر واو ضمیر اسم یَفْسُقُونَ لعل ہا واو ضمیر قائل خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر بتول مصدر مجرور، جار یا مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل یا قائل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۱۲۵﴾

**آیت نمبر ۱۲۵:** فآء عطفہ لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم عَتَوْا لعل واو ضمیر قائل عَنِ جار مآل اسم موصول نُهُوا لعل مجہول واو ضمیر تائب قائل عَنْهُ جار یا مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلوہ، موصول ہاسلہ مجرور، جار یا مجرور عَتَوْا کے متعلق ہوئے، فعل

باقاعل و متعلق و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرطاً قُلْنَا لَنْ نَأْتِيَ نَاعِلًا مِّنْهُمُ جَدًّا جملہ باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر قول، كُونُوا لَنْ نَأْتِيَ نَاعِلًا مِّنْهُمُ جَدًّا کا اسم خبریہ مرکب توسیعی خبری، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرطاً با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَ اِذْ تَاَذَنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُوءُهُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ طَرَانٌ رَبِّكَ لَسَرِيْعَ الْعِقَابِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

**آیت نمبر ۱۶:** اوواو اعطف اذ مضاف تاکلن فعل ربک مرکب انشائی قاعل، دووں مل کر مضاف علیہ، مرکب انشائی فعل مقدر اذکر کا مفعول فیہ ہے اور اذکر کا سلفہمہ عطف ہے لاکہ جو ایہ اس لئے کہ تاکلن سے قسم سمجھی جاتی ہے یبعثن فعل ہو مستتر قاعل علیہم جدا باجرور متعلق اول ہوئے الی جدا ہیوم القیامۃ مرکب انشائی جبرور جدا باجرور متعلق ثانی ہوئے، عن اسم موصول یسوءم فعل ہو مستتر قاعل ہڈ ضمیر مفعول بہ سوء العذاب مرکب انشائی مفعول بہ ثانی، فعل با قاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصل یبعثن کا مفعول بہ، فعل با قاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب ہے، ان حرف تحقیق ربک مرکب انشائی اس کا اسم لاکہ مطلقہ سریع العیب مرکب انشائی خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ اوواو اعطف ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لاکہ مطلقہ عفور رحیم و خبر بان با اسم و خبرن جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلقہ ہو۔

وَ قَطَعْنَهُمْ فِی الْاَرْضِ اَمَمًا مِّنْهُمْ الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنْهُمْ ذُوْنَ ذٰلِكَ وَ بَكَوْا نَهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّیِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۸:** اوواو اعطف قطفنا فعل ناقص خبری قاعل ہڈ ضمیر مفعول بنی الارض جدا باجرور متعلق ہوئے، جدا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو۔ امما موصوفہ ہڈ طرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کہ خبر مقدم، الصالحوں مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ اوواو اعطف ہڈ طرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کہ خبر مقدم، ذون ذالک مرکب انشائی بواسطہ موصوفہ مخدوف تاکلن کے مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف امما کی صفت، موصوفہ ہفت قطفنا لکھنی ضمیر مفعول سے حال ہے اوواو اعطف بکوا فعل ناقص خبری قاعل ہڈ ضمیر مفعول بہ بئام جاہ الحسنات و السیئات معطوف علیہ با معطوف جبرور، جدا باجرور متعلق ہوئے، فعل با قاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قطفنا پر معطوف ہے لعل حرف ترمی ہڈ ضمیر اس کا اسم یزجعون فعل ناقص خبری قاعل سے مل کر خبر لعل با اسم و خبر جملہ انشائیہ واسطی الوجود کی جدولیں ہو کہ بکوا کی ضمیر قاعل سے حال ہے۔

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتٰبَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الَّا ذٰلِیْ وَ یَقُولُوْنَ سِیْغَرُ لَنَا وَاِنْ یَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ یَأْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْهِمْ مِثْلَ مَاۤی الْكِتٰبِ اَنْ لَا یَقُولُوْا عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ وَ دَرَسُوْا مَا فِیْهِ ؕ وَ الدّٰرُ الْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّلدّٰیْنِ

**يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۰﴾**

**آیت نمبر ۶۹** اَفَلَا تَعْقِلُونَ فعل من بعدہ ظرف مستقر کا کثرتا کے متعلق ہو کر حال مقدم خلف موصوفہ سورہ نواصل واو ضمیر قائل الکتاب مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت اولیٰ یأخذون فعل واو ضمیر قائل عرض مضاف ہذا الذاکریٰ مرکب توصیفی مضاف الیہ مرکب اضافی مفعول بہ فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَقُولُونَ فعل باو واو ضمیر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول مسیون، علامت فعل یَقْفُوْا فعل مجہول لکنا جاہد باجرور لغاںم فروع ہاجب قائل، دونوں مل کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف معطوف علیہ با معطوف خلف کی صفت ثانیہ موصوفہ با مستقیم ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال خلف کا قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔

واو حالہ ان حرف شرطیات فعل ہضم ضمیر مفعول بہ عرض موصوفہ جملہ مرکب اضافی صفت، موصوفہ با صفت قائل، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ یأخذون فعل واو ضمیر قائل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جزاء شرطیہ باجزاء جملہ شرطیہ یَقُولُونَ کی ضمیر قائل سے حال ہے ہمدہ حرف استفہام اَمْ یُؤْخَذُ فعل مجہول علیہم جاہد باجرور متعلق ہوئے ہیں ثانی الکتاب مرکب اضافی ہاجب قائل ان حرف مصدری و نصب لا یَقُولُوا فعل واو ضمیر قائل علی اللہ جاہد باجرور متعلق ہوئے، الا حرف استثناء الحقیق موصوفہ مخدوف لَقَوْلِ کے واسطہ سے مفعول مطلق، فعل با قائل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ بتداول مصدر لَمْ یُؤْخَذُ کا مفعول بہ، فعل مجہول ہاجب قائل و متعلق و مفعول بہ لَمَّا جملہ انشائیہ معنی جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کوسنوا فعل واو ضمیر قائل ما اسم موصول فیہ طرف مستقر ثبت کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ کوسنوا کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

واو استفہامیہ الذاکر الاخریٰ مرکب توصیفی مبتدأ خبریہ اسم تفضیل ہی مستقر قائل لاکر جاہد الذین اسم موصول یَتَّقُونَ فعل واو ضمیر قائل سے مل کر صلہ موصول باصلہ طرف لغو متعلق ہوئے، اسم تفضیل با قائل و متعلق شہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو لہمدہ حرف استفہام اَفَلَا معطوف اور معطوف علیہ مخدوف ہے تَعْقِلُونَ، لا تَعْقِلُونَ فعل باو واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ ہو۔

**وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نَضِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۷۱﴾**

**آیت نمبر ۷۰** اِنَّا لَا نَضِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِينَ اسم موصول یَمْسِكُونَ فعل واو ضمیر قائل با الکتاب جاہد باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَقَامُوا فعل واو ضمیر قائل الصلوة مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ ان حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم لا نضیع فعل نھن مستقر قائل اَجْرَ الْمُصْلِحِينَ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

**وَ اِذْ تَتَّقَنَا الْجِبَلِ فَوْقَهُمْ كَالْهَلَّةِ وَ كُنَّا اَنْهَ وَاَقْبَعِ بِهِمْ حُخْدًا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ**

وَإِذْ كُرِّمُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥﴾

**آیت نصب** انا واولادنا واولادنا مضافاً لتَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل فَوَقَّهْمُ مرکب انسانی مفعول فی الْجَبَلِ ذوالحال كَانَ حرف تشبیہ تا ضمیر اس کا اسم کَلَّمَةُ خبر كَانَ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال اولیٰ واولاد علیہ کَلَّمُوا فعل وادو ضمیر قائلان حرف تحقیق تا ضمیر اسم واقع اسم فاعل هُوَ مستتر قائل بیہم جد باجر و متعلق ہوئے تینوں مل کر خبر ان با اسم و خبر بتبادل مفرد کَلَّمُوا کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با قائل و مفعولین حال دوم ذوالحال با ملین تَتَّقْنَا کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول برباد کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فعل مخدوف اذْکُرُوا کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ سألہم بہ معطوف ہے خُذُوا فعل وادو ضمیر قائل مع اسم موصول اَنْتُمْ تَنَا فعل نا ضمیر قائل کُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ موصول باصلہ مفعول بہ بِیَقْوَةِ لَظْفٍ مستقر عازمین کے متعلق ہو کر خُذُوا کی ضمیر قائل سے حال ہے، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہوا واولاد اذْکُرُوا فعل امر وادو ضمیر قائل مع اسم موصول فیئہ طرف مستقر فعل مخدوف کَسَبْتَ کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متعلقہ ہوں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ با اسم و خبر راجعی التَّقْوَى کی تائید میں ہو کر اذْکُرُوا کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

●●● رکوع نمبر ۲۳ ●●●

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٦﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ فَاتَّهَلَّكُنَا بِمَا فَعَلَ

الْمُبْطِلُونَ ﴿٦﴾

**آیت نصب** ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰ اور استہزیاء طرف نان مضافاً أَخَذَ فعل رَبُّكَ مرکب انسانی فاعل میں جاہہ بَنِي آدَمَ مرکب انسانی مجرور، جد باجر و مبدل منہ میں جاہہ ظُهُورِهِم مرکب انسانی مجرور، جد باجر و مبدل مبدل منہ با بدل متعلق ہوئے ذُرِّيَّتَهُمْ مرکب انسانی مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا واولاد اَشْهَدُوا فعل نا مفعول بہ علی أَنفُسِهِمْ جد باجر و متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اذْکُرُوا کا مضاف الیہ، مرکب انسانی فعل مخدوف اذْکُرُوا کا مفعول بہ ہے ہمزہ حرف استفہام أَلَسْتُ فعل ناقص تاء مضمومہ اسم جاہہ ناکر ذُرِّيَّتَهُم مرکب انسانی معاً منصوب خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ ہو کر قائلہ مخدوف کا متعلق، قول با متعلق اَشْهَدُوا کی ضمیر قائل سے حال ہے قَالُوا فعل وادو ضمیر قائل یعنی حرف ایجاب غیر عامل متعلق مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شَهِدْنَا فعل نا ضمیر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

آن حرف مصدری و نصب تَقُولُوا فعل وادو ضمیر قائل یَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب انسانی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول اِنَّ حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم کُنَّا فعل ناقص تا ضمیر اس کا اسم عَنْ هَذَا جد باجر و متعلق مقدم ہوئے غَافِلِينَ اسم فاعل لَنْ حُضُنْ مستتر

فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلق، قول با مقولہ معطوف علیہ، او حرف عطف تَقْوُوا فاعل با و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول با ن حرف تحقیق تَقْوُوا مَا كَانُوا يَتَّقُونَ فاعل با و ضمیر فاعل جملہ اسمیہ خبریہ اِشَانِي فاعل با و ضمیر فاعل جملہ اسمیہ خبریہ متعلق، ہو کر حال، نداء لہا لہا با حال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عطف کُنَّا فاعل ناقص تا ضمیر اس کا اسم ذمّیۃ موصوفہ مِنْ بَعْدِهِمْ ظرف مستقر کَانَتْ كَ تعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با مقولہ بتولید مصدر بواسطہ مضاف مخدوف كَرَاهَةً کے معقول لہ ہے فعل مخدوف فَعَلْنَا كَالِكَا هَمْزہ حرف استفہام فاعل معطوف علیہ مخدوف ہے تَعَلَّى بِنَا شَهْلَكُ فاعل اکت مستقر فاعل تا ضمیر معقول بہ، بہام جارہ ما مصدریہ فَعَلَّ فاعل اَلْبَيْطِلُونَ فاعل، دونوں مل کر بتولید مصدر مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے، پاروں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف با مقولہ جملہ متانفہ ہوں۔

**وَ كَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَاتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۷۰﴾**

**آیت نمبر ۷۰:** او عطف کَذَلِكَ ظرف مستقر کَانَتْ كَ تعلق ہو کر بواسطہ موصوفہ مخدوف تَقْوُوا فَصِيلاً کے معقول مطلق مقدم لَقُصِّ لُ فاعل تَحْنِ مستقر فاعل الْأَيَاتِ معقول بہ، پاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ او عطف اور معطوف علیہ مخدوف ہے لِيَتَذَكَّرَ وَاوَّالآر جارہ برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَتَذَكَّرُوا فاعل با و ضمیر فاعل بتولید مصدر مجرور، جارہ مجرور معطوف علیہ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با مقولہ لَقُصِّ لُ کے متعلق ہوئے۔

**وَ اِثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿۷۱﴾**

**آیت نمبر ۷۱:** او استیغریہ اِثْلُ فاعل امر اکت مستقر فاعل عَلَيْهِمْ جارہ مجرور متعلق ہوئے نَبَأَ مضاف الَّذِي اسم موصول اِثْلُنَا فاعل تا ضمیر فاعل ہ ضمیر معقول بہ اول یا یا تکرار کرب اشانی معقول بہ ثانی، پاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاعل عطف اسْلَخَ فاعل ہو مستقر فاعل و نَبَأَ جارہ مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فاعل عطف اَلْجَمْعِ فاعل ہ ضمیر معقول بہ اَلشَّيْطَانُ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، فاعل عطف كَانَ فاعل ناقص ہو مستقر اس کا اسم مِنْ الْغَاوِينَ ظرف مستقر کَانَتْ كَ تعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با مقولہ ثالثا الَّذِي اسم موصول باصل نَبَأَ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معقول بہ اِثْلُ کا، فعل با فاعل و متعلق و معقول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

**وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهَا وَ يَهَا وَ لَكِنَّهَا أَخْلَدَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَهَا هُوتٌ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷۲﴾**

**آیت نمبر ۷۲:** او عطف لَوْ ظرفیہ شِئْنَا فاعل تا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لآرہ جوابیہ رَفَعْنَا فاعل تا ضمیر فاعل ہ



ضمیر ذوالحال واو عالیہ لیکن حرف استراک ؕ ضمیر اس کا اسم اُخْلَدَ فعل ہو مستتر قائل الی الأَرْضِ جدا بحر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ اُتْبِعَ فعل ہو مستتر قائل ہوا ؕ مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ واو عاطفہ خبر لیکن ؕ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مفعول پہنچا جدا بحر و متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاہ، شرط با جزاہ جملہ شرطیہ ہو کر کائنات مِنَ الْعَالَمِينَ پر معطوف ہے۔

فَاھ ضمیر اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَتْ سَائِلَةٌ كَذَلِكَ مَثَلُهُ مرکب انشائی مبتدأ مکاف جادہ مَثَلٌ مضاف اَلْكَلْبِ ذوالحال اِنْ حرف شرط تَحْمِيلٍ فعل آت مستتر قائل عَلَيَّہِ جدا بحر و ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، بِأَهْتَقَ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر جزاہ، شرط با جزاہ جملہ شرطیہ معطوف علیہ واو عاطفہ حرف شرط مقدم ہے تینوں مل کر آت مستتر قائل ؕ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، بِأَهْتَقَ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر جزاہ، شرط با جزاہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَلْكَلْبِ کا حال ہے، ذوالحال باحال مَثَلٌ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بحر و جدا بحر و کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاہ، شرط محذوف با جزاہ جملہ شرطیہ ہوا۔

ذَلِكَ اسم اشارة مبتدأ مَثَلٌ مضاف الْقَوْمِ موصوف الذِّئْبِ اسم موصول كَذَّبُوا فعل واو ضمیر قائل بِأَيَّتِنَا ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مرکب انشائی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فَاھ ضمیر اور شرط محذوف ہے اِذَا كَتَفَقَّتْ اَنَّ الْمَكَلَّ الْمَذْكُورُ مَثَلٌ هُوَ الْاَلِ الْمَذْكُورِ بِئِنَّ، اِذَا كَرَّذَتْ وَغَطَّ الْقَوْمِ اَلْهَضْبُ فعل امر آت مستتر قائل اَلْهَضْبُ مفعول بہ، تینوں مل کر جزاہ، شرط با جزاہ جملہ شرطیہ ہوا لَعَلَّ حرف ترمیمی هُنَّ ضمیر اس کا اسم بِكَفَّؤْنَ فعل ہوا و ضمیر قائل خبر، لَعَلَّ ؕ اسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر تینوں مل کر تینوں مل کر تَفَكَّرُوا فِيْهِمْ اَلْهَضْبُ کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلَمُونَ ۝

آیۃ نمبر ۷۷ ساءَ فعل الذم ہو مستتر ضمیر مَثَلًا تہیز، میز یا تہیز قائل، فعل با قائل جملہ انشائیہ خبر مقدم الْقَوْمِ موصوف الذِّئْبِ اسم موصول كَذَّبُوا فعل واو ضمیر قائل بِأَيَّتِنَا جدا بحر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ اَلْأَنْفُسُهُمْ مرکب انشائی یظلمون کا مفعول بہ مقدم ہے کائنات فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یظلمون فعل واو ضمیر قائل و مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ موصول با صلہ الْقَوْمِ کی صفت، موصوف با صفت مخصوص بالذم مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متعلق ہوا۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيٌّ ۙ وَمَنْ يُضِلِّكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

آیۃ نمبر ۷۸ مَنْ شرط مفعول بہ مقدم، يَهْدِيْ اصل میں يَهْدِيْ ہے فعل لفظ اَللَّهِ قائل، تینوں مل کر شرط عقابہ جزاہ ہو ضمیر مبتدأ الْمُهْتَدِيٌّ اسم قائل ہو مستتر قائل سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جزاہ، شرط با جزاہ معطوف علیہ واو عاطفہ مَنْ اسم شرط مفعول بہ، مقدم يَضِلُّكَ فعل ہو مستتر قائل و مفعول بہ مقدم سے مل کر شرط عقابہ جزیائی اُولَٰئِكَ اسم اشارة مبتدأ هُمْ ضمیر فصل الْخَاسِرُونَ خبر،

مبتدا باخر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء معطوف، معطوف علیہ با معطوف، جملہ متانفہ ہوں

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وَ لَهُمْ  
 آعِينٌ لَا يُصِروْنَ بِهَا، وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وَ لَكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَنَّهُمْ  
 أَصْلًا، وَ لَكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۷﴾

**آیت نمبر ۷** ۷۹ واو عطفہ لامر موصوفہ القوم اور قسم محذوف ہے۔ قد علامت فعل ذکر انما فعل ناقصیر قائل لَجَهَنَّمَ جہا بجزء متعلق ہوئے کثیرًا موصوفہ جن جہادہ الْجِنِّ وَالْإِنسِ معطوف علیہ با معطوف خبر ہوں، جہا بجزء متعلق کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہفت ذوالحال لَہُمْ جہا بجزء طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم قُلُوبٌ موصوفہ لَا يَفْقَهُونَ فعل واو ضمیر قائل یہا متعلق سے مل کر قُلُوبٌ کی صفت، موصوفہ ہفت مبتدا مؤخر، مبتدا باخر معطوف علیہ، واو عطفہ لَہُمْ آعِينٌ لَا يُصِروْنَ یہا مبتدا باخر معطوف اول، واو عطفہ لَہُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ یہا مبتدا باخر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کثیرًا اسے حال ہے، ذوالحال باحال ذکر انما کا مفعول ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں، اُو لَئِكَ اسم اشارہ مبتدا کا لَاعْتَامٌ جہا بجزء طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، بَلَنَّهُمْ ضمیر مبتدا آخِلُّنَّ اسم تفضیل ہُوْ مُستقر قائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں اُو لَئِكَ اسم اشارہ مبتدا ہُوْ ضمیر فعل ہے الْعَافِلُونَ خبر، مبتدا باخر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وَ سَيُجْزَوْنَ  
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸﴾

**آیت نمبر ۸** ۸۰ واو اشارہ خبریہ للذ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا باخر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں، فاء نصیر اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَكْمَرُ كَذَابًا، يَأْتِيكَ دَعْوَةٌ مِّنْهُ، وَادْعُوهُ بِهَا، وَادْعُوا الضَّلَّالَ ضَمِير قائل ضمیر مفعول ہے یہا جہا بجزء طرف متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عطفہ ذَرُوا الضَّلَّالَ امر واو ضمیر قائل الَّذِينَ اسے موصول یُلْحِدُونَ فعل واو ضمیر قائل فِي الْأَسْمَاءِ جہا بجزء طرف متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول ہے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں، سین علامت فعل یُلْحِدُونَ فعل مجہول واو ضمیر تاجب قائل مَا اسے موصول کَانُوا الضَّلَّالَ فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَعْمَلُونَ فعل باو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا اسے و خبر صلہ، موصول باصلہ یُجْزَوْنَ کا مفعول ہے، فعل مجہول ہا تاجب قائل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَمِنَ خَلْقِنَا أُمَّةٌ يُهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُونَ ﴿۹﴾

**آیت نمبر ۹** ۸۱ واو عطفہ جن جہادہ مِّن موصول خَلْقِنَا فعل ناقصیر قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ جہادہ بجزء طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم أُمَّةٌ يُهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُونَ مبتدا مؤخر، مبتدا باخر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں اور اس کی ترکیب

آیت نمبر ۱۵۹ میں دیکھئے

● رکوع نمبر ۲۳ ●

**وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَتَسْتَدِرُّ جُنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۵۹﴾ وَ أَصْلُ لَهُمْ طِرَانٌ**

**کِنْدِي مَتِينٌ ﴿۱۶۰﴾**

**آیت نمبر ۱۵۹، ۱۶۰** اور آیت اخیر الذین اسم موصول کذبوا فعل واو ضمیر قائل یا یا یا کیا جا رہا مجروح متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ موصول باسلہ مبتدایہ سبب علامت فعل استدرج فعل لکن مستتر قائل ہضم ضمیر مفعول بہ، ومن جہادہ حقیقت مضاف لا یعلمون فعل ہاواو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف علیہ مرکب اضافی مجروح، جہادہ مجروح مستدرج کے متعلق ہوئے، فعل ہاواو مفعول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطف املی فعل آکا مستتر قائل لہم جہادہ مجروح متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف معطوف علیہ بمعطوف خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہولان حرف تحقیق کندی مرکب اضافی منصوب تقدیر اسم متین خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

**أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۱۶۰﴾**

**آیت نمبر ۱۶۰** ۱۶۰: ۱۶۰: ۱۶۰: حرف استہمام واو عطف اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَمْ يَتَفَكَّرُوا فعل واو ضمیر قائل متانفہ یا ہ جہادہ صاحبہم مرکب اضافی مجروح، جہادہ مجروح طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم ومن جہادہ نامذہب جنۃ کفار فرج مبتدایہ خبر، مبتدایہ خبر مضافا منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانفہ ہولان تا یہ ہو ضمیر مبتدایہ اولا حرف استہمام لَمْ يَتَفَكَّرُوا مبین مرکب توصیفی مستثنیٰ مفرغ خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

**أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ دَوَّانَ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۚ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۱﴾**

**آیت نمبر ۱۶۱** ۱۶۱: ۱۶۱: ۱۶۱: حرف استہمام واو عطف اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَمْ يَنْظُرُوا فعل واو ضمیر قائل فی جہادہ ملکوت مضاف اَلسَّمٰوٰتِ معطوف علیہ، واو عطف اَلْأَرْضِ معطوف اہل واو عطف مَا اسم موصول خَلَقَ فعل اَللّٰهُ اسم الجلالہ قائل سے مل کر صلہ موصول باسلہ ذوالحال ومن شئی طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہاواو معطوف جہادہ معطوف علیہ بمعطوفین مجروح، جہادہ مجروح اور لَمْ يَنْظُرُوا کے متعلق ہوئے، فعل ہاواو متعلق جملہ انشائیہ معطوف، پھر معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانفہ ہوں

واو عطف اَنْ خففہ من الشکل ضمیر شان مقدّر اس کا اسم عطف فعل مقاب ضمیر شان مقدّر اس کا اسم اَنْ حرف مصدری و نصب یكُون فعل ناقص ضمیر شان اس کا اسم قَدْ علامت فعل اقْتَرَبَ فعل أَجَلُهُمْ مرکب اضافی قائل، فعل ہاواو جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر بتویل مصدر عطف کی خبر، عطف ہا اسم و خبر اَنْ خففہ کی خبر اَنْ ہا اسم و خبر تاویل مفرد منصوب بزجر اللہ ناقص اصل شریف اَنْ ہے یہ جہادہ مجروح فی ملکوت۔ اس پر معطوف معطوف علیہ بمعطوف متعلق ہوئے، فعل ہاواو متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ

مطلوبہ ہو لفظ اس کے بعد آئی صفت کیونکہ موصوف بقداً کا مرکب انسانی فعل محذوف نسبت کا مفعول نہ ہو کر صفت موصوف باصفت صفت ایہ مرکب انسانی مجرور، جہاں مجرور متعلق مقدم ہوئے یعنی مفعول فعل ہاؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر حمل بنتا ہے۔

مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ يَذُرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

آیت نمبر ۱۸۶: مَنْ یعنی ام شرط مفعول بہ متعلق فعل اللہ اسم الجلال فاعل سے مل کر حمل فعلیہ خبریہ شرط عامہ جہاں لای جنس ہادیوں اس کا اسماء ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر لای جنس ہا ام و خبر جملہ اسے خبریہ جملہ شرط ہا ام جملہ شرطیہ ہوا و اسے یذُرْهُمُ مستقر فاعل ہُوَ ضمیر ذال لیل فی طُغْيَانِهِمْ جہاں مجرور متعلق مقدم ہوئے یعنی مفعول فعل ہاؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم حمل فعلیہ خبریہ حال، ذال لیل ہا مل مفعول بہ، فعل ہاؤ فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، ذُكِّرَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ، إِلَّا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً، يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

آیت نمبر ۱۸۷: يَسْأَلُونَكَ فعل ہاؤ ضمیر فاعل کن ضمیر مفعول بہ عن جملہ السَّاعَةِ مبدل من أَيَّانَ ظرف زمان کا مفعول نہ ہو کر خبر مقدم مؤنث ہا مرکب انسانی مبتدأ مؤخر مبتدأ خبر جملہ اسے اثنائے بدل، مبدل من ہا مل مجرور، جہاں مجرور یَسْأَلُونَكَ کے متعلق ہوئے، ہا ملوں مل کر حمل فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں قُلْ فعل امر آت مستقر فاعل سے مل کر قول ہاؤ حرف تحقیق کھڑے صا کا ذیل ہا مرکب انسانی مبتدأ محذوف و ہا مفعول نہ ہو کر خبر مبتدأ خبر جملہ اسے خبریہ مقول، قول ہا مفعول حمل اثنائے ہوں۔

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا مفعول بہ لَوَقْتِهَا جہاں مجرور متعلق ہوئے، اِلَّا حرف استثنائے ضمیر مشتق مفرغ فاعل، فعل ہاؤ فاعل و مفعول بہ و متعلق حمل فعلیہ خبریہ عِلْمُهَا کی ضمیر سے حال ہے ذُكِّرَتْ فعل صیغہ مستقر فاعل فی جہاں السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ مطلق علیہ ہا مطلق مجرور، جہاں مجرور طرف ہو متعلق ہوئے تینوں مل کر حمل فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں لَّا تَأْتِي فعل صیغہ مستقر فاعل لَمْ ضمیر مفعول بہ اِلَّا حرف استثنائے ہستی یعنی حَقِيقَةً کے ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل ہاؤ فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

يَسْأَلُونَكَ فعل ہاؤ ضمیر فاعل کن ضمیر ذال لیل لکن حرف تیشہ کن ضمیر ام حقیقیہ صفت آت مستقر فاعل جہاں مجرور متعلق ہوئے تینوں مل کر شہ جملہ ہو کر خبر مکان ہا ام و خبر جملہ اسے خبریہ حال، ذال لیل ہا مل مفعول بہ، تینوں مل کر حمل فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں قُلْ فعل امر آت مستقر فاعل سے مل کر قول ہاؤ حرف تحقیق کھڑے صا کا ذیل ہا مرکب انسانی مبتدأ محذوف الذی مرکب انسانی ذابیت کا مفعول نہ ہو کر خبر مبتدأ خبر جملہ اسے خبریہ خبر، مبتدأ خبر مقول، قول ہا مفعول جملہ اثنائے ہوا و ہا مل لکن حرف استناد اکثَرُ النَّاسِ مرکب انسانی اس کا ام لَا يَعْلَمُونَ فعل ہاؤ ضمیر فاعل خبر، لکن ہا ام و خبر جملہ اسے خبریہ عِلْمُهَا کی ضمیر

ع مل ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا

سِتَّكَوْتُ مِنَ الْخَيْرِ عَلَىٰ وَمَا مَسْنُوِي السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

آیت نمبر ۸۸: قُلْ لعل امر اکت مستزنا لعل ل کر قول، لا املیک لعل انا مستزنا لعل لقیف جہا بجر و متعلق ہوئے نفعاً

معطوف علیہ واو عاطفہ لامکہ ضمراً معطوف معطوف علیہ با معطوف مبدل منہ بالأحرف استماعاً اسم موصول شَاءَ لعل اللہ اسم

الجلالہ قائل دونوں مل کر صلہ موصول با صلہ بدل مبدل منہ ببدل لا املیک کا معقول ہے، لعل بانا لعل و متعلق و معقول بہ جملہ فعلیہ

خبریہ معقولہ، قول بانا لعل جملہ فعلیہ خبریہ معقولہ، قول بانا لعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

واو استیعاب کو حرف شرط کُنْتُ لعل تا قص نام مضموم اس کا اسم اعلیٰ لعل انا مستزنا لعل الغیب معقول بہ، تینوں مل کر خبر، لعل

تا قص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط لاکر جوابیہ اِسْتَكْتُوْتُ لعل لعل مضموم قائل ہون الخیر جہا بجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر

جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ مانا فی مَسْنُوِي لعل نون دقائیہ کا، یاہ ضمیر معقول بہ اَلْسُوءُ قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ

معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط لاکر جملہ شرطیہ ہوں اِنْ نَا فی انا ضمیر مبتدایا للاحرف استماعاً لَنْذِيرٌ وَبَشِيرٌ معطوف علیہ

با معطوف موصوف لاکر جہا قَوْمٍ موصوف یؤْمِنُونَ لعل باوا ضمیر قائل صفت، موصوف ہفت بجر و جہا بجر و ظرف مستقر کاتینا

کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۲۳ ﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

تَغَشَّيْهَا حَمَلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لِيَنْزِلَ إِلَيْهَا

صَالِحًا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝

آیت نمبر ۸۹: تھو ضمیر مبتدایا الَّذِي اسم موصول خَلَقَ لعل ہو مستزنا لعل کلمہ ضمیر معقول بہ ہون جہا نفس و واحده مرکب

توصیفی بجر و جہا بجر و متعلق ہوئے، چاروں مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ جَعَلَ لعل ہو مستزنا لعل مِنْهَا جہا بجر و متعلق اول ہوئے

زَوْجَهَا مرکب اضافی معقول بہ لاکر جہا برائے لتلیل اور اس کے بعد ان مقدم ہے یَسْكُنُ لعل ہو مستزنا لعل إِلَيْهَا جہا بجر و متعلق

ہوئے، تینوں مل کر تا ویل مصدر بجر و جہا بجر و متعلق دوم ہوئے، لعل بانا لعل و معقول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف

علیہ با معطوف صلہ موصول با صلہ خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

قام عاطفہ لَمَّا تخمّن معنی شرط معقول فی مقدم كَفَشَى لعل ہو مستزنا لعل مَا ضمیر معقول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط،

حَمَلًا لعل ہی مستزنا لعل خَفِيْفًا مرکب توصیفی معقول مطلق (اگر مصدر ہو) یا معقول بہ (اگر معنی چینی ہو) لعل بانا لعل

و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قام عاطفہ فَمَرَّتْ لعل ہی مستزنا لعل یہ جہا بجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ

یا معطوف جزا، شرط با جزاء حملہ شرطیہ ہو۔

فَاَعْلَامُهَا لَمَّا تَحْتَمِنَ مَعْنَى شَرْطِ مَفْعُولٍ فِي مَقْدَمِ اَلْفَعْلِ هِيَ مُسْتَرْتَابَةٌ عَلَى شَرْطِ جُمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ شَرْطِهَا دَعْوَاةُ اَلْفِ مَضْمِرِ قَاعِلِ اَللّٰهِ اَسْمِ الْجَلَالِ اَمَّ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا رَكِبُ اِنْسَانِي عَطْفٍ بَيِّنٍ، بَيْنَ مَا عَطْفٍ بَيِّنٍ مَفْعُولٍ بِهِ، تَبَيَّنَ اَلْفَعْلُ اَلْفَعْلِيَةَ خَبْرِيَةَ مُفْتَرٍّ، كَلَامُهُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَكْتِبُ فَعْلٌ مَعْنَاهُ مَقْضُوعٌ خَبْرِيَةً فَاَلْفَعْلُ اَلْفَعْلِيَةَ خَبْرِيَةَ مَضْمِرِ قَاعِلِ اَللّٰهِ اَسْمِ الْجَلَالِ اَسْمُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَكْتُوبُ فَعْلٌ نَاقِصٌ تَحْتَمِنُ مَضْمِرًا مِمَّنْ الشَّكْرُ لِيُنْفِرَ عَرَفَ مُسْتَرْتَابَةً كَلْبِيْنَ كَيْفَ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَجْرُ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ دَخِرٍ جَوَابٌ مِمَّنْ، اَوَّلُ شَرْطِ كِي جَزَاءٌ مَعْرُوفٌ هُوَ، مِمَّنْ جَوَابٌ مِمَّنْ مَفْتَرٍ، مُفْتَرٍّ بِمَفْتَرٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ حَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ۔

فَلَمَّا اَلْتَهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فَيُبَا اَلْتَهُمَا فَتَعَلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۹۰: فَاَعْلَامُهَا لَمَّا تَحْتَمِنَ مَعْنَى شَرْطِ مَفْعُولٍ فِي مَقْدَمِ اَلْفَعْلِ هِيَ مُسْتَرْتَابَةٌ عَلَى هُمَا مَضْمِرِ قَاعِلِ اَللّٰهِ اَسْمِ الْجَلَالِ اَسْمُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَكْتُوبُ فَعْلٌ نَاقِصٌ تَحْتَمِنُ مَضْمِرًا مِمَّنْ الشَّكْرُ لِيُنْفِرَ عَرَفَ مُسْتَرْتَابَةً كَلْبِيْنَ كَيْفَ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَجْرُ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ دَخِرٍ جَوَابٌ مِمَّنْ، اَوَّلُ شَرْطِ كِي جَزَاءٌ مَعْرُوفٌ هُوَ، مِمَّنْ جَوَابٌ مِمَّنْ مَفْتَرٍ، مُفْتَرٍّ بِمَفْتَرٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ حَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ، مِمَّنْ مَتَّلَقٌ هُوَ، تَبَيَّنَ اَلْفَعْلُ اَلْفَعْلِيَةَ خَبْرِيَةَ مُفْتَرٍّ، كَلَامُهُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَكْتُوبُ فَعْلٌ نَاقِصٌ تَحْتَمِنُ مَضْمِرًا مِمَّنْ الشَّكْرُ لِيُنْفِرَ عَرَفَ مُسْتَرْتَابَةً كَلْبِيْنَ كَيْفَ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَجْرُ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ دَخِرٍ جَوَابٌ مِمَّنْ، اَوَّلُ شَرْطِ كِي جَزَاءٌ مَعْرُوفٌ هُوَ، مِمَّنْ جَوَابٌ مِمَّنْ مَفْتَرٍ، مُفْتَرٍّ بِمَفْتَرٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ حَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ، مِمَّنْ مَتَّلَقٌ هُوَ، تَبَيَّنَ اَلْفَعْلُ اَلْفَعْلِيَةَ خَبْرِيَةَ مُفْتَرٍّ، كَلَامُهُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَكْتُوبُ فَعْلٌ نَاقِصٌ تَحْتَمِنُ مَضْمِرًا مِمَّنْ الشَّكْرُ لِيُنْفِرَ عَرَفَ مُسْتَرْتَابَةً كَلْبِيْنَ كَيْفَ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَجْرُ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ دَخِرٍ جَوَابٌ مِمَّنْ، اَوَّلُ شَرْطِ كِي جَزَاءٌ مَعْرُوفٌ هُوَ، مِمَّنْ جَوَابٌ مِمَّنْ مَفْتَرٍ، مُفْتَرٍّ بِمَفْتَرٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ حَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ۔

اَيُّشْرِكُوْنَ ۝ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۹۱: هَمْزَةُ حَرْفِ اسْتِغْرَامِ اَيُّشْرِكُوْنَ فَعْلٌ اَوَّلُ مَضْمِرِ قَاعِلِ مَا اَسْمُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَخْلُقُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ عَلَى شَيْئًا مَفْعُولٍ بِهِ، تَبَيَّنَ اَلْفَعْلُ اَلْفَعْلِيَةَ خَبْرِيَةَ مُفْتَرٍّ، كَلَامُهُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَخْلُقُ فَعْلٌ نَاقِصٌ تَحْتَمِنُ مَضْمِرًا مِمَّنْ الشَّكْرُ لِيُنْفِرَ عَرَفَ مُسْتَرْتَابَةً كَلْبِيْنَ كَيْفَ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَجْرُ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ دَخِرٍ جَوَابٌ مِمَّنْ، اَوَّلُ شَرْطِ كِي جَزَاءٌ مَعْرُوفٌ هُوَ، مِمَّنْ جَوَابٌ مِمَّنْ مَفْتَرٍ، مُفْتَرٍّ بِمَفْتَرٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ حَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ، مِمَّنْ مَتَّلَقٌ هُوَ، تَبَيَّنَ اَلْفَعْلُ اَلْفَعْلِيَةَ خَبْرِيَةَ مُفْتَرٍّ، كَلَامُهُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَخْلُقُ فَعْلٌ نَاقِصٌ تَحْتَمِنُ مَضْمِرًا مِمَّنْ الشَّكْرُ لِيُنْفِرَ عَرَفَ مُسْتَرْتَابَةً كَلْبِيْنَ كَيْفَ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَجْرُ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ دَخِرٍ جَوَابٌ مِمَّنْ، اَوَّلُ شَرْطِ كِي جَزَاءٌ مَعْرُوفٌ هُوَ، مِمَّنْ جَوَابٌ مِمَّنْ مَفْتَرٍ، مُفْتَرٍّ بِمَفْتَرٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ حَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ۔

وَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا اَلْفُسْهُمُ يَنْصُرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۹۲: اَوَّلُ مَضْمِرِ قَاعِلِ اَللّٰهِ اَسْمُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَخْلُقُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ عَلَى شَيْئًا مَفْعُولٍ بِهِ، تَبَيَّنَ اَلْفَعْلُ اَلْفَعْلِيَةَ خَبْرِيَةَ مُفْتَرٍّ، كَلَامُهُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَخْلُقُ فَعْلٌ نَاقِصٌ تَحْتَمِنُ مَضْمِرًا مِمَّنْ الشَّكْرُ لِيُنْفِرَ عَرَفَ مُسْتَرْتَابَةً كَلْبِيْنَ كَيْفَ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَجْرُ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ دَخِرٍ جَوَابٌ مِمَّنْ، اَوَّلُ شَرْطِ كِي جَزَاءٌ مَعْرُوفٌ هُوَ، مِمَّنْ جَوَابٌ مِمَّنْ مَفْتَرٍ، مُفْتَرٍّ بِمَفْتَرٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ حَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ، مِمَّنْ مَتَّلَقٌ هُوَ، تَبَيَّنَ اَلْفَعْلُ اَلْفَعْلِيَةَ خَبْرِيَةَ مُفْتَرٍّ، كَلَامُهُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَخْلُقُ فَعْلٌ نَاقِصٌ تَحْتَمِنُ مَضْمِرًا مِمَّنْ الشَّكْرُ لِيُنْفِرَ عَرَفَ مُسْتَرْتَابَةً كَلْبِيْنَ كَيْفَ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَجْرُ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ دَخِرٍ جَوَابٌ مِمَّنْ، اَوَّلُ شَرْطِ كِي جَزَاءٌ مَعْرُوفٌ هُوَ، مِمَّنْ جَوَابٌ مِمَّنْ مَفْتَرٍ، مُفْتَرٍّ بِمَفْتَرٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ حَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ۔

وَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ سِوَاَءَ عَلَيْكُمْ اَدْعَوْتُكُمْ اَمْ اَنْتُمْ صٰمِتُوْنَ ۝

آیت نمبر ۱۹۳: اَوَّلُ مَضْمِرِ قَاعِلِ اَللّٰهِ اَسْمُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَدْعُوْكُمْ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ عَلَى اَلْهُدٰى جَدًّا بِجَزَاءٍ مَتَّلَقٌ هُوَ، تَبَيَّنَ اَلْفَعْلُ اَلْفَعْلِيَةَ خَبْرِيَةَ مُفْتَرٍّ، كَلَامُهُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَدْعُوْكُمْ فَعْلٌ نَاقِصٌ تَحْتَمِنُ مَضْمِرًا مِمَّنْ الشَّكْرُ لِيُنْفِرَ عَرَفَ مُسْتَرْتَابَةً كَلْبِيْنَ كَيْفَ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَجْرُ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ دَخِرٍ جَوَابٌ مِمَّنْ، اَوَّلُ شَرْطِ كِي جَزَاءٌ مَعْرُوفٌ هُوَ، مِمَّنْ جَوَابٌ مِمَّنْ مَفْتَرٍ، مُفْتَرٍّ بِمَفْتَرٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ حَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ، مِمَّنْ مَتَّلَقٌ هُوَ، تَبَيَّنَ اَلْفَعْلُ اَلْفَعْلِيَةَ خَبْرِيَةَ مُفْتَرٍّ، كَلَامُهُ مَوْضِعُ اَلْمَعْرُوفِ حَرْفِ شَرْطِ اَلْيَدْعُوْكُمْ فَعْلٌ نَاقِصٌ تَحْتَمِنُ مَضْمِرًا مِمَّنْ الشَّكْرُ لِيُنْفِرَ عَرَفَ مُسْتَرْتَابَةً كَلْبِيْنَ كَيْفَ مَتَّلَقٌ هُوَ كَرَجْرُ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمِ دَخِرٍ جَوَابٌ مِمَّنْ، اَوَّلُ شَرْطِ كِي جَزَاءٌ مَعْرُوفٌ هُوَ، مِمَّنْ جَوَابٌ مِمَّنْ مَفْتَرٍ، مُفْتَرٍّ بِمَفْتَرٍ جَزَاءٌ، شَرْطٌ بِاِجْرَاءٍ حَمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ هُوَ۔

ہو۔ سَوَاءٌ مَعْنَى مُسْتَوٍ فاعِل کے جو مستتر فاعِل عَلَيْنَكُمْ جادبا مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعِل با قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، ہمزہ برائے تَؤْمِرُوهُمْ فاعِل با قائل و مفعول بہ بتول مصدر معطوف علیہ، اَمْرٌ عَاطِفٌ مَعْلَاً تَتَّخِذُ ضمیر مبتدا صَاحِبَةٌ اسم فاعِل اَلتَّخَذُ مستتر فاعِل سے ل کر خبر، مبتدا خبر بتول مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلَكُمْ فَأَدْعُواهُمْ فَلْيَسْتَعِجِبُوا لَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٦﴾

آیت نمبر ۱۹۳: حرف تَحْقِيقِ الَّذِينَ اسم موصول تَدْعُونَ فاعِل با و ضمیر فاعِل صلہ، موصول با صلہ ذوالحال مِنْ دُونِ اللَّهِ طرف مستتر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال اسم عِبَادٌ موصوف اَمَثَلَكُمْ مرکب انشائی صفت، موصوف ہفت خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لَقَاءَ فِصِيهِ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ اَدْعُوا فاعِل امر و ضمیر فاعِل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، لَقَاءَ عَاطِفٌ لِيَسْتَعِجِبُوا فاعِل با و ضمیر فاعِل لَكُمْ جادبا مجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف دال برجزاوا حرف شرط كُنْتُمْ فاعِل ناقص ضمیر اس کا اسم صَادِقِينَ اسم فاعِل اَلتَّخَذُ مستتر فاعِل سے ل کر خبر، فاعِل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، شرط اپنے دال برجزاوا سے ل کر جملہ شرطیہ ہو کر شرط محذوف کی جڑ، شرط با جزاء، جملہ شرطیہ ہو۔

الَّهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آيْدٍ يَبْتَطِشُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، قُلْ اذْعُوا شُرَكَاءَ كُمْ ثُمَّ كِيدُوا، فَلَا تُنظِرُونَ ﴿٥٧﴾

آیت نمبر ۱۹۵: ہمزہ حرف استنہاء لَّهُمْ طرف مستتر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَرْجُلٌ موصوف يَمْشُونَ فاعِل با و ضمیر فاعِل بہا جادبا مجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہفت مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ، اَمْ عَاطِفٌ لَّهُمْ آيْدٍ يَبْتَطِشُونَ بِهَا مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، موصوف ہفت اَمْ عَاطِفٌ لَّهُمْ اَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، موصوف ہفت اَمْ عَاطِفٌ لَّهُمْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا مبتدا خبر معطوف، موصوف ہفت با معطوفات، موصوف جملہ مستنفہ ہو۔ فاعِل امر اَتَى مستتر فاعِل سے ل کر قول، اَدْعُوا فاعِل امر و ضمیر فاعِل شُرَكَاءَ كُمْ مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ كِيدُوا فاعِل امر و ضمیر فاعِل نون و قایہ کا، تباہ ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ انشائیہ معطوف، موصوف ہفت، قَامَ عَاطِفٌ لَا تُنْظِرُوا فاعِل نئی و ضمیر فاعِل نون و قایہ کا، تباہ ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ انشائیہ معطوف، موصوف ہفت، با معطوفین مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔

إِنَّ وِلِيَّ اللَّهِ الَّذِينَ نَزَّلَ الْكِتَابَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿٥٨﴾

آیت نمبر ۱۹۶: حرف تَحْقِيقِ وِلِيَّ مرکب انشائی اس کا اسم اَللَّهُ اسم الجلالہ موصوف الَّذِينَ اسم موصول نَزَّلَ فاعِل هو مستتر فاعِل الْكِتَابِ مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف ہفت خبر بیان، با اسم و خبر جملہ اسمیہ

خبر یہ ہو اور او عطف ہو ضمیر مبتدہ یعنی فعل ہو مستقر قائل الصالحین مفعول بہ، تیوں مل کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ کڑاں پر معطوف ہے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۱۹۷﴾

**آیت نمبر ۱۹۷** اور او عطف اللذین اسم موصول تَدْعُونَ فعل واو ضمیر قائل سے مل کر صلہ، موصول ہاسلہ ذوالحال میں دُوْنِہ طرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال ہا حال مبتدہ لا یستجیبون نَصْرُكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ یَنْصُرُونَ کی ترکیب آیت نمبر ۱۹۷ میں دیکھے، اور یہ معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

وَأَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، وَتَذَرُهُمْ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۹۸﴾

**آیت نمبر ۱۹۸** وَأَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا کی ترکیب وَان تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا کلمہ کی مثل ہے آیت نمبر ۱۹۳ میں دیکھے، اور او استہیہ کڑی فعل اَلْتِ مستقر قائل ہُم ذوالحال یَنْظَرُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال ہو او عطف ہُم ذوالحال لا یبصرون فعل واو ضمیر قائل خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال ہا حال یَنْظَرُونَ کا قائل إِلَيْكَ جدا خبر جو متعلق ہے، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال ہا حال کڑی کا مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۹۹﴾

**آیت نمبر ۱۹۹** خُذِ فعل امر اَلْتِ مستقر قائل الْعَفْوَ مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، ہو او عطف اَمُرْ مَوْضِعُ فعل امر اَلْتِ مستقر قائل بِالْعُرْفِ جدا خبر جو متعلق ہے، تیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، ہو او عطف اَعْرِضْ فعل امر اَلْتِ مستقر قائل عَنِ الْجَاهِلِينَ جدا خبر جو متعلق ہے، تیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ مستانفہ ہو۔

وَأَمَّا يَنْزَغُوكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَجْوً فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۰۰﴾

**آیت نمبر ۲۰۰** اور او عطف ان حرف شرط مآذیہ یَنْزَغُوكَ فعل ک ضمیر مفعول بہ مِنَ الشَّيْطَانِ ظرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر حال مقدم نَجْوً ذوالحال مؤخر، دونوں مل کر قائل، فعل با قائل، مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جہاں جزائیہ اِسْتَعِذْ فعل امر اَلْتِ مستقر قائل بِاللَّهِ جدا خبر جو متعلق ہے، تیوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہولین حرف تحقیق یا ضمیر اس کا اسم سَمِيعٌ عَلِيمٌ دو خبر بیان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۲۰۱﴾

**آیت نمبر ۲۰۱** إِنَّ حرف تحقیق اللذین اسم موصول اتَّقُوا فعل واو ضمیر قائل صلہ، موصول ہاسلہ ان کا شرطیہ مفعول بہ مقدم مَسَّ فعل ہُم ضمیر مفعول بہ طَيفٌ موصوف مِنَ الشَّيْطَانِ ظرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت قائل، فعل با قائل، مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط تَذَكَّرُوا فعل واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، جہاں عطف اَمَّا مفاہیجیہ مفعول بہ مقدم ہُم ضمیر مبتدہ مبصرون اسم قائل ہُم مستقر قائل، مفعول بہ مقدم خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ



ہا معطوف جزاء، شرط باجزاء خبر، ان با اسم و خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**وَ اِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْعَرِيِّ ثُمَّ لَا يَقْصِرُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۲۰۲** واواؤ استینافیہ اِخْوَانُهُمْ مرکب انسانی مبتدئہ یَمُدُّوْنَ فعل واو ضمیر قائل ہُوْ ضمیر مفعول بینی الْعَرِيِّ جہا باجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ لَا يَقْصِرُوْنَ فعل باواؤ ضمیر قائل معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف خبر، مبتدئہ باخبر، جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

**وَ اِذَا لَمْ تَلْبَثْهُمْ بَايَةً قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يُؤْتِي اِلَيَّ مِنَ رَبِّي هَذَا بَصَابِرًا مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۲۰۳** واواؤ عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَلَمْ تَلْبَثْ تَلْت فعل اَلَتْ مستتر قائل ہُوْ ضمیر مفعول بہ بَايَةً جہا باجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط قَالُوا فعل باواؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَوْلَا حرف تسمیہ اِجْتَبَيْتَهَا فعل قائم مفعولہ قائل ہَا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر مقولہ، قول یا مقولہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ قُلْ فعل امر اَلَتْ مستتر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، اِنْ حرف تھمتین کھڑے مآکانہ اَتَّبَعْتُ فعل اَنَا مستتر قائل مآ اسم موصول علی فعل مجہول ہُوْ مستتر بہ جہا باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ ذواللال میں جہاہ زنی مرکب انسانی مجرور، جہا باجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذواللال باحال اَتَّبَعْتُ کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

ہَذَا اسم اِشادہ مبتدئہ بَصَابِرًا موصوفین رَبِّكُمْ ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت معطوف علیہ، واواؤ عاطفہ ہُدًى مرفوع تقدراً معطوف الال ہواواؤ عاطفہ رَحْمَةً مصدر لآہ جہاہ قَوْمٍ موصوفین یُؤْمِنُوْنَ فعل باواؤ ضمیر قائل صفت، موصوف ہا صفت مجرور، جہا باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، مصدر ہا متعلق معطوف علیہ، معطوف علیہ ہا معطوفین خبر، مبتدئہ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**وَ اِذَا قَرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۲۰۴** واواؤ استینافیہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم قَرِئَ فعل مجہول الْقُرْآن بہ جہا باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قائم جزائیہ اَسْتَمِعُوْا فعل امر واو ضمیر قائل لَعَلَّ جہا باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہواواؤ عاطفہ اَنْصِتُوْا فعل امر واو ضمیر قائل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو۔ لَعَلَّ حرف ترمیمی کُنْ ضمیر اس کا اسم کُؤْمَرُوْنَ فعل مجہول باواؤ ضمیر بہ جہا باجرور متعلق ہوئے، خبر لَعَلَّ با اسم و خبر واو الرَحْمَةِ کی تادیل میں ہو کر اَنْصِتُوْا کی ضمیر قائل سے ملے۔

**وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاَصَالِ  
وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۰۵** **وَأَوْعَافُهُ أَذْكَرُ فُلٍ** امر آت مستقر فاعل **وَأَوْعَافُهُ أَذْكَرُ فُلٍ** امر آت مستقر زوال حال ہی جاہ **كَلْبَسِكَ الْكَلْبِيَّوَكِي** تبول میں ہو کر معطوف علیہ **وَأَوْعَافُهُ أَذْكَرُ فُلٍ** مضاف القَوْل زوال حال ہی جاہ **الْقَوْلِ** مجرور، جاہ با مجرور ظرف مستقر **كَانَ** کے متعلق ہو کر حال زوال حال با حال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف، معطوف علیہ **بِا** معطوف فی کے لئے مجرور، جاہ با مجرور ظرف مستقر **كَانَ** کے متعلق ہو کر حال زوال حال با حال فاعل **يُرِيكَ** مرکب انسانی مفعول بہ **يَا** جاہ **أَعْدُوْ** و **الْأَصْحَابِ** معطوف علیہ **بِا** معطوف مجرور، جاہ با مجرور متعلق ہوئے، فاعل امر اپنے فاعل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ **وَأَوْعَافُهُ أَذْكَرُ فُلٍ** ناقص آت مستقر **أَسْمِي** **الْقَائِلِينَ** جاہ با مجرور ظرف مستقر **كَانَ** کے متعلق ہو کر خبر، فاعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ نہیہ معطوف، معطوف علیہ **بِا** معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

**إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَبْخِرُونَ لَهُ وَيَسْجُدُونَ**

**آیت نمبر ۳۰۶** **إِنَّ** حرف تحقیق **الَّذِينَ** اسم موصول **عِنْدَ رَبِّكَ** مرکب انسانی فاعل مخدوف **كَانُوا** کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول **بِا** اسم **لَا يَسْتَكْبِرُونَ** فاعل **وَأَوْعَافُهُ أَذْكَرُ فُلٍ** مضاف **عَنْ** عبادت کہہ جاہ با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ **وَأَوْعَافُهُ أَذْكَرُ فُلٍ** **يَسْتَبْخِرُونَ** فاعل **وَأَوْعَافُهُ أَذْكَرُ فُلٍ** مضاف **عَنْ** عبادت کہہ جاہ با مجرور متعلق مقدم **يَسْجُدُونَ** فاعل **وَأَوْعَافُهُ أَذْكَرُ فُلٍ** مضاف و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ **بِا** معطوفین خبر **إِنَّ** با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔



﴿﴾ یٰحٰمِدُہٗ تَعَالٰی سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ کی ترکیب لکھنے کی ابتدا اشوال ۷۱۳۳ء کو ہوئی ہے ﴿﴾ ﴿﴾

## ﴿﴾ ترکیب سُورَةُ الْأَنْفَالِ ﴿﴾ ﴿﴾

﴿﴾ رکوع نمبر ۱ ﴿﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ اَقِلَّ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَیْنِكُمْ مَوْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

آیت نمبر ۱ اَیْسَتَلُوْنَ فاعل واو ضمیر قائل کہ ضمیر مفعول بہ عنی الْاَنْفَالِ جہد باجمرد متعلق ہوئے، پاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو رَقْلُ فاعل امر آتت مستتر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، الْاَنْفَالِ مبتدأ لام جارحاً اللّٰہُ وَالرَّسُوْلُ معطوف علیہ بالمعروف مجرور، جہد باجمرد ظرف مستقر کلیدتہ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معقولہ، قول بالمعقولہ جملہ انشائیہ ہو رَقْلُ فاعل ضمیر اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذٰلِكَ، یا اِنْ اَمَنْتُمْ بِهٰذَا، اَتَّقُوا فاعل امر واو ضمیر قائل لِقَوْلِ اللّٰهِ مفعول بہ، بتینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَصْلِحُوْا فاعل امر واو ضمیر قائل ذَاتَ بَیْنِكُمْ مرکب انشائی مفعول بہ، بتینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف الاول، واو عاطفہ اَطِيعُوا فاعل امر واو ضمیر قائل اللّٰہُ وَرَسُوْلَهُ معطوف علیہ بالمعقولہ مفعول بہ، بتینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین دال برجزا مقدمہ ان شرطیہ کُنْتُمْ فاعل ناقص ضمیر اسم مؤمِنِیْنَ، اسم قائل ضمیر مفعول بہ، مل کر خبر، ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، دال برجزا سے مل کر شرط محذوف کی جزا، ہو کر شرط باجزا جملہ شرطیہ ہو۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِیَتْ عَلَيْهِمُ الْآیٰتُ زَادَتْهُمْ

اِیْمَانًا وَعَلٰی رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲، بتینوں حرف تحقیق کھونہ ما کا ذال الْمُؤْمِنُوْنَ مبتدأ الَّذِیْنَ اسم موصول اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدمہ یُذَکَرُ فاعل مجہول اَللّٰہُ اسم الجلالہ نائب فاعل، بتینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، وَاِذَا تُلِیَتْ فاعل فاعل انشائی قائل، فعل اور قائل مل کر جزا، ہو کر شرط باجزا جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدمہ تُلِیَتْ فاعل مجہول عَلَیْهِمْ جہد باجمرد متعلق ہوئے اِنَّمَا مرکب انشائی نائب قائل، پھر یہ تمام مل کر شرط، وَاِذَا تُلِیَتْ فاعل ہی مستتر قائل ہُنَّ ضمیر مفعول بہ الاول اِنَّمَا تَا مفعول بہ، ثانی یہ پاروں مل کر جزا، ہو کر شرط باجزا جملہ شرطیہ ہو کر معطوف الاول، واو عاطفہ عَلٰی جارحاً رَبِّهِمْ مرکب انشائی مجرور، جہد باجمرد متعلق مقدمہ یَتَوَكَّلُوْنَ فاعل پاروں ضمیر قائل و متعلق مقدمہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین صلہ، موصول باصلہ مبدل منہ، الَّذِیْنَ اسم موصول یُقِیْمُوْنَ فاعل واو ضمیر قائل الصَّلٰوةَ مفعول بہ، بتینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مِنْ جارحاً مَوْصُوْلٌ رَزَقْنَا فاعل ناقص ضمیر قائل ہُنَّ ضمیر مفعول بہ، بتینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ بدل مبدل منہ بادل الْمُؤْمِنُوْنَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

**آیت نمبر ۱۳:** اُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدأ، هُمُ ضمیر راسع لصل الْمُؤْمِنُونَ، اسم فاعل هُمُ مستتر فاعل حَقًّا بواسطہ موصوف محذوف  
إِنَّمَا تَاكَلْ مفعول مطلق، تَمِينُونَ مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، لَهُمْ جملہ با خبر و طرف مستقر کَاثِمُونَ کے متعلق ہو کر خبر  
دَرَجَاتٌ موصوف عِنْدَ رَبِّهِمْ مرکب اضافی طرف مستقر کَاثِمَاتُ کے متعلق ہو کر مفعول علیہ، وَارِزْقًا مَغْفِرَةٌ مفعول اول  
وَارِزْقًا مَغْفِرَةٌ کو ضمیر مرکب تو صیغی مفعول ثانی، مفعول علیہ، مفعولین مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۵:** كَمَا جار مجازہ، مَا مصدر یا اَخْرَجَ فعل ك ضمیر منسوب مفعول بہ، رَبُّكَ مرکب اضافی ذوالحال یا الْحَقِّ طرف مستقر  
مَنْبَسِكُمْ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال، بَايَا اَخْرَجَ کا فاعل مِنْ بَيْتِكَ جملہ با خبر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ  
و متعلق بتولید مصدر مجرور، جملہ با خبر و طرف مستقر کَاثِمَاتُ کے متعلق ہو کر خبر ہے، مبتدأ محذوف هَذِهِ الْحَالَةُ کی، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ  
خبریہ ہو، وَارِزْقًا مَغْفِرَةٌ حرف مشبہ بالفعل فَرِيقًا موصوف مِنْ الْمُؤْمِنِينَ طرف مستقر کَاثِمَاتُ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت  
اسم کلام مذکور کَاثِمُونَ اسم فاعل هُمُ مستتر فاعل، وَارِزْقًا مَغْفِرَةٌ خبر بیان، بِاسْمِ ذَخِرَ جملہ اسمیہ خبریہ اَخْرَجَكَ کی ضمیر مفعول بہ سے حال  
ہے۔

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۶:** يُجَادِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل ك ضمیر مفعول بہ فی الْحَقِّ جملہ با خبر و طرف لغو متعلق ہوئے بَعْدَ مضاف مآ مصدریہ  
تَبَيَّنَ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر بتولید مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق مفعول فیہ  
جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو، یا اَخْرَجَكَ کی ضمیر مفعول بہ سے حال ثانی ہو، یا کَاثِمُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ کَاثِمُونَ حرف مشبہ  
بالفعل كَوْنًا مآ کَاثِمُونَ فعل مجہول واو ضمیر ذوالحال واو عالی هُمُ ضمیر مبتدأ، يَنْظُرُونَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر،  
مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال بَايَا تَجِبَ فاعل اِلَى الْمَوْتِ جملہ با خبر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول بتاجِبَ فاعل و متعلق  
جملہ فعلیہ خبریہ کَاثِمُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَه

تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝

**آیت نمبر ۱۷:** إِذْ حرف متانیہ، إِذْ طرف زمان مضاف يَعِدُّكُمْ ضمیر مفعول بہ، اِلَى الْمَوْتِ اسم الجملہ فاعل اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ  
مرکب اضافی مبدل من اَنْ حرف تَحْقِيقِ هَا ضمیر اسم لَكُمْ طرف مستقر کَاثِمَاتُ کے متعلق ہو کر خبر، اَنْ بِاسْمِ ذَخِرَ جملہ اسمیہ خبریہ بدل، مبدل  
منہ با بدل مفعول بہ، ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہو، فعل محذوف اَذْ كَوْنًا  
کَاثِمُونَ عالی کَاثِمُونَ فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف تَحْقِيقِ غَيْرَ مضاف ذَاتِ الشُّوْكَه مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اَنْ

کام تکون فعل ناقص ہے مستتر اس کا اسم لکھ طرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر بتاویل مفرد کو کثرت کا مفعول ہے، فعل با قائل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یُریدُ فعل ناقص لفظ اللہ قائل ان حرف مصدری و نصب یُحییٰ فعل ناقص مستقر قائل الْحَقُّ مفعول بہ، تاہم جاہہ کثرتاً یہ مرکب انسانی مجرور، جاہہ مجرور و ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول یہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَقْطَعُ فعل ناقص مستقر قائل حاکم و الکافرین مرکب انسانی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدری یُریدُ کا مفعول ہے، فعل با قائل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَعِدُ کفر کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے۔

### لِيُحْيِيَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥﴾

**آیت نمبر ۵:** تاہم جاہہ تفسیر اس کے بعد ان مقدمہ سے یُحییٰ فعل ناقص مستقر قائل الْحَقُّ مفعول ہے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یُبْطِلُ فعل ناقص مستقر قائل الْبَاطِلُ مفعول ہے، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرور، جاہہ مجرور و ظرف مستقر فعل محذوف فَعَلَ اللّٰهُ كَالَّذِي کے متعلق ہوئے، واو اعتراضیہ لَوْ شرطیہ کَرِهَ فعل الْمُجْرِمُونَ قائل، فعل با قائل و جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے یُحْيِيَ اللّٰهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، شرطہ جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

### اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ اَنِّي مُبْدِكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرَدِّفِيْنَ ﴿٦﴾

**آیت نمبر ۶:** اِذْ تَسْتَغِيثُونَ مضاف تَسْتَغِيثُونَ فعل ناقص ضمیر قائل رَبَّكُمْ مرکب انسانی مفعول ہے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، مقادیر عاطفہ فَا مضاف اسْتَجَابْ لَكُمْ فعل ناقص مستقر قائل لَكُمْ جاہہ مجرور و متعلق ہوئے، ان حرف تحقیق تاہم ضمیر اس کا اسم مُبْدِكُمْ مینہ صفت مضاف کُمْ ضمیر مضاف الیہ معنی مفعول بہ، تاہم جاہہ الْفِ موصوفہ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ ظرف مستقر کا کثرت کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، مُرَدِّفِيْنَ صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مجرور، جاہہ مجرور و متعلق ہوئے، مینہ صفت با مضاف الیہ و متعلق خبر مان با اسم و خبر بتاویل مفرد اسْتَجَابْ کا مفعول ہے، فعل با قائل و متعلق و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فعل محذوف اِذْ كَرِهَ الْاَكْفَرُ وَا کا مفعول ہے۔

### وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰی وَّلِيَتَظْمِيْنَ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ

### اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧﴾

**آیت نمبر ۷:** وَاوَا اسْتِغَاثِيْهِ مَآ تَا فِيْ جَعَلَ فعل ناقص ضمیر مفعول بہ اللّٰهُ اسم الجلال قائل اِلَّا حرف استثناء بُشْرٰی معطوف علیہ، واو عاطفہ لَآءِ جَاہہ تفسیر اس کے بعد ان مقدمہ سے تَظْمِيْنَ فعل پہلے جاہہ مجرور و ظرف لغو متعلق ہوئے، قُلُوْبُكُمْ مرکب انسانی قائل، تینوں مل کر بتاویل مصدر مجرور، جاہہ مجرور و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ مستأنف ہو، واو استغاثیہ مَآ تَا فِيْ النَّصْرُ مبتدأ اِلَّا حرف استثناء مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مرکب انسانی مجرور، جاہہ مجرور و ظرف مستقر مَشْطُوْبِ كَالَّذِي کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، ان حرف تحقیق اللّٰهُ اسم الجلال اسم عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ دو خبر،

اِنَّ بِالْاِسْمِ خَيْرٌ مِنْ جَمَلِهِ اسْمِيَةٌ خَيْرِيَةٌ مَعْلُومَةٌ هُوَ

رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۲

اِذْ يُعْشِيْكُمْ النُّعَاسَ اَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَ  
يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيُزَيِّطَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَيُعَيِّنَ بِهٖ الْاَقْدَامَ ۝

**آیت نمبر ۱۲:** اِذْ يُعْشِيْكُمْ النُّعَاسَ اَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيُزَيِّطَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَيُعَيِّنَ بِهٖ الْاَقْدَامَ ۝  
استقر کلینتہ کے متعلق ہو کر مفعول، موصوف، ماضی ماضی، فعل با قائل و متعلق، جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ  
یُنْزِلُ فعل ہو مستتر قائل عَلَیْكُمْ جادہ باجرور متعلق ازل ہوئے، یون السَّمَاءِ طرف لغو متعلق ثانی ہوئے مَاءً مفعول بہ لآجر جادہ تطہیریہ  
اور اس کے بعد ان مقدر سے یُطَهِّرُ فعل ہو مستتر قائل کُم ضمیر مفعول بہ، یہ طرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف  
علیہ، واو عاطفہ یُذْهِبُ فعل ہو مستتر قائل عَنْكُمْ طرف لغو متعلق ہوئے رِجْزَ الشَّيْطٰنِ مرکب اضافی مفعول بہ، چاروں مل کر  
معطوف، معطوف علیہ یا معطوف بتاویل مصدر مجرور، جادہ باجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ لآجر جادہ تطہیریہ اور اس کے بعد ان مقدر سے  
یُزَيِّطُ فعل ہو مستتر قائل عَلٰی جادہ قُلُوْبِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جادہ باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو  
عاطفہ یُعَيِّنُ فعل ہو مستتر قائل عَلٰی جادہ باجرور متعلق ہوئے، اَلْاَقْدَامَ مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ  
یا معطوف بتاویل مصدر مجرور، جادہ باجرور معطوف، معطوف علیہ یا معطوف یُنْزِلُ کے متعلق ثالث ہوئے، فعل با قائل و متعلق بہ و متعلقات  
علاوہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، فعل معطوف اِذْ کُوْرًا کا۔

اِذْ يُوجِيْ رَبِّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِيْ مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سٰلِقِيْنَ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ  
كَفَرُوْا وَالرُّعْبَ فَاَضْرِبُوْا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنٰنٍ ۝

**آیت نمبر ۱۳:** اِذْ يُوجِيْ رَبِّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِيْ مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سٰلِقِيْنَ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ  
یاد ضمیر اس کا اسم معکم مرکب اضافی کلینتہ کا مفعول فیہ ہو کر خبر، اِنَّ بِالْاِسْمِ خَيْرٌ مِنْ جَمَلِهِ اسْمِيَةٌ خَيْرِيَةٌ مَعْلُومَةٌ هُوَ  
خبر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فعل معذوف اِذْ کُوْرًا کا مفعول فیہ ہے، یا یُبَيِّنُوْا کا متعلق مقدم ہے فقاه فیسیہ اور شرط معذوف  
ہے اِذَا كُنْتُمْ هٰذَا اِذَا اِنْبَاءُ الْقِتَالِ، تَبَيَّنُوْا فعل امر واو ضمیر قائل الَّذِيْنَ اسم موصول امثُلًا فعل بار واو ضمیر قائل سلسلہ موصول باصلہ  
مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

سینوں علامت فعل اَلْقِيْ فعل اِنَا مستتر قائل فی جادہ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ  
مجرور، جادہ باجرور متعلق ہوئے اَلرُّعْبَ مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں فقاه فیسیہ اور شرط معذوف  
ہے اِذَا كُنْتُمْ هٰذَا اِذَا اِنْبَاءُ الْقِتَالِ، اَضْرِبُوْا فعل امر واو ضمیر قائل فَوْقِ الْأَعْنَاقِ مرکب اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ  
اَضْرِبُوْا فعل امر واو ضمیر قائل مِنْهُمْ طرف مستقر کلینتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم کُلِّ بَنٰنٍ مرکب اضافی ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال

مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۗ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَانَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ

### الْعَقَابِ ۝

آیت نمبر ۳: ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، يَآءُ جَدَاءٌ حرف تَحْقِيْقِ هُمْ ضمير اسم شَاقُوا فعل واو ضمير فاعل اللّٰه ورسوٰلہ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر خبر، اَنَّ با اسم و خبر تینوں مفرد مجرور، جَدَاءٌ مجرور ظرف مستقر کَلْبِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو سواوا استثنیٰ، مِنْ اسم شرط ہو سواوا استثنیٰ، فاعل هُوَ مستتر فاعل اللّٰه ورسوٰلہ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَعَاءُ جزاء، اِنَّ حرف تَحْقِيْقِ اللّٰه اسم الجلالہ اسم شَدِيْدٌ الْعَقَابِ مرکب اضافی خبر، اَنَّ با اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مِنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنف ہوں

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنْ لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابُ النَّارِ ۝

آیت نمبر ۴: ذٰلِكُمْ اسم اشارہ خبر بہ مبتدأ محذوف الْعَقَابِ کی، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو سکا، فاعل معذوب ہے اِذْكَانَ الْاَكْمَرُ كَذٰلِكَ ذُوْقُوْهُ فعل امر واو ضمير فاعل هُوَ ضمير مفعول بہ سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو سواوا عاطفان حرف تَحْقِيْقِ لِلْكَٰفِرِيْنَ ظرف مستقر کَلْبِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عَذَابُ النَّارِ مرکب اضافی اسم مؤخر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ کَالِكُمْ، معطوف ہے

يَآٰئِهَآ الدّٰيْنِ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ الدّٰيْنِ كَفَرُوْا ۗ اَزْحَقًا فَلَآ تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝

آیت نمبر ۵: يَاٰئِهَآ الدّٰيْنِ اٰمَنُوْا کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ عداوت کا شرطیہ مفعول فیہ مقدم لَقِيْتُمْ فعل ثَمَّ ضمير فاعل الدّٰيْنِ كَفَرُوْا و اموصول باصل ذلحال و اَزْحَقًا محض اَزْحَقِيْنَ کے ہو کر حال، ذلحال باحال مفعول بہ، چاہوں مل کر شرط، فَعَاءُ جزاء، لَا تُوَلُّوْهُمُ فعل امر واو ضمير فاعل هُمْ ضمير مفعول بہ اول الْاَدْبَارِ مفعول بہ ثانی، چاہوں مل کر جزاء، شرط با جزاء عداوت کا جواب، عداوت با جواب عداوت جملہ اشاریہ عداوتیہ ہوں

وَمَنْ يُّوْلِهِمْ يَوْمَ ذُبُوْرَةٍ اِلَّا مُمْتَحَرًا ۙ فَاَلْقَتَالِ اَوْ مُتَحَيِّرًا اِلَىٰ فِتْنَةٍ ۙ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ

مِّنَ اللّٰهِ وَمَا وَّهٗ جَهَنَّمُ ذُوْ يَنْسِ الْمَصِيْرُ ۝

آیت نمبر ۶: اِنَّا وَاوِاسْتِثْنَاءِ مِنْ اسم شرط مبتدأ، يُوْلِيْنَ فعل هُوَ مستتر فاعل هُمْ ضمير مفعول بہ اول يَوْمَ ذُبُوْرَةٍ مرکب اضافی مفعول فیہ ذُبُوْرَةٍ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، اِلَّا حرف استثناء، مُتَحَيِّرًا فاعل هُوَ مستتر فاعل اَلْقَتَالِ جَدَاءٌ مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف علیہ، اُوَ عطف معطوف علیہ با معطوف يُوْلِيْنَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَعَاءُ جزاء، قَدْ علامت فعل با فاعل هُوَ مستتر فاعل بَاءَ جَدَاءٌ عَضْبٍ موصوف حین اللّٰه ظرف مستقر کَلْبِيْنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جَدَاءٌ مجرور بئاء کے متعلق ہوئے،

تینوں ل کر جزاء، شرط باجزاء معن کی خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں واواؤ استنیافہ ماؤا کرکب اضافی مبتدایا جہتہ خبر، خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں واواؤ استنیافہ یسفن فعل الذم الکصیو قائل، فعل با قائل خبر مقدم، مخصوص بالذم مبتدایا مخدوف ہے مَصِيْرُهُ، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

فَكَمْ تَقْتُلُوهُمْ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِغَ

الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءٌ حَسْبًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۷: انکشاف نصیر اور شرط مخدوف ہے اِذَا فَا فَا فَا تَقْتُلُوهُمْ لَمْ تَقْتُلُوْا فعل واو ضمیر قائل ہُم ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لکن حرف استدراک اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم تکتل فعل ہو مستتر قائل ہُم ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر خبر، لکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عاطفہ ما تانیہ رَمَيْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر قائل اِذْ مضاف رَمَيْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر قائل، فعل با قائل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ رَمَيْتَ کا مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لکن حرف استدراک اللہ اسم الجلالہ اسم و طی فعل ہو مستتر قائل سے ل کر خبر، لکن با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

واو عاطفہ لآخر جادہ تعلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقرر ہے یُنْبِئُ فعل ہو مستتر قائل الْمُؤْمِنِيْنَ مفعول بہ بَلَاءٌ حَسْبًا مرکب تو صغی مفعول مطلق تینوں ل کر متبول مصدر مجرور، جادہ مجرور متعلق ہوئے فعل مخدوف فَعَلَّ اللَّهُ كَالِكِ کے، اِنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اسم سَمِيعٌ عَلِيمٌ دو خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

ذِكْرِكُمْ ۚ وَ أَنَّ اللَّهَ مُؤْمِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِيْنَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۸: اِذَا كَالِكِ مبتدایا مخدوف العواقب کی خبر ہے، واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اسم مُؤْمِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِيْنَ مرکب اضافی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ کُفْرٌ معطوف ہے۔

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَاھُوْا حَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْذُوْا نَعُوْذْ ۚ وَاَنْ تَغْفِيْ عَنْكُمْ فَتَكْفُمْ شَيْئًا وَاَوْ كَثُرَتْ ۚ وَاَنْ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۹: اِنْ حرف شرط تَسْتَفْتِحُوْا فعل واو ضمیر قائل سے ل کر شرط عقابہ جزائیہ قَدْ علامت فعل جَاءَ فعل کُمْ ضمیر مفعول بہ الْفَتْحُ قائل، تینوں ل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنْ حرف شرط تَنْتَهُوْا فعل باواو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ شرط عقابہ جزائیہ ہو ضمیر مبتدایا حَيْرٌ اسم تفضیل ہو مستتر قائل لَكُمْ جادہ مجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف اول واو عاطفہ اِنْ حرف شرط تَعُوْذُوْا فعل باواو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ شرط عقابہ جزائیہ ہو ضمیر قائل، و دوںوں ل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اِنْ تَغْفِيْ فعل عَنْكُمْ جادہ مجرور طرف لغو متعلق ہوئے فَتَكْفُمْ مرکب اضافی اضافی قائل حَيْرًا مفعول بہ، چاروں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ مستانفہ ہوں واواؤ استنیافہ لَوْ شَرِیْہ



کثرت فعل ہی مستتر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ اور جزاء محذوف ہے لَنْ تُفْعِلُوْا عَنْكُمْ فَتُكْفَمُ شَيْئًا، شرطہ باجزاء جملہ شرطیہ ہوا و او استغنیانَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم مَعِ الْمُؤْمِنِيْنَ مرکب اضافی کا تین کا مفعول فیہ ہو کر خبر بیان ہوا و خبر بتول مفرد فعل مقدر اعلموا کا مفعول بہ ہے (فحیر)

﴿ ۳ ﴾ رکوع نمبر

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَرِسُوْلَهُۥ وَلَا تَوَلُّوْا عٰتِهٖۤ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۰: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ ندا ہے اطِيعُوْا فعل امر و او ضمیر قائل اللہ و رِسُوْلَهُۥ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ انتہائی معطوف علیہ و او عاطفہ لاکتوْا فعل نبی و او ضمیر ذوالحال و او حالیہ اَلْتُمْ ضمیر مبتدأ، تَسْمَعُوْنَ فعل با و او ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ، خبر مبتدأ خبر حال، ذوالحال با حال قائل عَنْهُ جہا با مجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ انتہائی معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف ندا کا جواب، ندا با جواب ندا جملہ انتہائی ندائیہ ہوں۔

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۱: و او عاطفہ لاکتوْا فعل ناقص و او ضمیر اس کا اسم جہا الذیْنَ اسم موصول قائلوا فعل و او ضمیر ذوالحال و او حالیہ هُمْ ضمیر مبتدأ، لَا يَسْمَعُوْنَ فعل با و او ضمیر قائل خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال قائل، فعل با قائل قول ہوا، سَمِعْنَا فعل ناقص ضمیر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ انتہائی معطوف ہوں۔

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الضَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۲: اِنَّ حرف تحقیق شَرُّ الدَّوَابِّ مرکب اضافی ذوالحال عِنْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی کا تین کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال اسم الضمُّ خبر ال، الْبُكْمُ موصوف الذیْنَ اسم موصول لَا يَعْقِلُوْنَ فعل با و او ضمیر قائل صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت خبر ثانی، اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَتْهُمْ ؕ وَلَا نَسْمَعُ لَهُمْ لَكُوْلُوْا ۗ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۳: و او عاطفہ لو شرطیہ عَلِمَ فعل اللہ اسم الجلالہ قائل فِيْهِمْ ظرف لغو متعلق ہوئے خَيْرًا مفعول بہ، یہاں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ، لآء جوابیہ اَسْمَعَتْ فعل ہو مستتر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرطہ باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، و او عاطفہ لو شرطیہ اَسْمَعَتْ فعل ہو مستتر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ، لآء جوابیہ لَكُوْلُوْا فعل و او ضمیر ذوالحال و او حالیہ هُمْ ضمیر مبتدأ، مُّعْرِضُوْنَ اسم قائل هُمْ مستتر قائل سے ل کر خبر، مبتدأ خبر حال، ذوالحال با حال لَكُوْلُوْا کا قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرطہ باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيبُوْا لِلّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلٍ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ؕ وَاعْلَمُوْا اَنَّ

اللّٰهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاِنَّهٗ اِلَيْهِ لُحٰشِرُونَ ﴿۱۰﴾ وَاَتَقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ  
 الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۱﴾ وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ  
 قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَفَّكُمْ النَّاسُ فَاَوْكُمُ وَاَيَّدُكُمْ  
 بِبَنِيْرِهٖمْ وَّرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

**آیت نمبر ۱۰، ۱۱، ۱۲:** ﴿۱۰﴾: اللّٰهُ الَّذِيْنَ اَمَّنَا كِي تَرْكِبُ بِيْتٍ مَّرْتَبَةً مَّرْتَبَةً كَمَا هُوَ اَوْ رِيءِ عَمَامَةٍ اِسْتَجِيْبُوْا فِعْلُ امْرَاةٍ ضَمِيْرُ قَاعِلِ  
 لِلّٰهِ جَدْبًا جَرَّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفٌ لِلرَّسُوْلِ جَدْبًا جَرَّ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ نَظَرٌ لِّفَوْضٍ مَّتَّعِقٌ هُوَ اِيْذَا ظَرَفَ نَانَ  
 مَضَافٌ دَعَا فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ كُمُ ضَمِيْرٌ مَفْعُولٌ فِيْهِ اَلَا هُوَ جَدْبٌ مَّاسِمٌ مَوْصُولٌ يُّعْنِي فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ كُمُ ضَمِيْرٌ مَفْعُولٌ فِيْهِ، تِيْمُوْنَ لَمْ كَرِهَلَمْ  
 فَعَلِيَةً خَبْرِيَةً سَلِمَةٌ مَوْصُولٌ بِسَلْمَةٍ جَرَّوْا جَدْبًا جَرَّوْا دَعَا كَيْ مَتَّعِقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ مَفْعُولٌ فِيْهِ وَتَمَتَّقِ جَمَلَةٌ فَعَلِيَةً خَبْرِيَةً مَضَافٌ عَلَيْهِ،  
 مَضَافٌ بِاِمْتِجَانِيَّةٍ اِيْ اِسْتَجِيْبُوْا كَا مَفْعُولٍ فِيْهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَتَمَتَّقِ جَمَلَةٌ اِنْتِشَائِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفٌ اَعْلَمُوْا فِعْلُ امْرَاةٍ  
 ضَمِيْرُ قَاعِلٌ اَنَّ حَرْفَ تَحْقِيْقِ اَللّٰهِ اَسْمُ الْجَلَالِ اِسْمُ كَا اِسْمُ يَحُولُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ بَيْنَ مَضَافٍ اَلْمَرْءِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفٌ قَلْبِهِ مَرْكَبٌ  
 اِنْسَانِيٌّ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ مَضَافٌ عَلَيْهِ، مَضَافٌ اِلَيْهِ مَفْعُولٌ فِيْهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ مَفْعُولٌ فِيْهِ خَبْرٌ اَنَّ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ  
 اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْ عَاطِفٌ اَنَّ حَرْفَ تَحْقِيْقِ اَلْمَرْءِ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ اِلَيْهِ جَدْبًا جَرَّوْا مَتَّعِقٌ مَقْدَمٌ هُوَ لُحٰشِرُونَ فِعْلٌ جَمْعِيٌّ وَاَوْ ضَمِيْرٌ  
 تَابٌ قَاعِلٌ وَتَمَتَّقِ مَقْدَمٌ سَعَلٌ كَرَجْرَبٌ اَنَّ اِسْمٌ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ اَعْلَمُوْا كَا مَفْعُولٍ فِيْهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ  
 وَمَفْعُولٌ فِيْهِ جَمَلَةٌ اِنْتِشَائِيَّةٌ اِسْمِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاَوْ عَاطِفٌ اَتَّقُوا فِعْلُ امْرَاةٍ ضَمِيْرُ قَاعِلٌ فِتْنَةٌ مَوْصُوفٌ لَا تُصِيبَنَّ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ الَّذِيْنَ  
 فَكَلَمَةُ اِسْمٌ مَوْصُولٌ بِسَلْمَةٍ ذَوَاتُ اِلْتِمَاسٍ لِّظَرْفٍ مُسْتَرْتَابِيْنَ كَيْ مَتَّعِقٌ هُوَ كَرِهَلَمْ ذَوَاتُ اِلْتِمَاسٍ بِاِحَالٍ مَفْعُولٌ فِيْهِ خَاصَّةً بِوَاسِطَةِ مَضَافٍ مَضَافٍ  
 اِصَابَةً كَيْ مَفْعُولٌ مَطْلَقٌ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ مَفْعُولِيْنَ جَمَلَةٌ فَعَلِيَةً خَبْرِيَّةٌ فِتْنَةٌ كِي صَفْتٌ، مَوْصُوفٌ بِصَفْتٍ اَتَّقُوا كَا مَفْعُولٍ فِيْهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ  
 وَمَفْعُولٌ فِيْهِ جَمَلَةٌ اِنْتِشَائِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، وَاَوْ عَاطِفٌ اَعْلَمُوْا فِعْلُ امْرَاةٍ ضَمِيْرُ قَاعِلٌ اَنَّ حَرْفَ تَحْقِيْقِ اَللّٰهِ اَسْمُ الْجَلَالِ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ شَدِيْدُ الْعِقَابِ  
 مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ خَبْرٌ اَنَّ اِسْمٌ وَخَبْرٌ تَابٌ وِيْلٌ مَفْرُودٌ مَفْعُولٌ فِيْهِ، تِيْمُوْنَ لَمْ كَرِهَلَمْ اِنْتِشَائِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَالِثٌ، وَاَوْ عَاطِفٌ اَذْكُرُوْا فِعْلُ امْرَاةٍ ضَمِيْرُ قَاعِلٍ  
 اِذْ ظَرَفَ نَانَ مَضَافٌ اَللّٰهُ ضَمِيْرٌ مَبْدَأٌ قَلِيْلٌ مَوْصُوفٌ مُسْتَضْعَفُوْنَ اِسْمٌ مَفْعُولٌ اَللّٰهُ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ جَدْبًا جَرَّوْا  
 مَتَّعِقٌ هُوَ، تِيْمُوْنَ لَمْ كَرِهَلَمْ اِنْتِشَائِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، تَخَافُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْ ضَمِيْرُ قَاعِلٌ اَنَّ حَرْفَ مَصْدَرِيٌّ وَنَسْبٌ يَّتَخَفَّكُمْ فِعْلٌ كُمُ ضَمِيْرٌ مَفْعُولٌ فِيْهِ  
 اَلنَّاسُ فَاعِلٌ، تِيْمُوْنَ لَمْ كَرِهَلَمْ وِيْلٌ مَصْدَرٌ تَخَافُوْنَ كَا مَفْعُولٌ فِيْهِ، فِعْلٌ بِاِقَاعِلٍ مَفْعُولٌ فِيْهِ جَمَلَةٌ فَعَلِيَةً خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَكَا عَاطِفٌ اُوْى  
 فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ كُمُ ضَمِيْرٌ مَفْعُولٌ فِيْهِ، تِيْمُوْنَ لَمْ كَرِهَلَمْ اِنْتِشَائِيَّةٌ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ، وَاَوْ عَاطِفٌ اَيَّدُكُمْ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ كُمُ ضَمِيْرٌ مَفْعُولٌ فِيْهِ اَبَدًا جَمْعِيَّةٌ  
 مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ جَرَّوْا جَدْبًا جَرَّوْا مَتَّعِقٌ هُوَ، مَعَارِوْنَ لَمْ كَرِهَلَمْ فَعَلِيَةً خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَانِيٌّ، وَاَوْ عَاطِفٌ رَزَقَ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ كُمُ ضَمِيْرٌ  
 مَفْعُولٌ فِيْهِ مِنَ الطَّيِّبٰتِ جَدْبًا جَرَّوْا ظَرَفَ لَفْظٍ مَتَّعِقٌ هُوَ، مَعَارِوْنَ لَمْ كَرِهَلَمْ فَعَلِيَةً خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ ثَالِثٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفَاتٍ ثَلَاثٍ  
 قَلِيْلٌ كِي صَفْتٌ ثَانِيَّةٌ، مَوْصُوفٌ بِصَفْتِيْنِ اَللّٰهُ كِي خَبْرٌ مَبْدَأٌ خَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَضَافٌ اِلَيْهِ، مَضَافٌ اِلَيْهِ، مَضَافٌ اِلَيْهِ مَفْعُولٌ فِيْهِ هُوَا

اَذْكُرُوا كَلِمَاتِ الَّذِيْنَ اُنزِلَتْ عَلَیْكُمْ فَاذْكُرُوْنَ اُولٰٓئِكَ اَسْمَآءُ الْاَشْرَارِ ۗ  
 نداء ہے ہول لگانے کی طرف توجہ دینا کہ جو اس کا اسم پڑھیں ان کے فعل ہوا اور ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَعَلَّ بِاسْمِ وَخبر واضح شکر کلمہ کی  
 بیوں میں ہو کر زکوٰۃ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْا اٰمَنْتُمْ كُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۳۷

آیت نمبر ۳۷: یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ عدا ہے کہ حرف نمی تَخُوْا اَمْنًا اور ضمیر فاعل  
 اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَخُوْا اَمْنًا اور ضمیر فاعل واو عاطفہ  
 اَنْتُمْ ضمیر مبتدا، تَعْلَمُوْنَ فعل ہوا اور ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال تَخُوْا اَمْنًا کا فاعل  
 اَمَّا اَنْتُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف عدا کا جواب، نداء اجواب عدا جملہ انشائیہ  
 نداء ہے ہول۔

وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اَمْوَالَكُمْ وَاَوْلَادَكُمْ فَتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ كَافٍ عَظِيْمٌ ۝۳۸

آیت نمبر ۳۸: واو عاطفہ اعْلَمُوْا اَنَّ فعل امر اور واو ضمیر فاعل اَنَّ حرف تحقیق کفوہ مانا کہ اَمْوَالَكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو  
 عاطفہ اَوْلَادَكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ با معطوف مبتدا، فَتْنَةٌ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنَّ  
 حرف تحقیق اللّٰهَ اسم الجلال اس کا اسم عِنْدَهٗ مرکب اضافی کلاؤں کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم اَجْرٌ عَظِيْمٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر،  
 مبتدا خبر اَنَّ کی خبر، اَنَّ با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف اعْلَمُوْا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف  
 ہوں۔

●●● رکوع نمبر ۳ ●●●

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقٰنًا وَّ يَغْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّاَتِكُمْ وَ  
 يَغْفِرْ لَكُمْ ذُو الْقُرْبٰى الْعَظِيْمِ ۝۳۹

آیت نمبر ۳۹: یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ عدا ہے کہ حرف شرط تَتَّقُوْا اَمْنًا اور ضمیر فاعل  
 اللّٰهَ اسم الجلال مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، يَجْعَلْ فعل ہو مستتر فاعل لَكُمْ جد باجرور متعلق ہوئے فُرْقٰنًا ناسول بہ،  
 چادوں مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ يَغْفِرْ فعل ہو مستتر فاعل عَنْكُمْ جد باجرور متعلق ہوئے سَيِّاَتِكُمْ مرکب اضافی متناہر بہ، چادوں  
 مل کر معطوف اول، واو عاطفہ يَغْفِرْ فعل ہو مستتر فاعل لَكُمْ جد باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین  
 جزاء شرط باجزاء عدا کا جواب، نداء اجواب عدا جملہ انشائیہ ہوں واو استیضاح لِقَالَ اللّٰهُ مَبْتَدَاً مَضْفٍ لِّلْفَضْلِ الْعَظِيْمِ مرکب توصیفی  
 مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَ اِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُبَيِّنُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۗ وَ يَنْكُرُوْنَ وَ يَنْكُرُوْنَ

### اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمُبْكِرِينَ ﴿۳۰﴾

**آیت نمبر ۳۰:** او او استغنیہ اذ طرف نان مضاف یتکون فعل یک جہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے اللّٰہین کفروا و اموصول پہلہ قائل لاکہ جہ تالیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یثیبونوا فعل واو ضمیر قائل ک ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ یثیبونوا فعل واو ضمیر قائل ک ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، او حرف عطف یثیبونوا فعل واو ضمیر قائل ک ضمیر مفعول بہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتویل مصدر مجرور، جہ باجر و یتکون کے متعلق ثانی ہوئے، فعل باقائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فعل محذوف اذ کو واکا مفعول فیہ ہے، واو عاطفہ یتکونون فعل باوا ضمیر قائل معطوف علیہ، واو عاطفہ یتکونون فعل اللہ اسم الجلالہ قائل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں او او استغنیہ اللہ مبتدأ، خیر، مبتدأ خبر، جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں

وَإِذَا تَنَتَّلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا كَدَّ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا

### أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۳۱:** او او استغنیہ اذ شرطیہ مفعول فیہ مقدم تثل فعل مجہول علیہم جہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے ایاتنا مرکب اضافی تاجب قائل، فعل مجہول تاجب و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ قالوا فعل باوا ضمیر قائل قول محذوف علامت فعل سمعنا فعل تا ضمیر قائل سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرطہ ہوں لو حرف شرطہ نشاء فعل نحن مستتر قائل سے مل کر شرط لاکہ جوابیہ قلنا فعل تا ضمیر قائل و مثل هذا مرکب اضافی بواسطہ موصوف محذوف نحو لا کے مفعول متعلق، تینوں مل کر جزاء، شرطہ باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔ ان فی ہذا اسم اثناء مبتدأ، الحرف استثناء اساطیر و الاولین مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَإِذَا قَالُوا لِلَّهِمَّ إِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ

### السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ آلِيمٍ ﴿۳۲﴾

**آیت نمبر ۳۲:** او او استغنیہ اذ مضاف قالوا فعل باوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اللہم اصل میں یا اللہ ہے اور یہ عداہ ہے ان حرف شرطہ لکن فعل ناقص ہذا اسم اثناء اس کا اسم ضمیر فعل ہے الحق ذوالحال من جہ عذبتک مرکب اضافی مجرور، جہ باجر و طرف مستتر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ عداہ جزائیہ امطرو فعل امر آلت مستتر قائل علیکنا جہ باجر و متعلق ہوئے، حجابہ موصوف من السماء ظرف مستتر کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہامت امطرو کا مفعول بہ، چاہوں مل کر جملہ اضافیہ معطوف علیہ، او عاطفہ آتت فعل امر آتت مستتر قائل تا ضمیر مفعول بہ بتاہ جہ عذاب آلیہ مرکب توصیفی مجرور، جہ باجر و متعلق ہوئے، چاہوں مل کر جملہ اضافیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرطہ باجزاء عداہ کا جواب، عداہ با جواب عداہ جملہ اضافیہ عداہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ اذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فعل محذوف اذ کو واکا

کا مفعول یہ ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۳۳﴾

**آیت نمبر ۳۳**، او استیثنا فی مآتا فی کان فعل ناقص لفظاً اللہ اسم لاہ جمعہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یُعَذِّبُ فعل مستتر ذوالحال واو حالہ اَنْتَ ضمیر مبتدأ فیخبر عن طرف مستتر کاؤن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر حال، ذوالحال باحال یُعَذِّبُ کا قائل ضمیر خبریہ، بتینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا دیاں مصدر مجرور، جملہ با مجرور مَوْئِدًا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا ام و خبر جملہ فعلیہ معطوف علیہ، او واو عطف مآتا فی کان فعل ناقص اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم مُعَذِّبُ اسم قائل مضاف ضمیر ذوالحال واو حالہ ضمیر مبتدأ یَسْتَغْفِرُونَ فعل واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر حال، ذوالحال باحال مضاف الیہ معنی مفعول بہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، فعل ناقص ہا ام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَمَا لَهُمْ آلَآءٌ إِلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ؕ إِنْ أَوْلِيَاءُؤُا إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾

**آیت نمبر ۳۴**، او استیثنا فی مآما استفہام مبتدأ لہم جملہ با مجرور طرف مستتر کاؤن کے متعلق ہوں، ان حرف مصدری و نصب لآءُ فعل ناقص ضمیر ذوالحال واو حالہ ہُمُ ضمیر مبتدأ یَصُدُّونَ فعل واو ضمیر قائل عن حرف جملہ المسجِد الحرام مرکب توسیعی مجرور، جملہ با مجرور متعلق ہوں، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او واو عطف مآتا فی کانوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم اَوْلِيَاءَهُ مرکب انسانی خبر، فعل ناقص ہا ام و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ خبر حال، ذوالحال باحال یُعَذِّبُ کا مفعول بہ اللہ اسم الجلالہ قائل، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتا دیاں مصدر منصوب بزرع الیہ فعل کاؤن کے متعلق مبنی ہوں، کاؤن لپٹے قائل اور دونوں متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں، ان حرف لمی اَوْلِيَاءَهُ مرکب انسانی مبتدأ اَلْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءُ الْمُتَّقُونَ مسثنی مفرغ خبر، مبتدأ خبر معطوف علیہ، او واو عطف لکن حرف استدراک اکثرہم مرکب انسانی اسم لا یَعْلَمُونَ فعل واو ضمیر قائل سے مل کر خبر، لکن ہا ام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً ۚ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾

**آیت نمبر ۳۵**، او استیثنا فی مآتا فی کان فعل ناقص صَلَاتُهُمْ مرکب انسانی ذوالحال عِنْدَ الْبَيْتِ مرکب انسانی کاؤن کا مفعول یہ ہو کر حال، ذوالحال باحال اس کا اسم اَلْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءُ مُكَاءً وَتَصَدِيَةً معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص ہا ام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں، فاء ضمیر اور شرط محذوف ہے، اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، یا اِنْ كَانَتْ هٰذِهِ طَبِيعَةً صَلَاتِكُمْ، مَذُوْقُوا فعل امر واو ضمیر قائل الْعَذَابِ مفعول بہ، یا جملہ ما مصدریہ كُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم تَكْفُرُونَ فعل باواو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا ام و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتا دیاں مصدر مجرور، جملہ با مجرور متعلق ہوں، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف، جزاء

جملہ شرطیہ ہوں

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿۳۶﴾

**آیت نمبر ۳۶:** اِن حرف تحقیق اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا موصول باصله اسم يُنْفِقُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل اَمْوَالَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ لآمر جارہ اور اس کے بعد اَن مقدر ہے یَصُدُّوْا فعل واو ضمیر فاعل عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ جارہ باجور و متعلق ہوئے، تینوں مل کر تینوں مصدر باجور جارہ متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں قادم استخیرہ سینین طلاست فعل يُنْفِقُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ تَكُوْنُ فعل ناقص ہی مبتدئ اس کا اسم عَلَیْهِمْ ظرف مستقر کَاثِبَةً کے متعلق ہو کر حال مقدم حَسْرَةً ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اِذْل، ثُمَّ حرف عطف يُغْلَبُوْنَ فعل مجہول باواو ضمیر نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہوں واو استخیرہ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا موصول باصلہ مبتدئ اِلٰی جَهَنَّمَ ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے يُحْشَرُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

لِيَمِيْرَ اللَّهُ الْخَبِيْرَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْرَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جُنُجًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۳۷﴾

**آیت نمبر ۳۷:** لآمر جارہ تعلیلہ اور اس کے بعد اَن مقدر ہے يَمِيْرُ فعل اَللّٰهُ اسم الجلال فاعل الْخَبِيْرَ مفعول بہ مِنَ الطَّيِّبِ جارہ باجور و متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ يَجْعَلُ فعل ہو مستقر فاعل الْخَبِيْرَ مبدل منہ بَعْضُهُ مرکب اضافی بدل البعض، مبدل منہ بدل ذوالحال علی بعض ظرف مستقر عَلٰی مَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اِذْل، قادم عاطفہ يَرْكُمُهُ فعل ہو مستقر فاعل ہا ضمیر مؤکد جُنُجًا تاکید، مؤکد با تاکید مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی قادم عاطفہ يَجْعَلُ فعل ہو مستقر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، فی جَهَنَّمَ جارہ باجور و متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ بتا و مل مصدر باجور و جارہ باجور و ظرف لغو يُحْشَرُوْنَ کے متعلق ہوئے اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدئ اَهُمْ ضمیر فصل الْخٰسِرُوْنَ خبر، مبتدئ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

﴿۳۷﴾ رکوع نمبر ۵

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوْا اِن يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ؕ وَاِنْ يَّعُوْذُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۸﴾ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنُوْنَ فِتْنَةً وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اَنْتَهُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۳۹﴾ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ

### التَّصْيِيرُ

آیت نمبر ۳۸، ۳۹، ۴۰: قُلْ نِعْلَمُ مَا تَعْبُدُونَ لَٰكِن لَّا نَعْلَمُ مَا تَعْبُدُونَ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَعَلِيمُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ نِعْلَمُ مَا تَعْبُدُونَ لَٰكِن لَّا نَعْلَمُ مَا تَعْبُدُونَ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَعَلِيمُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ نِعْلَمُ مَا تَعْبُدُونَ لَٰكِن لَّا نَعْلَمُ مَا تَعْبُدُونَ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَعَلِيمُونَ ﴿۴۰﴾

فعل ناقص و متعلق جملہ انشائیہ اس پر ہو کر قول، اِن حرف شرط یکتہوا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط یَغْفُرُ فعل مجہول لہٰذا جہا جہا مجرد ظرف لغو متعلق ہوتے ہیں مآس موصول قَدْ علامت فعل سَلَفَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ نائب قائل، فعل مجہول باتباق قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ ہواو عاطفان حرف شرط یَعُوذُوا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط عقابہ جزائیہ قَدْ علامت فعل مَضَّتْ فعل سَمِعْتُ الْاَوَّلِينَ مرکب انشائی قائل، فعل باقی جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ، ہواو عاطفہ قَاتِلُوا فعل امر و ضمیر فاعل ہُم ضمیر مفعول بہ حقیقی حرف جر و فاعلیت اور اس کے بعد ان مقدر سے لاکتوں فعل تام فَمَنْ قَاتَلَ، فعل باقی جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ یَكُونُ فعل ناقص الْاَلَّذِينَ مَوْلَانِمْ مَرْکب انشائی تاکیدی، مَوْلَانِمْ تاکیدی اسم اللہ طرف مستقر کا تائید کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرد، جہا جہا مجرد ظرف لغو قَاتِلُوا کے متعلق ہوتے، فعل باقی و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متعلقہ ہو۔

فَاء استنائیہ اِن حرف شرط لَنْتَعْبُدُوا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط عقابہ جزائیہ اِن حرف تحقیق اَللَّهِ اسم الجلالہ اس کا اسم بجاہ مآس موصول یَعْمَلُونَ فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مجرد، جہا جہا مجرد ظرف لغو متعلق مقدم ہوتے تصییر صیغہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ ہو کر خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ ہواو عاطفان حرف شرط لَوْ كَانُوا فعل باو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط عقابہ جزائیہ اَعْلَمُوا فعل امر و ضمیر فاعل اِن حرف تحقیق اَللَّهِ اسم الجلالہ اس کا اسم مَوْلَانِمْ مرکب انشائی خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد اَعْلَمُوا کا مفعول بہ، فعل باقی و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہونے لَعْمُ فعل مدح اَلْوَالِی مرفوع تقدیراً قائل، دونوں مل کر خبر مقدم، مخصوص بالمدح مبتدا ہو مخدوف ہے مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں ہواو عاطفہ نَعْمَ فعل مدح اَلْوَالِی قائل، فعل باقی جملہ انشائیہ خبر مقدم، اور مخصوص بالمدح مبتدا ہو مخدوف ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔

﴿ بِحَمْدِہِ تَعَالٰی پارہ نمبر ۶ کی ترکیب ۱۲ سوال ۱۳۳ ھ ۱۷ جون ۲۰۱۶ بروز اتوار بوقت صبح ۱۵:۱۰ پر مکمل ہوئی ہے ﴾

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِّلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ  
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعُ ط وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۱﴾

آیت نمبر ۴۱: ہواو عاطفہ یا استنائیہ اَعْلَمُوا فعل امر و ضمیر فاعل اِن حرف تحقیق مآس موصول غَنِمْتُمْ فعل و فاعل مل کر صلہ موصول باصلہ ذوالحال ہیں لَعْمُ ہو کر حال، ذوالحال باحال اِن کا اسم فاءہ جزائیہ (کیونکہ اسم موصول متضمن معنی

شرط ہے) اَنْ حرف تحقیق لیلو جہا بجر و معطوف علیہ ہواؤ عاطفہ لیلو سُورِل جہا بجر و معطوف ازل ہواؤ عاطفہ لاہر جہا ذی القُوْنی مرکب انسانی معطوف علیہ ہواؤ عاطفہ اَلْمَسَاكِيْنِ معطوف ثانی ہواؤ عاطفہ اَلْفُقْرَانِ السَّيْبِلِ مرکب انسانی معطوف ثالث، معطوف علیہ ہا معطوفات ثلاثہ بجر و جہا بجر و معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین طرف مستقر کائون کے متعلق ہو کر خبر مقدم خُصِّصَتْ مرکب انسانی اسم مؤخر بآں ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا مخدوف حاکمہ کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَنْ کی خبر، اَنْ ہا اسم و خبر بتویل مفرد مفعول بہ، فعل با تامل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ مستانفہ ہوں۔

اِنْ حرف شرط کُتِبْتُمْ فعل ناقص شُئْتُمْ ضمیر اس کا اسم اَمْتَكْتُمُ فعل ثانی ضمیر قائل ہا جہا اَللّٰهُ اسم الجلالہ معطوف علیہ ہواؤ عاطفہ مَا اس موصول اَلْوَلَدُ لَنَا فعل ناقص ضمیر قائل علی جہا عِبْدٌ نَاكِرُ کِ اس انسانی بجر و جہا بجر و متعلق ہوئے یَوْمَ اَلْفُرْقَانِ مرکب انسانی میدل منبویوم مضاف اِلْتَقَى فعل اَلْجَنَّةَانَ قائل دونوں مل کر مضاف علیہ، مرکب انسانی بدل، میدل منبہ بدل مفعول فیہ، فعل با تامل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف بجر و جہا بجر و متعلق اَمْتَكْتُمُ کے ہونے، فعل با تامل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء مخدوف ہے فَأَعْلَمُوا ذَلِكَ ہواؤ استیناء فیہ اَللّٰهُ مبتدا علی حرف جہا کُنَّ ہیوم مرکب انسانی بجر و جہا بجر و متعلق مقدم قَدِيذٌ صِيْغَ صفت لپنے ہو ضمیر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدِّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصُوٰی وَالرَّكْبِ اَسْفَلَ مِنْكُمْ دَو لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خِفْتُمْ فِي الْبَيْعِ لَا و لَكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَن حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَاِنَّ اللهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۴۲﴾

آیت نمبر ۴۲: اِذْ مضاف اَللّٰهُ مبتدا، ہا جہا اَلْعُدُوِّ الدِّنْيَا مرکب تومصغی بجر و جہا بجر و طرف مستقر کائون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہواؤ عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا، ہا جہا اَلْعُدُوِّ الْقُصُوٰی مرکب تومصغی بجر و جہا بجر و طرف مستقر کائون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول ہواؤ عاطفہ الرَّكْبِ مبتدا، اَسْفَلَ اسم تفضیل ہو مستقر قائل و نیکم طرف لہو متعلق ہونے، اسم تفضیل با تامل و متعلق صفت ہوئی موصوف مخدوف مکانات کی، موصوف ہا صفت کائون کا مفعول فیہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین مضاف علیہ، مرکب انسانی یَوْمَ اَلْفُرْقَانِ سے بدل ہے ہواؤ عاطفہ لَوْ شرطیہ تَوَاعَدْتُمْ فعل و قائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لاہر جوابیہ اِخْتَلَفْتُمْ فعل ضمیر قائل فی الْبَيْعِ جہا بجر و طرف متعلق ہونے، تینوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

ہواؤ عاطفہ لَكِنْ حرف استرداک مہملہ لاہر جہا تعلیلہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے يَقْضِيْهِ فعل اَللّٰهُ اسم الجلالہ قائل اَمْرًا موصوف کان ناقصہ ہو مستتر اس کا اسم مَفْعُوْلًا اسم مفعول ہو مستقر جہا قائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف ہا صفت مفعول بہ، تینوں مل کر بتویل مصدر بجر و جہا بجر و میدل منبہ لاہر جہا اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے يَهْلِكُ فعل ہو مستقر قائل مَن اسم موصول هَلَكَ فعل ہو مستقر ذوالحال عَن بَيِّنَةٍ طرف مستقر کائون کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال قائل، فعل با تامل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ



مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور بدل، سبب منہ بابتل طرف مستقر فعل محذوف جمعکم بقیع مینعاہو کے متعلق ہو، واو عاطفہ یشیخی فعل ہو مستقر قائل من اسم موصول جی فعل ہو مستقر ذوالحال عن بیتنہ طرف مستقر کاتینا کے متعلق ہو کہ حال ذوالحال باحال قائل، فعل با قائل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تیشک پر معطوف ہے واو استینا فیران حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لاہر معلقہ سمیع علیہم دو خبریں بال اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِكِ قَلِيلًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ كَثِيرًا ۖ لَفِشَلْتُمْ وَ تَكَثَّرَ عَثْمُ فِي الْأَمْرِ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٤﴾

آیت نمبر ۳۴: ۱: اذ طرف زمان مضاف پڑی فعل کہ ضمیر ذوالحال فی حرف جار صناعاً ایک مرکب اضافی مجرور، جار مجرور و طرف مستقر کاتینا کے متعلق ہو کہ حال ذوالحال باحال مفعول بہ اول، ہم ضمیر مفعول بہ ثانی، اللہ اسم الجلالہ قائل قلیلًا مفعول ثالث، فعل با قائل اور تینوں مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مرکب اضافی فعل محذوف اذ کوا کا مفعول فیہ ہے، واو عاطفہ تو حرف شرط آزی فعل ہو ضمیر مستقر قائل کہ ضمیر مفعول بہ اول، ہم ضمیر مفعول بہ ثانی، کثیرا مفعول بہ ثالث، فعل با قائل اور تینوں مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ شرط، لاہر جوابیہ فیشلتکم فعل کہ ضمیر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ معطوف علیہ۔ واو عاطفہ لاہر جوابیہ تکثر عثم فعل کہ ضمیر قائل فی الامر جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول اول، واو عاطفہ لیکن حرف استدراک اللہ اسم الجلالہ اسم سلق فعل ہو مستقر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لیکن بال اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہو، و ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم علیہم سینہ صفت ہو مستقر قائل ہا جارہ فاکت الصدور مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، سینہ صفت با قائل و متعلق شدہ جملہ ہو کہ خبر ان بال اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معلقہ ہو۔

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَاتُمْ فِي آعَيْنِكُمْ قَلِيلًا ۖ وَيَقَلِّلُكُمْ فِي آعِينِهِمْ لِيَقْضَىٰ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ وَ إِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٣٥﴾

آیت نمبر ۳۵: ۱: واو عاطفہ اذ مضاف پڑی فعل ہو مستقر قائل کہ ضمیر مفعول بہ اول، ہم ضمیر ذوالحال قلیلًا حال، ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، اذ مضاف التقاتم فعل کہ ضمیر قائل فی حرف جار اعمینکم مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ پڑی کا مفعول فیہ، فعل با قائل و مضاف مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اذ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اذ بی یوریکم اللہ من اذ سے بدل ہے۔

۱: واو عاطفہ یقلل فعل ہو مستقر قائل کہ ضمیر مفعول بہ فی جارہ اعمینہم مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف متعلق اول ہوئے، لاہر جارہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یقضی فعل کہ اللہ اسم الجلالہ قائل امر او موصوف کان فعل ناقص ہو مستقر اس کا اسم مفعول لاہر، فعل ناقص بال اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور یقلل کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ یوریکم ہو کہ معطوف ہے۔ واو استینا فیران اللہ جارہ مجرور

حرف لغو متعلق مقدم ہوئے شُعْرًا جمع فعل مجہول اَلْمُوْءُجِبُ فاعل، فعل مجہول ہاتھ فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں

﴿ رُكُوعٌ ۶ ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِينُمْ فِتْنَةً فَأَثْبِتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱﴾  
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ  
مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۲﴾

آیت نمبر ۳۶، ۳۷: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی ترکیب متعدد بار گذر چکی ہے اور یہ دعایہ، اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم لَقِينْتُمْ فعل  
ثُمَّ ضمیر فاعل فِتْنَةً مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، بقاء جزائیۃ اَلْأُثْبِتُوا فعل امر واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ،  
واو عاطفہ اَذْكُرُوا فعل امر واو ضمیر ذوالحال لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ راجعی الفلاح کی تاویل میں ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، اَللَّهُ اسم الجلالہ  
مفعول بہ کثیرًا بواسطہ موصوف مخدوم کُوا کا مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ اَطِيعُوا فعل  
امر واو ضمیر فاعل اَللَّهُ وَرَسُولُهُ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی، واو عاطفہ لَا تَتَّخِذُوا فَتَفْشَلُوا  
تَتَّخِذُوا عَمَلُکُمْ کی تاویل میں ہے لَایْکُنْ فعل ناقص تَتَّخِذُوا عَمَلُکُمْ مرکب انشائی معطوف علیہ، بقاء عاطفہ واقعہ فی جواب الہی اور اس کے بعد اَنْ مقدر  
ہے فَتَفْشَلُوا فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدر معطوف علیہ، واو عاطفہ تَذْهَبَ رِيحُکُمْ مرکب انشائی فاعل، دونوں مل  
کر بتویل مصدر معطوف، دونوں مل کر تَتَّخِذُوا عَمَلُکُمْ معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل ہم نمی بافاعل جملہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی،  
معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء مجرور شرطیہ نہاد کا جواب، نہاد با جواب جملہ انشائیہ نہاد ہے ہوں۔ واو عاطفہ وَاصْبِرُوا فعل باواو ضمیر  
فاعل جملہ انشائیہ اَلْأُثْبِتُوا پر معطوف راجع ہے اِنَّ حرف تحقیق اَللَّهُ اسم الجلالہ اسم صحیح الصَّابِرِينَ مرکب انشائی کائین کا مفعول فیہ ہو  
کر خبر اِنَّ باسم و خبر اِسْمِہ خبریہ معللہ ہوں

وَلَا تَتَّخِذُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ  
اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۳﴾

آیت نمبر ۴: واو عاطفہ لَا تَتَّخِذُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم كاف جارہ الَّذِينَ اسم موصول خَرَجُوا فعل واو ضمیر ذوالحال  
بَطْرًا معطوف علیہ، واو عاطفہ رِئَاءَ النَّاسِ مرکب انشائی معطوف اول، واو عاطفہ وَيَصُدُّونَ فعل واو ضمیر فاعل عَن جارہ سَبِيلِ اللّٰهِ مرکب  
انشائی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین حال ذوالحال باحال خَرَجُوا  
کا فاعل، یون جارہ دِيَارِهِمْ مرکب انشائی مجرور، جار مجرور خَرَجُوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ  
مجرور، جار مجرور ظرف لغو تَتَّخِذُوا متعلق ہوئے، فعل نمی بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہنر اَلْأُثْبِتُوا پر معطوف ہے۔ واو استیعاب اَللَّهُ اسم  
الجلالہ مبتدا یا نہ جارہ مَا اسم موصول يَعْمَلُونَ فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور و متعلق مقدم ہوئے، مُحِيطٌ اسم  
فاعل ہو متصرف فاعل و متعلق مقدم سے مل کر کہہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں

وَ اِذْ رَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ وَ قَالَ لَا غٰلِبَ لَكُمْ اَلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ  
لَّكُمْ ؕ فَلَمَّا تَرَاۤءَتِ الْفِئْتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقْبَيْهِ وَ قَالَ اِنِّيْۤ اَبْرِئٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْۤ اَرٰى مَا  
لَا تَرَوْنَ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۳۸﴾

آیت نمبر ۳۸: او او عاقلہ اذ مضاف زین لعل لہم جار باجرور متعلق ہوئے الشیطان قائل اعمالہم مرکب اضافی مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاقلہ قال لعل لہم مستقر قائل سے مل کر قول، لا لئی جنس کا غالب اس کا اسم لکم جار باجرور طرف مستقر کلین کے متعلق ہوئے کلین اسم قائل ہو مستقر ذوالحال من الناس طرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال قائل آلیوم مفعول بہ، اسم قائل باقائل و مفعول فی خبر، لا لئی جنس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاقلہ ان حرف تحقیق یناہ ضمیر اس کا اسم جار، یعنی مخرجہ اسم قائل انا مستقر قائل لکم جار باجرور متعلق ہوئے، اسم قائل باقائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ لعل محذوف اذ کو کا مفعول بہ ہے فقاء عاقلہ لکنما طرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم کوا آت لعل الفئتان قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط تکص لعل ہو مستقر قائل علی جارہ عقبئہ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور طرف مستقر ہار یا کے متعلق ہو کر تکص کی ضمیر قائل سے حال ہے، لعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاقلہ قال لعل ہو مستقر قائل، و دونوں مل کر قول، ان حرف تحقیق یناہ ضمیر اس کا اسم بری صیغہ صفت انا مستقر قائل و لکم جار باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، صیغہ صفت باقائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

ان حرف تحقیق یناہ ضمیر اسم آزی لعل انا مستقر قائل ما اسم موصول لا ترون لعل واو ضمیر قائل سے مل کر صلہ موصول باصلہ مفعول بہ، لعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بواسطہ حرف عطف محذوف کے قول کا مقولہ ہے۔ ان حرف تحقیق یناہ ضمیر اس کا اسم اخاف لعل انا مستقر قائل اللہ اسم الجلالہ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بواسطہ حرف عطف محذوف کے قول کا مقولہ ہے یا جملہ متانفہ ہے او استینافیہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا شہیدید العقاب مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

﴿۳۸﴾

اِذْ یَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هُوَ لَآءٍ دِیْنُهُمْ وَ مَنْ یَّتَوَكَّلْ  
عَلَى اللّٰهِ فَانَ اللّٰهُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۹: اذ مضاف یقول لعل المنافقون معطوف علیہ، او او عاقلہ اللذین اسم موصول فی جارہ قلوبہم مرکب اضافی مجرور، جار باجرور طرف مستقر لعل محذوف جیت کے متعلق ہوئے، اور مرض قائل ہے، لعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قائل، لعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، غر لعل هو لاء فلا مر قائل دینہم مرکب اضافی مفعول بہ،

تینوں میں کہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ مضایف الیہ، مضایف یا مضایف الیہ فعل مخدوف اذ کو کا مفعول فیہ ہے۔ واو استثنا فیہ من اسم شرط مبتدہ، یتوکلن فعل مستتر فاعل علی اللہ جہا بجز و طرف لہو متعلق ہوئے، فعل یا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء مخدوف ہے یغلب علی احد آجہ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ خبر، مبتدہ باجزاء جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ ہوں فقہاء تعلیلہ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم عنونی حکیمہ وہ خبر بیان با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔

وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَتَّخِذُونَ وُجُوْهُهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَاذْبَارَهُمْ وَذُوْقُوا

### عَدَابَ الْحَرْبِيِّ ⑤

آیت نمبر ۵۰: واو استثنایہ تو شرطیہ تازی فعل آت متسترفاعل اذ مضایف یتوکلن فعل اللذین اسم موصول کفروا فعل یا فاعل باوا ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ مقدم الملائکۃ ذوالحال یتظہرون فعل واو ضمیر فاعل ووجوهہم مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عطف اذبا وھم مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ، فعل یا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال یتوکلن فاعل، فعل یا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضایف الیہ، مضایف یا مضایف الیہ تازی کا مفعول فیہ، فعل یا فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء مخدوف ہے کہ ایت آخر اعظیہ مباشر باجزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عطف ذوقوا فعل امر واو ضمیر فاعل عذاب الحرہی مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں میں کہ جملہ انشائیہ یتوکلون مخدوف کا مقولہ ہے، قول یا مقولہ یتظہرون پر معطوف ہے۔

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اٰیْدِيكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِيْنَ ⑥

آیت نمبر ۵۱: ذلک اسم اشارہ مبتدہ، بما جارہ ما اسم موصول قدّمتم فعل ایدیکم مرکب اضافی فاعل، فعل یا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عطف انّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لیس فعل ناقص مستتر اس کا اسم بہا جہا نامہ کلّامہ صیغہ مبالغہ ہو مستتر فاعل للعابدین جارہ بجز و طرف لہو متعلق ہوئے، صیغہ مبالغہ یا فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر محلاً منسوب خبر، لیس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ انّ کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ تاویل مفرد معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مجرور، جارہ بجز و طرف مستقر کاؤن کے متعلق ہو کہ ذلک کی خبر، مبتدہ باجزاء جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

كٰذٰبٍ اِلٰ فِرْعَوْنَ وَاَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِآٰیٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ

بِذُنُوْبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدٌ الْعِقَابِ ⑦

آیت نمبر ۵۲: کان جارہ ذاب مضایف ال فرعون مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عطف الذین اسم موصول من جارہ قلبہم مرکب اضافی مجرور، جارہ بجز و طرف مستقر کذبوا کے متعلق ہو کہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مضایف الیہ، مضایف یا مضایف الیہ مجرور، جارہ بجز و طرف مستقر کاؤن کے متعلق ہو کہ مبتدہ مخدوف ذابہم کی خبر، مبتدہ باجزاء جملہ اسمیہ خبریہ ہوں کفروا فعل واو ضمیر فاعل بتاء جارہ آیات اللہ مرکب اضافی مجرور، جارہ بجز و طرف لہو متعلق ہوئے، فعل یا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ فقہاء اخذ فعل ضمیر مفعول بہ اللہ اسم الجلالہ فاعل بتاء جارہ ذنوبہم مرکب اضافی مجرور، جارہ بجز و طرف متعلق ہوئے، چاروں مل

کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بمعطوف دآب الی فِرْعَوْنَ۔۔۔ اس کا بیان اور تفسیر ہے ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اسم کوئی خبر اول شہید العقب خبر ثانی بان ہاں خبر اول جملہ اسمیہ خبریہ منقلہ ہو۔

ذٰلِكَ يٰۤاَنَّا اللّٰهُ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۵۳﴾

آیت نمبر ۵۳: ذٰلِكَ اسم اثناء مبتدأ بہا جادہ اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لَمْ يَكْ فعل ناقص مُغَيِّرًا اسم فاعل ہو متعلق فاعل نِّعْمَةً موصوف بالکَم فعل ہو متعلق فاعل مَا ضمیر مفعول بہ عَمَل قَوْمٍ جادہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت مفعول بہ، حَتّٰى حرف غایت و جز اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یُغَيِّرُوْا فعل واو ضمیر فاعل مَا اسم موصول بتاء جادہ اَنْفُسِهِمْ مرکب انشائی باجر و طرف مستقر کثرت کے متعلق ہو کہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، تینوں مل کر بنا و مل مصدر باجر و جادہ جار باجر و مَقَدِّرًا کے متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق شبہ جملہ ہو کہ خبر بان ہاں خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عاقلہ اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اسم سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ دو خبر بان ہاں خبر اول جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ بمعطوف باجر و جادہ باجر و طرف مستقر کثرت کے متعلق ہو کہ ذٰلِكَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

كَدّٰبِ اَلۡ فِرْعَوْنَ ۗ وَاَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ طَغَوْا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَاَعْرِفْنَا اَلۡ فِرْعَوْنَ ۗ وَكُلًّا كَاَنُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۵۴﴾

آیت نمبر ۵۴: كَدّٰبِ اَلۡ فِرْعَوْنَ وَاَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ کی ترکیب اوپر آیت نمبر ۵۳ میں گذر چکی ہے کَدّٰبِ اَلۡ فِرْعَوْنَ واو ضمیر فاعل بتاء جادہ آیاتِ رَبِّهِمْ مرکب انشائی باجر و جادہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ عاقلہ اَهْلَكْنٰمْ فعل ناقص خبر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بتاء جادہ ذَلُّوْهُمْ مرکب انشائی باجر و جادہ باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ہوا و عاقلہ اَعْرِفْنَا فعل ناقص خبر فاعل اَلۡ فِرْعَوْنَ مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بمعطوفین دآب الی فِرْعَوْنَ۔۔۔ اس کا تفسیر اور بیان ہے۔ ہوا و عاقلہ کُلُّ مبتدأ کا کُلُّ اَلۡ فِرْعَوْنَ واو ضمیر اسم ظالمین اسم فاعل هُمْ متعلق فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہاں خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

سوال: کُلُّ کلمہ ہے اس کا مبتدأ بتا کیسے درست ہے مبتدأ معرفہ ہوتا ہے۔

جواب: کُلُّ اصل میں کُلُّہُمْ تھا لہذا یہ ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے پھر مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے عوض تخوین لائی گئی ہے۔

اِنَّ شَرَّ الدّٰوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۵﴾

آیت نمبر ۵۵: اِنَّ حرف تحقیق شَرُّ الدّٰوَابِّ مرکب انشائی ذوالحال عِنْدَ اللّٰهِ مرکب انشائی ثابتا کے متعلق ہو کہ حال، ذوالحال ہاں اسم الظالمین کَفَرُوْا موصول باصلہ خبر، اِنَّ ہاں خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لہذا فیصیحہ اور شرط و محذوف ہے لاکان الَاٰمِرُ كَذٰلِكَ هُمْ

ضمیر مبتدأ لا یُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

**الَّذِينَ عٰهَدْتَ مِنْهُمْ لَمَّا يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لَا يَتَّقُونَ**

**آیت نمبر ۵۶:** الَّذِينَ اِسْم موصول عَاهَدْتَ فاعل تے مفتوحہ فاعل دونوں مل کر صلہ، موصول باسملہ الَّذِينَ كَفَرُوا سے بدل ہے مِنْهُمْ ظرف مستقر كَاذِبِينَ کے متعلق ہو کر موصول کی طرف لائے والی ضمیر مخدوف سے حال ہے، ثُمَّ عَاطِفٌ يَنْقُضُونَ فاعل واو ضمیر فاعل عَهْدَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ فی جارہ مکئی مَرَّةً مرکب اضافی مجرور، جار باجرح و يَنْقُضُونَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عَاطِفٌ هُمْ ضمیر مبتدأ لا یُتَّقُونَ فاعل باواو ضمیر فاعل خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف معطوف علیہ با معطوف عَاهَدْتَ پر معطوف ہے۔

**فَاِمَّا تُنْفِقْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ ۝۷**

**آیت نمبر ۵۷:** فَآء عَاطِفَانِ حرف شرط مَا اَلَمْ تَلْفَقْنِ فاعل اَنْتَ مستقر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ فی الْحَرْبِ جار باجرح و متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فَاء جزائیہ شَرِّدْ فاعل اَنْتَ مستقر فاعل یُهمُّ جار باجرح و متعلق ہوئے مِّنْ اِسْم موصول خَلْفَهُمْ مرکب اضافی فعل مخدوف کَيْتٌ لا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باسملہ مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں لَعَلَّ حرف ترمیمی هُمْ ضمیر اس کا اسم پدّ کُرُونَ فاعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَعَلَّ اِسْم و خبر جملہ انشائیہ رَاجِعٌ کَذَّ كُوْهُمُ کی تائید میں ہو کر شَرِّدْ کی ضمیر فاعل سے حال ہے یا جملہ تعلیہ ہے۔

**وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذِيْهِمْ عَلٰی سَوَآءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخٰٓئِنِيْنَ ۝۵۸**

**آیت نمبر ۵۸:** واو عَاطِفٌ یا استثنائی ان حرف شرط مَا اَلَمْ تَخَافَنَّ فاعل اَنْتَ مستقر فاعل مِّنْ قَوْمٍ جار باجرح و متعلق ہوئے خِيَانَةً مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فَاء جزائیہ اِنْبِذِيْهِمْ فاعل اِسْرَا اَنْتَ مستقر فاعل اِنْبِذِيْهِمْ جار باجرح و متعلق ہوئے، اور علی سَوَآءٍ طرف مستقر كَاذِبِينَ کے متعلق ہو کر اِنْبِذِيْهِمْ کے فاعل اور اِنْبِذِيْهِمْ کی ضمیر دونوں سے حال ہے، فعل اِسْرَا بافاعل و متعلق جملہ امریہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ اولیٰ پر معطوف ہے یا جملہ متانفہ ہے۔ اِنَّ حرف تحقیق اَللّٰهُ اِسْم اَجْلَالِ اِسْم لَا يُحِبُّ فاعل هُوَ مستقر فاعل الْخٰٓئِنِيْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنَّ اِسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۸ ﴾

**وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝۵۹**

**آیت نمبر ۵۹:** واو عَاطِفٌ لَا يَخْسِبَنَّ فاعل الَّذِيْنَ كَفَرُوا موصول باسملہ فاعل، مفعول اول مخدوف ہے۔ لِيْنِ اَنْفُسَهُمْ سَبَقُوا فاعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مَعْلَا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ اِنْبِذِيْهِمْ پر معطوف ہے۔ اِنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اِسْم لَا يُعْجِزُونَ فاعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنَّ اِسْم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

**وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبٰطِ الْخَيْْلِ كُرْهُبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ**

أَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَعَلَّ تَعْلَمُوهُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تَتَّبِعُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَتْلَمُونَ ﴿۶۰﴾

**آیت نمبر ۶۰:** واو عاطفہ آید وَا فاعل اور او ضمیر فاعل اَللّٰهُمَّ جارِ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مَا اسم موصول اِسْتَنْصَعْتُمْ فاعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنْ قُوَّةٍ جارِ باجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ مِنْ حرف جارِ بِاطِ الخَيْلِ مرکب اضافی مجرور، جارِ باجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف مستقر کاکِنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال آید وَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوفہ ہوں۔

تُوْهِبُوْنَ فاعل واو ضمیر فاعل پہ جارِ باجرور متعلق ہوئے، عَدُوَّ اللّٰهِ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ عَدُوَّ كُمْ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ اَخْرَيْنَ موصوف مِنْ جارہ دُونِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جارِ باجرور ظرف مستقر کاکِنَيْنِ کے متعلق ہو کر صفت اول، لَعَلَّ تَعْلَمُوْنَ فاعل باو ضمیر فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف باصمتین معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین تُوْهِبُوْنَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ آید وَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، اَللّٰهُ مبتدأ، يَتَعْلَمُهُمْ فاعل هُوَ مستقر فاعل هُمُ ضمیر مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ اَخْرَيْنَ کی صفت ثانیہ ہے یا جملہ متانفہ ہے۔

واو استینافیہ مَا اسم شرط مفعول بہ مقدم تَتَّبِعُوا فاعل واو ضمیر فاعل مِنْ لَمَّا حرف ظرف مستقر کاکِنَا کے متعلق ہو کر مَا اسم شرط کا حال ہے، فِيْ جارہ سَبِيْلِ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جارِ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ مقدم و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، يُوَفِّ فاعل مجهول هُوَ مستقر نائب فاعل اِلَيْكُمْ جارِ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يا حالیہ اَللّٰهُمَّ ضمیر مبتدأ، لَا تَتْلَمُونَ فاعل مجهول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہے یا اِلَيْكُمْ کی کُمُ ضمیر سے حال ہے، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْتَنِحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۱﴾

**آیت نمبر ۶۱:** واو عاطفہ اِنْ حرف شرط جَنَحُوا فاعل واو ضمیر فاعل لِلسَّلْمِ جارِ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عاقبہ جزائیہ اِجْتَنِحْ فاعل اِنَّكَ مستقر فاعل لَهَا جارِ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَوَكَّلْ فاعل اِنَّكَ مستقر فاعل عَلَى اللّٰهِ جارِ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں اِنْ حرف تَحْتِمْنَ ضمیر اس کا اسم هُوَ ضمیر مبتدأ، اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ دو خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ خبریہ اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَضْرِهِ وَأَنْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْأَفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۶۲﴾

**آیت نمبر ۶۳، ۶۴:** **اِوَاعِلْفَانْ حَرْفِ شَرْطِيَّةٍ يُدْوِا لِفْعَلٍ وَاَوْصِيْرٍ فَاَلْ اَنْ حَرْفِ مَعْدُوِيٍّ وَنُصْبٍ يَحْكُدُوْا فِعْلٌ وَاَوْصِيْرٍ فَاَلْ**  
 کس ضمیر مفعول ہے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاؤں مصدر مفعول ہے، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط عقابہ جزائیہ اِنْ حرف  
 تحقیق حَسْبُكَ مرکب انسانی اسم اللہ خبر بیانِ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا ہُو ضمیر مبتدأ اللہ فی اسم موصول  
 اَيْدِ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلْ كَمْ ضَمِيْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ بِمَاءٍ جَدِهٖ نَاصِرًا مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ جَرُوْرٌ، جَدٌ بِجَرُوْرٍ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعِلْفَانْ بِالْمُوْمِنِيْنَ جَدٌ بِجَرُوْرٍ  
 مَعْفُوْفٌ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفٍ غَرَفٍ لَوْ مَعْتَلِقٌ هُوَ، فِعْلٌ بِاقَاعِلْ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ وَ مَعْتَلِقٌ مَلْ كَرْجَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعِلْفَانْ  
 اَلْفٌ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ بِئِيْنِ قَلُوْبِهِمْ مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ مَفْعُوْلٌ فِيْهٖ، تِيْنِوْنِ مَلْ كَرْجَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، مَوْصُوْلٌ بِاِ  
 نْعَلِ خَبْرٍ، مَبْتَدَأٌ بِجَرِ مَجْلَدٍ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَتَافِقَةٌ بِمَعْلَمَةٍ هُوَلُوْ حَرْفٌ شَرْطِيٌّ اَلْفَقَّتْ فِعْلٌ تَائِيٌّ مَعْتَرَفٌ قَاعِلٌ مَتَافِقٌ مَوْصُوْلٌ فِي الْاَوْضِ جَدٌ بِجَرُوْرٍ  
 غَرَفٍ مَسْتَرْتَابٌ مَعْدُوِيٌّ حَسْبُكَ كَمْ مَعْتَلِقٌ هُوَ كَرْسَلَةٌ، مَوْصُوْلٌ بِاِسْمِ ذَوَالْحَالِ حَسْبُكَ مَتَافِقٌ، ذَوَالْحَالِ بِحَالِ مَفْعُوْلٌ بِهٖ، فِعْلٌ بِاقَاعِلْ وَ مَفْعُوْلٌ بِهٖ مَلْ كَرْ  
 جَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ مَتَافِقَةٌ اَلْفَقَّتْ فِعْلٌ تَائِيٌّ مَعْتَرَفٌ قَاعِلٌ بِئِيْنِ قَلُوْبِهِمْ مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ مَفْعُوْلٌ فِيْهٖ، تِيْنِوْنِ مَلْ كَرْجَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ،  
 وَاَوْعِلْفَانْ لِكِنْ حَرْفٌ اِسْتِدْرَاكٌ اَللَّهُ اِسْمُ الْجَلَالِ اِسْمُ اَلْفِ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قَاعِلٌ بِئِيْنَهُمْ مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ مَفْعُوْلٌ فِيْهٖ، تِيْنِوْنِ مَلْ كَرْجَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ خَبْرٌ،  
 حَرْفٌ اِسْتِدْرَاكٌ بِاِسْمِ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوْفٌ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفٍ جَزَاء، شَرْطٌ بِاِجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٌ مَتَافِقَةٌ هُوَلُوْ اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ تَضْمِيْرٌ  
 اِسْمٌ عَزُوْرٌ يُرْوَدُ خَبْرِيًّا بِاِسْمِ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْلَمَةٌ هُوَلُوْ

**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥١**

**آیت نمبر ۶۳:** **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ**  
 ہفت فلا منصوب مفعول ہے، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء حَسْبُكَ مرکب انسانی مبتدأ اللہ اسم الجلالہ مفعول علیہ وَاَوْعِلْفَانْ  
 مَنِ اسم موصول اَتَّبَعْتُ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ ذَوَالْحَالِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَرَفٍ مَسْتَرْتَابٌ كَاثِمًا كَمْ مَعْتَلِقٌ هُوَ كَرْسَلَةٌ، ذَوَالْحَالِ بِحَالِ مَفْعُوْلٌ بِهٖ،  
 تِيْنِوْنِ مَلْ كَرْسَلَةٌ، مَوْصُوْلٌ بِاِسْمِ مَعْفُوْفٌ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفٍ خَبْرٌ، مَبْتَدَأٌ بِجَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْلَمَةٌ، نَدَاءٌ بِاِجْزَاءِ جَمَلَةٍ اِنْسَانِيَّةٌ نَدَائِيَّةٌ  
 ہوا

﴿ رُكُوْعٌ نَمْبَرٌ ۹ ﴾

**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبْرُونَ ٥٢**  
**يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ٥٣ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ**  
**لَا يَفْقَهُوْنَ ٥٤**

**آیت نمبر ۵۱:** **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** کی ترکیب ادہ کی آیات میں گذر چکی ہے اور یہ نداء ہے حَرِّضِ فِعْلٌ اَلَتْ مُسْتَرْتَابٌ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ  
 جَدٌ بِجَرُوْرٍ غَرَفٍ لَوْ مَعْتَلِقٌ هُوَ، تِيْنِوْنِ مَلْ كَرْجَلَةٌ اِنْسَانِيَّةٌ نَدَاءٌ، نَدَاءٌ بِاِجْزَاءِ جَمَلَةٍ اِنْسَانِيَّةٌ هُوَلُوْ اِنْ حَرْفٌ شَرْطِيٌّ يَكُنْ فِعْلٌ تَائِيٌّ  
 وَنَكْبَةٌ غَرَفٍ مَسْتَرْتَابٌ كَاثِمًا كَمْ مَعْتَلِقٌ هُوَ خَبْرٌ مَقْدَمٌ عَشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ اِسْمٌ مَوْخَرٌ، فِعْلٌ تَائِيٌّ بِاِسْمِ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ فَعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ



ہو کہ شرط یَغْلِبُوا الضل واؤ ضمیر فاعل و ماکتبیں مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ ہواؤ عاقلہ  
 ان حرف شرط لکن فعل ناقص و منکم ظرف مستقر کا کتبتہ کے متعلق ہو کہ خبر مقدم و ماکتبہ اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ  
 شرط یَغْلِبُوا الضل واؤ ضمیر فاعل القا موصوف من ہادہ الذلین کفروا و موصول باصلہ مجرور، جہا با مجرور ظرف مستقر کا کتبتہ کے متعلق ہو کہ  
 صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، بنا جہا ان حرف تحقیق ہڈ ضمیر اس کا اسم کفو موصوف کا یَغْلِبُوْنَ فعل باواؤ ضمیر فاعل صفت،  
 موصوف با صفت خبر بان کا اسم و خبر بتا ویل مفرد مجرور، جہا با مجرور یَغْلِبُوا کے متعلق ہوئے، فعل با ناقص و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ  
 جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

اَلَّذِن حَقَّقَ اللّٰهُ عَنْكُم وَّ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَّائَةٌ صَابِرَةٌ  
 يَغْلِبُوا اِمَّا تَتَيْنِ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُوا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ

الصّٰبِرِيْنَ ۝

آیت نمبر ۲۶: اَلَّذِن حرف زمان مفعول فیہ مقدم حَقَّقَ فعل الجلال اسم الجلال فاعل عَنْكُم جہا با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے،  
 چہاں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواؤ عاقلہ علیہ فعل ہو مستقر فاعل اَنْ حرف تحقیق فِيْكُمْ جہا با مجرور ظرف مستقر کا کتبتہ کے متعلق  
 ہو کہ خبر مقدم حَقَّقًا اسم مؤخر اَنْ با اسم و خبر و مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ  
 با معطوف جملہ معطوف ہو۔ فَاَدْ اِسْتِنَا فِیْ اِنْ حرف شرط لکن فعل ناقص و منکم ظرف مستقر کا کتبتہ کے متعلق ہو کہ خبر مقدم و ماکتبہ صابرون کا  
 مرکب تو صبی اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط یَغْلِبُوا الضل واؤ ضمیر فاعل و ماکتبیں مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ  
 خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ ہواؤ عاقلہ ان حرف شرط و منکم ظرف مستقر کا کتبتہ کے متعلق ہو کہ خبر مقدم اَلْف اسم مؤخر،  
 فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط یَغْلِبُوا الضل واؤ ضمیر فاعل اَلْفَيْنِ مفعول بہ بنا جہا اِنْ اَلَّذِن اللّٰو مرکب انسانی مجرور، جہا با مجرور  
 ظرف لغو متعلق ہوئے چہاں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہواؤ  
 استینا اَللّٰہ اسم الجلال مبتدہ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ مرکب انسانی کا مفعول فیہ ہو کہ خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

مَا كَانَ لِيَنْبِیْ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰی حَتّٰی يُعْجِزَ فِی الْاَرْضِ طٰثِرِيْدُوْنَ عَرَضَ  
 الدُّنْيَا سِوَ اللّٰهِ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

آیت نمبر ۶۷: مَا كَانَ فاعل ناقص لِيَنْبِیْ ظرف مستقر کا کتبتہ کے متعلق ہو کہ خبر مقدم اَنْ حرف مصدری و نصب یَكُوْنَ فعل  
 ناقص کہ ظرف مستقر کا کتبتہ کے متعلق ہو کہ خبر مقدم اَسْرٰی اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر غلام فوس کا  
 اسم مؤخر حَتّٰی حرف غایت و جزا اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یُعْجِزْنَ فعل ہو مستقر فاعل فِی الْاَرْضِ جہا با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل  
 و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، جہا با مجرور کان کے متعلق ہوئے، فعل ناقص با اسم و خبر و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ طٰثِرِيْدُوْنَ  
 فعل واؤ ضمیر فاعل عَرَضَ الدُّنْيَا مرکب انسانی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاقلہ اَللّٰہ مبتدہ یُرِيْدُ

فعل هو مستتر فاعل الأخرى مقبول به، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ متنافیہ ہو لو او استیفاء فی اللہ مبتدأ معترض یؤکد خبر، مبتدأ با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متنافیہ ہو۔

لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۸: لَوْ لَا حرف افتعال کتاب موصوف، مِنَ اللّٰهِ ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ سَبَقَ فعل هو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ موصوف با صفتین مبتدأ، اور خبر مخدوف ہے، هُوَ جُودٌ مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط، لَاحِرٌ جوابیہ مَسَّ فعل کُفٌ ضمیر مفعول بہ فی حرف جار ما اسم موصول أَخَذْتُمْ فعل با فاعل صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور ظرف لقوم صس کے متعلق ہوئے، عَذَابٌ عَظِيمٌ مرکب تومینی فاعل، فعل با فاعل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ مَّا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۶۹﴾

آیت نمبر ۶۹: فَكُلُوا اور شرط مخدوف ہے إِذَا أَبَحْتُمْ لَكُمْ الْغَنَائِمَ كَلُوا فعل امر وا ضمیر فاعل مِنْ جادہ ما اسم موصول غَنِمْتُمْ فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے حَلَالًا وَ طَيِّبَاتٍ موصوف مخدوف اکل کا دو صفت ہیں، موصوف با صفتین مفعول مطلق ہے، فعل با فاعل و متعلق مفعول مطلق جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لو او عاطفراً اتَّقُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اللّٰہ اسم الجلالہ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ کَلُوا پر معطوف ہے۔ إِنَّ حرف تحقیق اللّٰہ اسم الجلالہ اس کا اسم غَفُورٌ وَ رَحِيمٌ دو خبرین با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ منطوق ہو۔

﴿ ۱۰ ﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيِدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا

يُرِيَتْكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۷۰﴾

آیت نمبر ۷۰: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اس کی ترکیب آیت نمبر ۶۵ میں دیکھئے اور یہ نداء ہے۔ قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لَاحِرٌ مِنْ اَمٍّ موصول فی حرف جار ایدیٰ کُمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر بقیات فعل مخدوف کے متعلق ہو کر صلہ، موصول با صلہ ذوالحال مِنْ الْأَسْرَىٰ جار با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مجرور، جار با مجرور و ظرف لقوم متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ قول باریان حرف شرط یَغْفِرْ فعل اللّٰہ فاعل فی قُلُوبِكُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے خَيْرًا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، یُرِيَتْ فعل اور یہ اصل میں یُرِيْ قُلُوبِكُمْ ہے۔ هُوَ مستتر فاعل خَيْرًا اسم تفضیل هُوَ مستتر فاعل مِنْ جادہ ما موصول أُخِذَ فعل مجہول هُوَ مستتر با فاعل مِنْ کُمْ ظرف لقوم متعلق ہوئے، فعل مجہول با فاعل فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور و متعلق ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر یُرِيَتْ کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہو او عاطفہ یَغْفِرْ فعل هُوَ مستتر فاعل کُمْ جار با مجرور ظرف لقوم متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ منقول، قول با مقول جواب نداء، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء ہے متنافیہ ہو لو او استیفاء فی لفظ اللّٰہ مبتدأ غَفُورٌ وَ رَحِيمٌ دو

خبر مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ ہو۔

وَإِنْ يُرِيدُوا حَيَاتِنَا فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

### حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾

**آیت نمبر ۵۰:** واؤ عاطفان حرف شرطیو یُدُوا فعل واؤ ضمیر فاعل حیاتینک مرکب انسانی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقاء جزائیہ قَدْ علامت فعل خَانُوا فعل واؤ ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ، مِنْ قَبْلُ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل مفعول بہ و متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ اَمْكَنَ فعل موصول مفعول بہ مِنْهُمْ جاد باجمر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہوا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ أَوْوُوا وَ نَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ؕ وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الَّذِينَ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥١﴾

**آیت نمبر ۵۱:** إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل باؤ ضمیر فاعل یاؤ عاطفہ هَاجَرُوا فعل یاؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاطفہ جَاهَدُوا فعل واؤ ضمیر فاعل فی جادہ سَبِيلِ اللَّهِ مرکب انسانی مجرور، جاد باجمر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ الَّذِينَ الَّذِينَ اسم موصول أَوْوُوا فعل یاؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِنَّ اسم اشارہ مبتدأ، بَعْضُهُمْ مرکب انسانی ہو کر مبتدأ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مرکب انسانی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ کی خبر، اِنَّ بالاسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ ہو۔

واؤ عاطفہ الَّذِينَ الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل یاؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لَمْ يَهَاجِرُوا فعل یاؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، مَعَانِي لَكُمْ ظرف مستقر کَلْبُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم صون جادہ وَلَايَتِهِمْ مرکب انسانی مجرور، جاد باجمر و کَلْبُونَ کے متعلق ہو کر حال مقدم، صون جادہ ناکمہ ہی ہو کَلْبُونَ ظرف مستقر ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ الَّذِينَ الَّذِينَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ الَّذِينَ الَّذِينَ پر معطوف ہے۔

حَتَّى حرف نایب و جر اور اس کے بعد اَنْ مقدم ہے لَهَاجِرُوا فعل یاؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتول مصدر مجرور، جاد باجمر و متعلق ہوئے، بعضی فعل کے جو مَعَانِي سے سمجھا جا رہا ہے، یعنی اَنْ كَلْبُونَ کے متعلق ہے واؤ عاطفان حرف شرط یا اسْتَنْصَرُوا فعل واؤ ضمیر فاعل لَمْ يَهَاجِرُوا فعل یاؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، فقاء جزائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صون جادہ وَلَايَتِهِمْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْأَنْصُرُ مستثنیٰ منہ بِالْأَحْرَفِ اسْتِثْنَاءٌ عَلَىٰ جادہ قَوْمٍ موصول بَيْنَكُمْ مَرْكَبِ انسانی

معطوف علیہ، وَاوَعْلَفَ بِنَعْتِهِمْ مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ یا معطوف کلّیّ کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم ہیں تِلْكَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے مستثنیٰ النَّصْرُ کے، مستثنیٰ مند با مستثنیٰ مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوئے وَاوَعْلَفَ فی الْاَلْفِ مبتدا، تاء جارحاً موصول تَعْمَلُونَ فعل باء واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے بِبَصِيْرٍ سینہ صفت ہوئے مستتر قائل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلقہ ہوئے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَصْمِهِمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ الْآخَرِينَ فَتَنَّا فِي الْأَرْضِ وَقَسَّأْنَا

**کَبِيْرٌ**

**آیت نمبر ۴۳:** وَاوَعْلَفَ فِي الْآخَرِينَ اسم موصول كَفَرُوا الفعل واو ضمير قائل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مبتدا بَعْضُهُمْ مرکب انسانی مبتدا اجنبی اَوْلِيَاءَ بَعْضِهِمْ مرکب انسانی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا الاکل کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلقہ ہوئے، این حرف شرط لانگامہ تَفَعَّلُوا الفعل واو ضمير قائل ضمير مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط تَكُنَّ فعل تام فَتَنَّا معطوف علیہ، وَاوَعْلَفَ قَسَّأْنَا كَبِيْرٌ مرکب توسعی معطوف، معطوف علیہ یا معطوف قائل فی الْأَرْضِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوئے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرَوْا أَوْلِيَاءُ

**المُؤْمِنُونَ حَقَّادَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ**

**آیت نمبر ۴۴:** وَاوَعْلَفَ الْآخَرِينَ اسم موصول آمَنُوا الفعل باء واو ضمير قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَعْلَفَ هَاجَرُوا الفعل باء واو ضمير قائل معطوف اول وَاوَعْلَفَ حَقَّادَ الفعل باء واو ضمير قائل فی جملہ سَبِيْلِ اللَّهِ المركب انسانی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین صلہ، موصول با صلہ معطوف علیہ، وَاوَعْلَفَ الْآخَرِينَ اسم موصول او وَاوَعْلَفَ الفعل باء واو ضمير قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَعْلَفَ انصَرَوْا الفعل باء واو ضمير قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف صلہ، موصول با صلہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مبتدا الاکل، اَوْلِيَاءُ كَرِيمٌ اسم اثنہ مبتدا اجنبی، اَوْلِيَاءُ كَرِيمٌ ضمير فصل الْمُؤْمِنُونَ اسم قائل هُمْ مستتر قائل حَقَّادَ لَهُمْ موصوف مذكور اِنَّكَ اَكَاكَ مفعول مطلق، اسم قائل با قائل و مفعول مطلق مبتدا اجنبی کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا الاکل کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے لَهُمْ جار با مجرور ظرف مستتر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَغْفِرَةٌ معطوف علیہ، وَاوَعْلَفَ رِزْقٌ كَرِيمٌ مرکب توسعی معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئے

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ وَأَمَعَكُمُ فَأَوْلِيَاءُ مِنْكُمْ دُوا أَوْلِيَاءُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

**أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**

**آیت نمبر ۴۵:** وَاوَعْلَفَ الْآخَرِينَ اسم موصول آمَنُوا الفعل واو ضمير قائل مِنْ بَعْدِ ظرف لغو متعلق ہوئے فعل با قائل و متعلق جملہ

فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا واو عطفہ کا جزو الفاعل ہوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عطفہ کا جزو الفاعل ہوا ضمیر ذوالحال  
 مَعَكُمْ مرکب انسانی کا کئیوں کا موصول فیہ ہو کر حال، ذوالحال ہا حال قائل، فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین  
 صلہ، موصول ہا صلہ مبتدا متضمن معنی شرطیہ، مقام جزائیہ اول لیک اسم اشارہ مبتدا، مَعَكُمْ ظرف مستقر کا کئیوں کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا  
 خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوا واو عطفہ اولوا لاکھڑے مرکب انسانی مبتدا اول، ہتھکھڑ  
 مرکب انسانی مبتدا ثانی، اولی اسم تفضیل ہو مستقر قائل پبعضیوں جہا با مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل ہا قائل و متعلق شہ جملہ خبر، مبتدا یا خبر  
 مبتدا اول کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فی جادہ کتلب اللہ مرکب انسانی مجرور، جہا با مجرور ظرف مستقر کئیوں کے متعلق ہو کر مبتدا  
 مخدوف ہذا الحکمہ کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلال اسم اشارہ جادہ کتلب ہی ہو مرکب انسانی مجرور، جہا  
 با مجرور متعلق مقدم علیہ صیغہ صفت ہو مستقر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔



## ترکیب سُوْرَةِ التَّوْبَةِ

● رکوع نمبر ۱

بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

**آیت نمبر ۱:** بَرَآءَةٌ موصوف من حرف جار اللہ ورسولہ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہوئے، الی جار اللہ ورسولہ کا مضاف موصول واصلہ ذوالحال من الْمُشْرِكِينَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق، ہو کر حال، ذوالحال با ماں مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، اسم قائل ہی ضمیر فاعل و متعلقین سے مل کر شبہ جملہ ہو کر بَرَآءَةٌ کی صفت، موصوف با صفت مبتدا محذوف ہی کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ مُحْزِي الكُفْرِينَ ۝

**آیت نمبر ۲:** فسحاق معطوف اور شرط محذوف ہے، اذاکان الامم کذلک، سبیحوا فعل امر واو ضمیر فاعل فی الارض جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اربعہ اشہر میرا تہیز مفعول فیہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول فیہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اعلیٰ فعل امر واو ضمیر فاعل ان حرف تحقیق کلمہ ضمیر اس کا اسم غیر معجزی اللہ مرکب اضافی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلال اس کا اسم معجزی الکفرین مرکب اضافی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتبادل مفرد اعلیٰ کو کے دو مفعول کے کے قائم مقام، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قول محذوف قُولُوا اِيْهَا الْمُسْلِمُونَ لِلْمُشْرِكِينَ کا مفعول، قول با مفعولہ بزادہ شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَ اِذَا نَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَرَسُولُهُ ۝ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۝ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۝ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ آلِيمٍ ۝

**آیت نمبر ۳:** واو عاطفہ اذاکان موصوف من حرف جار اللہ ورسولہ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہوئے، الی النَّاسِ جار با مجرور ظرف لغو کائنات کے متعلق ثانی ہوئے، یوم الحج اکبر مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، کائنات اسم قائل ہو مستتر فاعل، اسم قائل با قائل و متعلقین شبہ جملہ ہو کر اذاکان کی صفت، موصوف با صفت مبتدا، ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلال معطوف علیہ، واو عاطفہ رسولہ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف اسم بَرِيءٌ صیغہ صفت ہو مستتر قائل من الْمُشْرِكِينَ جار با مجرور متعلق ہوئے، تیوں مل کر خبر، ان با اسم و خبر بتبادل مفرد خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، فسحاق اختیار فیہ ان حرف شرط ثانیہ فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فسحاق جزائیہ ہو ضمیر مبتدا، اعلیٰ اسم تفضیل ہو مستتر قائل لکم جار با

مجروح متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف شرط توکلیفتم فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط معاقہ جزائیہ اعلیٰ فعل امر واو ضمیر قائل ان حرف تحقیق کلمہ ضمیر اسم معنوی مضاف معجزی اللہ مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف باضناف الیہ خبر، ان با اسم و خبر بتاویل مفرد مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا واو استثنائیہ یشیر فعل امر انک مستتر قائل الذین کفروا و موصول باصلہ مفعول بہ، بتاء جارہ عذاب الینہ مرکب توصیفی مجرور، جار باجرور ظرف لغو یشیر کے متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ انشائیہ استثنائیہ ہوں۔

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَيْتُمُ الْيَهُدَ عَاهَدْتُمْ إِلَىٰ مَدَائِنِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

آیت نمبر ۳۰: الأعراف استثناء یعنی لیکن الذین اسم موصول عاهدتکم فعل بافاعل هم ضمیر منصوب مخدوف ذوالحال ومن المشرکین ظرف مستقر کالذین کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثم حرف عطف لَمْ يَنْقُصُوا فعل امر واو ضمیر قائل کلمہ ضمیر مفعول بہ اول، شئیًا مفعول بہ ثانی، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ لَمْ يُظَاهِرُوا فعل امر واو ضمیر قائل علیکم جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق ہوئے، احداً مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ متعین معنی شرط مبتدأ معاقہ جزائیہ اتوا فعل امر واو ضمیر قائل الیہم جار باجرور مبدل منه إلى مدائینہم جار باجرور مبدل، مبدل نہ بادل ظرف لغو متعلق ہوئے، عاهدتکم مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ مل کر خبر قائم مقام جزاء، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ ان حرف تحقیق لفظاً للہ مبتدأ، یحب مل ہو مستتر قائل المتقین مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْضُرُواهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

آیت نمبر ۲۵: فاء استثنائیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَسْلَخَ فعل الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ مرکب توصیفی قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط معاقہ جزائیہ اَقْتُلُوا فعل امر واو ضمیر قائل الْمُشْرِكِينَ مفعول بہ حین مضاف و جَدْتُمُوهُمْ فعل ثم ضمیر قائل هم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر مضاف الیہ، مجرور مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ خُذُوا فعل امر واو ضمیر قائل هم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ احضروا فعل امر واو ضمیر قائل هم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اقعدوا فعل امر واو ضمیر قائل لہم جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، کل مَرَصِدٍ مرکب اضافی عندا بعض مفعول فیہ اور عندا بعض بواسطہ موصوف مخدوف خُذُوا کا مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول جملہ انشائیہ معطوف ثالث،

معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَإِذَا سَمِعْتُمْ فِيهَا نَفْسًا فَادْعُوا بِهَا صَوْتَكُمْ فَالْفُتُورَ الْوَالْقُوتُورَ الْوَالنُّفُورَ  
مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ہوا واطرفہ آقاؤنا فعل واو ضمیر قائل الصلوات  
ہی، معطوف علیہ با معطوفین شرط عقابہ جزائیہ خَلَوْا فعل امر واو ضمیر قائل سَمِعْتُمْ لَمْ تَسْمَعُوا  
شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ حرف تحقیق لَنْ لَمْ تَسْمَعُوا وَرَجَعْتُمْ إِلَىٰ دِينِكُمْ  
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْرِغْهُ  
مَا مَنَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: واو استہانیہ ان حرف شرط احداً موصوف میں الْمُشْرِكِينَ ظرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر مفت، موصوف با  
صفت فعل مخدوف اسْتَجَارَ کا قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ مفسر اسْتَجَارَ فعل ہو مستتر قائل ک مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ  
مفسر، مفسر با مفسر شرط عقابہ جزائیہ اَجِرْ فعل امر اکت مستتر قائل ضمیر مفعول بہ، حقیقی حرف غایت جزاواں کے بعد ان مقدم ہے لَنْ تَسْمَعُوا  
فعل ہو مستتر قائل لَمْ تَسْمَعُوا اللہ مرکب انسانی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل  
و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اَبْرِغْ فعل امر اکت مستتر قائل ضمیر مفعول بہ، اول مَا مَنَّهُ مرکب انسانی مفعول بہ  
ہی، فعل باقائل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ تاکاؤ پر معطوف ہوں ذلک اسم  
اشاہہ مبتدایہ جملہ انشائیہ حرف تحقیق مفسر ضمیر اس کا اسم موصوف لَنْ تَسْمَعُوا فعل ہوا ضمیر قائل صفت، موصوف با صفت خبر بیان با اسم  
و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد مجرور، جار با مجرور کلین کے متعلق ہو کر ذلک کی خبر، مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿۱۰﴾ رکوع نمبر ۲

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ عِنْدَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: یَا كُونُ فعل ناقص لِلْمُشْرِكِينَ ظرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر خبر مقدم احداً موصوف عند اللہ مرکب انسانی  
معطوف علیہ ہوا واطرفہ عند رسولہ مرکب انسانی معطوف، دونوں مل کر کلین کا مفعول نہ ہو کر صفت، موصوف با صفت ذوالحال  
کیف ظرف زمان کا مفعول نہ ہو کر حال مقدم، ذوالحال با حال یَكُونُ کا اسم موصوف، فعل ناقص ہوا و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔  
إِلَّا حروف استثنیہ یعنی لکن، الَّذِينَ الْتَقِينَ اسم موصول تاکہدْتُمْ فعل باقائل عند مضاف الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مرکب تو صیغہ مضاف الیہ، پھر  
مرکب انسانی مفعول نہ، فعل باقائل و مفعول نہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول با صلہ متضمن معنی شرط مبتدایہ عقابہ جزائیہ مَا مصدر یہ ظرفیہ  
استنطاقاً واصل واو ضمیر قائل لَنْ تَسْمَعُوا جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق بتاویل مصدر مضاف الیہ مَدَّتْ مضاف مخدوف کا مضاف  
با مضاف الیہ مفعول نہ مقدم عقابہ تاکید کیلئے ہے (حاشیہ جلائین) اسْتَقِيمُوا فعل امر واو ضمیر قائل لَمْ تَسْمَعُوا جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل



و متعلق و مفعول فیہ مقدم جملہ انشائیہ خبر قائم مقام جزم، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ تَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۸﴾**

**آیت نمبر ۸:** کَیْفَ یہ اصل میں کَیْفَ یَکُونُ لَہُمْ عَہْدٌ ہے یَکُونُ فعل ناقص لَہُمْ ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَہْدٌ ذوالحال کَیْفَ ظرف زمان کا تینا کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں۔ و اِذَا حالیہ ان حرف شرط لَظْہَرُوا و فعل و اِذَا ضمیر قائل عَلَیْکُمْ جاد با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، وَلَا یَرْقُبُوا فعل و اِذَا ضمیر قائل فِیْکُمْ جاد با مجرور متعلق ہوئے اِذَا معطوف علیہ، و اِذَا عاطفہ لآلامہ ذِمَّةٌ معطوف دونوں مل کر مفعول ہے، فعل با ناقص و متعلق و مفعول ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ ہے جزم، شرط جاد با جملہ شرطیہ حال ہے لَہُمْ کی ضمیر ہُنْفُ سے یُرْضُونَ فعل و اِذَا ضمیر قائل لَہُمْ ضمیر مفعول ہے۔ بِأَفْوَاهِهِمْ جاد با مجرور متعلق ہوئے، چادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و اِذَا عاطفہ تَأْبَى فعل ناقص انسانی قائل، فعل با ناقص معطوف اِذَا، و اِذَا عاطفہ اَکْثَرُهُمْ مرکب انسانی مبتدأ قالیہ قُتُونُ اسم قائل لَہُمْ مستتر قائل سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر معطوف جانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔

**إِشْرَکُوا بِآیَاتِ اللَّهِ تَمَتًّا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹﴾**

**آیت نمبر ۹:** إِشْرَکُوا فعل و اِذَا ضمیر قائل بِآیَاتِ اللہ مرکب انسانی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے تَمَتًّا قَلِيلًا مرکب توصیفی مفعول ہے، چادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، عَطَا عاطفہ فَصَدُّوا و فعل و اِذَا ضمیر قائل عَن سَبِيلِهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔ اِنْ حرف تحقیق لَہُمْ ضمیر اس کا اسم سَاءٌ فعل و اِذَا ضمیر قائل تَمَتًّا و اِذَا ضمیر اسم یَعْمَلُونَ فعل با و اِذَا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر صلہ، موصول با صلہ قائل، فعل و اِذَا با ناقص جملہ فعلیہ انشائیہ خبر، مخصوص بالذم مبتدأ محذوف ہے عَمَلُهُمْ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر ان کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿۱۰﴾**

**آیت نمبر ۱۰:** لَا یَرْقُبُونَ فعل و اِذَا ضمیر قائل فِی مُؤْمِنٍ جاد با مجرور متعلق ہوئے اِذَا وَلَا ذِمَّةٌ معطوف علیہ با معطوف مفعول ہے، چادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و اِذَا عاطفہ اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ معطوف ضمیر رائے فعل الْمُعْتَدُونَ اسم قائل لَہُمْ مستتر قائل سے مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

**فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿۱۱﴾**

**آیت نمبر ۱۱:** فَآءِ استثنائیہ ان حرف شرط ان تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ کی ترکیب آیت نمبر ۱۰ میں گزر چکی ہے اور یہ شرط ہے، عَطَا جزمیہ اِخْوَانُکُمْ مرکب انسانی ذوالحال فی الدین ظرف مستقر کا تینین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مبتدأ محذوف لَہُمْ

کی خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں اور اعتراضیہ تَفْضِيلُ فِعْلٍ تَحْنُ مَشْتَرِقًا لِالْاَيَاتِ مَفْعُولٌ بِاَمْرِ جَاهِدِ قَوْمٍ مَوْصُوفٍ يَتَعَلَّكُونَ فِعْلٌ بِاَوَاظِ مَعْمُورٍ مَفْعُولٌ مَعْتَمِدٌ مَوْصُوفٌ بِمَفْعُولٍ مَجْرُورٌ، جار مجرور متعلق ہوئے، فِعْلٌ بِاَفْعَالٍ مَوْصُوفٌ بِمَوْصُوفٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْرُضَةٌ هِيَ۔

وَ اِنْ تَكْفُرُوا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا اَيْمَةَ الْكُفْرِ  
اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝

آیت نمبر ۱۲: او او ماضی ان حرف شرط لنگٹوا فعل واو ضمیر فاعل ايمانہم مرکب اضافی مفعول بہ میں جاہد بعد عہدہ ہم مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ معطوف علیہ، او او ماضی مطلق فعل واو ضمیر فاعل فی دینکم جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط عقابہ جزائیہ قاتلوا فعل امر واو ضمیر فاعل ائمتہ الکفر مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں اور حرف تحقیق ہم ضمیر اسم لائمی جنس ايمان اس کا اسم لہم ظرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر خبر، لاکہ اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیان با اسم واو خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں لعلہم حرف ترقی ہم ضمیر اس کا اسم ینتہون فعل واو ضمیر فاعل لعلہم کی خبر، لعلہم با اسم واو خبر جملہ اسمیہ انشائیہ وایچی ائمتہ ہم کی تہوں میں ہو کر قاتلوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

اَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا اَيْمَانَهُمْ وَ هُمْ بِاِخْرَاجِ الرُّسُولِ وَ هُمْ بَدَءُوكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ قَالَتْ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۝

آیت نمبر ۱۳: حمزہ حرف استفہام لا تقاتلون فعل واو ضمیر فاعل قوما موصوف نكثوا فعل واو ضمیر فاعل ايمانہم مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او او ماضی ہتوا فعل واو ضمیر فاعل باء جاہد اِخْرَاجِ الرُّسُولِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، او او ماضی ہتوا فعل واو ضمیر فاعل کھ ضمیر مفعول بہ، اوائل مرآت مرکب اضافی مفعول فیہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مفسر، موصوف ہمسف تقاتلون کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

ہمزہ حرف استفہام تَخْشَوْنَ فِعْلٌ وَاوُضْمِيرٌ فَاعِلٌ هُمُ مَضْمُونٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں عقابہ فیہ اس کی شرط مخدوف ہے لفظ اللہ مبدل منہ ان حرف مصدری و نصب تَخْشَوْنَ فِعْلٌ وَاوُضْمِيرٌ فَاعِلٌ هُمُ مَضْمُونٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تینوں مل کر تہوں مل مصدر بدل الاستعمال، مبدل منہ بادل، مبتدا، اَحَقُّ اِسْمٌ تَفْصِيلٌ هُوَ مَسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ مَعْلُومٌ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ جَمَلَةِ اسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هِيَ كَرَجَاءِ، شرط مخدوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوں اور ان حرف شرط لنگٹھ فعل ناقص تھ ضمیر اس کا اسم مؤمنین اسم فاعل ائمتہ مستقر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم واو خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء مخدوف ہے قائلہ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِشْرَاطٌ بِاِجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هِيَ۔

قَاتِلُوْهُمُ يَعَدِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاَيِّدِيْكُمْ وَ يُخْزِيْهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ

قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۖ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۚ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ۝

**آیت نمبر ۱۱۳:** قَاتِلُوا الصَّالِينَ ۚ قَاتِلُوا الصَّالِينَ امر واو ضمیر قاتل ھم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔ یَعْتَذِرُ فعل مضارع ھم ضمیر مفعول بہ لفظ اللہ قاتل بآء جارہ اَیْدِیْکُمْ مرکب اضافی مجرور، جار باجر اور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یُخْرِیْ یہ اصل میں یُخْرِیْ ہے فعل مضارع معلوم ھو مستتر قاتل ھم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ یَنْصُرُ فعل ڪم ضمیر مفعول بہ عَلَیْہُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عاطفہ یَنْصِفُ فعل ھو مستتر قاتل صُدُّوا مضاف قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، واو عاطفہ یُذْهِبُ فعل ھم مستتر قاتل غَیْظَ قُلُوبِهِمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف رابع، معطوف علیہ با معطوفات اخیرہ جواب امر اور جزم ہے شرط محذوف ان تَقَاتِلُوا ھم کی، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ واو استینافیہ یَتُوبُ فعل لفظ اللہ قاتل علی جارہ من اسم موصول یَشَاءُ فعل ھو مستتر قاتل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ واو استینافیہ اللہ مبتدأ، عَلَیْہُمْ حَکِیْمٌ دو خبر، مبتدأ با خبرین، جملہ اسبیہ خبریہ ہوا۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ لَمْ يَكْفِمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۱۴:** أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ لَمْ يَكْفِمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝  
 واو حال یہ لَمْ تَرْكُوا حرف جزمیہ تَعْلِیْمِ فعل لفظ اللہ قاتل الَّذِينَ جَاهَدُوا فعل واو ضمیر قاتل مِنْكُمْ كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر جَاہَدُوا کی ضمیر قاتل سے حال ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَمْ يَتَّخِذُوا فعل واو ضمیر قاتل مِنْ حَرْفِ جَزْمٍ دُونَ مضاف اللہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَرْكُوا رَسُوْلِهِ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ لَا تَرْكُوا الْمُؤْمِنِیْنَ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار باجر و یَتَّخِذُوا کے متعلق ہوئے وَلِیْجَةً مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ یَعْلَمُ کامفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال نائب قاتل یَتْرُکُوا کا، فعل مجہول با نائب قاتل جملہ فعلیہ خبریہ بتلوں مصدر حَسِبْتُمْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین لفظ جملہ انشائیہ معنی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

واو استینافیہ لفظ اللہ مبتدأ، خَبِيرٌ صیغہ صفت ھو مستتر قاتل بآء جارہ مَا موصول تَعْمَلُونَ فعل باواو ضمیر قاتل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر و متعلق ہوئے، صیغہ صفت بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسبیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔

● دیکھیں نمبر ۳ ●

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝

آیت نمبر ۱۷: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝  
 و نصب يَعْمُرُوا فعل واو ضمیر ذوالحال شہدین اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ جہ باجور و طرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم آن حرف مصدری طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، اسم فاعل باقائل و متعلق حال، ذوالحال باحال فاعل مَسْجِدِ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ بتدوین مصدر مَعَارِفُ فروع کا اسم مؤخر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ اُولَٰئِكَ اسم ایشہ مبتدأ حَبِطَتْ فعل أَعْمَالُهُمْ مرکب اضافی فاعل، و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عطف فی النَّارِ ظرف لغو خَالِدُونَ کے متعلق مقدم ہوئے هُمْ ضمیر مبتدأ خَالِدُونَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف مَحَلِّہ۔

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝

آیت نمبر ۱۸: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝  
 ہُو مستتر فاعل ہاء جہد لفظاً لِلَّهِ معطوف علیہ، ہوا و عطف الذیومر الآخر مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہ باجور و متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عطف أَقَامَ فعل هُو مستتر فاعل الصَّلَاةَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، ہوا و عطف آتَى فعل هُو ضمیر مستتر فاعل الزَّكَاةَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی ہوا و عطف لَمْ يَخْشَ فعل هُو مستتر فاعل إِلَّا حرف استثناء اللَّهُ مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثیہ صلہ، موصول باصلہ يَعْمُرُوا کا فاعل، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا فقہ اور شرط محذوف ہے۔ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، عَسَىٰ فعل متقارب اُولَٰئِكَ اس کا اسم آن حرف مصدری و نصب يَكُونُوا فعل ناقص واو ضمیر اسم من الْمُهْتَدِينَ ظرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مَعَارِفُ منصوب خبر، فعل متقارب باسم و خبر جملہ فعلیہ ایشیہ جزاء، شرط محذوف اجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجِهَدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

آیت نمبر ۱۹: هَمْزہ حرف استفہام أَجَعَلْتُمْ فعل ثُمَّ ضمیر فاعل سِقَايَةَ الْحَاجِّ مرکب اضافی معطوف علیہ، ہوا و عطف عِمَارَةَ مضاف الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مرکب توصیفی مضاف لیہ، مضاف با مضاف لیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ہوا صلہ مضاف محذوف لفظاً

کے جَعَلْتُمْ کا مفعول بہ اذل، مک بمعنی مثل مضارع، مَنْ اسم موصول آمن فعل ہو مستتر قائل، بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کی ترکیب آیت نمبر ۱۸ میں دیکھیں، اور یہ آمن کے متعلق ہے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَّاعِلْ جِهْدٌ فعل ہو مستتر قائل فی جہاد سَبِيلِ اللّٰهِ مرکب اضافی مجرور، جہاد باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مضارع، مضاف الیہ، مضاف با مضارع الیہ جَعَلْتُمْ کا مفعول ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ انشائیہ استغناء یہ ہو لَآ یَسْتَوْنَ فعل داؤ ضمیر قائل جَعَدَ اللّٰهُ مرکب اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو، وَاوَّاسْتِغْنٰہِ لِنَفْسِ اللّٰهِ مَبْدَاً لَآ یَقْدِرُ فعل ہو مستتر قائل الْقَوْمَ الْمُؤْمِنِیْنَ مرکب توحیدی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

**الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَهِدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ لِأَعْظَمِ دَرَجَةٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْقَائِمُونَ ۝**

**آیت نمبر ۲۰:** الَّذِينَ اسم موصول آمَنُوا فعل با داؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَّاعِلْ هَاجَرُوا وَ جَهِدُوا فعل با داؤ ضمیر قائل معطوف اذل، وَاوَّاعِلْ جِهْدٌ وَ فعل با داؤ ضمیر قائل فی سَبِيلِ اللّٰهِ جہاد باجرور متعلق اذل ہوئے، بآء جہاد آمَوَالِهِمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، وَاوَّاعِلْ اَنْفُسِهِمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہاد باجرور جَاهَدُوا کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلقین معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول با صلہ مَبْدَاً لَآ یَقْدِرُ اسم تفضیل ہُوْ مستتر قائل دَرَجَةٍ موصوف عِنْدَ اللّٰهِ كَاتِبَةٌ کا مفعول فیہ ہو کر صفت، موصوف با صفت تیز، اسم تفضیل باقاعل و تیز شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوَّاعِلْ اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ ہُوْ ضمیر برائے فعل الْقَائِمُونَ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ مستانفہ ہو۔

**يَبْقِيَهُمْ هُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَ جَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝**

**آیت نمبر ۲۱:** يَبْقِيَهُمْ فعل ہُوْ ضمیر مفعول بہ رَبُّهُمْ مرکب اضافی قائل بآء جہاد رَحْمَةٍ موصوف مِّنْهُ لَظْفٌ مستقر كَاتِبَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، وَاوَّاعِلْ رِضْوَانٍ معطوف اذل، وَاوَّاعِلْ جَنَّتٍ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جہاد باجرور يَبْقِيَهُمْ کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ الْقَائِمُونَ کی ضمیر مستتر قائل سے حال ہے، یا جملہ مستانفہ ہے، لآء جہاد ہُوْ ضمیر ذوالحال فِيهَا ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مجرور، جہاد باجرور ظرف مستقر كَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَنْعِيمٌ مُّقِيمٌ مرکب توحیدی مفعول بہ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**خُلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَآءِ اَجْرٍ عَظِيمٍ ۝**

**آیت نمبر ۲۲:** خُلِدِينَ اسم قائل ہُوْ مستتر قائل فِيهَا ظرف لئو متعلق ہوئے اَبَدًا مفعول فیہ، اسم قائل باقاعل و متعلق و مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کر لَظْفٌ کی ضمیر سے حال ہے، اِنَّ حرف تَحْقِيقٌ لِنَفْسِ اللّٰهِ اِنَّ کا اسم عِنْدَآءِ مرکب اضافی كَاتِبِينَ کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم اَجْرٌ عَظِيمٌ مرکب توحیدی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنَّ کی خبر اِنَّ کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى  
الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۳﴾

**آیت نمبر ۳۳:** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت مرتبہ گذر چکی ہے اور یہ نداء ہے لَاتَتَّخِذُوا فعل ثانی وَاو ضمیر فاعل  
آبَاءُكُمْ کفر مرکب اضافی معطوف علیہ وَاو عاطفہ اِخْوَانُكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اِثْلِ اَوْلِيَاءَ مفعول بہ  
ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ دال بر جزاء این حرف شرط استَحَبُّوا فعل وَاو ضمیر فاعل الْكُفْرَ مفعول بہ عَلَيَّ الْإِيمَانِ جار با مجرور  
متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، شرط دال بر جزاء سے مل کر نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ مستأنفہ ہوں وَاو  
استثنیہ سے مناسبت، مبداء، یَتَوَلَّوْا فعل ہو متصرف ذوالحال مِنْكُمْ ظرف مستقر كَاتِبًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل، هُمْ ضمیر  
منسوب مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقہاء جزائیہ اُولَئِكَ اسم بشارہ مبداء، هُمْ ضمیر برائے فَعْلِ الظَّالِمُونَ خبر، مبداء  
با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر، مبداء با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَ  
تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ  
فَاتَرْتَبِصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۳۴﴾

**آیت نمبر ۳۴:** قُلْ فعل امر اَلَّتْ مستقر فاعل سے مل کر قول، اِن حرف شرط كَانَ فعل ناقص اَبَاؤُكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ،  
وَاو عاطفہ اَبْنَاؤُكُمْ مرکب اضافی معطوف اول، وَاو عاطفہ اِخْوَانُكُمْ مرکب اضافی معطوف ثانی، وَاو عاطفہ اَزْوَاجُكُمْ مرکب اضافی  
معطوف ثالث، وَاو عاطفہ عَشِيرَتُكُمْ مرکب اضافی معطوف رابع، وَاو عاطفہ اَمْوَالٌ موصوف اقْتَرَفْتُمْ فعل ثم ضمیر فاعل ہا ضمیر  
مفعول بہ، تِجَارَةٌ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت معطوف خاص، وَاو عاطفہ تِجَارَةٌ موصوف تَخْشَوْنَ فعل وَاو ضمیر  
فاعل كَسَادَهَا مرکب اضافی معطوف بہ، تِجَارَةٌ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت معطوف سادس، وَاو عاطفہ مَسَاكِينُ موصوف  
تَرْضَوْنَ فعل وَاو ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تِجَارَةٌ مل کر صفت، موصوف با صفت معطوف سابع، معطوف علیہ با معطوفات سببہ كَانَ  
کا اسم، أَحَبَّ اسم تفضیل هُمْ ضمیر مستتر اس کا فاعل، اِن حرف جار کُمْ ضمیر مجرور، جار با مجرور متعلق اول ہوئے، مین جارہ اللہ معطوف علیہ،  
وَاو عاطفہ رَسُوْلِهِ مرکب اضافی معطوف اول، وَاو عاطفہ جِهَادٍ مصدر فی سَبِيلِهِ جار با مجرور متعلق ہوئے، مصدر با متعلق معطوف ثانی،  
معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار با مجرور أَحَبَّ کے متعلق ثانی ہوئے، اسم تفضیل با فاعل و متعلقین شہ جملہ ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص  
بِاسْمِ و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فقہاء جزائیہ تَرْتَبِصُوا فعل امر وَاو ضمیر فاعل حَتَّى حرف غایت، جزاء اس کے بعد ان مقدمے یَأْتِي فعل  
لفظاً لَئِنْ فاعل بِأَمْرٍ ہا جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جار با مجرور تَرْتَبِصُوا کے متعلق ہوئے،  
فعل با فاعل و متعلق جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں اور وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کی  
ترکیب وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کی طرح ہے آیت نمبر ۱۹ میں دیکھیں۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۗ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثُرَتْكُمُ فَلَئِمْتُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُدْبِرِينَ ۗ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

آیت نمبر ۲۶، ۲۷: ۲۶۔ ۲۷: لَمْ تَرَوْهَا کلمہ اور قسم محذوف ہے۔ قَدْ علامت فعل نَصَرَ فعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ لفظاً اللہ تاعاقل فی جاہ مَوَاطِنَ کَثِيرَةٍ مرکب تو صیغی معطوف علیہ، وَاوِ اعطف یَوْمَ حُنَيْنٍ مرکب اضافی مبدل منہ، اِذْ ظرف زمان اَعْجَبْتِ فعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ کَثُرَتْکُمْ مرکب اضافی فاعل، تَبَيَّنَ لَمْ تَرَوْهَا مفعول علیہ، ضَاقَتْ عَلَیْکُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ فعل متعلق ظرف لَمْ تَرَوْهَا متعلق علیہ، جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ہے (ج) مستتر فاعل عَذَّبْتُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے شَدِيدًا مفعول بہ، جَارِدُوا لَمْ تَرَوْهَا مرکب فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاوِ اعطف ضَاقَتْ فعل عَلَیْکُمْ جَارِدُوا مجرور متعلق اول ہوئے، الْأَرْضُ فاعل بَاءُ جَارِدُوا مفعول بہ، ضَاقَتْ عَلَیْکُمْ لَمْ تَرَوْهَا متعلق فاعل لَمْ تَرَوْهَا، جَارِدُوا مجرور متعلق ثانی ہوئے اور یَا مَعْشَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا کے متعلق ہو کر الْأَرْضُ کاحال ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، ثُمَّ حرف عطف وَلَيْتُمُ فاعل کُم ضمیر وَاوِ اعطف مُدْبِرِينَ حال، وَاوِ اعطف بآمال فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ اِذْ کاضراف الیہ، مضاف با مضاف الیہ یَوْمَ حُنَيْنٍ کابدل، مبدل منہ بادل معطوف، معطوف علیہ با معطوف فی کاجرور، جَارِدُوا مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف أَنْزَلَ فعل لفظاً اللہ تاعاقل سَكِينَتَهُ مرکب اضافی مفعول بہ عَلَی رَسُولِهِ جَارِدُوا مجرور معطوف علیہ، وَاوِ اعطف عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جَارِدُوا مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف لغو أَنْزَلَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق لَمْ تَرَوْهَا مرکب فعلیہ خبریہ معطوف اول، وَاوِ اعطف أَنْزَلَ فعل جُنُودًا موصوف لَمْ تَرَوْهَا فعل وَاوِ ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تَبَيَّنَ لَمْ تَرَوْهَا مرکب فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ لَمْ تَرَوْهَا مرکب فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، وَاوِ اعطف عَذَّبَ فعل کُم مستتر فاعل الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ لَمْ تَرَوْهَا مرکب فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ قسم محذوف کاجواب، قسم جَابِوَابِ قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو، وَاوِ استیناف فی ذلک اسم اشارہ مبتدأ، جَزَاءُ الْكَافِرِينَ مرکب اضافی خبریہ دونوں لَمْ تَرَوْهَا اسے خبریہ ہو۔

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

آیت نمبر ۲۷: ۲۷: ثُمَّ حرف استیناف يَتُوبُ فعل لفظاً اللہ تاعاقل مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ جَارِدُوا مجرور متعلق ہوئے عَلَی جَارِدُوا مِنْ يَشَاءُ موصول باصلہ مجرور، جَارِدُوا مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو، وَاوِ استیناف فی لفظاً اللہ مبتدأ، غَفُورٌ رَحِيمٌ دو خبر، مبتدأ بالخبرین جملہ اسے خبریہ متانفہ ہو۔

لَا يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا إِلَهُ الْمَشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۗ

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْنَكُمَا فَسَوْفَ يَغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ هَٰذَا لَرَأْيُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ۖ

آیت نمبر ۲۸: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كِ تَرْكِبٌ متعدد مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ تمام ہے ان حرف تختین کھونڈ ما کا ان المشرق کون لکھیں مبتدا خبر باجملہ اسیر خبریہ ہو کر جواب نداء نداء جواب بملہ انشائیہ ندائیہ ہو لفظ فیہ اور شرط محذوف ہے اذ ان کان المشرق کون لکھنا یا یقربوا فعل واو ضمیر فاعل المسجد الخواتم مرکب توصیفی مفعول بہ یغنی مضاف عامیہم مرکب اضافی موصوف ہذا اسم اشارہ صفت موصوف ہفت یغنی کا مضاف الیہ مضاف بامضاف الیہ مفعول فیہ فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ جزاء شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہو ل

واو عاطفان شرطیہ یخفتم فعل ضمیر فاعل عینکم مفعول بہ تینوں مل کر شرط عقابہ جزائیہ سوف علامت فعل یغنی فعل کفر ضمیر منصوب مفعول بہ لفظا اللہ فاعل من فضلیہ ظرف لغو متعلق ہوئے چاہوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر جواب نداء محذوف ہے ان حرف شرط ہاء فعل هو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ اور جزاء محذوف ہے فسوف یغنیکم اللہ شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا ان اللہ علیکم حکیم کی ترکیب ان اللہ غفور رحیم کی مثل سے دیکھیں آیت نمبر ۵

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَآلِ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَبُغُونَ ﴿۲۹﴾

آیت نمبر ۲۹: قَاتِلُوا فعل امر واو ضمیر فاعل الَّذِينَ اسم موصول لَا يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل بِاللَّهِ جملہ باجرور معطوف علیہ واو عاطفہ لانا نداء بہا جملہ الْيَوْمِ الْآخِرِ مرکب توصیفی مجرور جملہ باجرور معطوف ودونوں مل کر متعلق ہوئے فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ لَا يُحَرِّمُونَ فعل واو ضمیر فاعل مَا موصولہ حَرَّمَ فعل اللہ وَرَسُولُهُ موصولہ معطوف علیہ بِاللَّهِ موصولہ فاعل فعل بافاعل صلہ موصولہ باصلہ مفعول بہ فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول واو عاطفہ لَا يَدِينُونَ فعل واو ضمیر فاعل دِينَ الْحَقِّ مرکب اضافی مفعول مطلق تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی معطوف علیہ بِاللَّهِ موصولہ فاعل بِاللَّهِ موصولہ باصلہ ذوالحال میں حرف جملہ الَّذِينَ اسم موصول اُوْتُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الْكِتَابِ مفعول بہ تینوں مل کر صلہ موصولہ باصلہ مجرور جملہ باجرور کا مفعول کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال قَاتِلُوا کا مفعول بہ حقی حرف جر اور اس کے بعد ان مقدر ہے يُعْطُوا فعل واو ضمیر ذوالحال عن یَدٍ متعلقا دین کے معنی میں ہو کر حال (علا میں) ذوالحال باحال قَاتِلُوا کا مفعول بہ فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مبتدا و صلہ مجرور جملہ باجرور قَاتِلُوا کے متعلق ہوئے فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق بملہ انشائیہ امیریہ ہو لہذا واو علیہ ضمیر مرفوع مبتدا صَبُغُونَ اسم فاعل ہذا مستتر فاعل سے مل کر خبر مبتدا خبر جملہ اسیر خبریہ یغنیکم کی ضمیر فاعل سے دوسرا حال ہے

﴿ رُكُوعٌ ۵ ﴾

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرِيُّ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ قَوْلُهُمْ



بِأَفْوَاهِهِمْ يَصْهَرُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ مَا قَتَلَهُمُ اللَّهُ زَانِي يُؤْفَكُونَ ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: واوستیا نے کہا تھا کہ قاتل کفر والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم نے انہیں قتل کیا ہے، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول معزومہ مبتدئہ ابن اللہ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قاتل، فعل ناقص، جملہ فعلیہ خبریہ قول، التمسیح مبتدأ ابن اللہ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ مستانفہ ہوا۔ ذلک اسم شامہ مبتدأ مقولہ مبتدأ مرکب اضافی ذوالحال بناء جادہ أفواههم مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور ظرف مستقر کافئتا کے متعلق ہو کہ حال، ذوالحال با حال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

يُصَاهَرُونَ فعل با واو ضمیر فاعل قول مضارع، الَّذِينَ كَفَرُوا واصلہ ذوالحال من قَبْلِ طرف مستقر کافئین کے متعلق ہو کہ حال، ذوالحال با حال مضارع، مضارع با مضارع علیہ معقول بہ، فعل ناقص و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ التمسیح و التصاری سے حال ہے، قاتل فعل مضارع ضمیر منصوب معقول بہ لفظاً لئلا تفسد، تینوں مل کر جملہ انشائیہ دعائیہ ہو۔ اُنّی ظرف مکان کافئین کا معقول نہ ہو کہ حال مقدم یؤفکون فعل مجہول واو ضمیر ذوالحال، ذوالحال با حال نائب فاعل، فعل مجہول بہ نائب فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کہ قتلکھم اللہ کی ضمیر معقول بہ سے حال ہے۔

اتَّخَذُوا أَسْبَابَ لَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: اتَّخَذُوا فعل با واو ضمیر فاعل أَسْبَابَ لَهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ رَهْبَانَهُمْ مرکب اضافی معطوف، دونوں مل کر معقول بہ اول، اَرْبَابًا موصوف من جادہ دُونِ اللَّهِ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور ظرف مستقر کافئتا کے متعلق ہو کہ صفت، موصوف با صفت معقول بہ ثانی، فعل ناقص و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ واو عاطفہ الْمَسِيحَ موصوف من ابن مَرْيَمَ مرکب اضافی معطوف، اضافی صفت یا بدل، بدل من بدل أَسْبَابَ لَهُمْ معطوف ہے، واو عالیہ مآثانیہ اُمِرُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل الْأَرْحٰفِ اسْتَه لآہ جادہ تطیلیہ اور اس کے بعد اُنّ مقدّم ہے، يَتَّبِعُونَ فعل با واو ضمیر فاعل إِلَهًا موصوف واحد صفت اولی، إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ترکیب عورة الزل میں دیکھیے۔ اور یہ صفت ثانیہ ہے، موصوف با صفتین معقول بہ، فعل ناقص و معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتولی مصدر مجرور، جادہ با مجرور ظرف لغو مشتق مفرغ متعلق ہوئے، فعل مجہول بہ نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اتَّخَذُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ سُبْحٰنَهُ مصدر مضارع ضمیر مضارع علیہ عن جادہ مَا اسم موصول یُشْرِكُونَ فعل با واو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ با مجرور مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر مضارع با مضارع علیہ و متعلق فعل مرفوع سُبْحٰنَهُ کا معقول مطلق ہے۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: يُرِيدُونَ فعل با واو ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يُطْفِئُوا فعل با واو ضمیر فاعل نُورِ اللَّهِ مرکب اضافی معقول بہ

بَاء جاره اَفْوَاهِهِمْ مركب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با تامل و مفعول بہ و متعلق بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با تامل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَا فِعْلُ اللّٰهِ اسم الجلالہ فاعل لِاَلْحَرْفِ اسْتِهْمُ اَنْ حَرْفِ مَصْدَرِی وَنَسَبَ يَكْتُمُهُ فِعْلُ هُوَ مستتر فاعل نُورُهُ مركب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل با تامل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِتَّخَذُوا كِي ضَمِيرِ فاعل سے حال ثانی ہے، واو عالیہ لَوْ حَرْفِ شَرْطِ كَرِهَةُ فِعْلُ الْكٰفِرُوْنَ فاعل، و دووں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء مخدوف ہے لَا كَفَرَ اللّٰهُ نُورُهُ شَرْطِ جِزَاءِ جملہ شرطیہ نُورُهُ سے حال ہے۔

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ؕ وَ لَوْ كَرِهَ

### المُشْرِكُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۳: هُوَ ضَمِيرٌ مُبْتَدَا، الَّذِي اسم موصول اَرْسَلَ فِعْلُ هُوَ مستتر فاعل رَسُوْلَهُ مركب اضافی مفعول بہ بَاء جاره اَلْهُدٰى معطوف علیہ، واو عاطفہ وَ دِيْنِ الْحَقِّ مركب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور متعلق اول ہوئے لآء جاره تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنْ مَقْدَرٌ بے ظہور فِعْلُ هُوَ مستتر فاعل هُوَ ضَمِيرِ مفعول بہ علی جاره اَلَّذِيْنَ مَوْكِدٌ كَلِمَةٌ مركب اضافی تَاكِيْدٌ، مَوْكِدٌ تَاكِيْدٌ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با تامل و مفعول بہ و متعلق بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور اَرْسَلَ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با تامل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں واو عالیہ لَوْ حَرْفِ شَرْطِ كَرِهَةُ فِعْلُ الْمُشْرِكُوْنَ فاعل، فعل با تامل جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء مخدوف ہے لَا ظَهَرَ اللّٰهُ دِيْنَهُ الْحَقِّ، شَرْطِ جِزَاءِ جملہ شرطیہ لِيُظْهِرَهُ كِي ضَمِيرِ مفعول بہ سے حال ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبٰنِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

آیت نمبر ۳۴: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كِي تَرْكِيْبٌ بہت بار گزر چکی ہے اور یہ نداء ہے اَنْ حَرْفِ تَحْقِيْقِ كَثِيْرًا مَوْصُوْفٌ مِنْ حَرْفِ جِدَا الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبٰنِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر كَثِيْرًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت اسم لآء جاره طالعہ يٰۤاَيُّهَا فِعْلٌ وَاوَضَمِيرٌ ذُو اَلْحَالِ بِالْبٰطِلِ ظرف مستقر مُتَمَكِّنِيْنَ کے متعلق ہو کر حال، ذُو اَلْحَالِ با حَالِ فاعل اَمْوَالَ النَّاسِ مركب اضافی مفعول بہ، فعل با تامل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ وَيَصُدُّوْنَ فِعْلٌ وَاوَضَمِيرٌ فاعل عَن جاره سَبِيْلِ اللّٰهِ مركب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر اِنَّ بِاسْمِ وَخَبْر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء ہے۔

واو عاطفہ الَّذِيْنَ اسم موصول يَكْفُرُوْنَ فِعْلٌ وَاوَضَمِيرٌ فاعل الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَنْفِقُوْنَ فِعْلٌ وَاوَضَمِيرٌ فاعل هَا ضَمِيرِ مفعول بہ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل

باقاعل و مفعول بہ و متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ، متضمن معنی شرط مبتدأ، فقہ ترائیہ بقیسرو فعل امر آتت مستتر قائل ہُم ضمیر مفعول بہ، بآء جارہ عذاب الینہم مرکب توصیفی مجرور، جار باجرور بقیسرو کے متعلق ہوئے، فعل با قاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

يَوْمَ يُخْلَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: یَوْمَ مضاف یُخْلَىٰ فعل مجہول علیہا جار باجرور محل رفع میں نائب قائل ہے فی جارہ نَارِ جَهَنَّمَ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقہ عاطف فَتَكْوَىٰ فعل مجہول بِهَا جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، جِبَاهُهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، وَاو عاطف جُنُوبُهُمْ مرکب اضافی معطوف، اُول عاطف ظُهُورُهُمْ مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین نائب قائل، فعل مجہول با نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ فعل محذوف یُعَذَّبُونَ کا مفعول فیہ ہے۔ لَٰذَا اسم اشارہ مبتدأ، مَا موصول کُنْتُمْ فَذُوقُوا فعل امر واو قائل لامر جارہ اَنْفُسِكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل با قاعل و متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ یُقَالُ لَهُمْ قول محذوف کا مفعول ہے۔ فقہ نصیر اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ فَذُوقُوا فعل امر واو ضمیر قائل مَا موصول کُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم فَتَكْفُرُونَ فعل باوہ ضمیر قائل خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ فَذُوقُوا کا مفعول بہ، فعل با قاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ لَا فَلَ تَطْلُمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً ؕ وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: اِنَّ حرف تحقیق عِدَّةَ مضاف الشُّهُورِ زمانہ ال عند اللہ مرکب اضافی کا کائنۃ کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اسم اثْنَا عَشَرَ مرکب، ثانی میز شہرہ اتیز، میز یا تیز موصوف فی جارہ کِتَابِ مصدر مضاف اللہ اسم الجلالہ مضاف الیہ معنی قائل، یَوْمَ مضاف خَلَقَ فعل ہو مستتر قائل السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مرکب اضافی مفعول فیہ، مصدر مضاف با مضاف الیہ معنی قائل و مفعول فیہ شہرہ جملہ ہو کر مجرور، جار باجرور ظرف مستقر کائینۃ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، میںہا طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، اَرْبَعَةٌ حُرْمٌ مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف با متضمن خبر بیان با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، اَلدِّیْنِ الْقَيِّمِ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ فقہ نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ، لَا تَطْلُمُوْا فعل نہی واوہ ضمیر قائل فیہنَّ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَنْفُسِكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، جاروں مل کر

جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہواؤ ماظرف قَاتِلُوا فاعل امر واد ضمیر فاعل التَّوْبَةِ كَيْفَ ذوالحال، ودوون مل کر معقول بہ تکلف حرف جار ما مصدر یُحْتَابِلُونَ فاعل واد ضمیر فاعل کُفْرٌ ضمیر ذوالحال، کَافَّةً حال، ودوون مل کر معقول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار جار مجرور ظرف مستقر کَاتِبَاتُکَ متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف ویتاکا کے معقول مطلق، فعل بافاعل و معقولین جملہ انشائیہ معطوف اول ہواؤ ماظرف اعْلَمُوا فاعل امر واد ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم مع التَّوْبَةِ مرکب اضافی کَاتِبُونَ کا معقول فیہ ہو کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد دو معقول بہ کے قائم مقام، فعل بافاعل و معقولین جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معقولین جزاء شرطیہ مخدوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ هَٰذِهِنَّ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣﴾

آیت نمبر ۳: اِنْ حرف تحقیق نحو ما کاذب النَّسِيءُ مبتدأ، زِيَادَةٌ مصدر فی الْكُفْرِ جار جار مجرور متعلق ہوئے، مصدر با متعلق خبر اول، يُضَلُّ فعل مجہول بہ جار جار مجرور متعلق ہوئے الَّذِينَ كَفَرُوا موصول باصلہ ذوالحال، يُحِلُّونَهُ فاعل واد ضمیر فاعل و ضمیر معقول بہ عَامًا معقول فیہ، جار اول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواؤ ماظرف يُحَرِّمُونَهُ فاعل واد ضمیر فاعل و ضمیر معقول بہ عَامًا معقول فیہ لاکر جار جار مجرور اس کے بعد اَنْ مصدر یہ یُوَاطِّئُوا فاعل واد ضمیر فاعل عِدَّةً مضاف ما اسم موصول حَرَّمَ فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل، ودوون مل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معقول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مقام ماظرف یُحِلُّونَهُ فاعل واد ضمیر فاعل ما اسم موصول حَرَّمَ اللہ فعل وفاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معقول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرور، جار جار مجرور یُحَرِّمُونَهُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و معقولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال يُضَلُّ کتاب فاعل، فعل مجہول بہا تاجب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر دوم، مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں زین فعل مجہول لہم جار جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے سُوءُ أَعْمَالِهِمْ مرکب اضافی تاجب فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں واو استینا نہ لہدی فعل لہو مستتر فاعل الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ مرکب توسیعی معقول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۶ ﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۗ أَرْضِيكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأُخْرَةِ ۗ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأُخْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

آیت نمبر ۳۸: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب بہت مرتبہ گزر چکی ہے اور یہ تمام ہے تمام اسم استفہام مبتدأ لکم جار جار مجرور

حرف مستتر کا تین کے متعلق ہوئے گا تین اسم قائل ہو مستتر قائل اگرچہ مستتر قائل فعل مجہول ہو مستتر راجع ہوئے قول مصدر واجب فاعل لکھ جاہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول اذ تفرؤوا فعل امر واو ضمیر قائل فی سبیل اللہ جاہد باجر و طرف متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ انشائیہ مقولہ قول با مقولہ مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ کا تین کا مفعول فیہ اسم قائل با قائل و متعلق و مفعول فی خبر مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ عمدہ کا جواب و عمدہ با جواب جملہ انشائیہ ہوا لکن لکھ فعل کثرت ضمیر قائل الی الاخرین جاہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لکھ کی ضمیر سے حال ہے کہ وہ حرف استفہام و ضمیر کثرت فعل کثرت ذوالحال من الاخرین طرف مستتر مُسْتَبْدِلِیْنَ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال با قائل ہوا جملہ الحیوۃ الذلیلیہ مرکب توصیفی مجرور جاہد باجر و طرف متعلق ہوئے فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ ہو۔

فام نصیر اور شرط محذوف ہے اذ کا کتب الاخرۃ البقی و خیرا مکانا فی متاع مضاف الحیوۃ الذلیلیہ مرکب توصیفی مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ ذوالحال فی الاخرۃ طرف مستتر محسوس کا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال با قائل مبتدایہ الاحرف استفہام قائلین مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزم شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**اَلَا تَتَفَرُّوْا یُعَذِّبُکُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا وَّ یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ وَاَلَا تَضُرُّوْهُ شَیْئًا وَاَللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۳۹**

آیت نمبر ۳۹: ان حرف شرط لا تفرؤوا فعل واو ضمیر قائل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ یُعَذِّبْ فعل ہو مستتر قائل کثرت ضمیر مفعول بہ عذابا الیما مرکب توصیفی مفعول مطلق چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و او ماضی یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا مفعول موصوف غیرو کثرت مرکب انسانی صفت و موصوف با صفت مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ہوا و او ماضی لا تضرؤوا فعل واو ضمیر قائل واو ضمیر مفعول بہ شئیئا مفعول مطلق چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی مفعول علیہ با معطوفین جزم شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا و او استفہامیہ لفظا اللہ مبتدایہ علی جاہد کل شیء و مرکب انسانی مجرور جاہد باجر و طرف متعلق مقدم قیدی صیغہ صفت ہو مستتر قائل و متعلق مقدم مل کر خبر مبتدایہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنف ہو۔

**اَلَا تَتَضَرُّوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ثَانِیَ اَلْثَّنِیْنِ اِذْ هَمَّ فِی الْغَارِ اِذْ یَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ؕ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَکِیْنَتَهٗ عَلَیْهِ وَاَیَّدَتْهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَاَجَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا السَّفْلٰی وَاو کَلِمَةَ اللّٰهِ هِیَ الْعُلَیَّا وَاَللّٰهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ۝۴۰**

آیت نمبر ۴۰: ان حرف شرط لا تضرؤوا فعل واو ضمیر قائل واو ضمیر مفعول بہ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ جزم جزم قائل ملامت فعل نصرہ فعل واو ضمیر قائل لفظا اللہ قائل اذ مضاف اخرج فعل مفعول بہ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا و او موصول با قائل ثانی الثنیین مرکب انسانی اخرجہ کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ مضاف با مضاف الیہ مبدل من اذ مضاف ہما

ضمیر مبتدأ فی الْعَارِ جاد باجر و ظرف مستقر کا تینان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بدل  
اثر، واو مضاف یَقُولُ فعل ہو مستقر قائل، لاہر جادہ صاجیہ مرکب اضافی مجرور، جاد باجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول  
لَا تَحْزَنُوا فعل آت مستقر قائل سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بدل ثانی، مبدل منہ بادل نَصْرُہ کا مفعول فیہ،  
فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہولین حرف تحقیق اَللّٰہ اسم الجلال اسم مَحْتَمَلٌ مرکب اضافی کا تین کا  
مفعول فیہ ہو کر خبر بران با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

قاء عاطفہ اَنْزَلَ فعل لفظا اللّٰہ قائل سَبَّحْتُمْ مَرْكَب اضافی مفعول بہ عَلَیْہِ جاد باجر و متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ  
مفعول علیہ، واو عاطفہ اَيَّدَ فعل ہو مستقر قائل ضمیر مفعول بہ، بناء جادہ جُنُودٍ موصوف لَمْ تَكُنْ فعل واو ضمیر قائل ہَا ضمیر مفعول بہ،  
تینوں مل کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جاد باجر و ظرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر مفعول اول، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستقر  
قائل كِبَاةٌ مضاف اَلَّذِيْنَ كَفَرُوا موصول بصلہ مضاف الیہ، مرکب اضافی مفعول بہ اول، اَلْكَشْفُ ذوالحال، واو حالیہ كِبَاةٌ اللّٰہ مَرْكَب اضافی  
مبتدأ جمع ضمیر برائے فعل اَلْعُلَیَّاءِ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ  
مفعول ثانی، مفعول علیہ با مفعولین نَصْرُہ پر مفعول ہے۔ واو استینافیہ لفظا اللّٰہ مبتدأ عَزَّیْزٌ حَكِيْمٌ دونوں مل کر خبر، مبتدأ با خبرین جملہ  
اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ  
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: اِنْفِرُوا فعل واو ضمیر ذوالحال خِفَافًا وَثِقَالًا مفعول علیہ با مفعول حال، ذوالحال با حال قائل، فعل با قائل جملہ انشائیہ  
مفعول علیہ، واو عاطفہ جَاهِدُوا فعل واو ضمیر قائل بناء حرف جادہ اَمْوَالِكُمْ مَرْكَب اضافی مفعول علیہ، واو عاطفہ اَنْفُسِكُمْ مَرْكَب اضافی  
مفعول، مفعول علیہ با مفعول مجرور، جاد باجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ  
مفعول، مفعول علیہ با مفعول جملہ متانفہ ہوں۔ اَذَلِكُمْ اسم اشارہ مبتدأ خَيْرٌ اسم تفضیل ہو مستقر قائل لَكُمْ جاد باجر و متعلق  
ہوئے، تینوں مل کر شہہ جملہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہولین حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضمیر اسم تَعْلَمُوْنَ فعل با داو ضمیر قائل  
خبر، فعل ناقص با اسم و خبر شرط، اور جزاء مخدوف ہے فَجَاهِدُوا، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوْكَ وَاَلَكِنَّ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ وَاَوْ  
سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ وَاِيْهَلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَللّٰهُ يَعْلَمُ  
اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: لَوْ حرف شرط کا تین مل کر مستقر اس کا اسم عَرَضًا قَرِيْبًا مَرْكَب تو صغی مفعول علیہ، واو عاطفہ سَفَرًا قَاصِدًا  
مَرْكَب تو صغی مفعول، مفعول علیہ با مفعول خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لاہر جوابیہ لَاتَّبَعُوْكَ فعل واو ضمیر ذوالحال، واو

حالیہ لکن حرف استراک مہمل بَعْدَتْ فعل عَلَیْهِمْ جارِ باجْرور متعلق ہوئے اَلشَّقِیْقَةُ قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال قائل، کت ضمیر مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا و اوستنا فی سببین علامت فعل، یَخْلِفُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال یَخْلِفُوْنَ فعل واو ضمیر قائل اَنْفُسُهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر حال، ذوالحال باحال یَخْلِفُوْنَ کا قائل بِاللّٰهِ جارِ باجْرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ قسم، کو حرف شرط اِنْسَطَعْنَا فعل کا ضمیر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لام جوابیہ حَوْجًا فعل کا ضمیر قائل مَعَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ قسم کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

﴿ رُكُوعٌ نَّبْرٌ ﴾

عَقَا اللّٰهُ عَنكَ لِمَ اَذْنٰتٌ لَّهُمْ حَتّٰی يَتَّبِعِيْنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ تَعَلَّمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: عَقَا لفظاً اللّٰهُ قائل عَنكَ جارِ باجْرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ دعائیہ ہوا و لہذا اصل میں لہما ہے جارِ باجْرور متعلق اول مقدم ہوئے، و اذْنٰتٌ فعل ثناء مفتوح ضمیر قائل لَّهُمْ جارِ باجْرور متعلق ثانی ہوئے، حَتّٰی حرف غایت و جزا اور اس کے بعد اَنْ مقدم ہے يَتَّبِعِيْنَ فعل لَكَ جارِ باجْرور متعلق ہوئے الَّذِيْنَ اسم موصول صَدَقُوْا فعل واو ضمیر قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ قائل، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و اواعطف تَعَلَّمَ فعل اَلْتَّ مستتر قائل الْكٰذِبِيْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتولید مصدر جَرور، جارِ باجْرور متعلق ثالث ہوئے، فعل باقائل و متعلقات ثلاث جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوں

لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَا اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: لَا يَسْتَاذِنُكَ فعل کاف ضمیر مفعول بہ الَّذِيْنَ اسم موصول يُؤْمِنُوْنَ فعل واو ضمیر قائل بآء جارہ، اللّٰهُ معطوف علیہ، و اواعطف الْيَوْمِ الْاٰخِرِ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ با معطوف جَرور، جارِ باجْرور متعلق ہوئے اَنْ حرف مصدری و نصب يُجَاهِدُوْا فعل واو ضمیر قائل بآء جارہ اَمْوَالِهِمْ مرکب اضافی مفعول علیہ، و اواعطف اَنْفُسِهِمْ مرکب اضافی مفعول، معطوف علیہ با معطوف جَرور، جارِ باجْرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتولید مصدر منصوب بترجیح الفاضل دوسرے متعلق ہوئے، اور یہ اصل میں فی اَنْ يُّجَاهِدُوْا ہے، فعل باقائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ قائل، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا و اوستنا فی لفظاً اللّٰهُ مبتدا، عَلِيْمٌ صیغہ صفت ہو مستتر قائل بِالْمُتَّقِيْنَ جارِ باجْرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسبیہ خبریہ متناقضہ ہوں

اِنَّمَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَا زَاتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: اِنْ حرف تحقیق كَرُوفٌ مَا كَاذِبٌ يَسْتَاذِنُكَ فعل کاف ضمیر مفعول بہ الَّذِيْنَ اسم موصول لَا يُؤْمِنُوْنَ فعل واو ضمیر قائل

پہلے حرف جار اللہ والیوم والآخر معطوف علیہ بالمعطوف مجرور، جہاں مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِذْ تَاْتَبْتَ فَعَلْ قُلُوْبُهُمْ مَرْكِبِ اِنْسَانِي قائل، فعل بافاعل معطوف اول معافہ ہُنَّ ضمیر مبتدئہ فی جملہ وَتَلِيَهُمْ مَرْكِبِ اِنْسَانِي مجرور، جہاں مجرور متعلق مقدم ہوئے يَتَوَكَّدُونَ فعل باواو ضمیر قائل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ، مبتدئہ باخبر جملہ اسبب خبریہ معطوف ثانی معطوف علیہ بالمعطوفین صلہ، موصول باسلفہ قائل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہوں۔

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ اٰلِبَعَاثَهُمْ فَتَبٰطَلُوْهُمْ وَ قِيْلَ

اَقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: اَو اِستثنائے لَوْ حرف شرط اِذَا اَوْ اَوْضُوْا فعل باواو ضمیر قائل الْخُرُوجِ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، لام جوابیہ اَعَدُّوا فعل باواو ضمیر قائل لَہُ جہاں مجرور متعلق ہوئے عُدَّةً مفعول بہ، پہلوں مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے مَا خَرَجُوا، لٰكِنْ حرف استدراک مہمل کِرَہَ فعل لفظاً اللہ قائل اِلْبَعَاثَهُمْ مَرْكِبِ اِنْسَانِي مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ہواو عاطفہ فَتَبٰطَلُوْا فعل ہو مستتر قائل ہُنَّ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی ہواو عاطفہ قِيْلَ فعل مجہول ہو مستتر راجع ہوں مصدر قول جب قائل، و دونوں مل کر قول، اَقْعُدُوْا فعل امر واو ضمیر قائل مَعَ الْقٰعِدِيْنَ مَرْكِبِ اِنْسَانِي مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف ثالث، معطوف علیہ مخدوف ہا معطوفات ثلاثہ جملہ معطوفہ ہوں۔

لَوْ خَرَجُوْا فِیْكُمْ مَا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبٰلًا وَّلَا اَوْضَعُوْا اِحْلٰكُكُمْ يَبْغُوْكُمْ الْفِتْنَةَ ﴿۳۴﴾

فِیْكُمْ سَمِعُوْنَ لَہُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۴: لَوْ حرف شرط خَرَجُوا فعل باواو ضمیر قائل فِیْكُمْ جہاں مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، مَا تَا فِیْ رَا دُوْا فعل باواو ضمیر قائل كُمْ مفعول اول، بِالْاَحْرَفِ اسْتِثْمَ خَبٰلًا مَشْتَبِیْ مفرغ مفعول بہ ثانی، پہلوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ لام جوابیہ اَوْضَعُوْا فعل باواو ضمیر ذوالحال یَبْغُوْنَ فعل باواو ضمیر ذوالحال، واو عاطفہ فِیْكُمْ ظرف مستتر كَاذِبُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم سَمِعُوْنَ صیغہ مہاندہ ہُنَّ مستتر قائل لَہُمْ جہاں مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر مبتدئہ اسوخر، مبتدئہ باخبر حال، ذوالحال باحال یَبْغُوْنَ کا نال كُمْ اصل میں لگئے ہے، جہاں مجرور متعلق ہوئے الْفِتْنَةَ مفعول بہ، پہلوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال اَوْضَعُوْا کا نال یَحْلٰكُكُمْ مَرْكِبِ اِنْسَانِي مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف معطوف علیہ بالمعطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں واللہ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ کی ترکیب واللہ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ کی طرح ہے جو اجمعی اور گزری ہے۔

لَقَدْ اٰتٰتَعُوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَّقَلْبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰی جَاءَ الْحَقُّ وَّ ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَّ

ہُمْ كَرِهُوْنَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۶: لام موطنہ التسم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل اِتَّعُوْا فعل باواو ضمیر قائل الْفِتْنَةَ مفعول بہ، من قَبْلِ جہاں مجرور متعلق ہوئے، پہلوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ قَلْبُوْا فعل باواو ضمیر قائل لَكَ جہاں مجرور متعلق ہوئے الْاُمُوْرَ



مفعول بہ حقیقی حرف غایت و جر جاء فعل الحقیقی فاعل، دونوں مل کر معطوف علیہ ہوا و عطف ظہر فعل امر اللہ مرکب انسانی ذوالحال واو جالیہ ضمیر مبتدا لکھون ام فاعل ہُم مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال با حال ظہر کا فاعل، فعل با فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف علیا مجرور، جار با مجرور قَلْبُوْا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم معذوف با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اِنَّ الدِّنَّ لِنِيْ وَلَا تَفْتِنُوْا اِلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا وَاِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ

بِالْكَافِرِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳۹: واو استثنائیہ و مِنْهُمْ ظرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَن اسم موصول يَقُولُ فعل ہو مستتر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول اِنَّ الدِّنَّ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل فی جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہوا و عطف لا تَفْتِنُوْنَ فعل نیا نون و تانیہ بیا ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول با صلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں اَلَا حرف حمیدیہ الْفِتْنَةُ جملہ جار مجرور متعلق مقدم ہوئے سَقَطُوْا فعل با واد ضمیر فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عطف اِنَّ حرف حقیقی جَهَنَّمَ اس کا اسم، لام نہ ملکہ مَحِيْطَةٌ اسم فاعل ہی مستتر فاعل بِالْكَافِرِيْنَ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

اِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَّقُوْلُوْا اَقْدًا اَخَذْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ

وَيَقُوْلُوْا وَاَوْ هُمْ قَرِحُوْنَ ۝

آیت نمبر ۴۰: اِنْ حرف شرط تُصِيبُ فعل کا ف ضمیر مفعول بہ حَسَنَةٌ فاعل، تینوں مل کر شرط تَسُؤُ فعل ہی مستتر فاعل ہُم مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ ہوا و عطف اِنْ حرف شرط تُصِيبُ فعل کا ف ضمیر مفعول بہ مُصِيبَةٌ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط يَقُوْلُوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، قَدْ علامت فعل اَخَذْنَا فعل کا ف ضمیر فاعل اَمْرُنَا مرکب انسانی مفعول بہ، یمن قَبْلُ ظرف لغو متعلق ہوئے، پہلوں مل کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ ہوا و عطف يَّقُوْلُوْا فعل واو ضمیر ذوالحال واو جالیہ ہُم ضمیر مبتدا، قَرِحُوْنَ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال يَّقُوْلُوْا کا فاعل، فعل با فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، دونوں مل کر جملہ معطوفہ ہوں

قُلْ لَنْ يُصِيبَكَ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۗ هُوَ مَوْلَانَا ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

آیت نمبر ۴۱: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول لَنْ يُصِيبَكَ فعل کا ضمیر فاعل اِلَّا حرف استثنائیہ مَا موصولہ کتبت فعل لفظاً اللہ فاعل لَنَا جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مستحق مفرغ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں ہُو ضمیر مبتدا، مَوْلَانَا مرکب انسانی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مثلیہ ہوں و او عطف عَلَي اللّٰہ جار با مجرور ظرف لغو متعلق

مقدم ہوئے، فقہ نامہ لیکر کُنْ فعل امر التَّوْبُونَ قائل، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امر یہ ہو۔

**قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسْنِيِّينَ ۗ وَ لَحْنٌ نَّتَرَبِّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِي نَا ۗ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿۵۲﴾**

**آیت نمبر ۵۲:** قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل سے مل کر قول، هَلْ حرف استفہام تَرَبُّوْنَ فعل واو ضمیر قائل بنا جاہد باجمود متعلق ہوئے، اِلَّا حرف استثناء اِحْدَى الْحُسْنِيِّينَ مرکب اضافی مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ مقول، قول با مقول، جملہ انشائیہ ہوا۔ واو عاطفہ لَحْنٌ ضمیر مبتدأ تَرَبُّوْنَ فعل مستتر قائل بِكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے اَنْ حرف مصدری و نصب يُصِيبُ فعل کُم ضمیر مفعول بہ لَفْظُ اللّٰهُ قائل بآء جاہد عَذَابٍ موصوف میں جاہد عِنْدِہ مرکب اضافی مجرور، جاہد باجمود معطوف علیہ، واو عاطفہ بآء جاہد اَيْدِي نَا مرکب اضافی مجرور، جاہد باجمود معطوف، معطوف علیہ با معطوف کائین کے متعلق ہو کر عَذَابِ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جاہد باجمود و يُصِيبُ کے متعلق ہوئے، چاروں مل کر بنا و مل مصدر مفعول بہ، فعل باواو ضمیر قائل باقائل و متعلق و مفعول بہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ تَرَبُّوْنَ پر معطوف ہے فقہ نصیر اور اس کی شرط و محذوف ہے اِذَا وَرَدْتُمْ اَنْ تَعْلَمُوا اَللّٰهُ لَیْسَ بِاَنْ تَرَبَّصُوا فعل امر باواو ضمیر قائل جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق نَا ضمیر اسم معکم مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم متَرَبِّصُونَ اسم قائل لَحْنٌ مستتر قائل، اسم قائل باقائل و مفعول فیہ مقدم خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ محللہ ہو۔

**قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا وَّ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۗ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِيْنَ ﴿۵۳﴾**

**آیت نمبر ۵۳:** قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل سے مل کر قول اَنْفِقُوا فعل امر واو ضمیر ذوالحال طَوْعًا وَّ كَرْهًا معطوف علیہ با معطوف اسم قائل کے معنی میں ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل، فعل باقائل مقول، قول با مقول، جملہ انشائیہ امر یہ ہوا۔ لَنْ يُتَقَبَّلَ فعل مجهول ہو مستتر باب قائل و کُنْتُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متناقض ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق کُم ضمیر اسم کُنْتُمْ فعل ناقص کُم ضمیر اسم قَوْمًا فاسقین مرکب توصیفی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ محللہ ہو۔

**وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ ۗ لَفَقَطَهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُوْلِهِ ۗ وَ لَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَ هُمْ كَسٰلٰی ۗ وَ لَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَ هُمْ كَرِهُوْنَ ﴿۵۴﴾**

**آیت نمبر ۵۴:** وَاو عاطفہ مَا فَايَ مَنَعَ فعل مضع لَفَقَطَهُمْ ضمیر مفعول بہ اَنْ حرف مصدری و نصب تُقَبَّلَ فعل مجهول و مِنْهُمْ جاہد باجمود متعلق ہوئے لَفَقَطَهُمْ مرکب اضافی نائب قائل، فعل مجهول نائب قائل و متعلق بتلاو مل مصدر مفعول بہ ثانی، اِلَّا حرف استثناء اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم كَفَرُوا وَاو فعل واو ضمیر قائل بِاللّٰهِ جاہد باجمود معطوف علیہ، واو عاطفہ بِرَسُوْلِهِ جاہد باجمود معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتلاو مل مفرد مضع کا فاعل، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔ واو عاطفہ لَا يَأْتُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال اِلَّا حرف استثناء وَاو حال یہ هُمْ كَسٰلٰی مبتدأ خبر حال، ذوالحال باحال فاعل الصَّلٰوة مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يُنْفِقُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال اِلَّا حرف استثناء وَاو حال یہ هُمْ كَرِهُوْنَ مبتدأ

خبر جملہ اسبے خبریہ حال، ذوالحال باحال قائل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف کفرؤا پر معطوف ہے۔

**فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵۵﴾**

**آیت نمبر ۵۵:** قاء استینائیہ یا نصیحتیہ لا تُعْجِبْ لعل نمی کان ضمیر مفعول بہ اَمْوَالُهُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، و او عاقلہ لا ناکدہ اَوْلَادُهُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف قائل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو اِنَّ حرف تحقیق کھنڈ مآکانہ یُرِيدُ لعل لفظاً اللہ قائل لاکر جارہ تعلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یُعَذِّبُ لعل ہو مستتر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ، یہاں جار باجور و متعلق ہوئے فی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر هُمْ ضمیر منصوب سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاقلہ تَزْهَقُ لعل اَنْفُسُهُمْ مرکب اضافی ذوالحال، و او حال یہ هُمْ کَفِرُوا بتدبا خبر جملہ اسبے خبریہ حال، ذوالحال باحال قائل، فعل بافاعل، جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بنا و مل مصدر مجرور، جار باجور و یُرِيدُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

**وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَكِنُكُمْ دَاوَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿۵۶﴾**

**آیت نمبر ۵۶:** و او استینائیہ یَخْلِفُونَ لعل و او ضمیر قائل بِاللَّهِ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ قسم بیان حرف تحقیق هُمْ ضمیر اسم لاکر مذعلقہ مِنْكُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر بیان، اِسْمُ بَا م و خبر قسم کاجواب، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو، و او حال یہ مآنا یہ هُمْ ضمیر مبتدأ، مِنْكُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر معطوف علیہ، و او عاقلہ لَکِن حرف استدراک هُمْ ضمیر اس کا اسم قَوْمٌ موصوف یَفْرُقُونَ لعل با و او ضمیر قائل صفت، موصوف بصفت خبر، لَکِن اِسْمُ و خبر جملہ اسبے معطوف، معطوف علیہ با معطوف یَخْلِفُونَ کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

**لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿۵۷﴾**

**آیت نمبر ۵۷:** لو حرف شرط یَجِدُونَ لعل و او ضمیر قائل مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدْخَلًا معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط لاکر جوابیہ و لَوُا لعل و او ضمیر ذوالحال و او حال یہ هُمْ ضمیر مبتدأ، يَجْمَحُونَ لعل با و او ضمیر قائل خبر، مبتدأ خبر حال، ذوالحال باحال قائل بِاللَّهِ جار باجور و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۸﴾**

**آیت نمبر ۵۸:** و او عاقلہ مِنْهُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَن موصول یَلْمِزُ لعل ہو مستتر قائل کان ضمیر مفعول بہ فی الصَّدَقَاتِ جار باجور و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسبے خبریہ ہو، قاء خبریہ اِنْ حرف شرط أُعْطُوا لعل مجہول و او ضمیر نائب قائل مِنْهَا جار باجور و متعلق ہوئے، تینوں مل کر شرط رَضُوا لعل با و او

ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، و او عاقلہ ان شرطیہ لکم لُغَطُوا فعل مجہول و او ضمیر نائب فاعل و یُنْفَا ترف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ جزاء کا مفاعلیہ قائم مقام فاء جزائیہ (حاشیہ الجمل) ہُم ضمیر مبتدأ یَسْتَخْفُونَ فعل باذاء ضمیر فاعل خبر، مبتدأ باخبر جزاء، شرط باجزاء معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہول۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿۸﴾

آیت نمبر ۵۹: و او عاقلہ کو شرطیہ ان حرف تحقیق ہُم ضمیر اسم رَضُوا فعل و او ضمیر فاعل ما موصولہ آئی فعل ہُم ضمیر مفعول بہ اللہ وَرَسُولُهُ معطوف علیہ با معطوف فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاقلہ قَالُوا فعل و او ضمیر فاعل سے مل کر قول حَسْبُنَا مَرْكِبِ اسانفی مبتدأ لِنظَرِ اَللّٰهُ خَبْرٌ، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مبینین میں علامت فعل یُنْفَا ترف لکم لُغَطُوا فعل و او ضمیر مفعول بہ اللہ وَرَسُولُهُ معطوف علیہ با معطوف فاعل و مفعول بہ جاز با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ان حرف تحقیق تا ضمیر اسم الی اللہ ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے رَاغِبُونَ اسم فاعل لَنَحْنُ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف (بیان حرف عطف مخدوف ہے) معطوف علیہ با معطوف بیان، مبین بیان مقولہ، قول با مقولہ رَضُوا پر معطوف ہے معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتولیل مفرد فعل مخدوف کِبَتْ کافاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ جزاء، اور جزاء مخدوف ہے لکن خَيْرٌ وَاَللّٰهُمَّ (جلائی) شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہول۔

﴿۸﴾ رکن نمبر ۸

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِمَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹﴾

آیت نمبر ۶۰: ان حرف تحقیق کونہ ما کا لہ الصَّدَقَاتُ مبتدأ لاکر جاز با الفَقْرَاءِ مَعْطُوفٌ عَلَيهِ و او عاقلہ الْمَسْكِينِ مَعْطُوفٌ اَوَّلٌ و او عاقلہ الْعَمِلِينَ اسم فاعل هُم مستتر فاعل عَلَيْهِمَا جاز با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف ثانی، و او عاقلہ الْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ اسم مفعول قُلُوبُهُمْ مَرْكِبِ اسانفی نائب فاعل، دونوں مل کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلثہ مجرور، جاز با مجرور معطوف علیہ، و او عاقلہ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ مَعْطُوفٌ عَلَيهِ با معطوف مجرور، جاز با مجرور معطوف اول، و او عاقلہ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَرْكِبِ اسانفی معطوف علیہ، و او عاقلہ ابْنِ السَّبِيلِ مَرْكِبِ اسانفی معطوف، دونوں مل کر مجرور، جاز با مجرور معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ظرف مستقر كَاتِبَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہول فَرِيضَةٌ مَوْصُوفٌ مِّنَ اللّٰهِ ظرف مستقر كَاتِبَاتٍ کے متعلق ہو کر صفت یا تَالصَّدَقَاتِ کے حال ہے یا فعل مخدوف خَوْضٌ كَامْفَعُولٍ مطلق ہے و او استینافیہ لِنظَرِ اَللّٰهُ مَبْتَدَأٌ عَلَيْهِمُ حِكْمٌ و خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہول۔

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ ۖ وَيَقُولُونَ هُوَ اَدُّنُّ ۗ قُلْ اَدُّنُّ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ يَأْتِي بِلِلّٰهِ

**يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝**

**آیت نمبر ۶۱:** واوستینا فیہ منہم طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم الّذین اسم موصول یؤذون فعل واو ضمیر قائل الّذین مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواوا عطف یقولون فعل واو ضمیر قائل سے مل کر قول ہو مبتدا الّذین خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔ جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔ **فَلَنْ** فعل امر آتے مستقر قائل سے مل کر قول الّذین مضاف ختیر موصوف لکنہ طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر ہے مبتدا محذوف ہوگی، مبتدا باخبر معتر یؤمن فعل ہو مستقر قائل باللہ جہا مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواوا عطف یؤمن فعل ہو مستقر قائل لِلْمُؤْمِنِينَ طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مفسرہ ہوں۔

واوا عطف رَحْمَةً موصوف لآہر جاہہ الّذین اسم موصول آمَنُوا فعل واو ضمیر ذوالحال منکم طرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل، فعل با قائل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہا با مجرور طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت الّذین ختیر بہ معطوف ہے۔ واوستینا فیہ الّذین اسم موصول یؤذون فعل واو ضمیر قائل رسول اللہ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا، لہم طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ أَلِيمٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر مبتدا الال کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

**يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝**

**آیت نمبر ۶۲:** یخلفون فعل واو ضمیر قائل باللہ طرف لغو متعلق اول ہوئے لکم طرف لغو متعلق ثانی ہوئے لآہر جاہہ تعلیلیہ اور اس کے بعد ان مقدم ہے یُرْضَوْا فعل واو ضمیر قائل کم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جہا با مجرور متعلق ثابت ہوئے، فعل با قائل و متعلق ثلاث الّذین کی خبر ثانی ہے یا جملہ مستانفہ ہے واوا عالیہ اللہ ورسولہ معطوف علیہ با معطوف مبتدا، آحق اسم تفصیل مضاف ان حرف مصدری و نصب یُرْضَوْا فعل واو ضمیر قائل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر بتویل مصدر مضاف الیہ، اسم تفصیل با مضاف الیہ خبر جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ یُرْضَوْا کی ضمیر قائل سے حال ہے، ان شرطیہ کا کوا فعل ناقص واو ضمیر اسم مؤمنین خبر، فعل ناقص با اسم واو خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے قاللہ ورسولہ آحق ان یُرْضَوْا شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝**

**آیت نمبر ۶۳:** ہمدہ حرف استفہام کم یفعلوا فعل واو ضمیر قائل ان حرف تحقیق ضمیر اسم من اسم شرط مبتدا، یحادد فعل

ہو مستتر قائل اللہ ورسولہ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ مکملہ جزائیہ اَن حرف تحقیق لامر جاہہ ضمیر ذوالحال خالک اسم فاعل ہو مستتر قائل فیہا اکتلف لغو متعلق ہوئے تینوں مل کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جاہہ مجرور ظرف مستقر کاؤتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم بنا کر جہتہ مرکب انسانی اسم مؤخر اَن بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزائیہ شرطیہ جزائیہ من کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَن کی خبر، اَن بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد لہم یخلموا کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ ہو لذلک اسم اشارہ مبتدأ الخیر العظیمہ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنف ہو۔

يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ اَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ اَقْلِ اسْتَهْزَءُوا ۗ  
اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿۱۳۱﴾

آیت نمبر ۱۳۱: یَحْذَرُ فعل المنفقون فاعل اَن حرف مصدری و نصب تُنْزَلَ فعل مجهول علیہم جاہہ مجرور متعلق ہوئے سُورَةٌ موصوفہ تُنْزِلُ فعل ہی مستتر قائل ہُم ضمیر مفعول بہ بناء جاہہ ما اسم موصول فی جاہہ قلوبہم مرکب انسانی مجرور، جاہہ مجرور ظرف مستقر فعل محذوف حیث کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاہہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ سُورَةٌ کی صفت، موصوفہ باصفت تاجب فاعل، فعل مجهول تاجب قائل و متعلق بتاویل مصدر یَحْذَرُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستأنف ہو لَقُلِ فعل امر اکت مستتر قائل سے مل کر قول، استهزءوا فعل امر واد ضمیر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو لاین حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اسم مخرج اسم فاعل ہو مستتر قائل ما اسم موصول تَحْذَرُونَ فعل باوہ ضمیر قائل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، اسم فاعل بافاعل ومفعول بہ خبر بیان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنف ہو۔

وَ لَیْنِ سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ اَقْلِ اَبَ اللّٰهِ وَ اٰیَّتِهِ وَ رَسُوْلِهِ  
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۳۰﴾

آیت نمبر ۱۳۰: و او استینانیہ لامر موطنہ لقم اور قسم محذوف ہے اِن حرف شرطیہ سألک فعل ۲ مفتوحہ قائل ہُم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ لامر جوابیہ لَیَقُولُنَّ فعل واد محذوفہ قائل، دونوں مل کر قول اِن حرف تحقیق کونہ ما کاؤتہ کُنَّا فعل ناقص تا ضمیر اسم نَخُوضُ فعل نَحْنُ مستتر قائل سے مل کر معطوف علیہ و او عاطفہ نَلْعَبُ فعل نَحْنُ مستتر قائل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ قسم کا جواب، قسم پر جواب قسم جملہ انشائیہ ہو اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم وال ہے قُلِ فعل امر اکت مستتر قائل سے مل کر قول، ہذہ حرف استفہام بناء جاہہ اللہ و ایتہ ورسولہ معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جاہہ مجرور تَسْتَهْزِءُونَ کا متعلق مقدم کُنْتُمْ فعل ناقص اثم ضمیر اس کا اسم تَسْتَهْزِءُونَ فعل باوہ ضمیر قائل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔

لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اٰیْمَانِكُمْ اِنَّ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نَعْدِبُ طَآئِفَةً  
بِاٰثِمِهِمْ كَاثُوًا مَّجْرِمِيْنَ ﴿۱۲۹﴾

**آیت نمبر ۶۲:** لَمْ يَكُنْ عَلِيًّا وَفُلٌ لَمْ يَأْمُرْ فاعل سے ل کر جملہ انشائیہ ہو لکن علامت فعل کفو لَمْ فعل وقال بعد اِنَّمَا لَمْ مرکب انشائی مفعول فیہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہوں ان حرف شرط نَعْفُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل عَنْ جادہ کا لَفْظٌ موصوفہ مِنْكُمْ ظرف مستقر کَلْبَانِیَّة کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت مجرور، جادہ با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط نَعْبَذُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل کَلْبَانِیَّة مفعول بہ یاد جادہ اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر ام کا لَمْ فعل ناقص واو ضمیر اسم متعجب مین خبر، فعل ناقص با اسم و خبر اَنْ کی خبر اَنْ با اسم و خبر تاویل مفرد مجرور، جادہ با مجرور ظرف لغو نَعْبَذُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ۱۷ء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

﴿ رکوع نمبر ۹ ﴾

**الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيهِمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۶۳﴾**

**آیت نمبر ۶۳:** الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ معطوف علیہ با معطوف مبتدا، بَعْضُهُمْ مرکب انشائی مبتدا ثانی من بَعْضٍ ظرف مستقر کَلْبَانِی کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر اول، يَأْمُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل بِالْمُنْكَرِ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ يَنْهَوْنَ فعل واو ضمیر فاعل عَنِ الْمَعْرُوفِ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ يَقْبِضُونَ فعل واو ضمیر فاعل أَيْدِيَهُمْ مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مبتدا اول کی خبر ثانی، مبتدا با خبر جن جملہ اسمیہ خبریہ ہو لکن نَسُوا اللَّهَ فعل واو ضمیر فاعل لِنَسَاؤِ اللَّهِ مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نَسُوا فعل هو مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدا اول کی خبر ثالث ہے اِنْ حرف تحقیق الْمُنْفِقِينَ اسم هُمْ ضمیر رائے فعل الْفٰسِقُونَ خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا

**وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۶۴﴾**

**آیت نمبر ۶۴:** وَعَدَّ فعل لِنَسَاؤِ اللَّهِ فاعل الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ اول نَارَ جَهَنَّمَ مرکب انشائی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں خٰلِدِينَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل فِيهَا ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں ل کر وَعَدَّ کے مفعول بہ اول سے حال ہے ہی مبتدا، حَسْبُهُمْ مرکب انشائی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ فِيهَا کی ہا ضمیر سے حال ہے، واو عاطفہ لَعَنَ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ لِنَسَاؤِ اللَّهِ فاعل، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ وَعَدَّ پر معطوف ہے، واو عاطفہ لَهُمْ ظرف مستقر کَلْبَانِی کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ مُّقِيمٌ مرکب توصیفی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

**كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَنْتَعْتُمْ بَخْلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الْبٰلِغِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بَخْلَاقِهِمْ وَ**

حُضِّنْتُمْ كَالَّذِي خَاطَبُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۶۹﴾

﴿۱۶۹﴾

آیت نمبر ۱۶۹: کاف حرف جہد الذین اسم موصول ہون قبیلکُم طرف مستقر فعل محذوف کبیتوا کے متعلق ہو کر صلہ موصول با صلہ مجرور، جہد با مجرور طرف مستقر کالذین کے متعلق ہو کر مبتدا محذوف اللہ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کاٹوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم اشد، اسم تفضیل ہُم مستقر فاعل وینکُم طرف نحو متعلق ہوئے قوۃ تیز، اسم تفضیل بافاعل و متعلق و تیز معطوف علیہ، واو عاطفہ اس کے اسم تفضیل ہُم مستقر فاعل اموالا و اولاد معطوف علیہ با معطوف تیز، اسم تفضیل بافاعل و تیز معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ فعل محذوف کبیتوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ فاء عاطفہ استتمتوا فعل واو ضمیر فاعل بناہ جارہ مخرجا قہم مرکب اضافی مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بقاء عاطفہ استتمتوا فعل واو ضمیر فاعل بناہ جارہ مخرجا قہم مرکب اضافی مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، کاف جارہ ما مصدریہ استتمتوا فعل الذین اسم موصول ہون قبیلکُم طرف مستقر فعل محذوف مَطَّوَا کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ فاعل یخلاقہم طرف نحو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جہد با مجرور طرف مستقر کاٹنا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف استتمتوا کا استتمتوا کا مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ حُضِّنْتُمْ فعل کُم ضمیر فاعل کا حرف جہد الذین اسم موصول اول اس سے مراد الاخوص ہے، خَاطَبُوا فعل واو ضمیر فاعل واو ضمیر معطوف، تینوں مل کر صلہ موصول با صلہ مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی استتمتوا معطوف علیہ با معطوفین کاٹوا پر معطوف ہے۔ الخ

أُولَٰئِكَ اسم اشارہ مبتدا، حَبِطَتْ فعل اَعْمَالُهُم مرکب اضافی فاعل فی جارہ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ۔ واو عاطفہ أُولَٰئِكَ مبتدا ہُم ضمیر فصل الْخٰسِرُونَ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف متانفہ ہوں۔

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ لَا قَوْمٍ إِبْرٰهِيْمَ وَ أَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكَةَ ۗ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۷۰﴾

﴿۱۷۰﴾

آیت نمبر ۱۷۰: ہذہ حرف استفہام لَمْ یأتی فعل ہم ضمیر منصوب مفعول بہ کیا مضاف الذین من قبلہم کی ترکیب اور والی آیت میں دیکھیں۔ یہ موصول باصلہ مبدل منہ قَوْمِ مضاف نُوحٍ وَعَادٍ وَ ثَمُودَ معطوف علیہ با معطوفین مضاف الیہ پھر مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ قَوْمِ إِبْرٰهِيْمَ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ أَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكَةَ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف ثانی معطوف علیہ با معطوفین بدل، مبدل منہ بدل لَبَّأُ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی لَمْ یأتی کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ اشاریہ استفہامیہ ہوں۔



اَكْتَفَى فَعْلٌ هُمُ مضمير مفعول به و مُشْلُطُهُ مركب اسمانی قائل بِالْمُؤْمِنِينَ جاد باجبر و متعلق ہونے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، مَقَامَ عاطفہ صافہ کیا، فَعْلٌ ناقص لفظاً اللهُ مہملاً و لام جادہ تعلیہ یظلمہ فَعْلٌ ہُوَ مستتر قائل ہُمُ مضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر متداول مصدر مجرور، جاد باجبر و صریحاً کے متعلق ہو کر خبر، فَعْلٌ ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول و او عاطفہ لیکن حرف اسدراک مہمل کاٹا و ا فَعْلٌ ناقص و او مضمیر اسم اَنْفُسُهُمْ مرکب اسمانی مفعول بہ مقدم، یظلمون فَعْلٌ و او مضمیر قائل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فَعْلٌ ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین جملہ معطوفہ متانفہ ہوں۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۵﴾

آیة فصیحۃ: ۱۔ و او استیفاء فی الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ معطوف علیہ یا معطوف مبتدا بَعْضُهُمْ مرکب اسمانی مبتدا یعنی اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مرکب اسمانی خبر، مبتدا با خبر جملہ مبتداً اَوَّلِ کی خبر اول، يَأْمُرُونَ فَعْلٌ و او مضمیر قائل بِالْمَعْرُوفِ طرف لغو متعلق ہونے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ و او عاطفہ كَيْفَهُنَّ فَعْلٌ و او مضمیر قائل الْمُنْكَرِ طرف لغو متعلق ہونے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول و او عاطفہ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ فَعْلٌ با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، و او عاطفہ يُطِيعُونَ فَعْلٌ و او مضمیر قائل اَللَّهِ وَرَسُولَهُ معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ یا معطوفات اربعہ، مبتدا اَوَّلِ کی خبر ثانی، مبتدا با خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں اَوْلِيَاءُ اسم اشارة مبتدا سیدین، علامت فَعْلٌ يَزِيحُهُمْ فَعْلٌ هُمُ مضمیر مفعول بہ لفظاً اللهُ قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں اِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۳۵ اِنَّ باسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مظاہر ہوں۔

وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَسَلْسَلِينَ مَحْسُورِينَ فِي جَنَّتِ عَدْنٍ أُولَئِكَ أَكْبَرُ أُولَئِكَ هُمُ الْفُقَرَاءُ الْعَظِيمُ ﴿۳۶﴾

آیة فصیحۃ: ۳۶۔ وَعَدَّ فَعْلٌ لفظاً اللهُ قائل اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ اول جَنَّتِ موصوف جَنَّتِ جری فَعْلٌ مِنْ تَحْتِهَا جاد باجبر و متعلق ہونے اَلْأَنْهَارُ قائل، فَعْلٌ با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، و او عاطفہ سَلْسَلِينَ موصوف کَلْبَةً صفت اولیٰ، فی جادہ جَنَّتِ عَدْنٍ مرکب اسمانی مجرور، جاد باجبر و کَلْبَةً کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ ثانی، وَعَدَّ فَعْلٌ با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں اَلْخَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ کے مفعول اول سے حال ہے و او استیفاء فی عَدْنٍ موصوف مِنْ اَللَّهِ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدا اَكْبَرُ اسم تفضیل ہُوَ مستتر قائل سے مل کر خبر ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں اُولَئِكَ اسم اشارة مبتدا، هُوَ مضمیر فَعْلٌ الْفُقَرَاءُ الْعَظِيمُ مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظاہر ہوں۔

● رکوع نمبر ۱۰ ●

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأْمُؤُهُمْ جَهَنَّمُ ذُو بَيْتِ النَّصِيرِ ۝

**آیت نمبر ۳۳** جہاد کا مفہوم ہے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نداء جہاد فعل امر آتت مستقر قائل الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ معطوف علیہ با معطوف مضبوط، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَغْلُظْ فعل امر آتت مستقر قائل عَلَيْهِمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء ہے، واو استینائیہ ماؤُهُمْ مرکب اضافی مبتدأ جہنم خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ، واو استینائیہ فی بَيْتِ النَّصِيرِ فعل الذم الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ قائل، دونوں مل کر خبر، مخصوص بالذم مبتدأ محذوف ہے جَهَنَّمُ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ بِمَا  
كَمَرُوا يَتَنَلَوْنَ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتَوْبُوا يَكُفَّرْ  
خَيْرًا اللَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ

فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

**آیت نمبر ۳۴** یَخْلِفُونَ فعل واو ضمیر قائل بِاللَّهِ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، مآثریہ قَالُوا فعل واو ضمیر قائل سے مل کر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَاہِر موطن القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل قَالُوا فعل واو ضمیر قائل كَلِمَةَ الْكُفْرِ مرکب اضافی معطوف بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ وَكَفَرُوا فعل واو ضمیر قائل بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ مرکب اضافی معطوف بہ، تینوں مل کر معطوف اول، واو عاطفہ هُمْ قائل واو ضمیر قائل بَعْدَ جہادہ ما موصول لَمْ يَتَنَلَوْا فعل با واو ضمیر قائل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ، واو استینائیہ مَا فِي تَنَلُوا فعل واو ضمیر قائل الْآخِرَةِ اسمئہ آن حرف مصدری و نصب اَغْنَى فعل هُمْ ضمیر معطوف بہ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ معطوف علیہ با معطوف قائل مِنْ فَضْلِهِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و معطوف بہ و محتاج جملہ فعلیہ خبریہ بتولید مصدر مستثنیٰ مفرغ ہو کر تَقَمُوا کا معطوف بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ مستأنفہ ہوا

قَامَ اسْتِئْنَاءً فِي رَأْسِ حَرْفِ شَرْطِيَّةٍ يُوَاغِلُ وَادَّ ضَمِيرُ قَائِلٍ، دُونوں مل کر شرط بيك فعل ناقص هُوَ مستتر اسم حَيْدِهِم تفضيل هُوَ مستتر قائل لَهُمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر شہیدہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم واو خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ رَأْسِ حَرْفِ شَرْطِيَّةٍ يُوَاغِلُ وَادَّ ضَمِيرُ قَائِلٍ، دُونوں مل کر شرط يُوَاغِلُ فعل هُمْ ضمیر معطوف بہ لفظ اَللَّهُ قائل عَذَابًا اَلِيمًا امر کب تو صیغی معطوف متعلق فی جہادہ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق و معطوفین جزاء،

شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف اولیٰ ہوا و عاقلہ مآناً فی لہم طرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم منیٰ الأزض طرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر حال مقدم ہونے والیٰ و فی غفار فرغ معطوف علیہ ہوا و عاقلہ لآ ناکہ نصیب غفار فرغ معطوف، دونوں مل کر ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدہ مؤخر، مبتدہ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین جملہ معطوف ہوں۔

وَمِنْهُمْ مَن عٰهَدَ اللّٰهَ لَیْنِ اٰتَمْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَکَذِبًا وَلَکُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝۵

آیت نمبر ۵: ۵: نو او استیثنا فی و مِنْهُمْ طرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم منیٰ اسم موصول عاقلہ فعل ہو مستقر قائل لفظ اللہ معطوف بہ، تیوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدہ مؤخر، مبتدہ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متنافیہ ہوں لآ ہ موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے ان حرف شرط انیٰ فعل ہو مستقر قائل تا ضمیر معطوف بہ ہون فضلہ جار باخبر در طرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط لآ ہ جوابیہ لَکَذِبًا فعل لَکَذِبًا مستقر قائل، دونوں مل کر معطوف علیہ ہوا و عاقلہ لآ ہ جوابیہ لَکُوْنَنَّ فعل ناقص لَکُوْنَنَّ مستقر اسم من الصلیحین طرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جواب قسم، قسم یا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں اور شرط کی جزاء محذوف ہے جس پر جواب قسم وال ہے۔

فَلَمَّا اٰتَمُوْهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَکَوْنُوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝۶

آیت نمبر ۶: ۶: فآء عاقلہ لَمَّا اتعظم معنی شرط معطوف فی مقدم انیٰ فعل ہو مستقر قائل ہضمیر معطوف بہ ہون فضلہ طرف لغو متعلق ہوئے، فعل ناقص و معطوف بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط بَخِلُوْا فعل واو ضمیر قائل بہ جار باخبر در متعلق ہوئے، تیوں مل کر معطوف علیہ ہوا و عاقلہ کَوْنُوْا فعل واو ضمیر قائل ضمیر ذوالحال واو حالیہ ہضمیر معطوف بہ مبتدہ، معرِضُوْنَ اسم قائل ہضمیر مستقر قائل سے مل کر خبر، مبتدہ باخبر حال، ذوالحال باحال کَوْنُوْا کا قائل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَاعْقَبَهُمْ نِقَافًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰی یَوْمٍ یَّلْقَوْنَہٗ بِمَا اَخْلَقُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا کَانُوْا

یَکْذِبُوْنَ ۝۷

آیت نمبر ۷: ۷: فآء عاقلہ اَعْقَبَ فعل ہو مستقر قائل ہضمیر معطوف بہ اول نِقَافًا موصول فی قُلُوْبِهِمْ طرف مستقر کا کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف بہ ثانی الیٰ یوم جار یوم مضاف یَّلْقَوْنَہٗ فعل ناقص و معطوف بہ مضاف الیہ، پھر مرکب انسانی مجرور، جار باخبر در طرف مستقر مُنْتَبِئًا کے متعلق ہو کر نِقَافًا سے حال ہے بآء جارہ مآ مصدر یہ اَخْلَقُوا فعل واو ضمیر قائل لفظ اللہ معطوف بہ اول، مآ اسم موصول وَعَدُوْا فعل واو ضمیر قائل ہضمیر معطوف بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف بہ ثانی، فعل ناقص و معطوفین بتبادل مصدر مجرور، جار باخبر در معطوف علیہ ہوا و عاقلہ بآء جارہ مآ مصدر یہ کَانُوْا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَکْذِبُوْنَ فعل ہا و ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر بتبادل مصدر مجرور، جار باخبر در معطوف، معطوف علیہ یا معطوف اَعْقَبَ کے متعلق ہوئے، فعل ناقص و معطوفین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔

اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ ۝۸

**آیت نمبر ۷۸:** هَمْز حرف استہمام کہ یَعْلَمُوا فعل واو ضمیر قائل اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم یَعْلَمُوا فعل ہو مستتر قائل سید ہمزہ مرکب اضافی معطوف علیہ واو عاطفہ تَعْلَمُوا لہم مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر خبر اَنْ کا واسطہ دہرا اور خبر تاویل مفرد معطوف علیہ واو عاطفہ اَنْ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم عَلَّمُوا الغُیُوبِ مرکب اضافی خبر اَنْ کا واسطہ دہرا خبر تاویل مفرد معطوف، معطوف علیہ معطوف لہم یَعْلَمُوا کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ انشائیہ استہمامیہ ہوں۔

**الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا**

**جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ وَهُمْ عَدَاؤُا لِيَوْمٍ ۝۹**

**آیت نمبر ۹:** الَّذِينَ اسم موصول يَلْمُزُونَ فعل واو ضمیر قائل الْمُطَّوِّعِينَ زوال اللہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ظرف مستقر کائینہ کے متعلق ہو کر حال، زوال اللہ باحال معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول لَا يَجِدُونَ فعل واو ضمیر قائل لِأَحْرَفِ اسْتِهَامِ جُهْدُهُمْ مرکب اضافی مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ بِمَعطوف يَلْمُزُونَ کا مفعول بہ فی الصَّدَقَاتِ جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہونے، فعل ہا قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مَقَامِ عَاطِفِ يَسْخَرُونَ فعل واو ضمیر قائل وَمِنْهُمْ جادہ باجرور متعلق ہونے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بِمَعطوف صلہ، موصول باصلہ مَبْتَدَاً سَخِرُوا فعل اللہ اسم الجلالہ قائل وَمِنْهُمْ جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہونے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَهُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَدَاؤُا الْيَوْمِ مرکب توصیفی مبتدہ موخر، مبتدہ باخر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بِمَعطوف الَّذِينَ کی خبر، مبتدہ باخر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

**اِسْتَعْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ**

**لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝۱۰**

**آیت نمبر ۱۰:** اِسْتَعْفِرُ فعل امر اَلتَّسْتَعْفِرُ لَهُمْ مستتر قائل لَهُمْ جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہونے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَسْتَغْفِرُ فعل اَلتَّسْتَعْفِرُ لَهُمْ مستتر قائل لَهُمْ جادہ باجرور متعلق ہونے، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ بِمَعطوف جملہ معطوفہ متانفہ ہوں۔ اِنْ حرف شرط اَلتَّسْتَعْفِرُ فعل اَلتَّسْتَعْفِرُ لَهُمْ مستتر قائل لَهُمْ جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہونے سَبْعِينَ مَرَّةً مُمَيِّزٌ يَتَمَيَّزُ مَفْعُولٌ فِي مَجَازِئِ مَلِكٍ كَرِهُوا، فَادَّ جَزَائِهِ لَنْ يَغْفِرَ فعل لَنْ لَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى قائل لَهُمْ ظرف لغو متعلق ہونے، تینوں مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ ذَلِكَ اسم اشارہ مبتدہ، بناء جادہ اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اسم كَفَرُوا فعل واو ضمیر قائل بَاء جادہ اَللَّهُ وَرَسُولِهِ معطوف علیہ بِمَعطوف مجرد، جادہ باجرور متعلق ہونے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اَنْ کا واسطہ دہرا خبر تاویل مفرد مجرد، جادہ باجرور ظرف لغو مستقر کائین کے متعلق ہو کر ذَلِكَ کی خبر، مبتدہ باخر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ واو استہمامیہ اَللَّهُ اسم الجلالہ، مبتدہ لَا يَهْدِي فعل هُوَ مستتر قائل الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ مرکب توصیفی مفعول بہ، تینوں مل کر خبر، مبتدہ باخر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

﴿رُكُوْعٌ ۱۱﴾

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۱: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ قائل بہا جہہ مقعداً مصدر مضارع ضمیر مضارع الیہ معنی قائل خلفاً رسول اللہ مرکب انسانی مفعول فیہ، تینوں مل کر مجرور، جہاں جہر و فریح کے متعلق ہوئے، فعل بانفعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ہواوا معطفہ کرہوا فعل داؤ ضمیر قائل آن حرف مصدری و نصب یجاہدوا فعل داؤ ضمیر قائل بہا جہہ اَمْوَالِهِمْ مرکب انسانی معطوف علیہ، ہواوا معطفہ اَنْفُسِهِمْ مرکب انسانی معطوف، ہواوا مل کر مجرور، جہاں جہر و یجاہدوا کے متعلق اول ہوئے فی سَبِيلِ اللَّهِ جہاں جہر و متعلق ثانی ہوئے فعل بانفعل و متعلقین ہواوا مل مصدر کرہوا کا مفعول بہ، فعل بانفعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، ہواوا معطفہ قَالُوا فعل ہواوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہواوا مل مصدر کرہوا کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول بانقولہ معطوف جانی، معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ معطوفہ ہواوا مل فعل امر آت مستتر قائل سے مل کر قول نَارِ جَهَنَّمَ مرکب انسانی مبتدہ اھذ اسم تفضیل ہی مستتر قائل حَرًّا خبر، تینوں مل کر خبر، مبتدہ خبر مقولہ، قول بانقولہ جملہ انشائیہ ہواوا حرف شرط کاؤوا فعل ناقص داؤ ضمیر اس کا اسم یَفْقَهُونَ فعل ہواوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جزاء محذوف ہے مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوا

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لِيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۲: ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا﴾ قلم نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ كَانُوا الْأَمْرُ كَذَلِكَ لِيَضْحَكُوا فعل امر داؤ ضمیر قائل قَلِيلًا بواسطہ موصوف محذوف ضحكاً کے مفعول مطلق یا بواسطہ موصوف محذوف وقتاً کے مفعول فیہ ہے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہواوا معطفہ لِيَبْكُوا فعل امر داؤ ضمیر قائل كَثِيرًا بواسطہ موصوف محذوف بکاء کے مفعول مطلق یا بواسطہ محذوف وقتاً کے مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہواوا جزاء موصوف بہا جہہ ہا مصدر یہ کاؤوا اِيْكَسِبُونَ کی ترکیب کاؤوا يَفْقَهُونَ کی طرح ہے جو ابھی گزری ہے فعل ناقص ہا اسم و خبر بتوا مل مصدر مجرور، جہاں جہر و کاؤوا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت فعل محذوف جُزْؤًا کا مفعول مطلق ہے، جُزْؤًا فعل مجہول داؤ ضمیر تابع قائل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَ لَنْ تُنْقَاتُوا مَعِيَ عَدَاً هَاتِكُمْ رَضِيئْتُمْ بِالْقُعُودِ أَوْلَ مَرَةٍ فَاغْتَدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ ﴿۱۲﴾



فعل انْفُسُهُمْ مرکب اضافی ذوالحال و او عالی هُمْ كَلْفُوْنَ مبتدأ خبر جملة اسمیه خبریه حال ذوالحال باحال قائل، فعل باقائل جمله فعلیه خبریه معطوف معطوف علیہ بالمعطوف بتولید مصدر یُوْذَى كَمَا مفعول به، فعل واقائل و مفعول به جمله فعلیه خبریه ہوں۔

وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أَوْ لَوِ الظُّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا آذَرْنَا لَنْكُنَّ مَعَ الْقَعْدِيْنَ ۝

آیت نمبر ۸۶: او او استیثنا فیہ إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اُنْزَلْتَ فعل مجهول سُورَةُ قائل آن مصدریہ آمِنُوا فعل امر و او ضمیر قائل بِاللَّهِ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، او او عطفہ جَاهِدُوا فعل امر و او ضمیر قائل مَعَ رَسُولِهِ مرکب اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف بتاویل مصدر منصوب، نزع الخافض ہے، اور اصل میں بِأَنْ آمِنُوا ہے، جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجهول ہاتھ قائل و متعلق و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیه خبریه شرطیہ اسْتَأْذَنَكَ فعل کاف ضمیر مفعول بہ۔ اَوْ لَوِ الظُّوْلِ مرکب اضافی ذوالحال مِنْهُمْ ظرف مستقر کَافِیْنِ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال قائل، فعل واقائل و مفعول بہ جملہ فعلیه خبریه معطوف علیہ، او او عطفہ قَالُوا فعل با و او ضمیر قائل جملہ فعلیه خبریه قول، فعل امر اَلْتِ مستقر قائل تا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں لَنْكُنَّ فعل ناقص لَنْكُنَّ مستقر اسم مَعَ الْقَعْدِيْنَ مرکب اضافی کَافِیْنِ کا مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیه خبریه جواب امر ہو کر مجزوم ہے، اور شرط و حذف وان لَنْكُنَّ کا جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝

آیت نمبر ۸۷: رَضُوا فعل و او ضمیر قائل بآء جارہ آن حرف مصدری و نصب یَكُونُوا فعل ناقص و او ضمیر اسم مَعَ الْخَوَالِفِ ظرف مستقر کَافِیْنِ کا مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیه خبریه معطوف علیہ، او او عطفہ طَبَعَ فعل مجهول ہو ضمیر تائب قائل عَلٰی قُلُوبِهِمْ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیه خبریه معطوف اول، فاء عطفہ هُمْ ضمیر مبتدأ لَا يَفْقَهُونَ فعل با و او ضمیر قائل جملہ فعلیه خبریه خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیه خبریه معطوف ثانی، معطوف علیہ بالمعطوفین جملہ معطوف ہوں۔

لَكِنَّ الرِّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

آیت نمبر ۸۸: لَكِنَّ حرف استدراک مہملہ اَلرِّسُولَ معطوف علیہ، او او عطفہ الَّذِينَ ام موصول با مَنُوا فعل و او ضمیر قائل مَعَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ فعلیه خبریه صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف مبتدأ جَاهِدُوا فعل و او ضمیر قائل بآء جارہ اَمْوَالِهِمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، او او عطفہ اَنْفُسِهِمْ مرکب اضافی معطوف، دونوں مل کر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیه خبریه خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیه خبریه معطوف علیہ، او او عطفہ اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدأ لَهُمُ ظرف مستقر کَافِیَاتِ کے

متعلق ہو کر خبر مقدم **اَلْحَيُّوْتُ** مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول و او عاطفہ اولیٰ قے اسم اشارہ **مِنْهُمْ** ضمیر برائے فعل **اَلْمُفْلِحُوْنَ** اسم قائل **هٰذَا** ضمیر مستتر قائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہو۔

**اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَهَنَّمَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۸۹﴾**

**آیت نمبر ۸۹:** اَعَدَّ فعل لفظاً اللہ تامل لہم جار باجر و متعلق ہوئے جہنم موصوف تَجْرِي فعل من تحتها جار باجر و متعلق ہوئے الْاَنْهَارُ قائل، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف ہفت مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو کر خَالِدِيْنَ اسم قائل **هٰذَا** مستتر قائل **فِيْهَا** جار باجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر شبہ جملہ ہو کر لہم کی **هٰذَا** ضمیر سے حال ہے ذلک اسم اشارہ مبتدا **اَلْقَوْزُ الْعَظِيْمُ** مرکب توسیعی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

﴿ رُكُوْعٌ نُّمْبَرٌ ۱۳ ﴾

**وَجَاءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ**

**سَيُصِيبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۹۰﴾**

**آیت نمبر ۹۰:** وَاو استیثنا **جَاءَ** فعل **اَلْمُعَذِّرُوْنَ** ذوالحال من **اَلْاَعْرَابِ** ظرف مستقر **اَلَّذِيْنَ** کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل **لَا** جار جارہ او اس کے بعد ان مقدّمے **يُؤْذَنَ** فعل مجہول **هُوَ** مستتر تاب قائل **لَهُمْ** ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہا تاب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدر مجرور، جار باجر و **جَاءَ** کے متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عاطفہ **قَعَدَ** فعل **اَلَّذِيْنَ** اسم موصول **كَذَّبُوْا** فعل و او ضمیر قائل **اللّٰهَ** و **رَسُوْلَهُ** معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔ سببین علامت فعل **يُصِيبُ** فعل **اَلَّذِيْنَ** اسم موصول **كَفَرُوْا** فعل و او ضمیر ذوالحال **مِنْهُمْ** ظرف مستقر **اَلَّذِيْنَ** کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل، فعل باقائل صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، **عَذَابٌ اَلِيْمٌ** مرکب اسنادی قائل مؤخر، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

**لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْطِيِّ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ**

**اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِٖٓ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ﴿۹۱﴾**

**آیت نمبر ۹۱:** لَيْسَ فعل ناقص علی الضعفاء جار باجر و معطوف علیہ، و او عاطفہ **لَا** تاکدہ علی **اَلْمُرْطِيِّ** جار باجر و معطوف اول، و او عاطفہ **لَا** تاکدہ علی جارہ **اَلَّذِيْنَ** اسم موصول **لَا يَجِدُوْنَ** فعل و او ضمیر قائل، **مَا** موصول **يُنْفِقُوْنَ** فعل باو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقائل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر و معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ظرف مستقر **كَوْنًا** کے متعلق ہو کر خبر مقدم، **حَرَجٌ** اسم مؤخر، فعل ناقص **بِاِسْمِ** و **خَيْرِ** جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ **اِذَا** ظرف زمان مضاف **نَصَحُوْا** فعل و او ضمیر قائل **لَا** جار **لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِٖٓ** معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار باجر و متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ



مضاف الیہ، مضاف بمضاف الیہ مفعول فیہ ہے، فعل معنوی اِنْتِفَاءً کا جو کہ لیکس حرف لئی سے سمجھا جاتا ہے، معانیہ علی الْمُحْسِنِیْنَ ظرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر خبر مقدم میں جارہ نامہ سَبِیْلٍ ظار مرفوع مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو استغنیہ لفظ اللہ مبتدأ مَعْفُوٌّ وَرَجِيْمٌ دو خبر، مبتدا با خبر جن جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتَ لِيُخْلِعَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُخِيْلُهُمْ عَلَيْهِمْ يَكُوْنُوْنَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيْضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ۝۹۲

آیت نمبر ۹۲: واو عاطفہ لانا کہہ علی جارہ اَلَّذِيْنَ اسم موصول اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ہما لانا کہہ اتوا فعل واو ضمیر قائل کاف ضمیر منسوب مفعول بہ، لاہ جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے تَخِيْلٍ فعل اَنْتَ مستقر قائل ہُمُ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر بتولیں مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ قُلْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لا اجد فعل انا مستقر قائل اتوا موصول اخیل فعل انا مستقر قائل کُمُ ضمیر مفعول بہ، علیہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ لا اجد کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ اتوا کی ضمیر قائل سے حال ہے۔ یكُوْنُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو عالیہ اَعْيُنُهُمْ مرکب انسانی مبتدأ، تَفِيْضٌ فعل ہی مستقر قائل مِنْ الدَّمْعِ ظرف لغو متعلق ہوئے حَزَنًا مصدر اَنْ حرف مصدری و نصب لا یجدوا فعل واو ضمیر قائل موصول مَعْفُوٌّ تَفِيْضٌ فعل با واو ضمیر قائل صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با قائل مفعول بہ، بتا ویل مصدر مفعول لہ حَزَنًا کہ حَزَنًا اپنے مفعول لہ سے مل کر تَفِيْضٌ کا مفعول لہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال یكُوْنُوْنَ کا قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ اذا ما اتوا کہت کی جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار مجرور علی الضعفاء پر معطوف ہے۔

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ عَرَضُوا بِأَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۹۳

آیت نمبر ۹۳: اِنْ حرف تحقیق کونوما کا اَلَّذِيْنَ اسم موصول یَسْتَأْذِنُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو عالیہ هُمْ أَغْنِيَاءُ مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال قائل کاف ضمیر مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہوں۔ رَضُوا فعل واو ضمیر قائل جارہ اَنْ یَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ کی ترکیب آیت نمبر ۸۷ میں دیکھیں اور یہ مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ طَبَعَ فعل لفظ اللہ قائل علی قُلُوْبِهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول عقابہ عاطفہ هُمْ لا یعلمون کی ترکیب هُمْ لا یفقهون کی طرح ہے۔ دیکھئے آیت نمبر ۸۷ اور یہ معطوف ثانی ہے، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ مستانہ ہوں۔

يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ

أَخْبَارَكُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُدَوِّنُ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹﴾

**آیت نمبر ۹:** یَعْتَذِرُونَ فعل واو ضمیر قائل الیہم طرف لغو متعلق ہوئے اِذَا مضاف وَجَعَلْتُمْ فعل ثم ضمیر قائل الیہم جہد باجزو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف بہ مضاف الیہ مفعول فیہ، فعل باقائل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ فَن فعل امر اکت مستتر قائل سے مل کر قول لَا تَعْتَذِرُوا فعل نہی ہاواو ضمیر قائل جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں لکن تینوں فعل مستقبل تھیں مستتر قائل لکم جہد باجزو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منطوقہ ہوا۔ قَدْ علامت فعل تَبَّأ فعل ثم ضمیر مفعول بہ اول نظر اللہ قائل ہین اَخْبَارُكُمْ طرف مستقر مضاف مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ منطوقہ ہوں۔ واو عطفہ سین، علامت فعل یَذْرَى فعل اللہ ورسولہ معطوف علیہ با معطوف قائل عَمَلَكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثم عطفہ قائل تُوَدُّون فعل مجہول واو ضمیر نائب قائل الی جاہہ خلیفہ مضاف الْعَلِیْبِ وَالشَّهَادَةِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جاہہ مجرور تُوَدُّون کے متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول مقام عطفہ یُنَبِّئُ فعل ہو مستتر قائل لکم ضمیر مفعول بہ، بناء جاہہ موصولہ کُنْتُمْ فعل ناقص ثم ضمیر اسم تَعْمَلُونَ فعل ہاواو ضمیر قائل خبریہ، فعل ناقص ہا اسم و خبر صلہ، موصولہ باصلہ مجرور، جاہہ مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں۔

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۗ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰:** سین، علامت فعل يَخْلِفُونَ فعل واو ضمیر قائل باللہ طرف لغو متعلق اول ہوئے لکم جہد باجزو طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، اِذَا ظرف زمان مضاف اِلَيْكُمْ فعل باقائل الیہم طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مرکب اضافی يَخْلِفُونَ کا مفعول فیہ لآہ جاہہ خلیفہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے تُعْرِضُوا فعل واو ضمیر قائل عَنْهُمْ طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر تینوں مل کر تینوں مصدر مجرور، جاہہ مجرور يَخْلِفُونَ کے متعلق ثالث ہوئے، فعل باقائل و متعلقات ثلاثہ و مفعول فیہ جملہ فعلیہ انشائیہ قسم، اور جواب قسم مخدوف ہے اِنَّهُمْ مَعْدُونَ وَرُونَ فِي تَخْلُفِهِمْ، قسم ہا جواب قسم يَعْتَذِرُونَ سے بدل ہے۔ فآہ نصیر اور شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الْاَكْمُرُ كَذَلِكَ اَعْرِضُوا فعل امر واو ضمیر قائل عَنْهُمْ طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزو جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق ہم ضمیر اسم و خبر، اِنْ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معلومہ ہوں۔ واو عطفہ مآوایہم مرکب اضافی مبتدأ جہنم خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔ جَزَاءُ موصوف بہا جاہہ ماصدریہ کا کُنُوْا اِيْكَسِبُوْنَ کی ترکیب آیت نمبر ۸۲ میں دیکھیے۔ یہ سب مجرور ہے، جاہہ مجرور طرف مستقر کا کُنُوْا کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت مفعول مطلق ہوا۔ فعل مخدوف يَجْعَلُونَ کا، اِيْجْعَلُونَ فعل مجہول واو ضمیر نائب قائل و مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ

الْفٰسِقِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۹۶:** يَخْلِفُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل لَكُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے لام جارہ تعلیلہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے تَرْضَوْا فعل واؤ ضمیر فاعل عَنْهُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر تبادل مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل باقاعل و متعلقین بدل ہے سَيَخْلِفُونَ سے فاء تفریع ان حرف شرط تَرْضَوْا فعل واؤ ضمیر فاعل عَنْهُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ اور جزاء مخدوف ہے فَلَا يَنْفَعُهُمْ وَضًا كُمْ، شرطہ باجزاء ہملہ شرطیہ ہوں فاء تعلیلیہ اِنْ حرف تحقیق لفظا لَمْ تَمْ لَا يَرْضَىٰ فعل مستتر فاعل عَنْ جارہ الْقَوْمِ الفٰسِقِيْنَ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ بالاسم و خبر جملہ اسیہ خبریہ معللہ ہوں۔

الْاَعْرَابِ اَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا وَ اَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ؕ وَ اللهُ عَلَیْمٌ حَكِيْمٌ ۝

**آیت نمبر ۹۷:** الْاَعْرَابِ مبتدأ اَشَدُّ اسم تفضیل هُمْ مستتر فاعل كُفْرًا وَ نِفَاقًا معطوف علیہ با معطوف تیز، تینوں مل کر شبہ جملہ معطوف علیہ بواو عطف اَجْدَرُ اسم تفضیل هُمْ مستتر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب لَا يَعْلَمُوْا فعل واؤ ضمیر فاعل حُدُوْدٌ مضاف مآسومہ اَنْزَلَ فعل آلله فاعل عَلٰى رَسُوْلِهِ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصله مضاف الیہ، مرکب اضافی یَعْلَمُوْا کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ تا بل مصدر منسوب بزعم اللہ نفس اصل میں پان لآ ہے اور یہ متعلق ہوئے، اسم تفضیل باقاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسیہ خبریہ متناقد ہوں۔

وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَابُّ وَ عَلَیْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْرِ ؕ وَ اللهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝

**آیت نمبر ۹۸:** وَ مِنَ الْاَعْرَابِ طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِّن اسم موصول یَّتَّخِذُ فعل هُو مستتر فاعل مآسومہ موصول یُنْفِقُ فعل هُو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصله مفعول بہ اول، مَغْرَمًا مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و معقولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بواو عطف یَتَرَبَّصُّ فعل هُو مستتر فاعل بِكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، اَلدَّوَابُّ مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصله مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسیہ خبریہ معطوف ہوں عَلَیْهِمْ جار مجرور کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم دَآئِرَةُ السَّوْرِ مرکب اضافی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسیہ الثانیہ دعائیہ ہوں، واو استثنائیہ اللهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ مبتدأ الہی دو خبر سے مل کر جملہ اسیہ خبریہ متناقد ہوں۔

وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ یُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ یَتَّخِذُ مَا یُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللّٰهِ وَ

صَلَوَاتِ الرَّسُولِ ؕ اِلَّا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ اَسْيَدُ خَلْعُهُمُ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

رَّحِيْمٌ ﴿۱۹﴾

**آیت نمبر ۱۹:** او اعراب میں الاعراب طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم من اسم موصول یومین فعل ہو مستتر قائل بہ جارہ اللہ معطوف علیہ، او اعراب الیومیر الاخری مرکب توصیفی معطوف، دونوں مل کر مجرور، جارہ مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او اعراب یتخذ فعل ہو مستتر قائل ہوا یتفقی موصول باصلہ معقول بہ اذن، قُرْبَاتٍ موصوف عند اللہ مرکب اضافی کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف علیہ، او اعراب صلوات الرسول مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ یومین پر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اعراب حمیرا حرف تحقیق ہا حمیرا اسم قُرْبَةٍ موصوف اھم طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت خبر، اِنّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو سیدین علامت فعل حرف استقبال یذخّل فعل ہم خبر مفعول بہ، اللہ اسم الجلالہ قائل بہ جارہ و رحمۃہ مرکب اضافی مجرور، جارہ مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ منقلہ ہو لیں حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ دو خبر اِنّ با اسم و خبر ن جملہ اسمیہ خبریہ منقلہ ہو لیں

﴿۱۹﴾ رکوع نمبر ۱۳

وَالشَّيْقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ يٰ اِحْسَانُ ﴿۲۰﴾  
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاعَدَ لَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا  
اَبَدًا ؕ اَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۰:** او او استنا نے الشَّيْقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مرکب توصیفی ذوالحال میں جارہ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جارہ مجرور طرف مستقر کا تینوں کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال معطوف علیہ، او اعراب الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ فعل ہا ضمیر قائل ہم خبر مفعول بہ یٰ احسان با معطوف علیہ، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ، و رضی فعل لفظ اللہ قائل عنہم طرف لغو متعلق ہوئے، تیزوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او اعراب رَضُوْا فعل ہا ضمیر قائل عنہم جارہ مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تیزوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، او اعراب اَعَدَ فعل ہو مستتر قائل لھم جارہ مجرور متعلق ہوئے جَنَّتٍ موصوف تَجْرِيْ فعل تحتہا مرکب اضافی مفعول نے الْاَنْهَارُ قائل، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت اَعَدَ کا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو لیں خَلِدِيْنَ اسم قائل ہم مستتر قائل فیہا جارہ مجرور متعلق ہوئے اَبَدًا مفعول فیہ، پاروں مل کر شبہ جملہ ہو کر لھم کی ہم خبر سے حال ہے۔ اَذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ منقلہ ہو لیں

وَمِمَّنْ حٰوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنْفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلٰى الْبِنٰقِ قَد

لَا تَعْلَمُهُمْ ۗ لَنْحَنُ نَعْلَمُهُمْ ۗ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرْكِبَيْنِ ۗ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عَذَابِ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾

**آیت نمبر ۱۰۱:** انہو اوستینا فی من ہارہ من اسم موصول کو لکھ مرکب اضافی فعل مخدوف جبت کا مفعول فی ہو کر صلہ موصول با صلہ ذوالحال من الاعراب طرف مستقر کا کون کا متعلق ہو کر حال ذوالحال با حال مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کا کون کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مثنویون مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ او او عاطفہ من جارہ اھل الیٰلینۃ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کا کون کے متعلق ہو کر خبر مقدم مرودو فعل واو ضمیر قائل علیٰ التیقاق طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر بواسطہ موصوف مخدوف کو مر کے مبتدا موخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ لا تعلم فعل آنت مستقر قائل ہن ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرودو کی ضمیر قائل سے حال ہے۔ نحن ضمیر مبتدا، تعلم فعل نحن مستقر قائل ہن ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ لیسین حرف استقبال تعذب فعل نحن مستقر قائل ہن ضمیر مفعول بہ، مرکبین مفعول فی، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثم عاطفہ یردون فعل مجهول واو ضمیر نائب قائل الی جارہ عذاب عظیم مرکب توصیلی مجرور، جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجهول با نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

وَ اٰخَرُونَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صٰلِحًا وَّ اٰخَرٌ سَيِّئًا ۗ عَسٰی اللّٰهُ اَنْ يُّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰۲﴾

**آیت نمبر ۱۰۲:** او او عاطفہ اٰخرون موصوف اعترفوا فعل واو ضمیر قائل یاہ جارہ ذنوبہم مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صفت، موصوف با صفت مبتدا، خلطوا فعل واو ضمیر قائل عملاً صالحاً موصوف با صفت معطوف علیہ او او عاطفہ اٰخرون سیتما مرکب توصیلی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ عسی فعل متارب لفظاً اللہ اس کا اسم ان حرف مصدری و نصب یثوب فعل هو مستقر قائل علیہم جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدر خبر، فعل متارب با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ متانفہ ہو۔ ان حرف تحقیق لفظاً اللہ اسم غفور و رحیم دو خبر ان با اسم و خبر ان جملہ اسمیہ خبریہ مظہر ہو۔

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا ۗ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾

**آیت نمبر ۱۰۳:** خذ فعل امر آنت مستقر ذوالحال تطهرو فعل آنت مستقر قائل ہن ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ او او عاطفہ تزیی فعل آنت مستقر قائل ہن ضمیر مفعول بہ، یہا جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال قائل من اموالہم طرف لغو متعلق ہوئے صدقہ مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ او او عاطفہ صل فعل امر آنت مستقر قائل علیہم جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف متانفہ ہو۔ ان حرف تحقیق صلواتک مرکب اضافی اسم سکن موصوف لہم طرف مستقر کا کون کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر ان

ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منقلبہ ہوں، واو استیجابیہ لفظاً اللہ مبتداً سَمِعْتُ عَلَيْنَهُمُ دُخْرًا، مبتداً خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ ہوں۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ

التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۳﴾

آیت نمبر ۱۰۳: حمزہ حرف استفہام لَمْ يَعْلَمُوا الفعل واو ضمیر ناعل اِنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اسمہو ضمیر مبتداً يَقْبَلُ فعل ہو  
 مستتر ناعل التَّوْبَةَ مفعول بہ عَنْ عِبَادِهِ ظرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يَأْخُذُ فعل ہو  
 مستتر ناعل الصَّدَقَاتِ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتداً خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَنَّ کی خبر، اَنَّ  
 ہا اسم و خبر بتاویل مفرد معطوف علیہ، واو عاطفہ اَنَّ حرف تحقیق لفظاً اللہ اسمہو ضمیر لصل التَّوَابِ الرَّحِيمِ دُخْرًا، اَنَّ ہا اسم و خبرین جملہ اسمیہ  
 خبریہ بتاویل مفرد معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَمْ يَعْلَمُوا کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با ناعل و مفعولین جملہ انشائیہ استیجابیہ ہوں۔

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأُو سَتَرُونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۵﴾

آیت نمبر ۱۰۵: واو استیجابیہ قُلِ فعل امر اَنْتَ مستتر ناعل سے مل کر قول اعْمَلُوا فعل امر باو اسم الجلالہ ضمیر ناعل جملہ انشائیہ مقولہ، قول  
 با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں، قَاہ نصیر اول شرط و مفعول بہ اَنْ عَمِلْتُمْ، بیین علامت فعل فَيُنَبِّئُ فعل مضارع اللہ اسم الجلالہ معطوف علیہ،  
 واو عاطفہ رَسُوْلُهُ مرکب اضافی معطوف اول، واو عاطفہ الْمُؤْمِنُونَ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین ناعل عَمَلِكُمْ مرکب اضافی مفعول  
 بہ، فعل با ناعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ بیین علامت فعل سَتَرُونَ فعل مجهول واو ضمیر نائب ناعل، اِلَىٰ جاہ  
 ظہیر مضاف الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جاہ با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل  
 کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، قَاہ عاطفہ رَنَّبْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کی ترکیب آیت نمبر ۹۳ میں دیکھیں اور یہ معطوف ثانی ہے، معطوف  
 علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ منقلبہ ہوں۔

وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ أَمَا يَعْدِيبُهُمْ وَإِمَّا يَنْتَوِبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۶﴾

آیت نمبر ۱۰۶: واو عاطفہ أَخْرُونَ موصوف مُرْجُونَ اسم مفعول هُمْ مستتر نائب ناعل لآمرہ اللہ مرکب اضافی مجرور، جاہ  
 با مجرور متعلق ہوئے، اسم مفعول با نائب ناعل و متعلق شہ جملہ ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتداً اِمَّا تَرْدِيدِهِ يَعْذِبُ فعل ہو مستتر ناعل  
 هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَمَّا عَمَلُهُمْ يَنْتَوِبُ فعل ہو مستتر ناعل عَلَيْهِمْ ظرف لغو متعلق ہوئے،  
 تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتداً خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا پر معطوف ہے۔ واو  
 استیجابیہ لفظاً اللہ مبتداً عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ خبریہ منقلبہ ہوں، مبتداً خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفَرِّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَادًا لِّلْإِيمَانِ

كَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ ۗ وَ لِيُخْلِفَنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى ۗ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَذِبُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۰:** واوا استثنائی اسم الذین اسم موصول اتَّخَذُوا فِعْلٌ وَاوْ خیر فاعل مَسْجِدًا مفعول بہ اول ضمیر وَاوْ معطوف علیہ واو عاطفہ کَفَرُوا معطوف اول، واو عاطفہ تَعْمَرُوا لِقَاءَ مَسْجِدٍ مَرْکَب انضائی مفعول فیہ، مصدر یا مفعول فیہ معطوف ثانی، واو عاطفہ اِزْصَادًا مصدر لآمر جارہ مِنْ اسم موصول كَارَبَ فِعْلٌ هُوَ مستتر فاعل اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ، مِنْ قَبْلُ جار یا جرور متعلق ہوئے، فاعل باقاعل و مفعول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ جرور، جار یا جرور اِزْصَادًا کے متعلق ہوئے، مصدر یا متعلق معطوف ثالث، معطوف علیہ یا معطوفات ثلاثه اتَّخَذُوا وَ كَا مفعول بہ ثانی، فاعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ فاعل مخرّف اَدُّهُ كَا مفعول بہ ہے یا محذوف نوع مبتدأ ہے اور مِنْهُنَّ خبر محذوف ہے۔ واو عاطفہ لآمر موصوفہ القسم اور قسم محذوف ہے یَخْلِفَنَّ فِعْلٌ وَاوْ محذوف لِاَلْتِبَاقِ السَّامِكَيْنِ فاعل، فاعل باقاعل قسم اِنْ نَا فَا اَرَدْنَا فاعل نَا ضمیر فاعل اَلْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءُ الْحُسْنٰى مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم باجواب قسم "قسم محذوف کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ واو استثنائیہ لفظ اللّٰهُ مبتدأ، یَشْهَدُ فِعْلٌ هُوَ مستتر فاعل اِنْ حرف تحقیق هُوَ ضمیر اسم لآمر مخرّفہ کَذِبُوْنَ اسم فاعل هُوَ مستتر فاعل مل کر خبر بیان بالاسم و خبر یَشْهَدُ کے مفعول بہ کے قائم مقام، فاعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۗ لَمْ يَسْجِدْ اَنْسَسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقَّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۗ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَتَّعَبُوْا ۗ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۰۸:** لا تَقُمْ فِعْلٌ نِهَايَتٌ مستتر فاعل فِيْهِ جار یا جرور متعلق ہوئے اَبَدًا مفعول فیہ، جاروں مل کر جملہ انشائیہ نہیہ مستانفہ ہوں لآمر مبتدأ ہے مَسْجِدًا موصوف اَنْسَسَ فِعْلٌ مَجْهُولٌ هُوَ مستتر باقاعل عَلَى التَّقْوٰى جار یا جرور متعلق ہوئے، مِنْ جَارٍ وَاوَّلِ يَوْمٍ مَرْکَب انضائی جرور، جار یا جرور طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فاعل مَجْهُولٌ باقاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت مبتدأ اَحَقُّ مضاف اَنْ حرف مصدریہ و نصب تَقُوْمَ فِعْلٌ اَنْتَ مستتر فاعل فِيْهِ جار یا جرور طرف لغو متعلق ہوئے، فاعل باقاعل و متعلق بتاییل مصدر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ منقلبہ ہوں۔

فِيْهِ جار یا جرور كَاتِبُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ رِجَالٌ موصوف يُحِبُّوْنَ فِعْلٌ وَاوْ ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدریہ و نصب يَتَّعَبُوْا فِعْلٌ فاعل وَاوْ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاییل مصدر مفعول بہ، فاعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت مبتدأ وَاوْ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ منقلبہ ہوں۔ واو استثنائیہ لفظ اللّٰهُ مبتدأ، يُحِبُّ فِعْلٌ هُوَ مستتر فاعل اَلْمُطَهِّرِيْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

اَقْمَنَ اَسْسَ بِنِّيَاكُ عَلَى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانِ خَيْرٍ اَمْرٌ مِّنْ اَسْسَ بِنِّيَاكُ عَلَى شَقَا جُرْفٍ هَا رَ فَا نَهَا رَ بِهٖ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۰۹:** ہمزہ حرف استنہاء ہے (اعراب القرآن مؤلف محمود صانی) مَن اسم موصول اَسَسَ فعل ہو مسترقا ل بُنِيَانُكَ مرکب اضافی معقول ہے، علی جاہ نقوای مصدر میں اللہ جار با مجرور متعلق، مصدر با متعلق معطوف علیہ، واو عاطفہ ضوای معطوف، دونوں مل کر مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل با قائل و معقول ہے، و متعلق صلہ، موصول با صلہ مبتدأ، حَتَّيْزُ اسم تفضیل ہو مسترقا ل سے مل کر خبر، مبتدأ خبر معطوف علیہ، اَمْرُ عاقفہ مَن اسم موصول اَسَسَ فعل ہو مسترقا ل بُنِيَانُكَ مرکب اضافی معقول ہے، علی حرف جار شَقًّا مضاف جُوْزٍ ہا ل مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و معقول ہے، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، عاقفہ اَنْهَارٌ فعل ہو مسترقا ل پہ جار با مجرور متعلق اول، فی جارہ لَارٍ جَعَلْتُمْ مرکب اضافی مجرور، دونوں مل کر متعلق ثانی، فعل با قائل و متعلقین معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدأ، اور حَتَّيْزُ خبر محذوف ہے، مبتدأ خبر جملہ اولیٰ پر معطوف ہے، واو استینا فی اللہ مبتدأ، لا یقیدی فعل ہو مسترقا ل الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ مرکب توصیفی معقول ہے، فعل با قائل و معقول ہے، خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متلافہ ہوں۔

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاَللّٰهُ عَلِيْمٌ

**حَكِيْمٌ**

**آیت نمبر ۱۱۰:** لَا يَزَالُ فعل ناقص بُنِيَانُهُمُ مرکب اضافی موصوف الَّذِي اسم موصول بَنَوْا فعل باواؤ ضمیر قائل صلہ، موصول با صلہ صفت، موصوف با صفت اسم رِيْبَةً موصوف فِي قُلُوبِهِمْ ظرف مستقر كَائِنَةً کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، بِالْاَحْرَفِ استثناء، اَنْ حرف مصدری و نصب تَقَطَّعَ فعل قُلُوبُهُمُ مرکب اضافی قائل، فعل با قائل بنا و ایل مصدر بواسطہ مضاف محذوف وقت کے معقول ہے، فعل ناقص با اسم و خبر و معقول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو، واو استینا فی اللہ مبتدأ، عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ دو خبر، مبتدأ خبرین، جملہ اسمیہ خبریہ متلافہ ہوں۔

﴿ رُكُوْعٌ خَمْسٌ ﴾

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يَقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَاَعْدَا عَلَيْهِ حَقَّ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ ط وَاَمِنْ اَوْفِيْ بَعْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاَسْتَبَشِرُوا بِنُبُوْحِكُمْ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهِ وَاَلَّذِيْ هُوَ الْقُوْرُ الْعَظِيْمُ ﴿

**آیت نمبر ۱۱۱:** اِنَّ حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم اِشْتَرٰی فعل ہو مسترقا ل مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ ظرف لغو متعلق ہوئے، اَنْفُسَهُمُ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَمْوَالَهُمُ مرکب اضافی معطوف، دونوں مل کر معقول ہے، بناء جارہ اَنْ حرف تحقیق لَهُمُ ظرف مستقر كَائِنَةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَلْجَنَّةُ نام مؤخر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بنا و ایل مفرد مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل معقول ہے، و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ خبر اَنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔



يَقَاتِلُونَ لَعَلَّ دَاؤُا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّ لَوْ مَعْتَقٌ هُوَ، تَيَسَّرَ لَمْ كَرِهَلْهُ عَلَيْهِ خَبْرِيَّةٌ مَعْتَقٌ عَلَيْهِ مَعَاذٌ يَفْتَتِلُونَ  
 فعل باءِ دَاؤُا ضمير فاعل جمله فعلية خبرية معطوف اول وَاوَاؤُا مَعْتَقٌ يَفْتَتِلُونَ فعل مجہول باءِ دَاؤُا ضمير نائب فاعل جمله فعلية خبرية معطوف ثانی، معطوف  
 عليه با معطوفین جمله معطوف متانفہ ہوں وَعَقْلٌ اَمْدَادٌ موصوف عَکْبِيَّةٌ ظرف لَعَلَّ مَعْتَقٌ ہوں عَقْلًا صفت اول (فی جہادہ التَّوْبَةِ) وَ الْاِثْمِ جَمِیْلِ وَ  
 الْقُدْرَانِ معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر صفت ثانی، موصوف با صفتین فعل معذوف وَعَدَدٌ  
 کا مفعول مطلق ہے۔ وَاوَاؤُا حَاضِرِیَّةٌ مِّنْ اِسْمِ اسْتِغْفَارٍ مَبْتَدَاہُ اَوْفَى اِسْمِ تَفْصِیْلِ هُوَ مستقر فاعل بآءِ جارہ عَکْبِيَّةٌ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور  
 ظرف لَعَلَّ مَعْتَقٌ اول ہوں، وَ مِنَ اللَّهِ ظرف لَعَلَّ مَعْتَقٌ ثانی ہوں، اِسْمِ تَفْصِیْلِ با فاعل و متعلقین شبہہ جملہ ہو کر خبر، مَبْتَدَاہُ اِسْمِ اِسْتِغْفَارِیَّةٌ  
 مَعْرُوفٌ ہوں۔

فَاہِ لَعِبِہِ ادر شرطاً معذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، يٰ اِيْنَ اَيُّكُمْ اللّٰهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَ اِسْتِغْفَارِیَّةٌ وَا فاعل امر وَاؤُا ضمير فاعل بآءِ جارہ  
 يَبِيْعُكُمْ مرکب اضافی موصوف الَّذِي اِسْمِ موصول بَايَعْتُمْ فعل ثَمَّ ضمير فاعل پہلے جار با مجرور متعلق ہوں، تَيَسَّرَ لَمْ كَرِهَلْهُ موصول باصلہ  
 صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور متعلق ہوں، فاعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ جزاء، شرطاً با جزاء جملہ شرطیہ ہوں وَاوَاؤُا اسْتِغْفَارِیَّةٌ ذٰلِكَ  
 اِسْمِ اِشَارَہُ مَبْتَدَاہُ هُوَ ضمير فعل الْقُدْرَانِ مَعْتَقٌ مرکب توصیفی خبر، مَبْتَدَاہُ اِسْمِ اِسْتِغْفَارِیَّةٌ خبریہ مَعْلُومٌ ہوں۔

التَّائِبُونَ الْعَمِدُونَ الْحَمِدُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ۝

آیت نمبر ۱۱۳: التَّائِبُونَ الْعَمِدُونَ الْحَمِدُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ۝  
 التَّائِبُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ یہ مَبْتَدَاہُ معذوف ضمیر کی نو (۹) خبریں ہیں، مَبْتَدَاہُ اِسْمِ اِسْتِغْفَارِیَّةٌ خبریہ ہوں  
 وَاوَاؤُا مَعْلُومٌ بَشِيرٌ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل الْمُؤْمِنِينَ مفعول بہ، تَيَسَّرَ لَمْ كَرِهَلْهُ انشائیہ ہوں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ  
 بَعْدِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

آیت نمبر ۱۱۴: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاذٌ اَلَّذِينَ آمَنُوا موصول باصلہ معطوف، معطوف  
 علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَنْ حرف مصدری و نصب يَسْتَغْفِرُوا وَا فاعل دَاؤُا ضمير فاعل لاہر  
 جارہ الْمُشْرِكِينَ ذُو اَحْوَالِ وَاوَاؤُا حَالِہُ لَوْ وصلیہ برائے شرطاً، کَانُوا فاعل نا قص دَاؤُا ضمیر اس کا اِسْمِ اَوْفَى قُرْبَىٰ مرکب اضافی خبر، فعل ناقص اِسْمِ  
 و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرطاً، اور جزاء معذوف ہے جس پر جملہ اولیٰ دال ہے، شرطاً با جزاء حال، ذُو اَحْوَالِ با حال مجرور، جار با مجرور متعلق ہوں۔  
 فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر اِسْمِ مؤخر، کَانَ با اِسْمِ و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ وَ مِنَ جَدَاہُ بَعْدِ مَصَافِحَ مَآءٍ  
 تَبَيَّنَ اَنْ حرف تحقیق ہُوَ ضمیر اِسْمِ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ مرکب اضافی خبریٰ اِسْمِ اَوْفَى قُرْبَىٰ و اِسْمِ و خبر بتاول مفرد فاعل، فاعل با فاعل بتاول مصدر  
 مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور فعل معنوی اَلتَّنْفِیْ اِلْتِنْفَاؤُا کے متعلق ہے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَاةً فَكَفَلْنَا تَبْيِينًا لَّهُ أَنَّهُ  
عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿۱۵۲﴾

**آیت نمبر ۱۵۲:** او استغفار ممانیہ کان فعل ناقص استغفار مضاف إِبْرَاهِيمَ مضاف الیہ، لآہر جارہ آیئو مرکب اضافی مجرور، جار  
باجرور مصدر کے متعلق ہوئے، تینوں ل کر اسم اَلرَّافِع استثناء عن جارہ مَوْعِدَةٍ موصوفہ وَعَدَّ فعل ھُوَ مستتر قائل ھا ضمیر مفعول بہ اول  
إِيَّاهُ ضمیر مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوفہ باصفت مجرور، جار باجرور ظرف مستقر کلثما کے متعلق ہو کر  
خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا فاء عاطفہ لثما متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم تَبْيِينًا فعل لکہ جار باجرور ظرف لغو  
متعلق ہوئے، اَنْ حرف تحقیق ضمیر اسم عدو موصوفہ لیلو ظرف مستقر کلثما کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت خبر، اَنْ باسم و خبر  
بتداول مفرد قائل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط تَبَرَّأَ فعل ھُوَ مستتر قائل مِنْہُ جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل  
متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا اِنْ حرف تحقیق إِبْرَاهِيمَ اسم لآہر مطلقاً وَّ اَوَّاهٌ حَلِيمٌ دو خبر اِنْ باسم و خبرین جملہ  
اسیہ خبریہ مطلقہ ہوں

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بَكْرٌ  
شَدِيدٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵۳﴾

**آیت نمبر ۱۵۳:** او عاطفہ یا استغفار ممانیہ کان فعل ناقص لفظاً اللہ اسم لآہر جارہ تعلیلہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یُضِلَّ فعل ھُوَ  
مستتر قائل قَوْمًا مفعول بہ یُضِلُّ مضاف اِذْ مضاف حدی فعل ھُوَ مستتر قائل ھُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ  
بَعْدَ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، حَتَّى حرف غایت و جر اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یُبَيِّنُ فعل ھُوَ مستتر قائل لَھُمْ جار  
باجرور متعلق ہوئے، مآ اسم موصول یَتَّقُونَ فعل باوا ضمیر قائل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ بتداول مصدر  
مجرور، جار باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتداول مصدر مجرور، جار باجرور ظرف مستقر مَرِيدًا  
کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ یا معطوف ہوا اِنْ حرف تحقیق لفظاً اللہ اسم تآہ جارہ کلثما ضمیر مرکب اضافی  
مجرور، جار باجرور متعلق مقدم عَلِيمٌ صیغہ صفت ھُوَ مستتر قائل و متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِنْ باسم و خبر جملہ اسیہ خبریہ ہوں۔  
إِنَّ اللَّهَ لَكُم مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْيَوْمَ وَيَوْمَئِذٍ وَأَمَّا كَلِمَاتُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ مِنْ وَلِيِّ

وَأَلَّا نَصْبِيرُ ﴿۱۵۴﴾

**آیت نمبر ۱۵۴:** اِنْ حرف تحقیق لفظاً اللہ اسم کا اسم کہ طرف مستقر کلثما کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَلِكُ السَّمَوَاتِ و  
الْأَرْضِ معطوف علیہ یا معطوف مضاف الیہ، مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسیہ خبریہ خبر اول یَوْمَی فاعل ھُوَ مستتر قائل سے ل کر  
جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاطفہ یَوْمَی فاعل ھُوَ مستتر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف خبر ثانی اِنْ باسم  
و خبرین جملہ اسیہ خبریہ مستانفہ ہوا او عاطفہ ممانیہ لَکُمْ ظرف مستقر کلثما کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مِنْ جارہ ذُوْنَ اللہ مرکب اضافی

مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کلّیّین کے متعلق ہو کر حال مقدم، وین جارہ نا مکملی معطوف علیہ، واو عاطفہ لا نا مکملی معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظامر نوح ذوالحال مؤخر، وال حال با حال مبتدا مؤخر، مبتدا جار مجرور اسیم خبریہ ہو۔

لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ  
مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ لَمَّا تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

**آیت نمبر ۱۸:** اللام اور حم مخدوف ہے۔ قَدْ علامت فعل تَابَ فعل لفظ اللہ تَابَ عَلَيَّ جارہ النبی معطوف علیہ، واو عاطفہ الْمُهَاجِرِينَ معطوف اول، واو عاطفہ الْأَنْصَارِ موصوف الَّذِينَ اسم موصول اتَّبَعُوا فعل واو ضمیر قائلہ ضمیر مفعول۔ فی جارہ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، چاروں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت معطوف جانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جار مجرور ظرف لغو تَابَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم مخدوف کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا۔ وین جارہ یَعِدُ مضاف ما مصدریہ کا فعل مقارب ہو مستتر اسم یَزِيغُ فعل قُلُوبِ مضاف فَرِيقٍ موصوف وینھم ظرف مستقر کَافِیْنَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مضاف الیہ بھر مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَافِیْنَ کے متعلق ہو کر اتَّبَعُوا کی ضمیر قائل سے حال ہے، یَتَّبِعُوا کا متعلق ہے۔ ثُمَّ عاطفہ تَابَ فعل ہو مستقر قائل علیہم جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ تَابَ اول پر معطوف ہے۔ اِنْ حرف تحقیق ضمیر اسم یہم ظرف لغو رَءُوفٌ کے متعلق مقدم ہوئے رَءُوفٌ رَّحِيمٌ دو خبر بیانِ بلام خبرین جملہ اسیم خبریہ منطوق ہو۔

وَعَلَى الْعَلَّةِ الَّذِينَ خَلَفُوا إِحْتَىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ  
عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَكُنُوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ  
اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

**آیت نمبر ۱۹:** واو عاطفہ عَلَيَّ جارہ الْعَلَّةِ موصوف الَّذِينَ اسم موصول خَلَفُوا فعل مجہول واو ضمیر نائب قائل سے ل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور النبی پر معطوف ہے، حتّٰی حرف غایت ابتداء تیسرے لفظ شرطیہ مفعول فی مقدم صَافَتْ فعل عَلَيْهِمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، بَاء جارہ ما مصدریہ رَحِبَتْ فعل ہی مستقر قائل سے ل کر بتولید مصدر مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق جانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ صَافَتْ فعل عَلَيْهِمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اَنْفُسُهُمْ مرکب اضافی قائل، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ كُنُوا فعل واو ضمیر قائل اَنْ مَخْفَفٌ مِنَ الشَّلَاةِ ضمیر شان مخدوف اس کا اسم لآ لعی جس مَلَجَاً مصدر اَلَا حرف استثناء اَلَيْهِ جار مجرور مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر با متعلق لا کا اسم، وین اللہ ظرف مستقر کَافِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر، لا بلام خبر اَنْ مَخْفَفٌ کی خبر بیانِ بلام خبر کُنُوا کے دو مفعول کے کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف جانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط ثانیہ نَاكِدَةً تَابَ فعل ہو مستقر قائل عَلَيْهِمْ جار مجرور متعلق اول ہوئے، لاکر جارہ تظلیلہ اور اس کے بعد اِنْ مقرر ہے، یَتُوبُوا فعل واو ضمیر قائل سے ل کر بتولید مصدر مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق جانی ہوئے، فعل با

فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرطاً باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنْ حرف تحقیق لفظ اللہ اس کا اسم ہو ضمیر فصل الثَّوَابِ الرَّحِيمِ دو خبر، اِنْ ہاں خبرین جملہ اسمیہ خبریہ متعلقہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۱۵ ●

### يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۹﴾

آیت نمبر ۱۹: یَاہ حرف ندا مادّ نحوّ کے قائم مقام اذْعُوا فعل انا متصرف فاعل اَنْی موصوف ہا۔ اے ایمان والو! تمہیں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ ہوں۔  
صلہ صفت، موصوف ہا صفت مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ انشائیہ نماوا اتَّقُوا فعل واو ضمیر فاعل اللہ مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہوا۔ واو عاطفہ کُونُوا فعل اور واو ضمیر فاعل مَعَ الصَّادِقِينَ مرکب انشائیہ کَا تَبِیْنُ کا مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف نماوا کا جواب، نماوا ہا جواب جملہ انشائیہ نماویہ ہوں۔

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْعَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْشُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا

### إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۰﴾

آیت نمبر ۲۰: مآثریہ کان فعل ناقص لاہ جاہ اَهْلِي الْمَدِينَةِ مرکب انشائی معطوف علیہ ہوا۔ واو عاطفہ مِنْ اِسْم موصول حَوْلَهُمْ مرکب انشائی فعل محذوف جَبَّتْ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال، وین الْأَعْرَابِ طرف مستقر کَا تَبِیْنُ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف مجرور، جاہ با مجرور طرف مستقر کَا تَبِیْنُ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اِنْ حرف مصدری و نصب يَتَخَلَّفُوا فعل واو ضمیر فاعل عَن رَّسُولِ اللَّهِ مرکب انشائی مجرور، جاہ با مجرور متعلق ہوئے، تیوں مل کر معطوف علیہ ہوا۔ واو عاطفہ لَا يَرْعَبُوا فعل واو ضمیر فاعل يَهَادُ اَهْلَهُمْ مرکب انشائی مجرور، جاہ با مجرور متعلق ہوئے، وین نَفْسِهِ طرف مستقر مَعْرِضِيْنَ کے متعلق ہو کر لَا يَرْعَبُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف بتول مصدر اسم مؤخر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

ذُٰلِكَ اِسْم اشارہ مبتدہ ہا جاہ اَنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم لَا يُصِيبُ فعل هُمْ ضمیر مفعول بہ کَلِمًا معطوف علیہ ہوا۔ واو عاطفہ لَا يَنَالُهُمْ نَصَبٌ معطوف اَوَّل، واو عاطفہ لَا يَنَالُهُ مَخْمَصَةٌ موصول فی سَبِيلِ اللَّهِ طرف مستقر کَا تَبِیْنُ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین لَا يُصِيبُ کا فاعل، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَطْشُونَ فعل واو ضمیر فاعل مَوْطِئًا موصول یَغِيظُ فعل هُوَ مستقر فاعل الْكُفَّارِ مفعول بہ، تیوں مل کر صفت، موصوف ہا صفت مفعول بہ، تیوں مل کر معطوف اَوَّل، واو عاطفہ لَا يَنَالُونَ فعل واو ضمیر فاعل وین عَدُوِّ طرف لغو متعلق ہوئے کَلِمًا مفعول بہ، جاہوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین خبر مآثر ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتول مفرد مجرور، جاہ با مجرور طرف مستقر کَا تَبِیْنُ کے متعلق ہو کر ذُٰلِكَ کی خبر، مبتدہ با خبر

سُوْرَةُ النَّازِعَاتِ ۹

جملہ اسمیہ خبریہ ہو لہذا اعراف استثنائے کتب فعل مجہول لہم جاہد باجرور متعلق اول ہوئے یہ جاہد باجرور متعلق ثانی ہوئے، عَمَلٌ صَالِحٌ مرکب توصیفی نائب فاعل، جاہدوں لہ کر جملہ فعلیہ خبریہ لایکتائون کی ضمیر فاعل سے حال ہے ہاں حرف تہنیت لفظ اللہ اسم لام یؤینع فعل ہو مستتر فاعل اَجْرُ الْمُتَسَبِّحِينَ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں لہ کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر ہاں اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ معلوم ہو۔

وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: واؤ عاطف لایَنْفِقُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل نَفَقَةً موصوف صَغِيرَةً معطوف علیہ واؤ عاطف لاکبرہ کَبِيرَةً معطوف دونوں لہ کر مفعول بہ، تینوں لہ کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤ عاطف لایَقْطَعُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل وَادِيًا موصوف بہ، تینوں لہ کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف لایکتائون پر معطوف ہے وا اعراف استثنائے کتب فعل مجہول لہم جاہد باجرور متعلق اول ہوئے پکارہ جاہد تعلیلہ اور اس کے بعد ان مقدر سے یَجْزِي فعل ہضم ضمیر مفعول بہ اول لفظ اللہ فاعل أَحْسَنَ مضاف مآ اسم موصول کَانُوا فعل ناقص واؤ ضمیر اسم یَعْمَلُونَ فعل ناقص ہاں واؤ ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص ہاں اسم خبر صلہ، موصول ہاں صلہ مضاف الیہ پھر مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل ناقص واؤ مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتلاویں مصدر مجرد، جاہد باجرور و کتب کے متعلق ثانی ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ لایَقْطَعُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفْرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: واؤ عاطف مآ ثانیہ لکن فعل ناقص الْمُؤْمِنُونَ اسم کلام جمعہ اور اس کے بعد ان مقدر سے یَنْفِرُوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال کَافَّةً حال ذوالحال ہا حال فاعل، دونوں لہ کر بتلاویں مصدر مجرد، جاہد باجرور طرف مستقر کَلْبَيْنِ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہاں اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ مَا كَانَ لَاحْتَمَالِیَّةً بِقَرَعِ معطوف ہے فاء ضمیر اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَوْلَا حرف تہنیت لَفَرُّ فعل ہون جاہد کتب فِرْقَةٍ مرکب اضافی مجرد، جاہد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، ہاں ہضم طرف مستقر کَلْبَيْنِ کے متعلق ہو کر حال مقدم، کَافَّةً ذوالحال مؤخر، ذوالحال ہا حال فاعل، کلام جاہد تعلیلہ اور اس کے بعد ان مقدر سے یَتَفَقَّهُوا فعل واؤ ضمیر فاعل فی الدِّینِ طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں لہ کر بتلاویں مصدر مجرد، جاہد باجرور معطوف علیہ، واؤ عاطف لآہر جاہد تعلیلہ اور اس کے بعد ان مقدر سے یَنْفِرُوا فعل واؤ ضمیر فاعل قَوْمَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ اِذَا طرف زمان مضاف رَجَعُوا فعل واؤ ضمیر فاعل لِيَتَفَقَّهُوا طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں لہ کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل ناقص واؤ مفعولین بتلاویں مصدر مجرد، جاہد باجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَفَرُّ کے متعلق ہوئے، فعل ناقص و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

لَعَلَّ حرف تہنیت ہضم ضمیر اسم یَحْذَرُونَ فعل ہاں واؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، حرف تہنیت ہاں اسم خبر جزاء یَحْذَرُ لَعَلَّ کی بتلاویں میں ہو کر یَنْفِرُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے ہاں مطلق ہے۔

﴿ ۱۲ ﴾ رکوع نمبر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَأُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّقَوْا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۲﴾

**آیت نمبر ۱۲:** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب آیت نمبر ۱۱ میں دیکھیں۔ قَاتِلُوا فعل امر واؤ ضمیر قائل الَّذِينَ الَّذِينَ اسم موصول یَلُونُ فعل واؤ ضمیر قائل کُم ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِنَ الْكُفَّارِ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ لِيَجِدُوا فعل واؤ ضمیر قائل فِيكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے غِلظَةً مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واؤ عاطفہ اَعْلَمُوا فعل امر واؤ ضمیر قائل اَنْ حرف تحقیق اِنَّ اسم مع الْمُتَّقِينَ مرکب اضافی کائین کا مفعول فیہ ہو کر خبر بیانِ بالاسم و خبر بتلاول مفرد اَعْلَمُوا کے دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل باقائل و مفعولین معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین نہاد کا جواب، نہاد با جواب جملہ انشائیہ نہاد ہے۔

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُوْرَةً مِنْهُمْ مِّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْبَانًا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيبَانًا ۖ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۳﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا هُمْ كَفِرُونَ ﴿۱۴﴾

**آیت نمبر ۱۳، ۱۴:** وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا إِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم مَّا نَزَمَهُ أَنْزَلْتُ فعل مجهول سُوْرَةً کتاب قائل، فعل مجهول بتایب قائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقہاء جزائیہ مِنْهُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِّنْ اسم موصول يَقُولُ فعل ہو مستقر قائل سے مل کر قول أَيُّكُمْ مرکب اضافی مبتدا، زَادَتْ فعل واؤ ضمیر مفعول بہ اُولَئِكَ ہلے قائل اِيْبَانًا مفعول بہ ثانی، چاروں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسبیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فَأَمَّا تَفْصِيْلُهُ اَنْزَلْنَا تَقْرِيرُ اَلَّذِيْنَ اَمْنُوْا مَوْصُوْلُ باصلہ متضمن معنی شرط مبتدا فقہاء جزائیہ زَادَتْ فعل ہی مستقر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول اِيْبَانًا مفعول بہ ثانی واو عالیہ هُمْ ضمیر مبتدا يَسْتَبْشِرُوْنَ فعل واؤ ضمیر قائل خبر، مبتدا با خبر زَادَتْ کے مفعول بہ اول سے حال ہے، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسبیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ اَمَّا خَرَفَ شَرْطٌ و تقریر اَلَّذِيْنَ اسم موصول فی قُلُوبِهِمْ ظرف مستقر کان کے متعلق ہوئے مَرَضٌ قائل، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ متضمن معنی شرط مبتدا فقہاء جزائیہ زَادَتْ فعل ہی مستقر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول رِجْسًا مَوْصُوْلُ اِلَىٰ رِجْسِهِمْ ظرف مستقر مَطْمُوْنًا کے متعلق ہو کر صفت، موصول با صفت مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاطفہ مَاتُوا فعل واؤ ضمیر ذوالحال واو عالیہ هُمْ ضمیر مبتدا كَفِرُوْنَ اسم قائل هُمْ مستقر قائل سے مل کر خبر، مبتدا با خبر حال، ذوالحال باحال مَاتُوا کا قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر قائم مقام جزاء، مبتدا با خبر جملہ اسبیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

أَوْ لَا يَذْرُؤْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۲:** ہمزہ حرف استفہام واو عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لایکملون لایکون فعل واو ضمیر قائل آن حرف تحقیق ہنہ ضمیر اسم یفتنون فعل مجہول واو ضمیر نائب قائل فی جارہ کل عام مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوتے مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ معطوف علیہ با معطوف معقول فیہ، فعل مجہول نائب قائل و متعلق و معقول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ لایتوبون فعل باو واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف الال واو عاطفہ لایذکر ہنہ ضمیر مبتدا، یذکرون فعل باو واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا جار خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتوکل مفرد یذکرون کے دو معقول کے قائم مقام، فعل با قائل و معقولین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ انشائیہ معطوفہ ہوں

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا لَكَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَاهُنَا يَرَاكُمْ مِنْ أَلْفِ مِيلٍ أَنْصَرَفُوا وَصَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝

**آیت نمبر ۱۳:** واو عاطفہ إذا شرطیہ معقول فیہ مقدم مآل انہ انزلت فعل مجہول سُورَةٌ نائب قائل، و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، نکلے فعل یصنہم مرکب اضافی ذوالحال، هل حرف استفہام یزی فعل کُف ضمیر معقول بہ وین جارہ تاکدہ آکدہ فلأمر فرغ قائل، تینوں مل کر جملہ انشائیہ قائلین کا متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال بنظر کا قائل الی بغض جار مجرور متعلق ہوتے نکلے فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ انصرفوا فعل باو واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ ہوا۔ صرَفَ فعل لفظاً اللہ قائل قلوبہم مرکب اضافی معقول بہ، بناء جارحان حرف تحقیق ہنہ ضمیر اس کا اسم قَوْمٌ موصوف لایفقهون فعل باو واو ضمیر قائل صفت، موصوف با صفت خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتوکل مفرد مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوتے، فعل با قائل و معقول بہ و متعلق جملہ انشائیہ دعائیہ ہے یا انصرفوا کی ضمیر قائل سے حال ہے یا جملہ انشائیہ ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

**آیت نمبر ۱۴:** لآمر موطن اللہ اسم اور قسم محذوف ہے قد علامت فعل جاء کُم ضمیر معقول بہ و رسول موصوف وین جارہ انفسکم مرکب اضافی مجرور، جار مجرور کا وین کے متعلق ہو کر صفت اول، عزیز صیغہ صفت مشبہ، علیہ جار با مجرور متعلق ہوتے، معاً مصدر بہ عزیتکم فعل با قائل بتاویل مصدر قائل، تینوں مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ثانیہ، حرص صیغہ صفت ہو مستتر قائل علیکم جار با مجرور متعلق ہوتے، تینوں مل کر صفت ثالثہ یا بال مؤمنین ظرف لغو رءوف کے متعلق مقدم ہوتے رءوف صیغہ صفت مبالغہ مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر صفت رابعہ، رحیم صفت خامسہ، موصوف با صفت خمسہ جاء کا قائل، فعل با قائل و معقول بہ قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ ﴿۱۲۹﴾

**آیت نمبر ۱۲۹:** قاء عاطفران حرف شرط کو لیا، فعل باہر ضمیر قائل شرط معاد جزائیہ قُلْ فعل امر آت مستتر قائل سے ل کر قول حَسْبِيَ مرکب انشائی مبتدہ، اللَّهُ خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کی ترکیب سُورَةُ التَّوْبَةِ میں دیکھئے اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً اللَّهُ سے حال ہے عَلَيهِ جار با جرور متعلق مقدم ہوئے تَوَكَّلْتُ فعل تائے مضمومہ قائل، فعل با قائل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدہ، رَبُّ مضاف الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مرکب توسیعی مضاف الیہ، مرکب انشائی خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

(بِحَمْدِهِ تَعَالَىٰ بُرُوزِ بَدِهِ بَعْدَ نَمَازِ مَغْرَبِ سُورَةِ التَّوْبَةِ كِي تَرْكِيْب كِي تَكْمِيْل هُوِي)

(۳۱، ۸، ۲۰۱۶)





## ترکیب سورۃ یونس

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّسُولُ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَكَلِمَةٌ مَبِينَةٌ ۝

**آیت نمبر ۱:** الّٰہیہ خبریہ مبتدأ محذوف ہذا کی بتلک اسم اثناء مبتدأ ایث مضاف الیکتب الحکیمہ مرکب تو صلی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی خبر، مبتدأ باخر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

**آیت نمبر ۲:** حمزہ حرف استفہام کان فعل ناقص للناس ظرف مستقر کاؤٹا کے متعلق ہو کر حال مقدم (کیونکہ یہ اصل میں عَجَبًا کی مفت ہے، عَجَبًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال کان کی خبر مقدم، اَنْ حرف مصدری و نصب اَوْحَيْنَا فعل ناقصیر قائل الی جہدو جلی موصوف وینہ ظرف مستقر کاؤٹا کے متعلق ہو کر مفت، موصوف بافت مجرور، جہد باجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر مفسر باَنْ حرف تفسیر اَنْذِرِ فعل امر اَنْت مستتر قائل الناس مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، او او عاطفہ بَشِّرِ فعل امر اَنْت مستتر قائل الَّذِينَ اٰمَنُوْا موصول باصل مفعول بہ، اَنْ حرف تحقیق لَّهُمْ ظرف مستقر کاؤٹا کے متعلق ہو کر خبر مقدم، قَدَمٌ صِدْقٍ مرکب اضافی موصوف عِنْدَ رَبِّهِمْ مرکب اضافی کاؤٹا کا مفعول فیہ ہو کر مفت، موصوف بافت اسم مؤخر، اَنْ با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ تینوں ل مفرد منصوب بنزع الناقص اصل میں باَنْ ہے، پھر یہ متعلق ہوئے، فعل ناقص و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفسر، مفسر با مفسر کان کا اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ متانفہ ہوں قال فعل الکفروْنَ قائل، فعل ناقص قول اَنْ حرف تحقیق ہذا اسم اثناء اس کا اسم لادہ مذ مطلقہ لِحْوٰ مَبِيْنٌ مرکب تو صلی خبر اِنَّ با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيّٰمٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَيْءٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوْهُ ؕ وَهُوَ اَفْكَارٌ تَذٰكُرُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۳:** اَنْ حرف تحقیق رَبَّكُمْ مرکب اضافی اسم اللّٰہ موصوف الَّذی اسم موصول حَقِّ فعل السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ فی چارہ سِتَّةِ اَيّٰمٍ میز با تیز مجرور، جہد باجرور متعلق ہوئے، چاروں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ثُمَّ عاطفہ اسْتَوٰى فعل هو مستتر قائل عَلٰى الْعَرْشِ جہد باجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مفت، موصوف بافت اِنَّ کی خبر اول یُدَبِّرُ فعل هو مستتر قائل الْاَمْرَ مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثانی اِنَّ با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

مآشابه " یہ کیسے ہیں جا رہا تمہ شفیق لفظ مجرور ماضی کا اسم الّا حرف استثناء میں جا رہے بعد اذنیہ مرکب اضافی مجرور، جا رہا مجرور ظرف مستقر کا نکتہ کے متعلق ہو کر مستثنیٰ مفرغ خبر معانی اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ اِنْ اِنْ کَلْ خَبْر ثابِت، اذْ لَکُمْ اللّٰهُ مَبْدَل مند بادل مبتدا اور یُؤْتِکُمْ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لہ قاء فعیلیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا کَانَ الْاَمْرُ کَذٰلِکَ اُعْبُدُوْا فِعْل امر وادّ ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا، ہموزہ حرف استفہام قاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے اور وہ لَا تَشْفَعُوْنَ ہے، لَا تَشْفَعُوْنَ فِعْل امر وادّ ضمیر فاعل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ انشائیہ معطوف ہوا۔

**اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝**

آیت نمبر ۳: اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳: اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳: اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳: اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳: اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳: اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳: اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳: اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

**هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّيْنَ وَ الْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يَفْصِلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝**

آیت نمبر ۵: هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّيْنَ وَ الْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يَفْصِلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۵: هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّيْنَ وَ الْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يَفْصِلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۵: هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّيْنَ وَ الْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يَفْصِلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۵: هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّيْنَ وَ الْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يَفْصِلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝

ضمیر مفعول بہ اول متنازل مفعول فیہ لاکر جارہ تعلقہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے تَعْلَمُوا لعل واؤ ضمیر قائل عَدَدَ السِّنِينَ مرکب اضافی معطوف علیہ و او عاقلہ اَلْحِسَابِ معطوف ، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ، تینوں مل کر بتولیل مصدر مجرور ، جار با مجرور قَدْوً کے متعلق ہوئے ، فعل با قائل و مفعولین و متعلق معطوف ، معطوف علیہ با معطوف صلہ ، موصول با صلہ ہو کی خبر ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔  
 مَنَانِیہ حَلَقٌ لعل لفظ اللہ قائل ذلک اسم اشارہ مفعول بہ اَلْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً بِالْحَقِّ طرف مستقر مُتَكَلِّمًا کے متعلق ہو کر مستثنیٰ مفرغ لفظ اللہ کا حال اولیٰ ، یُقَضُّ لعل ہو مستتر قائل اَلْاٰیٰتِ مفعول بہ لاکر جارہ قَوْمٍ موصوف یَعْلَمُوْنَ لعل واؤ ضمیر قائل مفت ، موصوف با صفت مجرور ، جار با مجرور متعلق ہوئے ، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال ثانیہ ، حَلَقٌ اپنے قائل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

**إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُونَ ﴿١٠﴾**

**آیہ نصیحا:** إِنَّ حرف تحقیق فی جارہ واختلاف مضاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ ، مرکب اضافی معطوف علیہ و او عاقلہ موصول حَلَقٌ لعل لفظ اللہ قائل فی جارہ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور ، جار با مجرور متعلق ہوئے ، فعل با قائل و متعلق صلہ ، موصول با صلہ معطوف ، معطوف علیہ با معطوف فی جارہ و و کلّیّات کے متعلق ہو کر خبر مقدم لاکر نہ حلقہ اٰیٰتِ موصوف لِقَوْمٍ يَّتَّقُونَ یہ ترکیب لِقَوْمٍ يَّتَّقُونَ کی مش ہے ، طرف مستقر کلّیّات کے متعلق ہو کر مفت ، موصوف با صفت اسم مؤخر ، إِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِآبَاءِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيِنَا غُفْلُونَ ﴿٨﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩﴾**

**آیہ نصیحا:** ۸: إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اِسْم موصول لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لعل واؤ ضمیر قائل لِقَاءَنَا مرکب اضافی مفعول بہ ، تینوں مل کر معطوف علیہ و او عاقلہ رَضُوا لعل واؤ ضمیر قائل آباء جارہ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مرکب تو صیغی مجرور ، جار با مجرور متعلق ہوئے ، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ، و او عاقلہ اِظْمَأَنَّنُوا لعل واؤ ضمیر قائل بھّا طرف لغو متعلق ہوئے ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی ، معطوف علیہ با معطوفین صلہ ، موصول با صلہ معطوف علیہ و او عاقلہ الَّذِينَ اِسْم موصول هُمْ ضمیر مبتدا ، عَنْ اَبَائِهِمْ جارہ موصول با صلہ معطوف ، متعلق مقدم ہوئے ، غُفْلُونَ اِسْم قائل هُمْ مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ ، موصول با صلہ معطوف ، معطوف علیہ با معطوف اِنَّ کا اسم ، اُولَٰئِكَ اِسْم اشارہ مبتدا ، مَا لَهُمْ مرکب اضافی مبتدا ثانی النّار ذوالحال آباء جارہ مَا مصدر یہ کاؤ اِظْمَأَنَّنُوا لعل واؤ ضمیر اِسْم يَكْسِبُونَ لعل واؤ ضمیر قائل سے مل کر خبر ، فعل ناقص باسم و خبر بتولیل مصدر مجرور ، جار با مجرور طرف مستقر کلّیّات کے متعلق ہو کر حال ، ذوالحال با حال خبر ، مبتدا با خبر اِنَّ کی خبر اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہاں کا طرف مستقر اِسْم اشارہ مبتدا محذوف ذلک کی خبر ہو ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاَيْمَانِهِمْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ

الْاَنْهٰرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ①

آیت نمبر ۹: اِنَّ حرف تَحْتِ اَلَّذِيْنَ اسم موصول اٰمَنُوْا فعل باوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَلِمُوا الصّٰلِحٰتِ فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ اِنَّ کا اسم تہدیی فعلی ہم ضمیر مفعول بہ، رَبُّهُمْ مرکب اضافی قائل بتاہ حرف جار اِيْمَانِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو اس تَجْرِيْ فعل مِنْ تَحْتِهِمْ ظرف لغو متعلق ہوئے اَلْاَنْهٰرُ قائل فی جَارِدِ جَنَّتِ النَّعِيْمِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی دوسری خبر ہے اِيْمَانِهِمْ کی ضمیر مفعول سے حال ہے۔

دَعُوْهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۝۱۰ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ

لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ②

آیت نمبر ۱۰: دَعُوْا مصدر مضاف ہُمْ ضمیر مضاف الیہ معنی قائل فِيْهَا جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر مبتدأ سُبْحٰنَكَ مرکب اضافی فعل مخدوف سُبْحٰنَكَ کا مفعول مطلق، فعل با قائل و مفعول مطلق جوابیہ اندام مقدم اَللّٰهُمَّ اصل میں يَا اَللّٰهُ ہے اَللّٰهُمَّ کی ہم حرف اندام مخدوف کے عوض ہے۔ اور یہ اندام مؤخر ہے، اندام با جواب اندام مبتدأ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ تَحِيَّتُهُمْ مرکب اضافی ذوالحال فِيْهَا کا كَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدأ سَلٰمٌ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ مرکب اضافی مبتدأ اِنَّ مخدوف من الشكلیہ ضمیر شان مقدراں کا اسم اَلْحَمْدُ مبتدأ، لاہر جارہ اللہ موصوف یا مبدل مشرّوب العالَمِيْنَ مرکب اضافی مفت یا بدل، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر كَائِنَةٌ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِنَّ مخدوف من الشكلیہ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر بتاویل مفرد مبتدأ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہوئے

●●● رکوع نمبر ۲ ●●●

وَلَوْ يَعْجَلُ اللّٰهُ لِلنّٰسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلُوْهُمَّ بِالْخَيْرِ لَقَضٰوْا اِيْمَانَهُمْ اَجَلَهُمْ فَتَنَدَرُوْا

الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ③

آیت نمبر ۱۱: واو استہزائیہ لَوْ حرف شرط و تَعَجَّلُ فعل انظار اَللّٰهُ قائل لِلنّٰسِ جار با مجرور متعلق ہوئے اَلشَّرَّ مفعول بہ، اسْتَعْجَلُوْا کہم مرکب اضافی مفعول مطلق بِالْخَيْرِ ظرف لغو اسْتَعْجَلُوْا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط لاہر جوابیہ قَضُوْا فعل مجہول اِيْمَانَهُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے اَجَلَهُمْ مرکب اضافی نائب قائل، فعل مجہول نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ متناقضہ ہوا۔ لقاء عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے جس پر جملہ شرطیہ وال ہے، اصل عبارت ہے لَا تَعْجَلُوْا لَهُمْ



**ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾**

**آیت نمبر ۱۳:** ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾  
 ہو کر صفت، موصوف باہست مفعول ثانی میں بَعْدِهِمْ طرف لغو متعلق اول ہوئے لاکر جارہ تعلیہ اور اس کے بعد آن مقدر ہے لِنَنْظُرَ فعل  
 نَحْنُ مستتر قائل کَيْفَ کا کِیْمَا کا مفعول فیہ ہو کر بواسطہ موصوف محذوف عَمَلًا کے مفعول مطلق مقدم مَعْمَلُونَ فعل واو ضمیر قائل و مفعول  
 مطلق مقدم سے مل کر قَلْبًا منصوب لِنَنْظُرَ کا مفعول ہے، فعل باقائل و مفعول بہ بتواہل مصدر مجرور، جار باجرور جَعَلْنَاكُمْ کے متعلق ثانی ہوئے،  
 فعل باقائل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ کہلنگتاً بہ معطوف ہے۔

**وَإِذَا تَثَلَّى عَلَيْهِمْ أَيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا وَكِبَرُونَ ﴿۱۴﴾**  
**وَإِذَا تَثَلَّى عَلَيْهِمْ أَيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا وَكِبَرُونَ ﴿۱۴﴾**  
**أَوْ بَدَّلَهُ قُلُوبَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَلْبَسْتُ إِلَّا مَا يُؤْتِي أَلِيَّ عِبَادِي**  
**أَخَافُ إِنْ عَصَيْتَ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾**

**آیت نمبر ۱۵:** واو عاطفہ إذا شرطیہ مفعول فی مقدم تثلَّى فعل مجهول علیہم طرف لغو متعلق ہوئے آیاتنا مرکب اضافی ذوالحال  
 بَيِّنَاتٍ حال، ذوالحال باحال نائب قائل، فعل مجهول بتائب قائل و متعلق و مفعول فی مقدم جملہ فعلیہ خبریہ بشرط قائل نَفْسِي اسم موصول  
 لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فعل باقائل و مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول باصلہ قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَلْبَسْتُ فعل امر آتت مستتر  
 قائل بتاء جارہ قُرْآنِ موصوف عَنِيْرَ هَذَا مرکب اضافی صفت، موصوف باہست مجرور، جار باجرور اَلْبَسْتُ کے متعلق ہونے، فعل باقائل و متعلق  
 جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو عاطفہ بَدَّلَ فعل امر آتت مستتر قائل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف  
 مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

قُلُوبَ فعل امر آتت مستتر قائل سے مل کر قول، ممانا فیہ یَكُونُ فعل ناقص فی قُلُوبَ کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ آن حرف  
 مصدری و نصب اُبْدَلَ فعل انا مستتر قائل ضمیر منصوب مفعول بہ، وہن جارہ تَلْقَائِي نَفْسِي مرکب اضافی جزاء مجرور، جار باجرور اُبْدَلَ کے  
 متعلق ہونے، فعل و قائل و مفعول بہ و متعلق بتواہل مصدر امر مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ  
 ہو۔

إِنْ نَابِیَ اَلْبَسْتُ فعل انا مستتر قائل اَلْحَرْفُ اِشْتَاهَ مَا اسم موصول یُوْتِي فعل مجهول ہو مستتر نائب قائل اِنِّیْ بتلطف لغو متعلق ہونے،  
 تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطلہ ہو۔ (مظہر) اِنِّیْ حرف تحقیق بتاء  
 ضمیر اسم اخاف فعل انا مستتر قائل عَذَابٌ مضاف یَوْمٍ عَظِيمٍ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ  
 خبر بات با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نال جزاء اِنِّیْ شرعیہ عَصَيْتَ فعل تکاہ مضمومہ ضمیر قائل بَرِّیْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر شرط،  
 اور جزاء محذوف ہے قَالِيْ اَخَافُ عَذَابَ اللّٰهِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ**

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

**آیت نمبر ۱۲:** قُلْ لَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ فِئَتُكَ مِنْهُ لِيَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ بِحُجَّتٍ لِقَوْمٍ أُخْرِجُوا مِنَ الدِّينِ وَلِيُخَلِّفَ فِيهَا سِوَاكَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۲﴾

تاء مضمومہ ضمیر قائل ہے ضمیر منسوب مفعول بہ علیکم طرف متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لانا مکہ اذری فعل ہو مستقر قائل کلمہ ضمیر مفعول بہ اور یہ طرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو، قاء تعلق قائل علامت فعل کیست فعل تاء مضمومہ ضمیر قائل فیکم طرف مستقر ضمیر قائل سے حال ہے عموماً مفعول بہ وین قبیلہ طرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معللہ ہوا۔ ہمزا حرف استنبہام قاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اور وہ لا تکفرون ہے (تیسرے) فعل باوا ضمیر قائل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ انشائیہ ہو۔

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾

**آیت نمبر ۱۳:** افَاء استنبہام مبتدا اظلم اسم تفضیل هو مستقر قائل وین جارہ من موصول اذری فعل هو مستقر قائل علی اللہ طرف لغو متعلق ہوئے کذباً مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کذب فعل هو مستقر قائل پایتہ طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف من کا صلہ، موصول با صلہ جرور، جار با جر اور اظلم کے متعلق ہوئے، اسم تفضیل با قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ انشائیہ ہوا۔ ارن حرف تحقیق ضمیر اسم کا اسم لا یفلح المجرم مومن فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ انشائیہ ہوا۔ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَآءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ قُلْ أَكْتَبْتُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۴﴾

**آیت نمبر ۱۴:** واو استنبہام فیہ یعبدون فعل واو ضمیر ذوالحال وین جارہ نامکہ حنون اللہ مرکب اضافی حال، ذوالحال با حال قائل ما موصول کی ضمیر قائل هو مستقر قائل هو ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لا ینفعهم فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یقولون فعل باوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول هو لاء اسم اشارہ مبتدا، شفعاء و نا مرکب اضافی ذوالحال عند اللہ طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال خبر، مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ یعبدون پر معطوف ہے۔ قُلْ فعل امر انکت مستقر قائل سے مل کر قول، ہمزا استنبہام فیہ تکتبون فعل واو ضمیر قائل لفظاً اللہ مفعول بہ تاء جارہ ما موصول لا یعلم فعل هو مستقر قائل ضمیر محذوف ذوالحال، فی السموات جار با جر و معطوف علیہ واو عاطفہ لانا مکہ فی الارض جار با جر و معطوف، معطوف علیہ با معطوف طرف مستقر کائتہ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال لا یعلم کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ جرور، جار با جر و تکتبون کے متعلق ہوئے،

فعل بافاعل ومفعول به و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوا۔ سُبْحَتَهُ مرکب اضافی مفعول مطلق ہوا فعل مخدوف سُبْحَتَاكَ کا، فعل بافاعل ومفعول مطلق معطوف علیہ، واو عاطفہ کُفْلِ فعل ہو مستتر قائل عن جہاد سُبْحَتَا يُشْرُ کُونَ موصول باصلہ مجرور، جہاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ مترشحہ ہوں۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۹﴾

**آیت نمبر ۱۹:** واو اثبتیہ زمانہ لگان فعل ناقص الناس اسم الا حرف استثناء امة واحده مرکب توصیفی مستثنی مفرغ خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ اختلافاً فعل اداء ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔ واو عاطفہ لو لا انشائیہ کلمۃ موصوف سبقت فعل ہو مستتر قائل من ربک جہاد با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف با صفت مبتدأ خبر مخدوف ہے مؤجودۃ، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط، لاہر جوابیہ قضی فعل مجہول ہو مستتر رابع بسوئے الا کمز باب فاعل بینهم مرکب اضافی مفعول فیہ فی حرف جہاد موصول فیہ جہاد با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے، یختلِفُونَ فعل اداء ضمیر قائل اور متعلق مقدم سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہاد با مجرور قضی کے متعلق ہوئے، فعل مجہول با نائب فاعل ومفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جہاد، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۲۰﴾

**آیت نمبر ۲۰:** واو عاطفہ یقولون فعل اداء ضمیر قائل سے مل کر قول لو لا حرف تفضیلی اُنزِلَ فعل مجہول علیہ جہاد با مجرور متعلق ہوئے آیۃ موصوف من ربہ طرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت نائب فاعل، فعل مجہول با نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ یخْبُدُونَ پر معطوف ہے، فقاء نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اذ اكلوا من ثمرات الایۃ (نصیر) قل فعل امر آتت مستتر قائل سے مل کر قول بان حرف تحقیق کفوفہ ما کانه الغیب مبتدأ، ولله طرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر مقولہ، قول با مقولہ جہاد، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ فقاء نصیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اذ اكلوا من ثمرات الایۃ کذلک انتظروا فعل امر واد ضمیر قائل سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ ان حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم معکم مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم من حرف جہاد الہ منتظرین اسم فاعل ہُو مستتر قائل ومفعول مقدم سے مل کر مجرور، جہاد با مجرور طرف مستقر کائنتا کے متعلق ہو کر خبر، ان باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

﴿۲۰﴾ رکوع نمبر ۳ ﴿۲۱﴾

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُوهٌ آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا وَإِنْ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾



**آیت نمبر ۲۰:** *وَاذْكُرْ مَا كُنَّا نَعْمَلُ بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ*  
 یعنی مضاف صَوْنَاءَ موصوف مَسْتَقْتِ لعل ہی مستقر نامل هُو ضمیر منقول یہ تینوں مل کر ممت، موصوف ہفت مضاف الیہ مرکب  
 اضافی مجرور، جد با مجرور اذکرتا کے متعلق ہوئے، لعل با نامل و متعلق ہضمین جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، اذکرتا ماضیہ تہذ کے متعلق کا منقول ہے  
 لہذا حرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَنکو موصوف فی اَنَا کُنَّا نَعْمَلُ مستقر کالین کے متعلق ہو کر ممت، موصوف ہفت مبتدا  
 مؤخر، مبتدا با خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قُلْ لعل ہر انت مستقر نامل سے مل کر قول، اَللّٰہُ بِنْدَہ اَسْعُ لاسم تفضیل ہُو مستقر نامل مَنکو تمیز تینوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ  
 اسے خبریہ معقول، قول یا مقولہ جملہ انشاء ہے ہوں لعل حرف تھن و متکرر مرکب اضافی اسمی کُنَّا لعل نامل ہوا ضمیر فاعل ماضی موصول کُنَّا وَنَکُونُ  
 لعل واو ضمیر نامل سے مل کر جملہ موصول ہضمین، تینوں مل کر خبر بیان ہام، خبر جملہ اسے خبریہ جملہ ہوں۔

*هُوَ الَّذِي يُسَبِّحُكُمْ فِي النَّبِيِّ وَالْبَحْرِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ، يَوْمَ تَجُوزُونَ فِيهِمْ بِرِيحٍ كَثِيبَةٍ وَقَدْ حَوَّاهَا جَاءَ نَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، فادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لَيْسَ لَكَ أَنْتَ جَانِبًا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝*

**آیت نمبر ۲۲:** *هُوَ ضَمِيرُ بِنْدَہ الدِّيْنِ اسم موصول يُسَبِّحُ لعل هُو مستقر نامل كُمْ ضمير منقول یہ تین جاہان نبی و البحیر معطوف علیہ  
 با معطوف مجرور، جد با مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ موصول ہاسلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسے خبریہ مستند ہوا۔ حَتَّىٰ حرف تا  
 وابتداء ایہ اذاکثر علیہ منقول یہ مقدم کُنْتُ لعل ناقص كُمْ ضمیر اسمی الفلکین حرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر خبر، لعل ناقص ہام  
 و خبر معطوف علیہ ہواؤ ماخذ جَوَزِينَ لعل انون مفتوحہ ضمیر نامل بیھضہ حرف لغو متعلق ہوئے ہبناہ جاہد و بیح کثیبۃ ترکیب تو وسیلی مجرور، جد  
 با مجرور حرف مستقر مَسْتَقْتِ نامل کے متعلق ہو کر جَوَزِينَ کی ضمیر نامل سے حال ہے، لعل با نامل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف الال ہواؤ  
 عاصف قَوَّ حُوا لعل واو ضمیر نامل بیھا جملہ با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف بیان، معطوف علیہ ہواؤ ماخذ جَاءَ لعل هُو ضمیر منقول  
 منقول بہ و بیح عاصف مرکب تو وسیلی نامل، لعل با نامل و منقول یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواؤ ماخذ جَاءَ لعل هُو ضمیر منقول  
 اَسْمٰی نامل میں کُلِّ مَكَانٍ جملہ با مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف الال ہواؤ ماخذ کُنْتُ لعل ہوا ضمیر نامل اَنَّ حرف  
 تھن کُنْتُ ضَمِيرُ اسم أُحِيطَ لعل مجهول بیھضہ جملہ با مجرور لعل فی میں تابع نامل، دونوں مل کر خبر، اَنَّ ہام و خبر کُنْتُ کے و منقول کے  
 قائم مقام، لعل با نامل و منقول میں بدل سَدَّ حُوا لعل واو ضمیر ذوالحال مُخْلِصِينَ اسم نامل هُو مستقر نامل لہ جملہ با مجرور متعلق ہوئے  
 اَلَّذِينَ منقول بہ، اسم نامل با نامل و متعلق ہضمین یہ حال، ذوالحال باحال نامل، لفظ اَللّٰہُ منقول بہ، تینوں مل کر بدل لاشتمال، مبدل سے بدل  
 جَاءَ نَهَا کا معطوف ثانی، معطوف علیہ ہاسلہ خبر، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔  
 کلام موصول لغسم اور اسم تعدد ہے ان حرف شرطاً اَنْجَبِتُ لعل ناقص ہواؤ مستقر ضمیر نامل ناقص منقول بہ، میں ہذیہ جملہ با مجرور متعلق*

ہوئے، چاروں مل کر شرط لآمر جوابیہ تَكُونُ فعل ناقص نَحْنُ مستتر اسم من الشُّكْرِيْنَ ظرف مستقر کائیدین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص بالاسم خبر قسم محذوف کا جواب ہے اور شرط کی اجزاء محذوف ہے، قسم باجواب قسم قائلین محذوف کا مقول ہو کر ذَعْوَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

فَلَمَّا أَنْجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿۶۸﴾

**آیت نمبر ۶۸:** فَاء عاطفہ لَمَّا متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم اَنْجَبِيَ فعل هو مستقر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط لآمر اذا مفاعلیہ یَبْعُونَ کا مفعول فیہ مقدم هُمْ ضمیر مبتدا یَبْعُونَ فعل واو ضمیر فاعل فی الْأَرْضِ ظرف لغو متعلق ہوئے بِغَيْرِ الْحَقِّ ظرف مستقر مُبْطِلِينَ کے متعلق ہو کر یَبْعُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ مقدم خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ اجزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ یَاء حرف نداء اذْعُو کے قائم مقام اذْعُو فعل انا مستقر فاعل اَنْجَبِيَ موصوف ہا برائے حمیہ اَلنَّاسِ صفت، موصوف باصفت فلا منسوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء یاء حرف تحقیق کونہ مآکانہ یَبْعِيكُمْ مرکب اضافی مبتدا عَلٰی اَلنَّفْسِ كُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر نداء کا جواب، نداء باجواب جملہ انشائیہ نداءیہ ہوں۔

**مَتَاعَ** مضاف الحیوة الدنیا مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی فعل محذوف تَعْمَلُونَ کا مفعول مطلق ہے یا تَعْمَلُونَ محذوف کا مفعول بہ ہے، ثُمَّ عاطفہ الینا ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَرْجِعُكُمْ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ لَمَّا فعل نَحْنُ مستقر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ، یَاء جارہ موصولہ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَيْبَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ وَحَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَوَضَعْنَا أَسْهَابًا فَذَرَرْنَا عَلَيْهَا أَتْتَهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَعْنُ بِالْأَمْسِ ط كَذَلِكَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۶۹﴾

**آیت نمبر ۶۹:** إِنَّمَا إِنَّ كَوْنَهُ، اور مآکانہ ہے مِثْلُ مضاف الحیوة الدنیا مرکب توصیفی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدا ہوا کاف جارہ مآق موصوف اَنْزَلْنَا فعل ناقص فاعل نَحْنُ ضمیر فاعل ہِ مِنَ السَّمَاءِ ظرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ اَخْتَلَطَ فعل بہ ظرف لغو متعلق ہوئے، نَبَاتُ الْأَرْضِ مرکب اضافی ذوالحال، مِنْ جَارِہ موصولہ يَأْكُلُ فعل

النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ مَعْفُوفٌ قَائِلٌ، فعل باقاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجرور کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اختطاک کا قائل، فعل باقاعل و متعلق معفوف، معفوف علیہ با معفوف مآء کی مفت، موصوف با مفت مجرور، جار باجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں

حقیٰ ابتداء یہ اِذَا شَرِيعَةٌ مَفْعُولٌ بِمَنْ مَقْدَمٌ اَخَذَتْ فعل الازدض قائل وُخُوْفَهَا مَرْكِبٌ اِنشائی مفعول بہ، چاروں مل کر معفوف علیہ، واو عطف زَيْتٌ فعل ہی ضمیر قائل سے مل کر معفوف اول، واو عطف كُنْ فعل اَهْلُهَا مَرْكِبٌ اِنشائی قائل اَنْ حَرْفٌ تَحْقِيقٌ هُمْ ضَمِيرٌ اِسْمٌ قَدِ رُوْنٌ اِسْمٌ قَائِلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَائِلٌ عَلَيَّهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ متعلق، تینوں مل کر خبر اَنْ اِسْمٌ وَاِسْمٌ كُنْ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقاعل و مفعولین معفوف جانی، معفوف علیہ با معفولین شرط اَنْی فعل هَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ اَمْرٌ نَا مَرْكِبٌ اِنشائی قائل كَيْلًا وَاَوْقَاتًا مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ مَعْفُوفٌ مَفْعُولٌ بِهٖ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معفوف علیہ، فاعل عطف جَعَلْنَا فعل نَا ضَمِيرٌ قَائِلٌ هَا ضَمِيرٌ مَفْعُولٌ بِهٖ اِسْمٌ اِذْ اِنْصَبْنَا مَوْصُوفٌ كَانْ حَرْفٌ تشبیہ مخفف من الشك هَا ضَمِيرٌ مَقْدَرٌ اِسْمٌ كَا اِسْمٌ لَمْ تَعْنُ فعل ہی مُسْتَقَرٌّ قَائِلٌ بِالْاَوْقَاتِمْ تَرْفٌ لَوْ متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر، حرف تشبیہ با اسم و خبر مفت، موصوف با مفت جَعَلْنَا کا مفعول بہ جانی، فعل باقاعل و مفعولین معفوف، معفوف علیہ با معفولین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ کذلیک طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف تَقْصِيْلًا کے مفعول مطلق مقدم اَنْفَصِلْ فعل اَنْحَنَ مُسْتَقَرٌّ قَائِلٌ اَلْاَلِيَّتِمْ مَفْعُولٌ بِهٖ لَا مَرَّ جَارٌ قَوِيْمٌ مَوْصُوفٌ يَتَّفِقُوْنَ فعل باقاعل هَا ضَمِيرٌ قَائِلٌ جَمْلَةٌ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف با مفت مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى دَارِ السَّلَامِ ۗ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

آیت نمبر ۲۵: واو استیناف اللّٰهُ مبتدأ يَدْعُوْا فعل هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَائِلٌ اِلَى دَارِ السَّلَامِ تَرْفٌ لَوْ متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معفوف علیہ، واو عطف يَهْدِيْ فعل هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَائِلٌ مَنْ يَّشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ، الی جارہ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ مَرْكِبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مجرور، پھر یہ تَرْفٌ لَوْ يَهْدِيْ کے متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معفوف، معفوف علیہ با معفوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةً ۗ وَلَا يَزِيْهِيْهِمْ وُجُوْهُهُمْ قَتْرًا وَلَا ذَلَّةٌ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ

الْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۶: لآ مَرَّ جَارٌ اِلَى دَارِ السَّلَامِ مَوْصُوفٌ اَصْلًا جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ مَسْتَقَرٌّ قَائِلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَائِلٌ اِلَى دَارِ السَّلَامِ تَرْفٌ لَوْ متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معفوف، معفوف علیہ با معفوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔ کذلیک طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف تَقْصِيْلًا کے مفعول مطلق مقدم اَنْفَصِلْ فعل اَنْحَنَ مُسْتَقَرٌّ قَائِلٌ اَلْاَلِيَّتِمْ مَفْعُولٌ بِهٖ لَا مَرَّ جَارٌ قَوِيْمٌ مَوْصُوفٌ يَتَّفِقُوْنَ فعل باقاعل هَا ضَمِيرٌ قَائِلٌ جَمْلَةٌ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف با مفت مجرور، جار باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِيْسِئِلِهَا ۚ وَكَرِهَتْهُمْ ذِلَّةٌ مِمَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  
مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَانَمَا أَغْشَيْتَ وَجُوْهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴿۷۰﴾

**آیت نمبر ۲۷:** واو عاظفہ اللذین اسم موصول کسبوا فعل واو ضمیر فاعل السیئات مفعول بہ جزاء مصدر مضارع سببہ منافی الیہ یسئلہا مصدر کے متعلق ہوئے، تینوں ل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، واو عاظفہ تڑھق فعل ہضمیر مفعول بہ ذلۃ نال، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، مآثریہ لہم ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، میں اللہ طرف لغو متعلق مقدم، میں جارہ نامہ عاصم اسم فاعل ہو، مستقر نال و متعلق مقدم سے ل کر مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، کان حرف تشبیہ مآثریہ ما کانہ اغشیت فعل مجہول و جوفہم مرکب انسانی نائب فاعل قطعاً موصوف میں الیل طرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ مظلماً الیل سے حال ہے فعل مجہول با نائب فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستأنفہ ہوا، اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ کی ترکیب اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ کی مثل ہے آیت نمبر ۲۶ میں دیکھئے

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْا مَا كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَّشُرَكَاءُ وَّكُمْ فَخَرَّ يَلَدْنَا  
بِيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُ وَّهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿۷۱﴾

**آیت نمبر ۲۸:** واو استیانیہ یومہ مضارع نحشورہ فعل نحن مستقر نال ہضمیر ذوالحال جمیعا حال، دونوں ل کر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثم عاظفہ نقول فعل نحن مستقر نال، لاکر جارہ اللذین اشرکوا موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول مکنکم مرکب انسانی فعل محذوف الزموا کا مفعول بہ ہے الزموا فعل باذام ضمیر فاعل و مفعول بہ جملہ استیانیہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضارع الیہ، مرکب انسانی فعل محذوف ذکر ہضمیر یا نحو فہم کا مفعول بہ ہے (روح المعانی) انکم الزموا کی ضمیر فاعل جو مکنکم کی طرف منتقل ہے اس کی تاکید ہے شُرَكَاءُ وَّكُمْ کا اس پر معطف ہے۔ فاء استیانیہ یزینا فعل انما ضمیر فاعل یبیتہم مرکب انسانی مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاظفہ قال فعل شُرَكَاءُ وَّهُمْ مرکب انسانی فاعل، دونوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، مآثریہ کُنْتُمْ فعل ناقص ثم ضمیر اسم ایا نانا ضمیر منسوب مفعول بہ مقدم تعبدون فعل باذام ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف مستأنفہ ہوا۔

فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿۷۲﴾

**آیت نمبر ۲۹:** فاء استیانیہ کفی فعل نباء جارہ نامہ لفظ اللہ علماً منوع فاعل شہیداً صیغہ صفت ہو، مستقر نال بیننا مرکب انسانی معطوف علیہ، واو عاظفہ یبیتکم مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں ل کر اللہ اسم الجلالہ کا حال یا ضمیر ہے،

لعل باقلم جملہ فعلیہ خبریہ مستندہ ہوں گے، من الضلحہ ضمیر ملوظ قائل کا اسم لگانا فعل باقلم یا ضمیر داہ کا اسم مستحق ہر دو صیغے کے لیے مناسب ہے، مرکب اسانی مجرور، جدا مجرور متعلق مقدم ہوئے، اذکر ہذا لفظ غلیظین اسم قائل نھن مستحق قائل و متعلق مقدم سے ل کر خبر، فعل باقلم خبریہ خبریہ اور جملان من الضلحہ کی خبر بیان با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ منضم ہوئے۔

هَذَا لِك تَبَلُّوْا كَلْنَ نَفْسِ مَا سَأَلْتُمْ وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَهُمْ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا

كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

آیت نصیو ۳۰: هَذَا لِك عرف مکان مفعول فی مقدم تَبَلُّوْا لعل كَلْنَ نَفْسِ مرکب اسانی قائل تمام موصول آسَلْتُمْ لعل جرح مستحق قائل سے ل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقلم و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ ہوا و ما لفظ رُدُّوْا لعل مجہول و ذہ ضمیر نائب قائل لعل جواب اللہ بعد سے مَوْلَهُمْ مرکب اسانی موصوف الختی مفت، موصول بہ مفت بدل، تبدل سے بدل مجرور، جدا مجرور عرف لغوی رُدُّوْا کے متعلق ہوئے، فعل مجہول بلاشبہ قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفعول اول ہوا و ما لفظ صَلَّ لعل عَلَّهُمْ جدا مجرور عرف لغوی متعلق ہوئے، تمام موصول گائوا لعل یا قلم داہ ضمیر اس کا اسم یَفْعَلُوْنَ لعل یا داہ ضمیر خبر، فعل باقلم یا اسم خبر صلہ، موصول باصلہ قائل، فعل باقلم و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفعول ثانی، مفعول علیہ یا مفعولین جملہ مفعول ہوں۔

۝ رُوٰی نمبر ۳

قُلْ مَنْ يُزَيِّنُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ اَمْ يَمْلِكُ السَّمْعُ وَالأَبْصَارُ وَ مَنْ يُخْرِجُ

الْحَيَّ مِنَ النَّبْتِ وَيُخْرِجُ النَّبْتِ مِنَ الْعَصْيِ وَ مَنْ يَدْبُرُ الْأَمْهْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ

فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

آیت نصیو ۳۱: قُلْ لعل امر آت مستحق قائل سے ل کر قول من استلہامیہ مبتدئ یَزَيِّنُ لعل هو مستحق قائل كَلْم ضمیر مفعول بہ، من السماء والأرض مفعول علیہ یا مفعول مجرور، جدا مجرور عرف لغوی یَزَيِّنُ کے متعلق ہوئے، پادوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدئ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مفعول، قول یا مقول جملہ انشائیہ مستندہ ہوں۔ ہذا حرف استلہامیہ من اسم استلہامیہ مبتدئ یَمْلِكُ لعل هو مستحق قائل اَلسَّمْعُ وَالأَبْصَارُ مفعول علیہ یا مفعول مفعول بہ، ضمیر ل کر خبر، مبتدئ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مفعول علیہ ہوا و ما لفظ من استلہامیہ مبتدئ یُخْرِجُ لعل هو مستحق قائل الْحَيَّ مفعول بہ، من النَّبْتِ جدا مجرور متعلق ہوئے، پادوں ل کر مفعول علیہ ہوا و ما لفظ یُخْرِجُ لعل هو مستحق قائل النَّبْتِ مفعول بہ، من العَصْيِ ظرف لغوی متعلق ہوئے، پادوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول، مفعول علیہ یا مفعول خبر، مبتدئ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مفعول اول ہوا و ما لفظ من اسم استلہامیہ مبتدئ یَدْبُرُ لعل هو مستحق قائل الْأَمْهْرَ مفعول بہ، ضمیر ل کر خبر، مبتدئ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مفعول ثانی، مفعول علیہ یا مفعولین جملہ مفعول ہوں، فكم ضمیر اور شرط حذف جہان سَلَّكُنَّوْا اسیدین علامت فعل یَقُولُونَ لعل یا داہ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّہ مبتدئ محذوف ہو کر خبر ہے، مبتدئ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقول، قول یا مقول جملہ فعلیہ خبریہ جزا، اور شرط محذوف جزا اور شرطیہ ہوں فكم ضمیر اور شرط محذوف جہا اذ كان الْأَمْهْرُ كَذَلِكَ، قُلْ لعل امر آت مستحق قائل سے

ل کر قول، ہم نے حرف استفہام قائم عاطف اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَا تَخَافُوْنَ اللّٰهَ، لَا تَتَّقُوْنَ فعل باواؤ ضمیر قائل معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرطاً با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**قَدْ لَكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ لِي فَأَنْتِ تُضِرُّوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۲:** قائم استفہامیہ ڈیکم اللہ مرکب تو سبیل مبتدا، رَبُّكُمْ مرکب اضافی موصوف الخقی صفت، موصوف باصفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ قائم عاطف قائم استفہام مبتدا، اسم موصول بَعْدَ الْحَقِّ مرکب اضافی فعل مخدوف تَبَيَّنَتْ کامفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول فیہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔ إِلَّا حرف استثناء الضَّلَالُ کا سے بدل ہے، قائم عاطف آئی معنی آئین کا کاتبین کا مفعول فیہ ہو کہ حال مقدم ہے، تَضَرُّوْنَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب قائل سے ل کر جملہ انشائیہ ہو۔

**كَذَلِكَ حَقَّتْ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝**

**آیت نمبر ۳۳:** کذلیک ظرف مستقر کا کثیرا کے متعلق ہو کہ بواسطہ موصوف مخدوف حَقَّتْ کے مفعول مطلق مقدم حَقَّتْ فعل جَکَلَتْ رَبِّكَ مرکب اضافی مبدل مندرج حرف تحقیق ضمیر اسم لا یؤمِنُونَ فعل باواؤ ضمیر قائل خبر مان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بدل، مبدل منہ با بدل حَقَّتْ کا قائل، علی جارہ الَّذِينَ فَسَقُوا موصول با صلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق و مفعول مطلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہو۔

**قُلْ هَلْ مِنْ شَرِّكُمْ مَن يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتِ تُؤْفَكُونَ ۝**

**آیت نمبر ۳۴:** قُل امر آت مستقر قائل سے ل کر قول ہل حرف استفہام من جارہ شَرِّكُمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کا کثیر کے متعلق ہو کہ خبر مقدم من اسم موصول يَبْدُوا فعل ہو مستقر قائل الْخَلْقُ مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ثُمَّ عاطف يُعِيدُ فعل ہو مستقر قائل ہ ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف صلہ، موصول با صلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔ قُل فعل امر آت مستقر قائل سے ل کر قول، اللہ مبتدا يَبْدُوا فعل ہو مستقر قائل الْخَلْقُ مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ثُمَّ عاطف يُعِيدُ فعل ہو مستقر قائل ہ ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔ قائم عاطف آئی استفہامیہ کا کاتبین کا مفعول فیہ ہو کہ تُوْفِكُونَ کی ضمیر نائب قائل سے حال مقدم تُوْفِكُونَ فعل مجہول واؤ ضمیر نائب قائل، دونوں ل کر جملہ انشائیہ ہو۔

**قُلْ هَلْ مِنْ شَرِّكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي فَمَا لَكُمْ فِدَ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝**

**آیت نمبر ۳۵:** قُل فعل امر آت مستقر قائل سے ل کر جملہ انشائیہ قول، ہل حرف استفہام من جارہ شَرِّكُمْ ظرف مستقر کا کثیر کے متعلق ہو کہ خبر مقدم من اسم موصول يَهْدِي فعل ہو مستقر قائل إِلَى الْحَقِّ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں ل کر صلہ، موصول با صلہ

مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول بالمقولہ جملہ انشائیہ ہو۔ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل سے مل کر قول، اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَدَا يَهْدِيْ فِعْلٌ هُوَ مستتر قائل للمحقق ظرف لفو متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر، مبتدا با خبر مقولہ، قول بالمقولہ جملہ انشائیہ ہو۔

ہمزہ حرف استفہام فاء حرف تفصیل من اسم موصول یَهْدِيْ فِعْلٌ هُوَ مستتر قائل اِلَى الْحَقِّ ظرف لفو متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا اَحْقَى اسم تفضیل مضاف اَنْ حرف مصدری و نصب یَنْتَبِعُ فِعْلٌ مجہول مضاف قائل سے مل کر بتاویل مصدر مضاف الیہ، مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ، اَمْرٌ عَاطِفٌ مِّنْ اِسْمٍ مَّوْصُولٍ لَا يَنْتَبِعُ فِعْلٌ هُوَ مستتر قائل اِلَّا حرف استفہام اَنْ حرف مصدری و نصب یَهْدِيْ فِعْلٌ مجہول مضاف قائل، دونوں مل کر بتاویل مصدر وَقْتٌ مضاف مخدوف کا مضاف الیہ، دونوں مل کر مستثنیٰ مفرغ مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا اور خبر مخدوف ہے اَحْقَى اَنْ يَنْتَبِعَ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔ فاء استینائیہ ما اسم استفہام مبتدا لکنہ ظرف مستقر کاؤن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متانفہ ہوا۔ کَيْفَ کاؤن کا مفعول فیہ ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف حُكْمًا کے مفعول مطلق مقدم مَحْكُوْمُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ قائل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو۔

وَمَا يَنْتَبِعُ اَسْمُوْهُمْ اِلَّا كَلْمًا وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

آیت نمبر ۳۱: وَاَوْ اِسْتِيْنَا فِيْ مَا بَانِيْ يَنْتَبِعُ فِعْلٌ اَسْمُوْهُمْ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ قَائِلٌ اِلَّا حَرْفٌ اِسْتِيْنَا وَاَنَّ كَلْمًا مَسْتَثْنٰی مَفْرَغٌ مَّوْجُوْدٌ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيْقُ الظَّنَّ اِسْمٌ لَا يُغْنِيْ فِعْلٌ هُوَ مستتر قائل مِنَ الْحَقِّ ظرف مستقر کاؤن کے متعلق ہو کر حال مقدم شَيْئًا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ مَوْجُوْدٌ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ مَفْعُوْلٌ بِہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِنَّ اِسْمٌ وَاَنَّ حَرْفٌ اِسْتِيْنَا خبریہ ہو۔ اِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيْقُ النِّظَرِ اللّٰهَ اِسْمٌ عَلِيْمٌ صِيغہ صفت هُوَ مستتر قائل بَاءٌ جَارَةٌ مَصْدَرِيَّةٌ يَفْعَلُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْضَمِيْرٌ قائل بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، صفت مشبہ با قائل اور متعلق مشبہ جملہ ہو کر خبر اِنَّ اِسْمٌ وَاَنَّ حَرْفٌ اِسْتِيْنَا خبریہ متانفہ ہو۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَلَيْسَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

آیت نمبر ۳: وَاَوْ اِسْتِيْنَا فِيْ مَا بَانِيْ كَانَ فِعْلٌ نَاقِصٌ هَذَا الْقُرْآنُ مَرْكَبٌ تَوْصِيْلِيٌّ اِسْمٌ اَنْ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ وَنَسْبٌ يُفْتَرٰى فِعْلٌ مجہول هُوَ مستتر نائب قائل مِنْ جَارَةٌ دُوْنِ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَجْرُوْرٌ، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب قائل و متعلق بتاویل مصدر معطوف علیہ ہوا۔ وَاَوْضَمِيْرٌ لٰكِنْ مَخْدُوْفٌ مِمَّا تَفْصِيْلُ الَّذِيْ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مَرْكَبٌ اِضَافِيٌّ مَفْعُوْلٌ فِيْہِ ہوا۔ فعل مخدوف حَبِيْتٌ كَا، فعل با قائل و مفعول فیہ صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف اول، وَاَوْضَمِيْرٌ تَفْصِيْلٌ مَصْدَرٌ مضاف الْكِتٰبِ مضاف الیہ مرکب اضافی وَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ مِنَ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ظرف مستقر کاؤن کے متعلق ہو کر حال، وَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ثَمَانِیٌّ مَعطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کا کن کی خبر، فعل ناقص اِسْمٌ وَاَنَّ حَرْفٌ اِسْتِيْنَا خبریہ متانفہ ہو۔ کَا لَمْبِيْ جَمْسٌ رُبُّبٌ اِسْمٌ کَلَامٌ فِيْہِ ظرف مستقر کاؤن کے متعلق ہو کر خبر، کَا لَمْبِيْ جَمْسٌ

باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہو۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾

**آیت نمبر ۳۸:** اَمْ يَقُولُونَ یعنی کیا یہ کہتا ہے کہ جملہ فعلیہ خبریہ قول یا افتخاری فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قُلْ فعل امر آتت مستتر فاعل سے مل کر قول فاء نصیب اور اس کی شرط محذوف ہے ان کا ان اَمْ كَمَا كَفَرْتُمْ لَوْلَا اِيْتُوا فعل امر و ضمیر فاعل بہاء جملہ سوْرۃ موصوفہ بیثباتہ مرکب اضافی مفت، موصوفہ یا مفت مجرور، دونوں مل کر متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، او اعطف اذْعُوا فعل امر و ضمیر فاعل مَن اسم موصول اسْتَعْظَمْتُمْ فعل ناقص مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال، مَن دُونَ اللَّهِ ظرف مستقر کا کئی کا متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اذْعُوا کا مفعول بہ، فعل و فاعل و مفعول بہ مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف شرط محذوف کی جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ ہول ان حرف شرط کا کئی فعل ناقص کُفْرٌ ضمیر اس کا اسم ضمیّ قیامات اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور جزاء محذوف ہے، معاً اذْعُوا یا اذْعُوا شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۹﴾

**آیت نمبر ۳۹:** بَلْ حرف عطف برائے اشراک کذَّبُوا فعل و ضمیر فاعل بہاء جارہ صا اسم موصول لَمْ يُحِيطُوا فعل امر و ضمیر فاعل بہاء جارہ علیہ مرکب اضافی مجرور، جار باجمر و متعلق صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجمر و کذَّبُوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہو۔ او اعطف اٰیَاتِنَا فعل مضارع ضمیر مفعول بہ، تَأْوِيلُهُ مرکب اضافی فاعل، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لَمْ يُحِيطُوا کی ضمیر فاعل سے مل کر ہے۔ کَذَّبَ جار باجمر و کذَّبُوا کے متعلق ہوئے، کذَّبُوا اسم فاعل اس میں ہو ضمیر فاعل، اسم فاعل بافاعل شبہ جملہ ہو کر بواسطہ موصوفہ محذوف کذَّبُوا کے مفعول مطلق مقدم، کَذَّبَ فعل اللذین اسم موصول مَن قَبْلِهِمْ جار باجمر و ظرف مستقر فعل محذوف مَضَوْا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہو۔ فاء نصیب اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ فعل امر آتت مستتر فاعل کَيْفَ کذَّبُوا کا مفعول فیہ ہو کر کان کی خبر مقدم، کان فعل ناقص عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ مرکب اضافی اسم، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَمِنْهُمْ مَن يُّؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَن لَّا يُّؤْمِنُ بِهِ وَ رَوَّيْتُمْ عَنْهُم بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۴۰﴾

**آیت نمبر ۴۰:** او ایسا ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ جو اس کے مفسدین کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَن اسم موصول يُّؤْمِنُ فعل ناقص مستتر فاعل بہ طرف لغو متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، او اعطف وَمِنْهُمْ



حرف مستقر کاٹنے کے متعلق ہو کر خبر مقدم، یعنی اسم موصول لا یؤیدون فعل ہو مستقر نازل پہ حرف نحو استحق اوست، تینوں مل کر سلسلہ موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہو اور اسواو استیفاء میں تک مرکب منافی مبتدا ماضیہ اسم تعین ہو مستقر نازل یا انفسہ یؤیدون حرف نحو متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا ہو۔

﴿رکوع نمبر ۵﴾

وَأِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَلَيْهِمْ لَكَلِمَةٌ وَمِنَّا أَعْمَلُ وَإِنِّي عَلَىٰ شَيْءٍ حَسِيرٌ

﴿وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

آیت نمبر ۱۴: او یا معاذ و منہم حرف مستقر کاٹنے کے متعلق ہو کر خبر مقدم معقول بہ، فعل ناقص یا معقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ حاکمہ جزائیہ فعل ناقص امر استقر نازل سے مل کر قول لیا جا جا بجز اور کاٹنے کے متعلق ہو کر خبر مقدم معقول معنی مضاف مضاف فیہ مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ او یا معاذ لکلمہ جملہ با خبر اور کاٹنے کے متعلق ہو کر خبر مقدم معقول معنی مضاف مضاف فیہ مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف معقول، قول یا معقول جزاء، شرطیہ جملہ شرطیہ ہو اور انکھ مبتدا یؤیدون میں صفت اس میں انکھ مستقر نازل میں حرف ہدایہ موصول اعتمد فعل ناقص مستقر نازل، فعل ناقص سلسلہ موصول باصلہ مجرور، جملہ با خبر اور صیغہ صفت کے متعلق ہوئے، صیغہ صفت ناقص و متعلق خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ او یا معاذ آنا مبتدا، یؤیدون صیغہ صفت اس میں آنا ضمیر مستقر نازل، میں حرف جر موصول لکلمتوں فعل ناقص، خبریہ ناقص، فعل ناقص سلسلہ موصول باصلہ مجرور، جملہ با خبر اور صیغہ صفت کے متعلق ہوئے، صیغہ صفت ناقص و متعلق خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہو۔

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ؕ إِذَا قُلْتُمْ تُسَبِّحُ الضَّمَّةَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۵: او یا معاذ و منہم حرف مستقر کاٹنے کے متعلق ہو کر خبر مقدم معقول اسم موصول یسبتعون فعل ناقص خبریہ ناقص ایلیک جملہ با خبر اور متعلق ہوئے، فعل ناقص یا معقول جملہ فعلیہ خبریہ سلسلہ موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو اور حمزہ حرف استفہام فاء معاذ اور معطوف علیہ محذوف ہے یسبتعون ایلیک (روح البیان) آیت ضمیر مبتدا تسبیح فعل ناقص مستقر نازل الضمہ معقول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر معطوف، معطوف علیہ محذوف یا معطوف جملہ انشائیہ معطوف ہو اور اسواو حالہ کو شرطیہ کاٹنا فعل ناقص واو ضمیر اسم لا یعقلون فعل ناقص ہادوا ضمیر ناقص جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص یا معقول خبر شرطیہ جزاء محذوف ہے آیت تسبیح الضمہ شرطیہ جزاء، جملہ شرطیہ ہو کہ الضمہ سے حال ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ ؕ إِذَا قُلْتُمْ تَهْدِي الْعُنُقَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿۱۶﴾

آیت نمبر ۱۶: او یا معاذ و منہم حرف مستقر کاٹنے کے متعلق ہو کر خبر مقدم معقول اسم موصول ينظرون فعل ناقص مستقر نازل ایلیک جملہ با خبر اور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ سلسلہ موصول باصلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو اور حمزہ حرف استفہام

قام عطف: اَنْتَ ضمیر مبتدأ تَهْدِي فعل اَنْتَ مستتر قائل العُقُ مفعول به، تَبَيَّنَ لِرُ كِرْ خَبْر، مبتدأ باخبر جملة اسمية انشائية معطوف، معطوف عليه مَدْرُ هُمْ يَغْفُوْنَ اپنے معطوف سے لِرُ كِرْ جملہ معطوف ہوا، واو عالیہ لُوْ شَرْطِیہ کاؤا فعل ناقص واو ضمیر اسم لای یغفون فعل باء واو ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص باء ضمیر خبر اور جزاء مخدوف ہے اَنْتَ تَهْدِي العُقُ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر العُقُ سے حال ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۷۶﴾

آیت نمبر ۷۶: اِنَّ حرف تَحْتِیْن لفظ اللہ اسم لای یظلم فعل هو مستتر قائل النَّاسِ مفعول به اول، شَيْئًا مفعول به ثانی، فعل بافاعل مفعولین، جملہ فعلیہ خبر خیر، اِنَّ باء ضمیر خبریہ مبتدأ، واو عالیہ باعطف، لَكِنَّ حرف استدراك النَّاسِ اس کا اسم اَنْفُسُهُمْ مرکب انسانی مفعول به مقدم، يَظْلِمُونَ فعل واو ضمیر قائل اور مفعول به مقدم سے لِرُ كِرْ خَبْر، لَكِنَّ اپنے اسم اور خبر سے لِرُ كِرْ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر النَّاسِ کا حال ہے یا جملہ متانفہ پر معطوف ہے۔

وَيَوْمَ يَخْشَرُهُمْ كَانُوا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ؕ وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۷۷﴾

آیت نمبر ۷۷: اَوَا اِسْتِئَا نِیَ یَوْمَ مَضَى یَخْشَرُ فعل هو مستتر قائل هُمْ ضمیر ذوالحال کَانَ مخدّف من الشکل ضمیر اس کا اسم کَمْ یَلْبَسُوا فعل واو ضمیر قائل اَلْاَحْرَافِ اسْتِئَا سَاعَةً موصوف مِنَ النَّهَارِ ظرف مستقر کَائِبَةً کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مفعول فیہ، فعل بافاعل، مفعول فیہ کَانَ کی خبر، کَانَ باء ضمیر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل، مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ کَمْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ یَتَعَارَفُونَ کا مفعول فیہ مقدم، یَتَعَارَفُونَ فعل واو ضمیر قائل یَلْبَسُهُمْ مرکب انسانی مفعول فیہ ثانی، فعل بافاعل مفعولین، جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔ قَدْ علامت فعل خَسِرَ فعل اَلَّذِیْنَ اس موصول کَذَّبُوا، فعل واو ضمیر قائل بَاء جَارِهِ لِقَاءِ اللَّهِ مرکب انسانی مجرور، جَارِ بَجْرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ قائل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عالیہ ماکانیہ کاؤا فعل ناقص واو ضمیر اسم شَهْتَدِیْنِ اس قائل هُمْ مستتر قائل سے لِرُ كِرْ خَبْر، فعل ناقص باء ضمیر خبر جملہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا۔

وَأَمَّا لِرُ كِرْ يَتَنَبَّأكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيْتَنَّا كَإِلَّا نَمُرَّ جَحِيمُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿۷۸﴾

آیت نمبر ۷۸: اَوَا عَاطِفِ اِنَّ شَرْطِیہ مَا كَانَهُمْ لُوْ يَتَنَبَّأُ فعل نَحْنُ مستتر قائل کَانَ ضمیر مفعول بہ اول بَعْضَ مضاف اَلَّذِي اس موصول یَعِدُ فعل نَحْنُ مستتر قائل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل، مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل، مفعولین، جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوَا عَاطِفِ لَتَتَوَفَّيْنَا فعل نَحْنُ مستتر قائل کَانَ ضمیر منصوب مفعول بہ، تَبَيَّنَ لِرُ كِرْ مَطْوُوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فَاكَمْ جَزَائِهِ اِلَيْنَا جَارِ بَجْرور طرف مستقر کَائِبَةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَزَجِحِيمُهُمْ مرکب انسانی مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفِ لَفْظُ اللّٰهُ مَبْتَدَأ، شَهِيدٌ صِيغَةُ صِفْتِ هُوَ مستتر قائل عَلَىٰ مَا مَاسْوُول

يُقَالُونَ لِقُلِّ بَادَاؤِ ضَمِيرٍ قَائِلٍ صَلَ، موصول باصلہ مجرور، جاد باجرور شہید کے متعلق ہوئے، صیغہ صفت بالفاعل و متعلق خبر، مبتدأ باخبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بزاد، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَاءَ رَّسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾

**آیت نمبر ۳۷:** وَاَوْعَاطِفْ لَاهِر جَارِحْكَ اَمَّةٌ مَرْكِبِ اِنْسَانِي مَجْرور، جاد باجرور ظرف مستقر كَالَّذِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ رَسُوْلٌ مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ قَاءٌ عَاطِفٌ اِذَا مَرْطِبِ مَفْعُولٌ فِيْ مَقْدَمِ جَاءَ لِقُلِّ رَّسُوْلُهُمْ مَرْكِبِ اِنْسَانِي قَائِلٍ، فعل بالفاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قُضِيَ فعل مجہول ہو مستتر ذوالحال بَيْنَهُمْ مَرْكِبِ اِنْسَانِي مَفْعُولٌ فِيْ بِالْقِسْطِ ظرف مستقر كَالَّذِيْنَ کے متعلق ہو کر قُضِيَ کی ضمیر سے حال ہے، فعل مجہول ہاتھ بالفاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ وَاَوْعَاطِفْ هُمْ ضَمِيرٌ مَبْدَأٌ لَا يُظْلَمُوْنَ فعل مجہول وَاَوْ ضَمِيرٌ نَائِبٌ قَائِلٍ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ باخبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بزاد، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾

**آیت نمبر ۳۸:** وَاَوْ اِسْتِنَائِي يَقُولُونَ لِقُلِّ وَاَوْ ضَمِيرٍ قَائِلٍ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول مَتَى اِسْتِنَائِي كَالَّذِيْنَ کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدمہ لِهَذَا الْوَعْدُ مَرْكِبِ اِسْمِي مَبْدَأٌ مَوْخَرٌ، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو اسان حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص ثُمَّ ضَمِيرٌ اِسْمِ اَلِاسْمِ صَادِقِينَ اِسْمِ قَائِلٍ اَنْتُمْ مَسْتَرٌ قَائِلٍ سے ل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور جزاء مخدوف ہے فَتَمَّتْ هَذَا الْوَعْدُ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ۗ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۗ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَعْفِفُوْنَ ﴿۳۹﴾

**آیت نمبر ۳۹:** قُلْ اِن اَرَادَتْ مَسْتَرٌ قَائِلٍ سے ل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، لَا اَمْلِكُ لِقُلِّ اَنَا مَسْتَرٌ قَائِلٍ لِنَفْسِي جَادٌ مَجْرور متعلق ہوئے ضَرًّا وَّ نَفْعًا معطوف علیہ وَاَوْ عَاطِفٌ لَا نَفْعًا نَفْعًا معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل بالفاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو لَوْلَا اَلْحَرْفُ اسْتِنَائِي بِمَعْنَى لِيْكَوْنُ، مَا اَسْمٌ مَوْصُولٌ شَاءَ لِقُلِّ لِنَفْسِي اللهُ قَائِلٍ، فعل بالفاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ باخبر مخدوف ہے كَالَّذِيْنَ، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لَوْلَا جَارِحْكَ اَمَّةٌ مَرْكِبِ اِنْسَانِي مَجْرور، جاد باجرور ظرف مستقر كَالَّذِيْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ اَجَلٌ مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ ہو لَوْلَا اِذَا مَرْطِبِ مَفْعُولٌ فِيْ مَقْدَمِ جَاءَ لِقُلِّ اَجَلُهُمْ مَرْكِبِ اِنْسَانِي قَائِلٍ، فعل بالفاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عَاطِفٌ اِذَا يَكُونُ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ مَفْعُولٌ فِيْ مَقْدَمِ سَاعَةً مَفْعُولٌ فِيْ، فعل بالفاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ وَاَوْ عَاطِفٌ لَا يَسْتَعْفِفُوْنَ لِقُلِّ بَادَاؤِ ضَمِيرٍ قَائِلٍ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بزاد، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

قُلْ اَرءَيْتُمْ اِنْ اَنْتُمْ عَدَاؤُهُ بَيِّنَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْفِفُ مِنْهُ الْمَجْرُمُونَ ﴿۴۰﴾

**آیت نمبر ۵۰:** قُلْ اِنَّ اَكْبَرَ فَاعِلٍ مَسْتَرْفَعٍ لَمْ يَلِكْ قَوْلٌ اَمْزَعٌ يُكْفَرُ بِمَعْنَى اَخْبِرُ وَفِي اَخْبِرُ وَفَا فاعل واو ضمير قائل نون وقایہ کا بناء ضمیر مفعول بہ الّٰلِ مَاذَا اَسْمَىٰ اَنْیٰ قُلْیٰ ہُوَ مفعول بہ مقدم یَسْتَعْجَلُ فاعل مِنْهُ مَرْفَعٌ لَعُو متعلق ہوسے اَلْمُجْرِمُونَ فاعل، چاروں مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر مفعول بہ، ثانی، فعل بافاعل و مفعولین مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ ان حرف شرطی اُنَّ فاعل کُفُّ ضمیر مفعول بہ عَدَّ اَنْہُ مرکب اضافی فاعل یُنَادُوا اَوْ یَنْهَوْنَ اَوْ یَعْتَفُونَ علیہ با معطوف مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطہ اور جزاء مخدوف ہے۔ کَلِمَةٌ عَلٰی اِسْتِعْجَالِ لَكُمْ الْعَذَابُ، شرطہ با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**اَنْتُمْ اِذَا مَا وَقَعَ اَمْنٌ لَكُمْ بِهِ ط اَلْتُنَّ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۵۱:** ہمدوزہ حرف استفہام تُمْ حرف عطف اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم مَاذَا مَع و وَقَعَ فاعل ہُوَ مستتر قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر شرطہ اَمْنٌ لَكُمْ فاعل ضمیر قائل بہ جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرطہ با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر شرطہ اول کی جزاء مخدوف پر معطوف ہے۔ ہمدوزہ حرف استفہام اَلْتُنَّ مفعول فیہ ہے فعل مخدوف اَمْنٌ لَكُمْ بہ کا، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔ واو حالیہ قَدْ علامت فعل کُنْتُمْ فاعل نا قس تُمْ ضمیر اسم بہ جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے کَسْتَعْجِلُوْنَ فاعل واو ضمیر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل نا قس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے اَمْنٌ لَكُمْ کی ضمیر قائل سے۔

**تُمْ قَبِيلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَاذُو قَوْمًا عَذَابِ الْخُلْدِ هَلْ تُجْرَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ**

**تَكْسِبُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۵۲:** تُمْ عاطفہ قَبِيلٌ فاعل مجہول مستتر نائب فاعل لآہر جارہ اَلَّذِينَ اسم موصول ظَلَمُوا فاعل واو ضمیر قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، وَاذُو فاعل امر واو ضمیر قائل عَذَابِ الْخُلْدِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوا۔ ہَلْ حرف استفہام تُجْرَوْنَ فاعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل اِلَّا حرف استثناء بناء جارہ مَا موصولہ کُنْتُمْ فاعل نا قس تُمْ ضمیر اسم کا اسم تَكْسِبُوْنَ فاعل واو ضمیر قائل سے مل کر خبر، فعل نا قس با اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق جملہ انشائیہ استفہامیہ منطوق ہوں۔

**وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اَحَقُّ هُوَ قُلْ اِنِّیْ وَرِیِّ اِنَّہٗ لَحَقُّ ط و مَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ۝**

**آیت نمبر ۵۳:** واو استینائیہ یَسْتَعْجِلُونَ فاعل واو ضمیر قائل کا ضمیر منصوب مفعول بہ اول ہمدوزہ حرف استفہام حَقٌّ خبر مقدم ہُوَ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مفعول بہ، ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل سے مل کر قول، اِنِّیْ حرف ایجاب واو قسمیہ جارہ وریِّ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور فعل مخدوف اَقْسَمُ کے متعلق ہوئے، اَقْسَمُ فعل اَنَّا مستتر قائل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، اِنِّیْ حرف تحقیق کا ضمیر اسم لآہر مذ حلقہ حَقٌّ خبر، اِنِّیْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔ واو عاطفہ مَا جملہ اسمیہ اَنْتُمْ ضمیر اسم کا اسم بناء جارہ ذاکمہ مُعْجِزِیْنَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر قائل سے

ل کہ کلمہ منصوب خبر، ماضیہ بائیں اور جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم، محذوف ہے۔

● رکن نمبر ۶ ●

وَلَوْ اَنَّ لِيْكَفِيْ نَفْسِيْ كَلِمَتٌ مَّا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ دَاوُۥا اَسْرُوْا وَالنَّدَامَةَ لَمَّا رَاوْا الْعَذَابَ ۗ وَ قَضٰى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يظْلُمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۵۴: اور اگر میرا لے لو حرف شرطانّ حرف تحقیق لام جہدہ کنّ صنف نفیس موصوف کلکتہ فعل جمع مستتر ماضی سے مل کر مفت، موصوف بافتت صنف الیہ، صنف باضناف الیہ مجرور، جہدہ باجہد حرف مستقر کلکتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، صنف موصول فی الأرض حرف مستقر فعل محذوف کیبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ اسم مؤخر بیان بائیں اور خبر بیانیہ فعل محذوف کیبت کا فعل ہوا، فعل بافعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط ماضیہ، جہدہ باجہد جوابیہ افقدت فعل جمع مستتر ماضی سے مل کر جہدہ باجہد خبریہ، شرط ماضیہ، جملہ شرطیہ ہوں۔

واو عطف اسرؤوا فعل راء ضمیر قائل النَّدَامَةُ منقول بہ لَمَّا حرفیہ صنف واو افعال، واو ضمیر قائل الْعَذَابِ منقول بہ، تینوں مل کر صلہ فعلیہ خبریہ، صنف الیہ، صنف باضناف الیہ اسرؤوا کا منقول فیہ، فعل بافعل و موصولیں جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو عطف قطعی فعل مجہول ہو مستقر باب قائل بَيْنَهُمْ مرکب اضافی منقول فیہ بالقِسْطِ حرف مستقر کلکتہ کے متعلق ہو کر قَضٰى کی ضمیر نائب قائل سے ملتا ہے، فعل مجہول باثاب قائل و موصول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ، صنف علیہ، واو عطف ہُوْ ضمیر مبتدأ، لا یظْلُمُوْنَ فعل مجہول باوا ضمیر نائب قائل، جملہ فعلیہ خبریہ مبتدأ باخبر محذوف، محذوف علیہ با محذوف جملہ محذوف ہوں۔

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مٰفِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مٰ اَلَّا اِنَّ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَّلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

آیت نمبر ۵۵: آلا حرف حمیجانّ حرف شبہ بالفعل یَقْدُ حرف مستقر کلکتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، صنف موصول فی حرف جہدہ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ محذوف علیہ با محذوف مجرور، جہدہ باجہد حرف مستقر فعل محذوف کیبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ کلمہ منصوب اسم مؤخر بیان بائیں اور خبر بیانیہ، صنف ماضیہ ہوں آلا حرف حمیجانّ حرف تحقیق وَعَدَ اللّٰهُ مرکب اضافی اسم حقیّ خبر بیان بائیں اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں واو عطف لٰكِنْ حرف ابتدائے صنف ماضیہ ہوں اَكْثَرُهُمْ مرکب اضافی اسم لا یظْلُمُوْنَ فعل مجہول باوا ضمیر قائل خبر لٰكِنْ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

هُوَ یُنۢبِئُ وَّ یُعِیۡثُ وَّ الَّیۡوُۥ تَزۡجَعُوْنَ ۝

آیت نمبر ۵۶: ہُوْ ضمیر مبتدأ، یُنۢبِئُ فعل محذوف ماضی سے مل کر محذوف علیہ، واو عطف یُعِیۡثُ فعل محذوف ماضی سے مل کر محذوف، محذوف علیہ با محذوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ محذوف علیہ، واو عطف الَّیۡوُۥ حرف لغو متعلق مقدم ہوئے تَزۡجَعُوْنَ فعل مجہول راء ضمیر نائب قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ محذوف، محذوف علیہ با محذوف جملہ محذوف ہوں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾

**آیت نمبر ۵۸:** یاد حرف نداؤ کے قائم مقام، آذخو فعل انا ضمیر مستتر فاعل ائی موصوف ہا برائے تحیید الناس صفت، موصوف باصفت نما منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداؤ قد علامت فعل جَاءَتْ فعل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ مَوْعِظَةٌ موصوف ہیں جاہہ رُبُّکُمْ مرکب انسانی مجرور، جاہہ با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف علیہ، واو عاطفہ شِفَاءٌ موصوف لآہر جاہہ مآسَم موصول فی الصُّدُور طرف مستقر فعل معذوف تَبَّت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاہہ با مجرور کائین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف اول، واو عاطفہ هُدًى معطوف ثانی، واو عاطفہ رَحْمَةٌ موصوف لِّلْمُؤْمِنِينَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفات علامتہ فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ نداؤ کا جواب، نداؤ با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٩﴾

**آیت نمبر ۵۹:** قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول بآء جاہہ فَضْلِ اللّٰہِ مرکب انسانی مجرور، جاہہ با مجرور معطوف علیہ واو عاطفہ بآء جاہہ رَحْمَتِهِ مرکب انسانی مجرور، جاہہ با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق ہوئے فعل معذوف يَفْرَحُوا کے لیتے يَفْرَحُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر مقول، قول با مقول جملہ انشائیہ امریہ ہوا فقآء نصیہ اور اس کی شرط معذوف ہر ان قَدْ حُوا اَيْحُوا ہو، بِذَلِكَ جاہہ با مجرور متعلق مقدم ہوئے فقآء لآہر لیتے يَفْرَحُوا فعل امر واو ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جزاء، شرط معذوف جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اھُو ضمیر مبتدا اَحْيَا اسم تفضیل ہُو مستتر فاعل ہیں جاہہ مآسَم موصول يَجْمَعُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاہہ با مجرور متعلق ہوئے اسم تفضیل با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ امریہ خبریہ ہوں

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا قُلْ اللَّهُ أَدْنٰ

لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٦٠﴾

**آیت نمبر ۶۰:** قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، ہمّزہ حرف استفہام وَعَيْتُمْ فعل کُم ضمیر فاعل، مآ موصولہ اَنْزَلَ فعل انشاء اللّٰہ فاعل لَكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال ہیں رِزْقٍ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقول جملہ انشائیہ امریہ ہوا فقآء عاطفہ جَعَلْتُم فعل کُم ضمیر فاعل ہیںہ جاہہ با مجرور متعلق ہوئے حَرَامًا وَحَلٰلًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَنْزَلَ پر معطوف ہے قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر قول، ہمّزہ حرف استفہام اَللّٰہُ مبتدا اَدْنٰ فعل ہُو مستتر فاعل لَكُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ امریہ انشائیہ معطوف علیہ، اَمْرٌ عاطفہ عَلٰی اللّٰہُ جاہہ با مجرور طرف لغو متعلق مقدم فَتَفْتَرُونَ فعل واو ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول

یا مقولہ جملہ انشائیہ امر یہ ہوں۔

وَمَا كُنَّا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰:** واوستینا فی مآستہامیہ مبتدہ کن مصدر مضاف الذین اسم موصول یفترون فعل واو ضمیر قائل علی اللہ جار جار مجرور متعلق ہوئے الکذیب مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باملہ کن کا مضاف الیہ معنی قائل یومہ القیامہ مرکب اضافی کن کا مفعول فیہ، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ معنی قائل و مفعول فیہ سے مل کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ متعلقہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق لفظاً اللہ اسم لاہرہ ملقہ ذو مضاف فضلی مصدر علی الناس ظرف لغو مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر با متعلق مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر اِنَّ با اسم و خبر اسمیہ خبریہ ہو۔ واو عاطفہ لیکن حرف استدراک اکتوہم مرکب اضافی اس کا اسم لا یَشْكُرُونَ فعل واو ضمیر قائل سے مل کر خبر، لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿۱۰﴾ رُكُوْعِ نَهْرٍ ۱

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱:** واوستینا فی مآتہائیہ تکتون فعل ناقص اکت مستتر اس کا اسم فی شآن جار جار مجرور ظرف مستقر کتاتہ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مآتہائیہ تکتون فعل اکت مستقر قائل و مآتہ جار جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے۔ مین جاہ نامکہ قُرْآنٍ لفظا جار و ملامت مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اولیہ واو عاطفہ لا تَعْمَلُونَ فعل واو ضمیر قائل مین جاہ عمیل ملامت مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہوں۔

**إلا** حرف استثناء کتاتہ فعل ناقص کا ضمیر اس کا اسم علیکم جار جار مجرور متعلق مقدم شہودا کا اسم قائل نحن مستقر قائل اذ مضاف تُفِيضُونَ فعل واو ضمیر قائل فیہ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ، اسم قائل با قائل و متعلق مقدم و مفعول فیہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہے لا تَعْمَلُونَ کی ضمیر قائل سے۔ واو عاطفہ مآتہائیہ یَعْزُبُ فعل عن ذرّاتہ جار جار مجرور متعلق ہوئے۔ مین جاہ و مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مرکب اضافی موصوف فی الأرض ظرف لغو معطوف علیہ، واو عاطفہ لا تَعْمَلُونَ فِي السَّمَاءِ جار جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف کتاتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت لفظا جار و ملامت مفعول قائل، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔ واو عاطفہ اوستینا فیہ لانی مین اصغر اسم تفصیل ہو مستقر قائل مین ذرّاتہ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لا تَعْمَلُونَ اکتوہم اسم تفصیل ہو مستقر قائل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف لانی مین کا اسم یا حرف

استفہارہ کی جہاد کتب مبینہ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر، کائناتی جنس ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متوائفہ ہوں۔

**الْاِنَّ اُولِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۸۱﴾**

**آیت نمبر ۱۸۱:** اَلَا حَرْفِ تَحْمِيْرٍ اِنَّ حَرْفِ تَحْمِيْنٍ اُولِيَاءَ اللّٰهِ مَرْكَبِ اِشْاٰئِيْ اِسْمِ كَا اَمَّ لَانِيْ اَيَّ خَوْفٍ مَّبْتَدَاً عَلَيْهِمْ ظَرْفِ مَسْتَقْرٍ كَا اِنَّ حَرْفِ مَتَعَلِّقٍ هُوَ كَرِخْرٍ، مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ هُوَ اَوْ اِعَاظِفَةٌ لَانِيْ هُنَّ مُصِيْرٌ مَّبْتَدَاً اَيَّ خَوْفٍ تَوْنٍ فِعْلٍ وَاَوْ مُصِيْرٌ قَاعِلٌ سَعَلٌ كَرِخْرٍ، مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ خَبْرِيَّ اِسْمٍ وَاَوْ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَتَعَلِّقَةٌ هُوَل۔

**الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۲﴾ لَّهُمْ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۗ وَلَا**

**تَبْدِيْلٍ لِّكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۗ اِذْ لٰكِ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۸۳﴾**

**آیت نمبر ۱۸۳:** اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَّوْصُوْلٌ اَمَّنُوْا فِعْلٌ وَاَوْ مُصِيْرٌ قَاعِلٌ سَعَلٌ لِّ مَرْكَبِ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ هُوَ اَوْ اِعَاظِفَةٌ كَا تَوْنٍ اَقْصَاً وَاَوْ مُصِيْرٌ اِسْمِ كَا اِسْمٌ يَتَّقُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْ مُصِيْرٌ قَاعِلٌ سَعَلٌ لِّ مَرْكَبِ خَبْرٍ، فِعْلٍ اَقْصَاً اِسْمٍ وَاَوْ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ صِلَةٌ، مَوْصُوْلٌ بِاصِلَةٍ مَبْتَدَاً لَّهُمْ ظَرْفِ مَسْتَقْرٍ كَا اِنَّ حَرْفِ مَقْدَمِ اَلْبُشْرٰى زَوَالٍ فِيْ حَرْفِ جَارِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَرْكَبِ تَوْصِيْفِيٍّ مَجْرُوْرٍ، جَارٌ بِاَجْرُوْرٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ هُوَ اَوْ اِعَاظِفَةٌ فِي الْاٰخِرَةِ جَارٌ بِاَجْرُوْرٍ مَعْطُوفٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ ظَرْفِ مَسْتَقْرٍ كَا اِنَّ حَرْفِ مَتَعَلِّقٍ هُوَ كَرِخْرٍ، زَوَالٍ اِلٰهًا بِاِحَالٍ مَبْتَدَاً مَوْخَرٌ، مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَ كَرِخْرٍ، مَبْتَدَاً اِلٰهًا لِّ خَبْرٍ، مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَل كَانِيْ جِنْسٍ تَبْدِيْلِيٍّ اِسْمِ كَا اِسْمٌ لَّا هُوَ جَارٌ كَلِمٰتِ اللّٰهِ مَرْكَبِ اِشْاٰئِيٍّ مَجْرُوْرٍ، جَارٌ بِاَجْرُوْرٍ ظَرْفِ مَسْتَقْرٍ كَا اِنَّ حَرْفِ مَتَعَلِّقٍ هُوَ كَرِخْرٍ، اَلْفِيْ جِنْسٍ هَا اِسْمٍ وَاَوْ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَل اِذْ لٰكِ اِسْمٌ اِشْاٰرَةٌ مَبْتَدَاً هُوَ مُصِيْرٌ فِعْلٌ اَلْقَوْرُ الْعَظِيْمُ مَرْكَبِ تَوْصِيْفِيٍّ خَبْرٍ، مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَتَعَلِّقَةٌ هُوَل۔

**وَلَا يَحْزَنُوْنَكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعُرْوَةَ لِلّٰهِ جَبِيْنًا ۗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۸۴﴾**

**آیت نمبر ۱۸۴:** وَاَوْ اِشْاٰئِيَّةٌ اَيَّ لَا يَحْزَنُوْنَ فِعْلٌ نِيْ اِيْ كَانِ مُصِيْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهٖ قَوْلُهُمْ مَرْكَبِ اِشْاٰئِيٍّ قَاعِلٌ، تَيْنُوْنَ لِّ كَرِجْمَلَةٍ اِشْاٰئِيَّةٍ نَبِيَّةٍ هُوَل اِنَّ حَرْفِ تَحْمِيْنٍ اَلْعُرْوَةَ مَوْكَلٌ جَبِيْنًا تَاكِيْدٌ وَاَوْ اِشْاٰئِيَّةٌ اَيَّ اِنَّا اِسْمٌ اِسْمٌ ظَرْفِ مَسْتَقْرٍ كَا اِنَّ حَرْفِ مَتَعَلِّقٍ هُوَ كَرِخْرٍ اِسْمٍ وَاَوْ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْلَمَةٌ هُوَل هُوَ مُصِيْرٌ مَبْتَدَاً السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَاَوْ خَبْرٌ، مَبْتَدَاً خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْلَمَةٌ هُوَل۔

**اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ۗ وَوَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ**

**اللّٰهِ شُرَكَآءَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اِلَّا الظَّنُّ ۗ وَاِنَّ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۱۸۵﴾**

**آیت نمبر ۱۸۵:** اَلَا حَرْفِ تَحْمِيْرٍ اِنَّ حَرْفِ تَحْمِيْنٍ لِلّٰهِ جَارٌ بِاَجْرُوْرٍ ظَرْفِ مَسْتَقْرٍ كَا اِنَّ حَرْفِ مَتَعَلِّقٍ هُوَ كَرِخْرٍ مَقْدَمٌ مِّنْ اِسْمٍ مَوْصُوْلٍ فِي السَّمٰوٰتِ ظَرْفِ مَسْتَقْرٍ فِعْلٌ مَعْرُوْفٌ تَبَيَّنَتْ كَيْ مَتَعَلِّقٍ هُوَ كَرِجْمَلَةٍ، مَوْصُوْلٌ بِاصِلَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ هُوَ اَوْ اِعَاظِفَةٌ مِّنْ اِسْمٍ مَوْصُوْلٍ فِي الْاَرْضِ ظَرْفِ مَسْتَقْرٍ فِعْلٌ مَعْرُوْفٌ تَبَيَّنَتْ كَيْ مَتَعَلِّقٍ هُوَ كَرِجْمَلَةٍ، مَوْصُوْلٌ بِاصِلَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفٍ اِسْمٍ مَوْخَرٍ اِسْمٍ وَاَوْ خَبْرٌ جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ هُوَل وَاَوْ اِعَاظِفَةٌ مَا تَايِيْ تَتَّبِعُ فِعْلٌ اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ يَدْعُوْنَ فِعْلٌ وَاَوْ مُصِيْرٌ قَاعِلٌ سَعَلٌ مِّنْ حَرْفِ جَارِ دُوْنِ اللّٰهِ مَرْكَبِ اِشْاٰئِيٍّ مَجْرُوْرٍ، جَارٌ بِاَجْرُوْرٍ كَا اِنَّ حَرْفِ مَتَعَلِّقٍ



کے متعلق ہو کر حال مقدم ہو گا۔ ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ صلہ، موصول باصلہ یَتَّبِعُ کافعال، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اِن تائید یَتَّبِعُونَ فعل واو ضمیر قائل الّا حرف استثناء الظنّ مستثنیٰ مرفوع مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفان تائید ہُم ضمیر مبتدأ، الّا حرف استثناء یَخْرُصُونَ فعل واو ضمیر قائل سے ل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہو۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

يَسْمَعُونَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰:** ہُوَ ضمیر مبتدأ، الَّذِي اسم موصول جَعَلَ فعل ہو مستتر قائل لَكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے الَّيْلَ مفعول بہ لاکر جارہ تعلیل اور اس کے بعد اَن مقدم ہے تَسْكُنُوا فعل واو ضمیر قائل فِيْهِ جار مجرور متعلق ہوئے، تِيْنِ لُ ل کر تاء و ل مصدر مجرور، جار مجرور جَعَلَ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ واو عاطفہ النَّهَارَ ذوالحال مُبْصِرًا حال، ذوالحال باحال الَّيْلَ پر معطوف ہے اِن حرف تحقیق فی ذلک ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم لاکر نہ علقہ اَيَاتٍ موصوف لاکر جارہ قَوْمٍ موصوف يَسْمَعُونَ فعل واو ضمیر قائل سے ل کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر اِن اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ مُطلَب ہو۔

قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَكَلْدًا سُبْحٰنَهُ هٰهُوَ الغَنِيُّ ۗ دَالَةٌ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ طٰرِقٌ

عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ۗ اَتَقْوُلُوْنَ عَلٰى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱:** قَالُوا فعل واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول اِتَّخَذَ فعل لفظ اللهُ قائل و لَدَا مفعول بہ، تِيْنِ لُ ل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ لَسُبْحٰنَهُ مفعول مطلق ہے فعل معذوف سُبْحٰنًا کہ، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ ہُوَ مبتدأ خبر، الغَنِيُّ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ لَدَةٌ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم مآموصول فی السَّمٰوٰتِ جار مجرور کثبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مآموصول فی الْاَرْضِ جار مجرور کثبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

اِن تائید عِنْدَكُمْ مضاف باضاف الیہ کَائِنٌ کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم مین جارہ نامہ سُلْطٰنٍ لفظا مجرور فاعل مرفوع موصوف بہ اِن جار مجرور ظرف مستقر کائِن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔ ہَمْزہ حرف استفہام تَقْوُلُوْنَ فعل واو ضمیر قائل عَلٰى اللهُ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، مآموصول لَاتَعْلَمُوْنَ فعل بافاعل واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللهِ الْكٰذِبُ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۲﴾

**آیت نمبر ۱۲:** قُلْ فعل اَنْتَ مستتر قائل سے ل کر قول اِن حرف تحقیق الَّذِيْنَ اسم موصول يَفْتَرُوْنَ فعل واو ضمیر قائل عَلٰى

اللہ جہا باجرور متعلق ہوئے اَلْكَذِبُ مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اسم، لَا يُفْلِحُونَ فعل واو ضمیر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیانِ باسْمِ دُخْرٍ جملہ اسمیہ خبریہ مقلوبہ، قولہ، قولہ، جملہ انشائیہ ہوا۔

**مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لِنَبَأِمْزَجِجُهُمْ ثُمَّ لِنَذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾**

**آیت نمبر ۱۰:** مَتَاعٌ موصوف فی الدُّنْيَا ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت خبریہ مبتدا مخدوف ہو کر، مبتدا باخبر معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف اَلِنَبَأِمْزَجِجُهُمْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَزَجِجُهُمْ مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول، ثُمَّ حرف عطف لِنَذِيْقُهُمْ فعل نَحْنُ ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ اَلْعَذَابَ الشَّدِيدَ مرکب تو صغنی مفعول بہ ثانی، بِمَا جارہ مَاصدریہ کاؤا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَكْفُرُونَ فعل واو ضمیر قائل، فعل بافاعل فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص بااسم دُخْرٍ بتاویل مصدر مجرور، جارہ باجرور لِنَذِيْقُهُمْ کے متعلق ہوئے لِنَذِيْقُهُمْ فعل اپنے قائل اور دونوں مفعول بہ اور متعلق سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہوں۔

﴿ ۱۰ ﴾ رکوع نمبر ۸

**وَإِثْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَّقُوهُمُ إِنَّ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿۱۱﴾**

**آیت نمبر ۱۱:** نَبَأُ اسماؤا استثنائیہ اِنَّ لُفصل امر آتت مستتر قائل عَلَيْهِمْ جارہ باجرور متعلق ہوئے نَبَأُ نُوحٍ مرکب اضافی مبدل منہ واؤ ظرف زمان مضاف قال فعل ہو مستتر قائل لاہ جارہ قَوْمِهِہ مرکب اضافی مجرور، جارہ باجرور متعلق ہونے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، يَقْوَرُ اصل میں یَتَقْوَرُ ہے اور یہ نداء ہے، یان حرف شرط کان فعل ناقص ضمیر شان اس کا اسم کِبَرُ فعل عَلَيْهِمْ جارہ باجرور متعلق ہونے، مَقَامِي مرکب اضافی معطوف علیہ ہواؤ عطف تَذَكِيرِي مصدر مضاف یَاہ ضمیر مضاف الیہ معنی قائل بتاء جارہ آیت اللہ مرکب اضافی مجرور، جارہ باجرور متعلق ہونے، مصدر اپنے مضاف الیہ معنی قائل اور متعلق سے مل کر معطوف، دونوں مل کر قائل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص بااسم دُخْرٍ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَاءَ جزائیہ علی اللہ جارہ باجرور متعلق مقدم ہوئے تَوَكَّلْتُ فعل تاء مضمر قائل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء نداء کا جواب، نداء باجواب مقلوبہ، قولہ، قولہ، مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بدل الاستعمال، مبدل منہ بدل ائلل کا مفعول بہ، فعل امر اپنے قائل و متعلق و مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

قَاءَ نصیرہ اور شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَأَجْمِعُوا فعل امر واو ضمیر قائل أَمْرُكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ ہواؤ معنی مع شُرَكَاءُكُمْ مرکب اضافی مفعول معہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عطف لِنَذِيْقُهُمْ فعل ناقص نَبَأُ الشَّدِيدَ مرکب اضافی اس کا اسم، عَلَيْهِمْ جارہ باجرور کَاتِلُوْنَ کے متعلق ہو کر حال مقدم، غُمَّةً ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، فعل ناقص بااسم دُخْرٍ جملہ انشائیہ

معطوف اول، ثُمَّ عاطفہ اَفْضُوْا فعل امر واو ضمیر قائل الیٰ جارا مجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی ہو او عاطفہ لَا تَنْظُرُوْا فعل نبی واو ضمیر قائل نون وکایہ کا یہ ضمیر محذوف مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ انشائیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جزاء شرط محذوفہ باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

**فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتَكُمْ مِنْ أَجْرِ إِيَّائِنَا أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ الْمُوْتِرُ أَنْ أَكُونَ مِنَ**

**الْمُسْلِمِينَ** ©

**آیت نمبر ۷۲:** فقہاء استنباطیوں نے حرف شرط تَوَلَّيْتُمْ فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ اور جزاء محذوف ہے فَهَلْ كُنْتُمْ (مظہری) شرطیہ باجزاء جملہ شرطیہ ہوں فقہاء تعبیر مآثریہ سَأَلْتُمْ فعل تام مضمومہ قائل كُنْ ضمیر مفعول بہ میں جارہ ناکدہ اَجْرِي لفظا مجرور مضاف منصوب مفعول بہ ثانی، چاروں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معللہ ہوں لائن ثانیہ اَجْرِي مرکب اضافی مبتدأ، الآخر استفادہ علی اللہ جارہ مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہو او عاطفہ اُوْتِرْتُمْ فعل مجہول تام مضمومہ نائب قائل اَنْ حرف مصدری و نصب اَكُونَ فعل ناقص اَنَا مستتر اس کا اسم میں الْمُسْلِمِينَ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بیہول مصدر منصوب بزعم اللہ نفس ہے اور اصل میں یَأْتِي ہے، جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول بہ نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، دونوں ل کر جملہ معطوف مطلقہ ہوں

**فَكَذَّبُوهُ فَتَبْجِيْنُهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْفًا وَاعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا**

**بِأَيْتِنَا فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنتَدِرِينَ** ©

**آیت نمبر ۷۳:** فقہاء عاطفہ كَذَّبُوْا فعل امر واو ضمیر قائل اَنْ ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر معطوف علیہ فقہاء عاطفہ تَبْجِيْنُهُ فعل ناقص ضمیر قائل اَنْ ضمیر مفعول بہ ہو او معنی مع "میں" موصولہ معاً مرکب اضافی فعل محذوف تَبَّتْ کا مفعول بہ ہو کر صلہ، موصولہ باصلہ مفعول مدح فی الْفُلْكِ جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ہو او عاطفہ جَعَلْنَا فعل ناقص ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول، خَلْفًا مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی ہو او عاطفہ اَعْرِفْنَا فعل ناقص ضمیر قائل الَّذِينَ اسم موصول كَذَّبُوْا فعل امر واو ضمیر قائل بِنَاء جارہ اَيْتِنَا مرکب اضافی مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق صلہ، موصولہ باصلہ اَعْرِفْنَا کا مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوف ہوں

فقہاء ضمیر اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ اَنْظُرْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل كَيْفَ طرف زمان کائنات کا مفعول بہ ہو کر خبر مقدم مکان فعل ناقص عَاقِبَةُ الْمُنتَدِرِيْنَ مرکب اضافی اسم، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مضاف منصوب مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط جملہ شرطیہ ہوں

**ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا اِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِيْمًا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ نَطْبِعُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ** ©



خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ قول اول کا مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو سو او حالہ کہ لا یصلح لعل السجودون قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تعلقوں کی ضمیر قائل سے حامل ہے۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸۰﴾

**آیت نمبر ۸۰:** قَالُوا لعل باواؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمدوزہ حرف استفہام چشت فعل قائم مفتوحہ ضمیر قائل کا ضمیر مقولہ، یہ لاکہ جارہ تعلیلیہ اس کے بعد ان مقدر ہے تکلّف فعل انکت مستتر قائل کا ضمیر مقولہ بہ عن جارہ ماسو موصولہ وجدنا فعل کا ضمیر قائل علیہ جارہ مجرور متعلق ہوئے آباء کما مرکب اضافی مقولہ، فعل با قائل و متعلق مقولہ بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مقولہ بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ و او عاقلہ تکون فعل ناقص لکم انظر مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہا لکبریاء و اولال فی الارض طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، و اولال اہل اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاول مصدر مجرور، جارہ مجرور چشت کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و مقولہ بہ و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو سو او عاقلہ مآشاہ "پہ کیس لکھن اس کا اسم لکھنا جارہ مجرور متعلق مقدم ہوئے، باء جارہ مکہ معطوفین اسم قائل لکھن مستتر قائل، اسم قائل با قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مآشاہ یہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِنْتُونِي بِسِحْرِ عَالِيَمِ ﴿۸۱﴾

**آیت نمبر ۸۱:** وناو استینا فی قال فعل فیرعون قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول با تونوا لعل امر واو ضمیر قائل لون و قالیہ کا بیاء ضمیر مقولہ بہ، باء جارہ کنّی مضاف سحیر علیہ مرکب توسیعی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مقولہ بہ و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا انتم مَلْفُون ﴿۸۲﴾

**آیت نمبر ۸۲:** جاء عاقلہ اور معطوف علیہ مزدوف ہے فانوا ابا السحرة انما مضمون معنی شرط مقولہ فی مقدم جاء فعل السحرة قائل، دونوں مل کر شرط، قال فعل لہم طرف لغو متعلق ہوئے موسی قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، القوم لعل امر واو ضمیر قائل مآ موصول انکم ضمیر مبتدا ملفون اسم قائل انتم مستتر قائل سے مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ القوم کا مقولہ بہ، فعل با قائل و مقولہ بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ مزدوف با معطوف جملہ معطوف ہو۔

فَلَمَّا الْقَوْمَا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ اِنَّ اللهَ سَيَبْطِلُهُ اِنَّ اللهَ لَا يُضِلُّح عَمَلِ الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۳﴾ وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۸۴﴾

**آیت نمبر ۸۳، ۸۴:** جاء عاقلہ انما مضمون معنی شرط مقولہ فی مقدم القوم لعل امر واو ضمیر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول،

فَاَلْ فُعل مؤنثی قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ماضی موصول چلئے فُعل ثَمَّ ضمیر قائل بہ جاہ با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول با وصلہ مبتدأ، اَلْکِبْرُ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا اسان حرف تحقیق لفظاً اللہ اس کا اسم سیدیں علامت فُعل مَبْطِئَانَ فُعل ہو مستتر قائل کا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بیانِ بلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منظر ہوا اسان حرف تحقیق لفظاً اللہ اسم لا یُضْلَعُ فُعل ہو مستتر قائل عَمَلِ الْمُبْغِضِ یَنْ مرکب اضافی مفعول بہ، فُعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عاطفہ یُجِئُ فُعل لفظاً اللہ قائل بنام جارہ کلیدیہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے اَلْحَقُّ ذوالحال، و او حالیہ لَوْ شرطیہ کیونکہ فُعل اَلْمَجْرُؤُونَ قائل، فُعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء مخدوف ہے یُجِئُ اَللّٰهُ اَلْحَقُّ بِکَلِمَتِهِ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال یُجِئُ کا مفعول بہ، فُعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر بیانِ بلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۹ ●

فَمَّا أَمَّنَ لِلْمُؤَسَىٰ الْأَدْنَىٰٓ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَأْنَاهُمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ۗ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَالْمُسرِّفِينَ ۝

**آیت نمبر ۸۳:** فَأَمَّ عَاطِفٌ اور معطوف علیہ مخدوف ہے فَاَلْتَقَىٰ مُؤَسَىٰ عَصَاةً فَأَلَا هِجْرًا تَلَقَّفَتْ مَا يَأْكُفُونَ، مَنَانِیْهِ اَمَّنَ فُعل لِیُّؤَسَىٰ جار با مجرور متعلق ہوئے بِالْأَرْضِ اسْتَهْدَىٰ مَوْصُوفٌ مِّنْ قَوْمِهِ ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت ذوالحال، کل حرف جارِ خَوْفٍ مصدر و من جار و فِرْعَوْنَ معطوف علیہ، و او عاطفہ مَلَأْنَاهُمْ مرکب اضافی معطوف، دونوں مل کر مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، اَنَّ مصدر یَفْتِنُونَ فُعل ہو مستتر قائل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر مثنویں مصدر مفعول لہ، مصدر با متعلق و مفعول لہ، مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال اَمَّنَ کا قائل، فُعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ معطوف ہوا و اعتراضِ اسان حرف تحقیق فِرْعَوْنَ اس کا اسم لآمر نہ حلقہ عالی اسم قائل ہو مستتر قائل فی الْأَرْضِ ظرف لغو متعلق ہوئے، اسم قائل با قائل و متعلق خبر بیانِ بلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترض ہوا و اعتراضِ اسان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لآمر نہ حلقہ مِّنَ الْمُسرِّفِينَ ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر بیانِ بلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترض ہوں۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَاعْلَمِيْهُ كَمَا كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۸۴:** وَاوَّ عَاطِفٌ قَالَ فُعل مؤنثی قائل، فُعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول یَقَوْمِہُ رِ اَصْلِ مِّنْ یَقَوْمِہُ سے اور یہ نداء ہے ان حرف شرط کُنْتُمْ فُعل ناقص ضمیر اس کا اسم اَمَنْتُمْ فُعل ضمیر قائل بِاللّٰهِ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر، فُعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عقادہ جزائیہ عَلَیْہُ جار با مجرور متعلق مقدم کَمَا كُنْتُمْ فُعل داؤہ ضمیر قائل و متعلق مقدم سے مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر نداء کا جواب، نداء جواب نداء مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوا اسان حرف شرط کُنْتُمْ فُعل ناقص ضمیر اس کا اسم مُسْلِمِيْنَ اسم قائل اَلْتُمَّ مستتر قائل سے مل کر خبر، فُعل ناقص با اسم و خبر شرط، اور جزاء مخدوف ہے فَكَمَا كُنْتُمْ اَعْلَمِيْہُ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

فَقَالُوْا عَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا عَزَّ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰﴾ وَ تَجَنَّبْ رَحْمَتِكَ  
مِّنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۸۵، ۸۶: قاء عاظہ قائلو اصل واؤ ضمیر قائل سے مل کر قول علی اللہ جہا بجزو متعلق مقدم ہوئے تو کنگنا فعل قاضیر قائل، تینوں مل کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوئی اور کنگنا اصل میں یاؤرنگنا ہے اور یہ عدا ہے لاکنجعل فعل نیا آت مستتر قائل قاضیر مفعول بہ اول، فیتنۃ موصوف لآہر جہاہ القوم الظالمین مرکب توصیلی بجزو، جہا بجزو، طرف مستقر کلینۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ واؤ عاظہ تیج فعل امر آت مستتر قائل قاضیر مفعول بہ ثانی۔ نامہ حرف جار و رحمتیک مرکب اضافی بجزو، جہا بجزو متعلق اول ہوئے، صون جہاہ القوم الکفرین مرکب توصیلی بجزو، جہا بجزو متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ دو متعلقین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہوں۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی وَاٰخِيْنِهٖ اَنْ تَبُوْا الْقَوْمَ كَمَا يَبْصُرُ بِيُوْتَا وَاَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۸۷: او اوستینا فی او اوستینا فعل قاضیر قائل الی حرف جار مؤسی معطوف علیہ، واؤ عاظہ آخینہ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف بجزو، جہا بجزو متعلق ہوئے، اَن مصدر یہ کتبوا فعل امر الف ضمیر قائل، لآہر جہاہ قَوْمِ كَمَا مرکب اضافی بجزو، جہا بجزو متعلق ہوئے، بَصُرُ ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، بِيُوْتَا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلقین مفعول بہ، جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واؤ عاظہ اجعلوا فعل امر واؤ ضمیر قائل بِيُوْتَا مفعول بہ اول، قِبْلَةً مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف اول، واؤ عاظہ اَقِيْمُوْا فعل امر واؤ ضمیر قائل الصلوة مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واؤ عاظہ بَشِّرُ فعل امر آت مستتر قائل الْمُؤْمِنِيْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثیہ تیل مصدر او اوستینا کا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ، جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَ قَالَ مُوسٰی رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَیْ فِرْعَوْنُ وَّمَلَاکَۃُ زَيْنَةَ وَاَمْوَالًا فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاَرْبٰنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ عَزَّ رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُدْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَرُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۸۸: او اوستینا فی قال مؤسی فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ربنا کای اصل میں یاؤرنگنا ہے اور یہ عدا ہے اَن حرف تحقیق کان ضمیر اس کا اسم آتیت فعل ناقہ متنوع ضمیر قائل فِرْعَوْنُ وَّمَلَاکَۃُ معطوف علیہ با معطوف مفعول اول زَيْنَةَ وَاَمْوَالًا معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فی جہاہ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مرکب توصیلی بجزو، جہا بجزو، طرف مستقر کلینۃ کے متعلق ہوئے، رَبَّنَا یہ اصل میں یاؤرنگنا ہے اور یہ پیکر ربنا کا تاکید ہے لآہر جہاہ تعلیلہ اور اس کے بعد اَن مقدر ہے یُضِلُّوْا فعل واؤ ضمیر قائل عَنْ سَبِيْلِكَ مرکب اضافی بجزو، جہا بجزو متعلق ہوئے، تینوں مل کر تیل مصدر بجزو جہا بجزو اَتیت کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و مفعولین دو متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر

خبر بیان باہم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں  
 ورتیکتاہی اصل میں یا کرتیکتاہی ہے اور یہ نداء ہے یا طیش فعل امر آت مستتر قائل علی جاہہ اَمْوَالِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جدا با مجرور متعلق  
 ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، و او عاطف لا تکتب علیہ فعل امر آت مستتر قائل علی حرف جاہ قَاتِلُوْهُمْ مرکب اضافی مجرور،  
 جدا با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء یہ معترضہ  
 ہوا فقاء عاطف لا یؤمئذوا فعل واو ضمیر قائل حتھی حرف غایت و جر اور اس کے بعد آن مقدر ہے، یؤذوا فعل واو ضمیر قائل الْعَذَابِ الْاَلِیْمَةِ  
 مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ  
 خبریہ یُضِلُّوْا پر معطوف ہے (مظہری)

قَالَ قَدْ اُحْبِبْتِ دَعْوَتِكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعِي سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۸۹

آیت نمبر ۸۹: قَالَ فعل ہو مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، قَدْ علامت فعل اُحْبِبْتِ فعل مجهول دَعْوَتِكُمَا مرکب  
 اضافی تہب قائل، فعل مجهول با تہب قائل مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فقاء نصیر اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ  
 كَذٰلِكَ اِسْتَقِيْمَا فعل امر الف ضمیر قائل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، و او عاطف لا تکتب علیہ فعل نئی الف ضمیر قائل سَبِيْلَ  
 مضاف الَّذِيْنَ اسم موصول لا یخلفون فعل واو ضمیر قائل سے ل کر صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف علیہ مفعول بہ، فعل با  
 قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط محذوف جزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَجُوْرًا بِبَنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ الْبَحْرَ فَاتَّبِعْهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدَهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتّٰی اِذَا  
 اَدْرَكَهُ الْعُرْقٰٓىۤ اَقَالَ اَمْنْتُ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوْا اِسْرٰٓءِيْلَ وَ اَنَا مِنَ

المُتَسَلِّمِيْنَ ۝۹۰

آیت نمبر ۹۰: وَاَوْسْتَانِیَہِ جَوْرًا فعل نا ضمیر قائل تاء جاہہ بَنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ مرکب اضافی مجرور، جدا با مجرور متعلق ہوئے اَلْبَحْرَ  
 مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطف اَتَّبِعْ فعل ہضم ضمیر مفعول بہ فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدَهُ، معطوف  
 علیہ با معطوف قائل، بَغْيًا وَعَدُوًّا و معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف  
 جملہ معطوف متنافیہ ہو کر حتھی حرف غایت اِذَا شرطیہ مفعول بہ مقدم اَدْرَكَ فعل نا ضمیر مفعول بہ الْعُرْقٰٓىۤ قائل، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ  
 فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَال قَالَ فعل ہو مستتر قائل سے ل کر قول، اَمْنْتُ فعل تاء مضمومہ قائل اَنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لفظی ضمیر الالہ  
 مبدل منہ، الَّذِیْ اسم موصول اَمْنْتُ فعل بہ جدا با مجرور متعلق ہوئے، بَنُوْا اِسْرٰٓءِيْلَ مرکب اضافی قائل، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ  
 خبریہ صلہ، موصول با صلہ بدل، مبدل منہ بادل لا کا اسم اور خبر محذوف ہے ہو جُوْدَهُ لَا اِسْمَ و خبر سے ل کر اَنْ خبر، اَنْ باہم و خبر جملہ  
 اسمیہ خبریہ منصوب بترجیع الفاضل ہے یہ اصل میں با تاء ہے، جدا با مجرور اَمْنْتُ کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف  
 علیہ و او عاطف اَنَا ضمیر مبتدا مِنَ الْمُتَسَلِّمِيْنَ ظرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَمْنْتُ پر معطوف ہے



(روح المعانی) معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا  
**أَلْتَنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝**

**آیت نمبر ۹۱:** ہمزہ حرف استفہام اَلْتَنَ مفعول فیہ ہے فعل مخدوف اَمَنْتَ کَا اَمَنْتَ فعل تگاہ مفتوحہ ضمیر ذوالحال ہوا او علیہ قَدْ علامت فعل عَصَيْتَ فعل تگاہ مفتوحہ قَبْلَ مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول فیہ معطوف علیہ ہوا او عطفہ کُنْتَ فعل نا قس تگاہ مفتوحہ اس کا اسم مِنَ الْمُفْسِدِينَ ظرف مستقر کا کُنْتَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل نا قس با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال اَمَنْتَ کا قائل، فعل با قائل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ ہوں۔

**قَالِيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لَئِن كُنْتَ لَتَكُونُ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۚ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ  
 إِلَيْنَا لَغُفُلُونَ ۝**

**آیت نمبر ۹۲:** قَاء استینا فیہ اَلْيَوْمَ مفعول فیہ نُنَجِّيكَ فعل نَجَّيْ مفعول تگاہ ہوا او علیہ قَدْ علامت فعل مخدوف اَمَنْتَ کَا اَمَنْتَ فعل تگاہ مفتوحہ ضمیر ذوالحال ہوا او علیہ قَدْ علامت فعل عَصَيْتَ فعل تگاہ مفتوحہ قَبْلَ مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول فیہ معطوف علیہ ہوا او عطفہ کُنْتَ فعل نا قس تگاہ مفتوحہ اس کا اسم مِنَ الْمُفْسِدِينَ ظرف مستقر کا کُنْتَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل نا قس با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال اَمَنْتَ کا قائل، فعل با قائل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ ہوں۔  
**آیت نمبر ۹۳:** قَاء استینا فیہ اَلْيَوْمَ مفعول فیہ نُنَجِّيكَ فعل نَجَّيْ مفعول تگاہ ہوا او علیہ قَدْ علامت فعل مخدوف اَمَنْتَ کَا اَمَنْتَ فعل تگاہ مفتوحہ ضمیر ذوالحال ہوا او علیہ قَدْ علامت فعل عَصَيْتَ فعل تگاہ مفتوحہ قَبْلَ مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول فیہ معطوف علیہ ہوا او عطفہ کُنْتَ فعل نا قس تگاہ مفتوحہ اس کا اسم مِنَ الْمُفْسِدِينَ ظرف مستقر کا کُنْتَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل نا قس با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال اَمَنْتَ کا قائل، فعل با قائل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۱۰ ﴾

**وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبْوَءَ صَدَقٍ وَ رَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى  
 جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝**

**آیت نمبر ۹۳:** واو استینا فیہ لآہ روزے مَبْوَءَ صَدَقٍ اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل بَوَّأْنَا فعل نا قس تگاہ ہوا او علیہ قَدْ علامت فعل مخدوف اَمَنْتَ کَا اَمَنْتَ فعل تگاہ مفتوحہ ضمیر ذوالحال ہوا او علیہ قَدْ علامت فعل عَصَيْتَ فعل تگاہ مفتوحہ قَبْلَ مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعول فیہ معطوف علیہ ہوا او عطفہ رَزَقْنَهُمْ فعل نا قس تگاہ مفتوحہ اس کا اسم مِنَ الْمُفْسِدِينَ ظرف مستقر کا کُنْتَ کے متعلق ہو کر خبر، فعل نا قس با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال با حال اَمَنْتَ کا قائل، فعل با قائل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۱۰ ﴾

خبر ہے، فعل ناقص ہا اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور یَقْفُوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

**فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَمَّا آتَيْنَا آلَ بَكْرِ فَسَمِعِ الَّذِينَ يَمْقَرُونَ بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝**

**آیت نمبر ۹۳:** قاء استینافیان حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص تاکہ مفتوحہ اس کا اسم فی حرف جار شَلَقِ موصوف میں حرف جار عا موصول آتُونَا فعل ناقصیر فاعل آلِ بَكْرِ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائتا کے متعلق ہو کر شَلَقِ کی صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائتا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط قاء جزائیہ اِسْتَنْقَلْ فعل امر آتِ مستقر فاعل آلِ بَكْرِ اسم موصول یَمْقَرُونَ فعل واو ضمیر فاعل الکِتَابِ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ذوالحال، میں قبیلک طرف مستقر کائیتا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اِسْتَنْقَلْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہوں۔

لاہر موطنہ القسم اور قسم مخذوف ہے قَدْ علامت فعل جَاءَ فعل ناقص فاعل ضمیر مفعول بہ الْحَقُّ فاعل میں رَبِّكَ جار با مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔ قاء نصیر اور اس کی شرط مخذوف ہے اِذْ اذْكَانَ الْاَكْمَرُ كَذٰلِكَ لَا تَكُوْنُوْنَ فاعل نئی آت مستقر اس کا اسم میں الْمُتَمْتِرِيْنَ طرف مستقر کائیتا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۹۵:** واو عطفہ لَا تَكُوْنُوْنَ فاعل نئی ناقص آت مستقر اس کا اسم میں جارہ آلِ بَكْرِ اسم موصول كَذَّبُوا فاعل واو ضمیر فاعل بَاء جارہ آیت اللہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کائیتا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف ہو۔ قاء سببیہ عطفہ اور اس کے بعد آن مقدر ہے تَكُوْنُ فعل ناقص ناقص آت مستقر اس کا اسم میں الخٰسِرِيْنَ طرف مستقر کائیتا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تَكُوْنُكُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ کی تاویل میں ہو کر معطوف ہے اور معطوف علیہ جملہ سابقہ تَكُوْنُكُمْ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا ہے۔

**إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَنزِلَ  
الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ ۝**

**آیت نمبر ۹۶:** اِنْ حرف تحقیق آلِ بَكْرِ اسم موصول حَقَّتْ فعل عَلَيْهِمْ طرف لغو متعلق ہوئے كَلِمَتُ رَبِّكَ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ اِنْ کا اسم لَا يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ لَوْ شرطیہ جَاءَتْ فعل ضمیر مفعول بہ كَلِمَتُ رَبِّكَ مرکب اضافی فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء مخذوف ہے فَلَا يَنْفَعُهُمْ اِيْتَانُهُمْ شرط باجزاء

سُوْرَةُ يُؤُسُ ۱۰

حال، ذوالحال باحال لا یؤمئذون کا فاعل، حتفی حرف غایتہ وجر اور اس کے بعد ان مقدر ہے یؤذوا فاعل واو ضمیر قائل الْعَذَابِ الْأَلِيمِ مرکب توصیفی مفعول ہے، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتول مصدر مجرور، جملہ خبریہ متعلق ہونے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اِن کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستفہ ہو۔

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْسُفَ اَلَمْ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ

عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: قلم استینانیہ لَوْ لَا تخصیصہ کاغٹ فعل ہم قَرْيَةٌ موصوف آمَنَتْ فعل ہی مستتر قائل، دونوں ل کر معطوف علیہ، قاء عاقله نَفَعٌ فعل ہا ضمیر منصوب مفعول بہ اِيْمَانُهَا مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَرْيَةٌ کی صفت، موصوف بصفت فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

اِلَّا حرف استثناء قَوْمَ يُوْسُفَ مرکب اضافی باعتبار معنی کے مستثنیٰ متصل ہے، بقدر عبارت اس طرح ہوگی هَلَّا اَمَنَ اَهْلُ قَرْيَةٍ وَالْجَبِيْنُ مَشْكِرٌ لِّوَنٍ فِي الْعِقَابِ، تو "قَوْمَ يُوْسُفَ" الَّتِي جَبِيْنُ سے مستثنیٰ ہے اَلْمَثَرِطِيَّةُ اَمَنُوْا فاعل واو ضمیر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، كَشَفْنَا فاعل ہا ضمیر قائل عَنْهُمْ جملہ خبریہ متعلق ہوئے عَذَابِ الْخِزْيِ مرکب اضافی ذوالحال فی جملہ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مرکب توصیفی مجرور، جملہ خبریہ متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاقله مَتَّعْنَا فاعل ہا ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ اِلٰى حِيْنٍ جملہ خبریہ متعلق ہونے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا وَاَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا

مُؤْمِنِيْنَ ﴿۹۴﴾

آیت نمبر ۹۴: واو استینانیہ لَوْ شرطیہ شَاءَ فعل رَبُّكَ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل شرط لامہ جوابیہ اَمَنَ فعل مبنی اسم موصول فی الْاَرْضِ جملہ خبریہ متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ مَوْكِدٌ كُلُّهُمْ مرکب اضافی تاکید، مَوْكِدٌ تاکیدیہ ذوالحال جَمِيْعًا حال، ذوالحال باحال اَمَنَ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ ہمدہ حرف استفہام قاء عاقلہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے رَبُّكَ لَا يَنْتَهِىٰ ذٰلِكَ (روح المعانی) اَنْتَ ضمیر مبتدأ، تُكْرِهُ فعل اَنْتَ مستتر قائل اَلنَّاسِ مفعول بہ۔ حتفی حرف غایتہ وجر اور اس کے بعد ان مقدر ہے يَكُوْنُوْا فاعل نا قس واو ضمیر اسم مؤمنین اسم فاعل هُمْ مستتر قائل سے ل کر خبر، فعل با قس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتول مصدر مجرور، جملہ خبریہ متعلق ہونے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ جملہ اسمیہ انتہائیہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ معطوف ہو۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُوْفَىٰ مِنْ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاَيُّجْعَلُ الرِّجْسَ عَلٰى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۹۵﴾

آیت نمبر ۹۵: واو عاقله مَا تَانِيَةً كَانَ فاعل نا قس لِنَفْسٍ جملہ خبریہ متعلق ہو کر خبر مستتر قائل اَلنَّاسِ مفعول بہ و متعلق جملہ خبریہ متعلق ہونے، فعل با قس با اسم و خبر جملہ اسمیہ انتہائیہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ معطوف ہو۔

و نصب یؤس من فعل یج مستقر فاعل الأحراف استثناءً بآء جادہ اذنی اللہ مرکب اضافی مجرور، جادہ باجرور مستثنیٰ مفرغ متعلق ہوئے، فعل بافاعل متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر اسم مؤخر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ فاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے یاؤذن اللہ لیغضوب فی الإیمان، یتجعل فعل ہو مستقر فاعل الذین جنس مفعول بہ علی جادہ الذین اسم موصول لا یحقیقون فعل باء او ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جادہ باجرور یجعل کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

**قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُعْنٰی الْاٰیٰتِ وَالتَّنٰذِرِ عَنِ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۰**

**آیت نمبر ۱۰:** قُلْ فعل امر آتت مستقر فاعل سے مل کر قول انظُرُوا فعل امر واو ضمیر فاعل ماذا استثناءً بآء ملامتاً فی جادہ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جادہ باجرور ظرف مستقر کاؤن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ملامتاً منصوب انظُرُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ اتریہ ہو۔ واو حالیہ یا اعتراضیہ مانائیہ تُعْنٰی فعل الْاٰیٰتِ وَالتَّنٰذِرِ معطوف علیہ با معطوف فاعل عَنِ حرف جار قَوْمٍ موصوف لا یؤْمِنُوْنَ فعل باء او ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف با مفت مجرور، جادہ باجرور ظرف لتو تُعْنٰی کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ انظُرُوا کی ضمیر فاعل سے حال ہے یا جملہ معترضہ ہے۔

**فَهَلْ یَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَیَّامِ الذِّیْنَ حَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّیْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ ۝۱۱**

**آیت نمبر ۱۱:** فاء استثنائیہ هل حرف استفہام یَنْتَظِرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل الأحراف استثناءً و مثل مضاف آیاتہ مضاف الیہ مضاف الذِّیْنَ اسم موصول حَلَوْا فعل واو ضمیر فاعل مِنْ قَبْلِهِمْ جار باجرور ظرف لتو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ، موصول با صلہ آیاتہ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ و مثل کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مستثنیٰ مفرغ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو۔ قُلْ فعل امر آتت مستقر فاعل سے مل کر قول فاء نسیم اور اس کی شرط محذوف ہے۔ اذاکان الامم کذلک، انظُرُوا فعل امر واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ ان حرف تحقیق فاء ضمیر زلال، معکم مرکب اضافی کاؤن کا مفعول بہ ہو کر ان کا اسم مِنْ الْمُنْتَظِرِیْنَ جار باجرور ظرف مستقر کاؤن کے متعلق ہو کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ محللہ ہو۔

**ثُمَّ لَنُنَبِّئَنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کَذٰلِکَ ۚ حَقًّا عَلَیْنَا نُنَبِّئُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝۱۲**

**آیت نمبر ۱۲:** ثُمَّ عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے نُنبئک الامم (منظہری) نُنبئنی فعل نحن مستقر فاعل و سلکنا مرکب اضافی معطوف علیہ واو عاطفہ الذِّیْنَ اسم موصول اٰمَنُوْا فعل باء او ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با

معطوف مفعول بہ، نُتَجِّعُ فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ معطوف ہوا۔ کذلک ظرف مستقر کا لڑنے کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا مخدوف الاکھو کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حَقًّا مفعول مطلق ہے فعل مخدوف یَجِئُ کا عَکْبَتَانَا حَقًّا کے متعلق ہے یَجِئُ فعل ہو ضمیر قائل اور مفعول مطلق سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مخدوف ہوا۔ نَتَجِّعُ فعل نَحْنُ مستقر قائل الْمُؤْمِنِينَ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ کذلک ظرف مستقر کا لڑنے کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف اِنجَاء کے لُتَجِّعُ کا مفعول مطلق ہو۔

﴿ رکوع نمبر ۱۱ ﴾

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ مِنْهُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۰۵﴾ وَأَنْ أِقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا جَازِلًا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۶﴾

آیت نمبر ۱۰۴، ۱۰۵: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستقر قائل سے ل کر قول، یَا حرف نداء اَدْخُوْا کے قائم مقام، اَدْخُوْا فعل اَنْتَا مستقر قائل ائی موصوف ہا برائے تعبیر اَلنَّاسُ صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء بلن حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص تُمْ ضمیر اس کا اسم فی جاہہ شَکِّ موصوف ہون جاہہ زنیی مرکب اضافی مجرور، جدا مجرور ظرف مستقر کا لڑنے کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جدا مجرور ظرف مستقر کا لڑنے کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فائدہ جراتیہ لا اَعْبُدُ فعل اَنْتَا مستقر قائل اَلَّذِينَ اسم موصول تَعْبُدُوْنَ فعل باوہا ضمیر قائل صلہ، موصول با صلہ ذوالحال، ہون دُونَ اَللّٰہِ کا لڑنے کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا او عاطف لَکِنْ حرف استرداک مہمل اَعْبُدُ فعل اَنْتَا مستقر قائل اَللّٰہُ موصوف اَلَّذِي اسم موصول یَتَوَقَّعُ فعل ناقص ہو ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ اَللّٰہُ کی صفت، موصوف با صفت اَعْبُدُ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب نداء مقول، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔ او عاطف اُمِرْتُ فعل مجہول قائم معضومہ اس کا نائب قائل اَنْ مصدریہ اَكُوْنُ فعل ناقص اَنْتَا مستقر اس کا اسم ہون اَلْمُؤْمِنِيْنَ ظرف مستقر کا لڑنے کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر معطوف علیہ (مظہری) او عاطف اَنْ مصدریہ با صہ اِقِمَّ فعل امر اَنْتَ مستقر قائل وَجْهَكَ مرکب اضافی ذوالحال حَنِيفًا حال، ذوالحال با حال مفعول بہ بلذنیی جاہ مجرور متعلق ہونے، فعل امر با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، او عاطف لا تَكُونَنَّ فعل ناقص اَنْتَ مستقر اسم ہون اَلْمُشْرِكِيْنَ جدا مجرور کا لڑنے کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین بتاول مصدر اَنْ اَكُوْنُ پر معطوف، معطوف علیہ با معطوف منصوب بتزلز اَمْرُتُ فعل ناقص اُمِرْتُ کے متعلق ہونے، فعل مجہول با نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَعْبُدُ پر معطوف ہے

(فائدہ) وَأَنْ اَقِمَّ۔۔۔ امر کی ترکیب میں دوسرے احتمال بھی ہیں جن کو اعراب القرآن اللہ ویش میں دیکھئے

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰:** تاوا او ماخذ لا تَدْعُ فعل نمی آتت مستتر قائل مِنْ دُونِ اللَّهِ ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال مقدم، ما اسم موصول لَا يَنْفَعُكَ فعل ہو مستتر قائل کا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، معطوف علیہ بمعطوف سلسلہ، موصول باصلہ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل نمی بانا قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوفہ ہو یا استائفہ ہو۔ قاء تعلیل (تفسیر) ان حرف شرط فعلت فعل تاء مفتوحہ قائل، فعل بانا قائل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قاء جزائیہ ان حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم اِذَا حرف جواب و جزاء مہمل، مِنْ الظَّالِمِينَ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ط

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱:** واوا عاظفر ان شرطیہ یَمْسَسْكَ فعل کا ضمیر مفعول بہ لفظاً اللَّهُ قائل بِضُرٍّ جار با مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قاء جزائیہ لَا یعنی کاشف اسم لہ ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہوئے، کا تین اسم قائل ہو مستتر تبدل منہ الّا حرف استثناء ہو ضمیر بدل، تبدل منہ بادل قائل، اسم قائل بانا قائل و متعلق خبر، لا یعنی جس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، واوا عاظفر ان حرف شرطیہ ہو مستتر قائل کا ضمیر مفعول بہ، بِخَيْرٍ جار با مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قاء جزائیہ لَا یعنی جس رَا آڈ اسم لفظیہ جار با مجرور ظرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر، لا یعنی جس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ معطوفہ ہو، یُصِيبُ فعل ہو مستتر قائل پہ جار با مجرور متعلق ہوئے، مَنْ اسم موصول یَشَاءُ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر سلسلہ، موصول باصلہ ذوالحال، مِنْ عِبَادِهِ ظرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بانا قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستائفہ ہو، واوا استیغافیہ یا ماخذ ہو ضمیر مبتدأ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ دو خبر، مبتدأ با خبر، جملہ اسمیہ خبریہ مستائفہ یُصِيبُ پر معطوف ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِيٰ

لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۲﴾

**آیت نمبر ۱۲:** قُلْ فعل امر آتت مستتر قائل سے مل کر قول، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اس کی ترکیب اسی رکوع کے شروع میں گزری ہے اور یہ ندا ہے، قُلْ علامت فعل جَاءَ فعل کا ضمیر مفعول بہ الْحَقُّ قائل مِنْ رَبِّكُمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ندا کا جواب، ندا با جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ قاء نصیحہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، مَنْ اسم شرط مبتدأ اهْتَدَىٰ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قاء جزائیہ اِنْ كَفَرُوا، مَا كَانَتْ يَهْتَدِيٰ فعل ہو مستتر قائل لِنَفْسِهِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بانا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَنْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط محذوف کی جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

واو عاطفہ مَنْ ضَلَّ فَاَنَّمَا يَكْفِيكَ عَلَيْهِمْ كَالْعَظْفِ مَنْ اهْتَدَى۔ اس پر ہے اور اس کی ترکیب بھی اسی کی ترکیب سے واضح ہے۔ واو عاطفہ متاثر ہے۔ "بے گنہگاروں کا گناہ تم پر اتنا نہیں ہے جتنا تم نے گناہ کیا"۔ اس کی ترکیب بھی اسی کی ترکیب سے واضح ہے۔ واو عاطفہ متاثر ہے۔ "بے گنہگاروں کا گناہ تم پر اتنا نہیں ہے جتنا تم نے گناہ کیا"۔ اس کی ترکیب بھی اسی کی ترکیب سے واضح ہے۔

وَالتَّبِيعِ مَا يُؤْتَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَعْدَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: نواوا استنا فیہ اَتَّبِعْ نَصْرًا لِّمَنْ نَصَرَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّىٰ يُخْرِجَهُ مِنَ الدِّينِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبَيْتَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهُ سَلَامًا وَهُوَ خَيْرُ الْبَيْتِ لِمَنْ جَاءَهُ مِنْكُمْ مِنَ الْبَيْتِ وَهُوَ خَيْرُ الْبَيْتِ لِمَنْ جَاءَهُ مِنْكُمْ مِنَ الْبَيْتِ وَهُوَ خَيْرُ الْبَيْتِ لِمَنْ جَاءَهُ مِنْكُمْ مِنَ الْبَيْتِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ (سورۃ یونس کی ترکیب بروز جمعہ بوقت صبح ۲۰:۰۷ پر ختم ہوئی ۲۰۱۶ء)



## ترکیب سُوْرَةُ هُوْدٍ

● رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّاٰءِ كَتَبْنَا الْحِكْمَةَ اٰیٰتُهُ ثُمَّ قُضِيَ مِنَ لَدُنْ حَكِيْمٍ

حَبِيْرٌ ۝

**آیت نصیر:** الرَّاٰءِ اس کی ترکیب سورۃ البقرۃ کے شروع میں دیکھئے۔ کتبتُ موصوف اُحکمتُ فعل مجہول ایتُّہ مرکب اضافی نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ قُضِيَکَ فعل مجہول ہی ضمیر نائب فاعل، مِنْ جارہ لَدُنْ مضاف حَکِیْمُ حَبِیْرٌ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف کتبتُ کی صفت، موصوف ہا صفت خبر مبتدا مخدوف ہَذَا کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِیْرٌ وَّ بَشِیْرٌ ۝

**آیت نصیر:** اَنْ حرف مصدری و نسب لا تَعْبُدُوْا وَا فاعل وَا ضمیر فاعل اَلَّا حرف استثناء لِنظا لَلّٰہِ مفسس مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ بتاویل مصدر قُضِيَکَ کا مفعول لہ ہے، اِنْ حرف تحقیق یَاء ضمیر اس کا اسم لَكُمْ ظرف لِنَعُوْدِیْ وَّ بَشِیْرٌ کا متعلق مقدم ہے، و مِنْهُ ظرف مستقر کَتَبْنَا کے متعلق ہو کر حال مقدم نَذِیْرٌ وَّ بَشِیْرٌ با معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال اِنْ کی خبر، اِنْ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلقہ ہوں۔

وَاَنْ اَسْتَغْفِرْ وَاَرْبُکُمْ ثُمَّ تُؤْبَا اِلَيْهِ يُتَبَّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ یُؤْتِ

کُلَّ ذِیْ فَضْلٍ فَضْلَهُ ط وَاِنْ کُوْلُوْا فَاِیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ کَبِیْرٍ ۝

**آیت نصیر:** ۱۳، وَاو عاطفہ اَنْ مصدریہ اِسْتَغْفِرْ وَا فاعل امر وَاو ضمیر فاعل اَرْبُکُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ہوں، ثُمَّ عاطفہ کُوْلُوْا فاعل امر وَاو ضمیر فاعل اِلَیْہِ جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر اَلَّا تَعْبُدُوْا پر معطوف ہے۔

(فائدہ) یہ بھی جائز ہے کہ اَلَّا تَعْبُدُوْا منصوب علی الاغراء ہو اور فعل مخدوف اَلْمَوْا کا مفعول بہ ہو۔

یُتَبَّعُ فاعل ہو مستقر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ مَتَاعًا حَسَنًا مرکب توصیفی مفعول مطلق اِلٰی جارہ اَجَلٍ مُّسَمًّى مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور یُتَبَّعُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ وَاو عاطفہ یُؤْتِ فاعل ہو مستقر فاعل کُلُّ مضاف ذِی فَضْلٍ مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ اَوَّلُ فَضْلَکَ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء ہے شرط مخدوف اِنْ اِسْتَغْفِرْ وَاَرْبُکُمْ کی جس پر اِسْتَغْفِرْ وَاَرْبُکُمْ وال ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔



واو استیثناء میں حرف شرط ٹانوا لعل مضارع واو ضمیر قائل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عطفاء جزائی میں حرف تحقیق تکلف ضمیر اس کا اسم آخاف فعل آکا مستتر قائل علیکم جدا بجزر و متعلق ہوئے عذاب مضارب کی خبر ہو کر شرط عطفاء جزائی میں حرف تحقیق تکلف ضمیر لہی مفعول بہ، فعل باقاع و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوں۔  
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

**آیت نمبر ۱۱:** إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝  
خبریہ متانفہ ہوا۔ واو عطفاء ہو ضمیر مبتدا علیٰ کل شئی ہوا طرف نحو متعلق مقدم ہوئے قَدِيرٌ کے مَقْدِيرٌ مینہ صفت ہو مستتر قائل، مینہ صفت باقاع و متعلق مقدم شہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

أَلَا إِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَكْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَكْفُونَ نُبَاهِبُهُمْ لِيَعْلَمَ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

**آیت نمبر ۱۵:** أَلَا حِينَ يَسْتَكْفُونَ نُبَاهِبُهُمْ لِيَعْلَمَ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ  
تعلیل اور اس کے بعد ان قدر ہے، يَسْتَكْفُوا لعل واو ضمیر قائل مینہ طرف نحو متعلق ہوئے، تینوں مل کر بتلا مل مصدر مجرور، جدا بجزر و يَكْتُمُونَ کے متعلق ہوئے، فعل باقاع و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ اَلَا حرف تنبیہ جہن مضارب يَسْتَكْفُونَ لعل واو ضمیر قائل نُبَاهِبُهُمْ مرکب انسانی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضارب الیہ، مضارب با مضارب الیہ مفعول فیہ مقدم ہوا یَعْلَمُ کا یَعْلَمُ لعل ہو مستتر قائل ما اسم موصول یُسِرُّونَ فعل باوا ضمیر قائل صلہ، موصول با صلہ مفعول علیہ، واو عطفاء ما موصول یُعْلِنُونَ لعل باوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مفعول، مفعول علیہ با مفعول یَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ اَلَا حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم علیکم مینہ صفت ہو ضمیر اس کا قائل بقاء جاہ ذات الصدور مرکب انسانی مجرور، جدا بجزر و متعلق ہوئے، مینہ صفت باقاع و متعلق شہ جملہ ہو کر خبر بیان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ ۚ

**فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝**

**آیت نمبر ۱۶:** وَاو استیثناء میں مانا فی میں جاہ نامک و دَابَّةٍ موصوف فی الْأَرْضِ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت تکاف مجرور غلامر فوع مبتدا، اَلَا حرف استثناء علی اللہ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مبتدا، رِزْقُهَا مرکب انسانی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول علیہ، واو عطفاء یَعْلَمُ لعل ہو مستتر قائل مُسْتَقَرَّهَا مرکب انسانی مفعول علیہ، واو عطفاء مُسْتَوْدَعَهَا مرکب انسانی مفعول، مفعول علیہ با مفعول مفعول بہ، فعل باقاع و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفعول (روح المعانی) مفعول علیہ با مفعول دَابَّةٍ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ کُلٌّ مکتبہ، اور اس کا مبتدا ہونا اس لئے صحیح ہے کہ اس میں عموم کا معنی ہے، فی جاہ کِتَابٍ

مُتَّبِعِينَ مَرْكَبٍ تَوَسَّيْتُمْ بِجُرُورٍ جَارٍ بِجُرُورٍ مَسْتَقَرِّكَاتٍ لَكُمْ مَسْتَقَرٌّ وَكُلٌّ قَوْمٌ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ نَارًا وَقَالَ لِلنَّارِ قَدْ جَاءَكِ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝

آیت نمبر ۸: واؤ عطف لآہر موطن لقم اور قسم مخدوف ہے ان حرف شرطاً نحو قائل نا ضمیر فاعل عطفہم جار مجرور متعلق اول مفعول بہ یعنی جادہ سِتَّةِ أَيَّامٍ مَرْكَبٍ اثنی عشر متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤ عطف (روح المعانی) کا فن فعل ناقص عَرْشُهُ مَرْكَبٍ اثنی عشر اسم علی الْمَاءِ طرف مستقر کاتنا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بمعطوف الٰذی کا صلہ، موصول باصلہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوں

لاہر جارہ تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یَبْلُوْكُمْ فَهُوَ مستقر قائل کُم ضمیر مفعول بہ اول اَیُّكُمْ مَرْكَبٍ اثنی عشر مبتدا اَحْسَنُ اسم تفضیل ہو ضمیر اس کا فاعل عَمَلًا تَمِیز، اسم تفضیل بافاعل و تَمِیز خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ اثنی عشر مَعَا موصوب مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ اثنی عشر بتاول مصدر مجرور جار مجرور ظرف لغو خَلَقَ کے متعلق ہوئے واؤ استیناف لآہر موطن لقم اور قسم مخدوف ہے ان شرطیہ قَدْ كَلَّمَ نَارًا متقدّمہ فاعل، فعل بافاعل قول ان حرف تحقیق کُم ضمیر اس کا اسم مَبْعُوثُونَ اسم مفعول اَنْتُمْ ضمیر نائب فاعل، یومن حرف جر یَعِدُ الْمَوْتِ مَرْكَبٍ اثنی عشر مجرور جار مجرور متعلق ہوئے مَبْعُوثُونَ کے، اسم مفعول با نائب فاعل و متعلق خبر بان اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لآہر جوابیہ یَقُولُنَّ فعل اَلَّذِیْنَ كَفَرُوا موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل قول ان نانیہ لُذًا اسم اشارہ مبتدا اِلَّا حرف استثناء یَسْحُرُ مُتَّبِعِينَ مَرْكَبٍ تَوَسَّيْتُمْ خبر، مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر جواب قسم، قسم مخدوف با جواب قسم جملہ اثنی عشر قسمیہ ہوں

وَلَیْنِ اٰخَرًا نَعَابُهُمْ الْعَذَابُ اِلٰی اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّیَقُوْلُنَّ مَا یَحِبُّسُهُ اِلَّا یَوْمَ رَاٰی تَیْبَهُمْ لَیْسَ مَصْرُوْفًا عَنَّهُمْ وَحَاقَ بِهَمَّ مَآ کَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

آیت نمبر ۹: واؤ عطف لآہر موطن لقم اور قسم مخدوف ہے ان حرف شرطاً نحو قائل نا ضمیر فاعل عطفہم جار مجرور متعلق اول اَخْرَجْنَاكَ الْعَذَابِ مفعول بہ، بانی حرف جادہ اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ مَرْكَبٍ تَوَسَّيْتُمْ مجرور جار مجرور متعلق ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ شرط لآہر جوابیہ یَقُولُنَّ فعل واؤ مخدوف لِالْتِقَاءِ السَّاکِنِیْنَ فاعل، فعل بافاعل قول، مَا استنہامیہ مبتدا یَحِبُّسُ فعل ہو ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اثنی عشر استنہامیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر جواب قسم، قسم مخدوف با جواب قسم جملہ اثنی عشر قسمیہ معطوفہ ہوں

اِلَّا حرف تحمییہ یَوْمَ مضاف یَا قُیُّمُ فعل ہو ضمیر فاعل ہذا ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل اور مفعول بہ سے لڑ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ مقدم ہو اَلَّذِیْنَ كَفَرُوا لَیْسَ فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم مَصْرُوْفًا اسم مفعول ہو ضمیر نائب فاعل عطفہم جار

باجز و متعلق ہوئے، اسم مفعول ہائے باطل و متعلق خبر، فعل ناقص ہاں، خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاقلہ کا قائل فعل بیہضہ جاہ  
باجز و متعلق ہوئے، اسم موصول کا قائل فعل ناقص ہاں، خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاقلہ کا قائل فعل بیہضہ جاہ  
اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہاں، خبر صلہ، موصول ہاں صلہ کا قائل، فعل ناقص ہاں، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف،  
معطوف علیہ ہاں معطوف جملہ معطوف ہوا۔

● رکوع نمبر ۲ ●

وَلَيْنَ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِتَارَ حِمَّةٍ لَّمْ نَرَعْنَهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَكُوْسُ كَقُوْرٍ ۝

**آیت نمبر ۹:** ہواو عاقلہ لاکر موطن القسم اور قسم مخدوف ہے ان حرف شرط اذقنا فعل ناقص خبریہ قائل ہاں خبریہ معطوف بہ اول و ثانی  
طرف مستقر کا قائل کے متعلق ہو کر حال مقدم ہوئے ذوالحال مؤخر، ذوالحال ہاں معطوف بہ ثانی، فعل ناقص ہاں، معطوفین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف  
علیہ، ذقنا عاقلہ نکر عاقلہ فعل ناقص خبریہ قائل ہاں خبریہ معطوف بہ اول و ثانی، خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہاں  
معطوف شرط، اور اس کی جزاء مخدوف ہے جس پر جواب قسم ہاں ہے ہاں حرف تحقیق ہاں خبریہ قائل ہاں خبریہ معطوف ہواو عاقلہ لاکر  
ہاں خبریہ جملہ اسامیہ خبریہ جواب قسم، قسم ہاں جواب قسم جملہ قسمیہ ہوا۔

وَلَيْنَ اَذَقْنٰهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسْتَهٗ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي اِنَّهٗ لَفَرِحٌ

فَخُوْرٍ ۝

**آیت نمبر ۱۰:** ہواو عاقلہ لاکر موطن القسم اور قسم مخدوف ہے ان حرف شرط اذقنا فعل ناقص خبریہ قائل ہاں خبریہ معطوف بہ اول  
نعماء موصوف بعد مصناف ضراء موصوف مسته فعل ہی مستقر قائل ہاں خبریہ معطوف بہ، تینوں مل کر صفت، موصوف ہا صفت مصناف  
الیہ، مصناف ہا مصناف الیہ فعل مخدوف کسبت کا مفعول فی ہو کر صفت، موصوف ہا صفت اذقنا کا مفعول بہ ثانی، فعل ناقص ہاں، معطوفین جملہ  
فعلیہ خبریہ شرط ہوا۔ لاکر جوابیہ یقولن فعل ہی مستقر قائل، فعل ناقص ہاں جملہ فعلیہ خبریہ قول ذہب السیئات قائل عقیقا جاہ باجز و  
متعلق ہوئے، فعل ناقص ہاں، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، قول ہاں معطوف جواب قسم، قسم ہاں جواب قسم جملہ قسمیہ خبریہ معطوف ہوا اور جواب شرط  
مخدوف ہے جس پر جواب قسم ہاں ہے ہاں حرف تحقیق ہاں خبریہ قائل ہاں خبریہ معطوف ہواو عاقلہ لاکر خبریہ جملہ اسامیہ خبریہ  
متعلق ہوا۔

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

**آیت نمبر ۱۱:** اِلَّا حرف استثنا الَّذِيْنَ اسم موصول صَبَرُوْا فعل ناقص ہاں خبریہ قائل ہاں خبریہ معطوف علیہ ہواو عاقلہ عَمِلُوا فعل  
واو ضمیر قائل الصَّٰلِحٰتِ معطوف بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہاں معطوف صلہ، موصول ہاں صلہ اِلَّا الَّذِيْنَ سے مستثنیٰ  
متصل ہے۔ اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدا لَهُمْ طرف مستقر کا قائل کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَغْفِرَةٌ معطوف علیہ ہواو عاقلہ اَجْرٌ کبیر و مرکب  
اولیٰ صغریٰ معطوف، معطوف علیہ ہاں معطوف مبتدا مؤخر، مبتدا باجز جملہ اسامیہ خبریہ مبتدا اولیٰ کی خبر، مبتدا باجز جملہ اسامیہ خبریہ ہوا۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضٌ مَّا يُؤْتَىٰ إِلَيْكَ وَصَاحِبٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ  
كُتُبٌ آوِيَةٌ أَوْ يَأْتِيَكَ بِهِ سُلُوفٌ مُّؤْتِيَةٌ أَوْ يَخْرُجَ بِاللَّيْلِ صَاحِبٌ وَهُوَ نُجُومٌ كَاظِمٌ  
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْشُرْ

**آیت نمبر ۱۱:** قاء استینا لیے لکھن حرف تری کا ف ضمیر اس کا اسم تارک اسم فاعل آنت مستتر فاعل بعض مضاف ما اسم موصول  
یؤتی فعل مجہول ہو مستتر باب فاعل الیک جار مجرور متعلق ہوئے، فعل مجہول باناب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ  
مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، اسم فاعل با فاعل و مفعول بہ شبہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ صَاحِبٌ اسم فاعل پہ جار مجرور  
متعلق ہوئے صَدْرُكَ مرکب اضافی فاعل اُن حرف مصدری و نصب یَقُولُوا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر قول، لَوْلَا تحضیفیہ اُنزل فعل  
مجہول عَلَیْهِ جار مجرور متعلق ہوئے کُتُبٌ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ جَاءَ فعل معہ مرکب اضافی مفعول فیہ  
مکلف فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ بتاول مصدر مضاف مضمون صَاحِبٌ اسم فاعل،  
اسم فاعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ شبہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف لکھن کی خبر، لَعَلَّ اسم و خبر جملہ اسیہ جملہ انشائیہ مستانفہ  
ہولیان حرف تحقیق کھڑے مآ کان ذلک ضمیر مبتدا لَدِیْهِ مضاف صفت آنت مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسیہ خبریہ  
ہوا۔ واو استینا فیہ یا عاطفہ اَللّٰهُ مبتدا، علی حرف جار کُلِّ ہی جو مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے وَ کَیْنٌ مضاف صفت  
ہو مستتر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسیہ خبریہ مستانفہ یا جملہ اولیٰ پر معطوف ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ وَقُلْنَا قَدْ آتَيْنَاكَ بَعْشَرَ سُورَةٍ يُغْلِبُهَا مُفْتَرِيَتٌ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ  
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

**آیت نمبر ۱۲:** امر متطوعہ یعنی بَلَّ یَقُولُونَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِفْتَرَىٰ فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ،  
فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قُلْنَا فعل امر آنت مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، قاء  
ضمیر اولیٰ کی شرط محذوف ہے اِنْ کان اَلْأَمْرُ کَمَا تَقُولُونَ (روح المعانی) اِنْعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل بتاء جارہ عَشْرٌ سُورَةٍ مرکب اضافی  
موصوف بہ جملہ مرکب اضافی صفت اولیٰ مُفْتَرِيَتٌ اسم مفعول ہُنَّ مستتر باب فاعل سے مل کر صفت ثانیہ، موصوف با مشتملین مجرور، جار  
با مجرور متعلق ہوئے، فعل امر با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اُدْعُوا فعل امر واو ضمیر فاعل مِّنْ اسم موصول  
اِسْتَطَعْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر فاعل، و دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مِّنْ دُونِ اللَّهِ ظرف مستقر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال  
بحال اُدْعُوا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول با مقولہ  
جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ اِنْ حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص ثَمَّ ضمیر اس کا اسم صَدِیقِیْنَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص  
با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اولیٰ کی جزاء محذوف ہے جس پر سائیں کلام والے سے اور وہ قَاتُوا و اُدْعُوا ہے۔

فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ

## مُسْلِمُونَ

**آیت نمبر ۱۳:** اَنَّمَا اِسْمُ فِرْعَانَ حَرْفٌ شَرَطٌ لِّمَنْ يَنْتَقِبُ وَيُؤْمِرُ فاعل او ضمیر نازل لکھ جا رہا ہے جو متعلق ہوئے، تیسوں کی کہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط طحاہ جزائیہ اِغْتَلَبُوا فاعل امر واہ ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق کہوفہ ماضی کا ذی اَنْ فاعل مجہول ہو مستتر ذوالا مال ماضی جملہ فعلیہ اِغْتَلَبُوا مرکب اضافی مجرور، جملہ خبریہ ماضی کے متعلق ہو کر حال ذوالا مال باہاں متبہ فاعل، فعل مجہول ہا ہے جملہ فاعل خبریہ اِغْتَلَبُوا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل دو مفعولیں جملہ انشائیہ جزاء، شرط ہا ہے جملہ شرطیہ ہوا ہوا ماضی اَنْ ماضی سن لفظ ضمیر شان مقدم اس کا اسم نالی جنس لاکہ الا ہو کی ترکیب سورۃ الزمر میں دیکھی اور یہ خبر ہے اَنْ ماضی کی خبر، جملہ اسمیہ خبریہ اِغْتَلَبُوا کے مفعول ہے۔ تاکہ ضمیر اور شرط ماضی سے اَنْ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ یعلیٰ اللہ کل حرف استفہام لکھ ضمیر مبتدہ مُسْلِمُونَ اسم نازل اَللّٰهُ مستتر نازل سے ل کر شرط جملہ ہو کر خبر، مبتدہ خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط ماضی ہا ہے جزاء، شرط ماضی ہا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَرَزَقَهَا نَوْفٍ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا

## يُيَحْسَبُونَ

**آیت نمبر ۱۵:** اَمَنْ اسم شرط مبتدہ، کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم یُرِيدُ فعل ہو مستتر نازل الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا مرکب توسیعی ماضی، او او ما ظرف و زينتھا مرکب اضافی ماضی، ماضی علیہ با ماضی ماضی، فعل ناقص با ماضی، فعل با فاعل و ماضی بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط مؤنثی فعل ناقص مستتر نازل اِلَيْهِمْ جملہ خبریہ ظرف لغو متعلق ہوئے اَعْمَالَ اَللّٰهُ مرکب اضافی ذوالا مال لیٹھا ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر حال ذوالا مال باہاں ماضی، فعل ناقص و متعلق و ماضی بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط ہا ہے جملہ شرطیہ ہوا ہوا ماضی خبریہ اسمیہ خبریہ مستند ہو ہو او حالیہ حُفَّ ضمیر مبتدہ لیٹھا جملہ خبریہ مستند ہوئے لا یُحْسَبُونَ فعل مجہول واہ ضمیر جب فاعل، فعل مجہول ہا ہے نازل و متعلق مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِلَيْهِمْ کی وجہ ضمیر سے ماضی ہے۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ سُوْحِيْطٌ مَّا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبُطُلٌ مَّا

## كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

**آیت نمبر ۱۶:** اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدہ، الَّذِيْنَ اسم موصول اَلَيْسَ فعل ناقص لہم ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر خبر مقدم فی الْاٰخِرَةِ ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم اِلَّا حرف استثناء اَلنَّارُ ذوالا مال مؤنث ذوالا مال باہاں اسم مؤنث، فعل ناقص باہم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ماضی علیہ ہوا او ما ظرف و حيطھل فعل ناقص موصول صَنَعُوْا فاعل واہ ضمیر نازل لیٹھا جملہ خبریہ مستند ہوئے ل کر مسند، موصول با صمدہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ماضی علیہ ہوا او ما ظرف و بطلھن اسم نازل ہو مستتر نازل سے ل کر خبر مقدم ماضی موصول کاوا فاعل ناقص واہ ضمیر اس کا اسم یُعْمَلُونَ فعل ہوا ضمیر نازل خبر، فعل ناقص باہم و خبر مسند، موصول با صمدہ مؤنث، مبتدہ خبر ماضی علیہ ہوا ماضی علیہ ہوا ماضی ماضی، موصول با صمدہ اُولٰٓئِكَ کی خبر، مبتدہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستند ہو ہو۔

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَبِيْئَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَ يَسْتَلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُۥ وَ مِنْ قَبْلِہٖ كِتٰبٌ مُّوَسٰى اِمَّا مٰوٰ

رَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ لَوْ مِنْ يَّكْفُرُ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَاَلْتَأَرْ مَوْعِدَهُ ؕ فَلَا تَكُ  
فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ سِوَا نَهِّ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَ لٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۸، ۱۹:** ہمزہ حرف استہمام قائم استیفاء میں اس موصول کا فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم علی حرف جار بیئتہ موصوف  
میں زبہ ظرف مستقر کا کئی کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور کا کئی کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ  
فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و اعراض یثقلو فعل ناقص ضمیر مفعول بہ شاہد موصوف وینہ ظرف مستقر کا کئی کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با  
صفت ذوالحال ہوا و حالہ میں قبیلہ ظرف مستقر کا کئی کے متعلق ہو کر خبر مقدم کتب مؤتسی مرکب اضافی ذوالحال باعاً ما و رخصتہ معطوف  
علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال مبتدا و خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال یثقلو کا قائل، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ  
معطوف، معطوف علیہ با معطوف میں کاسلہ، موصول باصلہ مبتدا، خبر محذوف ہے گنگوہیہ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوں

اُولٰٓئِكَ مبتدا، یؤْمِنُوْنَ فعل ناقص ضمیر قائل پہ جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا و اعراض  
میں اسم شرط مبتدا، یكْفُرُ فعل ناقص ضمیر ذوالحال میں الاحزاب طرف مستقر کا کئی کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل پہ جار با مجرور  
متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قائم جزیئہ الکتار مبتدا، مؤیدہ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزم، شرط با  
جزم جملہ شرطیہ میں کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

قائم فیسم اور اس کی شرط محذوف ہے اذاکان الکو و کذلیک لاکہ فعل نہی آت مستتر اس کا اسم فی جارہ مؤیدہ موصوف حیثہ  
ظرف مستقر کا کئی کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جار با مجرور طرف مستقر کا کئی کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر  
جملہ انشائیہ جزم، شرط محذوف با جزم جملہ شرطیہ ہوا۔ ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم الحق ذوالحال میں ربک طرف مستقر کا کئی کے  
متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ محللہ ہوں و او حالہ یا عطف لیکن حرف استدرک اکثر الناس  
مرکب اضافی اسم لا یؤْمِنُوْنَ فعل ناقص ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لیکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ الحق سے حال ثانیہ ہے یا جملہ اولی  
پر معطوف ہے۔

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰی رَبِّهٖمْ وَيَقُوْلُوْنَ  
اَلْاَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِیْنَ کَذَبُوْا عَلٰی رَبِّهٖمْ ؕ اَلَا لَبَعْتَهُ اللّٰهُ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ  
یَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ یَبْغُوْنَهَا عَوْجًا ؕ لَوْ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ کٰفِرُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۸، ۱۹:** و او استیفاء میں اس استہمام مبتدا، اظلم اسم تفضیل ہو مستقر قائل میں حرف جار میں اسم موصول افترا  
فعل ہو مستقر قائل علی اللہ جار با مجرور متعلق ہوئے کذب مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور اظلم  
کے متعلق ہوئے، اسم تفضیل با قائل و متعلق شہ جملہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مستانفہ ہوں اُولٰٓئِكَ اسم اشارہ مبتدا، یُعْرَضُوْنَ فعل  
مجرول داؤ ضمیر تابع قائل علی ربہم جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و اعراض یقولون فعل الاشهاد قائل،

دونوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، فَوَ لَآءِ اِسْمِ اَشَدِّهِ بِنْدَةِ اَلَّذِيْنَ اِسْمُ مَوْصُولِ كَيْفُو اَصْلُ وَاوْ خَمِيْرَ قَائِلٍ عَلَيَّ نَهَضَ جِدًا بِمَجْرُورِ مَحَلِّقِ هُوَ، فعل ناقص و معلق صلہ، موصول باصل خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اُوْلَيْكَ كِي خَبْر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

الاحرف خمیر لَعْنَةُ اَلْقَوْمِ ركب اضافی مبتدأ علی حرف جہ الظلّیّین مبدل منہ، اَلَّذِيْنَ اِسْمُ مَوْصُولِ يَصُدُّوْنَ فعل وَاوْ خَمِيْرَ قَائِلٍ عن جہہ سببیل اَلْقَوْمِ ركب اضافی مجرور، معلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ وَاوْ عَائِلٌ يَتَخَوْنَ فعل وَاوْ خَمِيْرَ قَائِلٍ ناقص خمیر منصوب بزجر ناقص اَصْلٍ میں فیضاً ہے، جِدًا بِمَجْرُورِ مَحَلِّقِ هُوَ معلق ہوئے عِيُوْجًا مَعْمُوْلٍ بہ، مبدل ان ل کر معطوف اول وَاوْ عَائِلٌ هُنَّ خمیر مبتدأ، بِالْاُخْرٰى جِدًا بِمَجْرُورِ مَحَلِّقِ هُوَ معلق مقدم هُنَّ خمیر سببیل هُنَّ كِي تا کی ہے كَيْفُوْنَ اِسْمُ قَائِلٍ هُنَّ خمیر قائل و معلق مقدم سے ل کر خبر، مبتدأ خبر معطوف جملی، معطوف علیہ با معطوفین اَلَّذِيْنَ اِسْمُ مَوْصُولِ باصل بدل مبدل منہ بدل مجرور، جِدًا بِمَجْرُورِ كَيْفُوْنَ كِي معلق ہو کر لَعْنَةُ اَللّٰهِ كِي خَبْر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اُوْلَيْكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاۗءٍ  
يُضَعْفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا اِيْسْتَشِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا اِيْبَصِرُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۱۰: اُوْلَيْكَ اِسْمِ اَشَدِّهِ بِنْدَةِ اَلَّذِيْنَ اِسْمُ مَوْصُولِ كَيْفُو اَصْلُ وَاوْ خَمِيْرَ اِسْمِ مَوْصُولِ كَيْفُو اَصْلُ فِي اَنْزِيْحٍ كَاثِرِيْنَ كے معلق ہو کر مال، ذوال لعل، افعال ناقص، اِسْمُ قَائِلٍ با قائل خبر، فعل ناقص با اِسْمِ اَشَدِّهِ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ وَاوْ عَائِلٌ مَا تَانِي كَانِ فعل ناقص اَلْهُمَّ ظرف مستقر كَاثِرَةً كے معلق ہو کر خبر مقدم ہون، دُوْنِ اللّٰهِ ظرف مستقر كَاثِرَةً كے معلق ہو کر مال مقدم ہون، جِدًا ہا، اُوْلِيَاۗءٍ اَلْمَا رِفُوْعُ ذُو الْعَمَلِ مَوْجُودُ الْعَمَلِ افعال ناقص، اِسْمُ مَوْجُودِ اَصْلُ وَاوْ خَمِيْرَ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر اول، يُضَعْفُ فعل مجہول اَلْهُمَّ معلق ہوئے اَلْعَذَابُ اَنْ حَب قائل، فعل مجہول با تَاب قائل و معلق اُوْلَيْكَ كِي دوسری خبر، مبتدأ خبر تین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں عَائِلٌ كَانُوْا اَصْلُ وَاوْ خَمِيْرَ اِسْمِ مَوْصُولِ كَيْفُو اَصْلُ وَاوْ خَمِيْرَ قَائِلٍ اِسْمُ مَوْصُولِ كَيْفُو اَصْلُ وَاوْ خَمِيْرَ قَائِلٍ عَلَيَّ نَهَضَ جِدًا بِمَجْرُورِ مَحَلِّقِ هُوَ معلق ہو کر خبر، اِسْمِ اَشَدِّهِ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ وَاوْ عَائِلٌ مَا تَانِي كَانُوْا اَصْلُ وَاوْ خَمِيْرَ اِسْمِ مَوْصُولِ كَيْفُو اَصْلُ وَاوْ خَمِيْرَ قَائِلٍ عَلَيَّ نَهَضَ جِدًا بِمَجْرُورِ مَحَلِّقِ هُوَ معلق ہو کر خبر، اِسْمِ اَشَدِّهِ جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اُوْلَيْكَ الَّذِيْنَ حَسِبُوْا اَنْفُسَهُمْ وَوَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا اَيْقِنُوْنَ ۝

آیت نمبر ۲۱۱: اُوْلَيْكَ اِسْمِ اَشَدِّهِ بِنْدَةِ اَلَّذِيْنَ اِسْمُ مَوْصُولِ حَسِبُوْا اَصْلُ وَاوْ خَمِيْرَ قَائِلٍ عَلَيَّ نَهَضَ جِدًا بِمَجْرُورِ مَحَلِّقِ هُوَ معلق ہوئے اَنْفُسَهُمْ ركب اضافی معطوف بہ، تینوں ل کر معطوف علیہ وَاوْ عَائِلٌ وَضَلَّ فعل عَلَيْهِمْ ظرف لغو معلق ہوئے مَا مَوْصُولِ كَانُوْا اَصْلُ وَاوْ خَمِيْرَ اِسْمِ مَوْصُولِ كَيْفُو اَصْلُ وَاوْ خَمِيْرَ قَائِلٍ عَلَيَّ نَهَضَ جِدًا بِمَجْرُورِ مَحَلِّقِ هُوَ معلق ہو کر خبر، اِسْمِ اَشَدِّهِ جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، اِسْمِ مَوْصُولِ باصل ضلّ کا قائل، فعل ناقص و معلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف

لَا جَوْرَ اَنْتَهُمْ فِي الْاُخْرٰى هُمْ الْاَحْسَرُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۲۲:** لَا تَأْتِيهِمْ فِي الْحَرْفِ حَتَّىٰ تَهْتِكُوا فِي الْأَخْيَارِ تَرْفِ مَسْتَقَرِّ كَاتِبِينَ كَيْفَ هُوَ حَالٌ،  
 ذواللال باجائِ أَنْ كَامِ هُمْ ضَمِيرُ فِعْلِ الْأَخْسَرُونَ خَيْرَ بَانَ بِاسْمِ دَجْرٍ جَمْلَةٍ اسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ بِتَوَالٍ مَفْرُوقَةٍ، فِعْلٌ بِأَقَالٍ جَمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ هُوَ  
**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ** ۞

**آیت نمبر ۲۳:** إِنَّ حَرْفَ حَتَّىٰ الَّذِينَ اسْمٌ مَوْصُولٌ آمَنُوا فِعْلٌ بِأَوَّافٍ ضَمِيرُ فَاعِلٍ جَمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِوَاوٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ مَوْصُولٌ مَعْلُومٌ  
 وَأَوَّافٍ فَاعِلُ الصَّالِحَاتِ بِوَاسِطَةِ مَوْصُوفٍ مَمْذُومٍ الْأَعْمَالُ مَفْعُولٌ بِهِ، تَمَيُّزٌ لَمْ يَكُنْ مَعْطُوفٌ لِأَوَّلِ، وَوَاوٍ مَعْطُوفٌ لِأَوَّلِ، وَوَاوٍ مَعْطُوفٌ لِأَوَّلِ، وَوَاوٍ مَعْطُوفٌ لِأَوَّلِ، وَوَاوٍ مَعْطُوفٌ لِأَوَّلِ  
 رَبِّهِمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ تَرْفِ لَفْظٍ مَعْطُوفٍ هُوَ، فِعْلٌ بِأَقَالٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ جَمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِينَ صِلَةٍ، مَوْصُولٌ بِاصْلَانِ  
 كَامِ أُولَٰئِكَ اسْمٌ أَشَارَةٌ بِمَبْدَأِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ مَرْكَبٌ إِضَائِي خَبْرٌ، مَبْدَأُ خَبْرٍ جَمْلَةٍ اسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ إِنَّ كِي خَبْرٌ بَانَ بِاسْمِ دَجْرٍ جَمْلَةٍ اسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ  
 هُوَ هُمْ ضَمِيرُ مَبْدَأِ، فِيهَا جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ مَقْدَمٌ مَحْلُولٌ وَنَاسِمٌ فَاعِلٌ هُمْ ضَمِيرُ فَاعِلٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ جَمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفِينَ صِلَةٍ، مَوْصُولٌ بِاصْلَانِ  
 أُولَٰئِكَ خَبْرٌ ثَانِيٌّ بِمَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ فَهِيَ حَالٌ هِيَ۔

**مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۗ أَفَلَا  
 تَذَكَّرُونَ** ۞

**آیت نمبر ۲۴:** مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ مَرْكَبٌ إِضَائِي مَبْدَأُ، كَافٌ حَرْفٌ جَارٌ الْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ  
 اِسْمِيَّتَيْنِ مَعْطُوفَاتٌ سَعَلِ كَرْمُورٍ، جَارٌ بِمَجْرُورٍ تَرْفِ مَسْتَقَرِّ كَاتِبِينَ كَيْفَ هُوَ حَالٌ، مَبْدَأُ خَبْرٍ جَمْلَةٍ اسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ هُوَ هَلْ حَرْفٌ اسْتِفْهَامٌ  
 يَسْتَوِينَ فِعْلٌ بِأَقَالٍ مَثَلًا تَمَيُّزٌ، فِعْلٌ بِأَقَالٍ وَتَمَيُّزٌ جَمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ إِشَائِيَةٍ اسْتِفْهَامِيَةٍ هُوَ هَمْزٌ حَرْفٌ اسْتِفْهَامِيَةٌ فَكَمَا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ  
 مَمْذُومٌ هُوَ تَكْفُوفٌ عَنْهُ (رُوحُ الْعَالِي) لَا تَكُنْ كَرُوفٌ فِعْلٌ وَأَوَّافٍ فَاعِلٌ سَعَلِ كَرْمُورٍ، مَبْدَأُ خَبْرٍ جَمْلَةٍ اسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ هُوَ كَرْمُورٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَا  
 مَعْطُوفٌ جَمْلَةٍ إِشَائِيَةٍ مَعْطُوفٌ هُوَ۔

● رُكُوعٌ نَمْبَرٌ ۳ ●

**وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ** ۞

**آیت نمبر ۲۵:** وَأَوَّافٍ إِشَائِيَةٍ لِأَمْرٍ مَوْصُولٍ الْقَوْمِ اسْمٌ مَمْذُومٌ سَعَلِ كَرْمُورٍ، قَدْ عَلَامَةٌ فِعْلٌ أَرْسَلْنَا فِعْلٌ تَأْمِيرِيٌّ فَاعِلٌ نُوحًا مَفْعُولٌ بِرَأْسِ قَوْمِهِ  
 جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ هُوَ، فِعْلٌ بِأَقَالٍ مَفْعُولٌ بِهِ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ جَمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ جَوَابٌ سَمٌّ، سَمٌّ جَوَابٌ سَمٌّ، سَمٌّ جَمْلَةٍ إِشَائِيَةٍ تَسْمِيَةٍ هُوَ إِنَّ حَرْفٌ تَحْقِيقِيٌّ قِيَامٌ  
 ضَمِيرٌ اسْمٌ كَامِ لَكُمْ جَارٌ بِمَجْرُورٍ مَعْطُوفٌ مَقْدَمٌ هُوَ كَرْمُورٍ، كَرْمُورٌ مَبْدَأُ خَبْرٍ جَمْلَةٍ اسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ هُوَ كَرْمُورٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَا  
 مَفْعُولٌ بِمَفْعُولٍ خَبْرٌ بَانَ بِاسْمِ دَجْرٍ جَمْلَةٍ اسْمِيَةِ خَبْرِيَةٍ هُوَ كَرْمُورٌ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَا مَفْعُولٌ سَعَلِ كَرْمُورٍ، قَوْلٌ بِأَقَالٍ جَمْلَةٍ فَعْلِيَةٍ خَبْرِيَةٍ هُوَ كَرْمُورٌ  
 سَعَلِ كَرْمُورٍ۔

**أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنَِّّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمٍ** ۞



**آیت نمبر ۳۶:** اَنْ تَنْصُرُوهُمۡ لَآ تَعْبُدُوْا اِلٰهًا اِلَّا وَجْهَ رَبِّكَ الَّذِیۡ اَخْرَجَکَ مِنْ دَارِکَ اِلٰہِکَ اِلَّا حَرْفٌ مِّنْ اِلٰہِکَ مَسْمُوعٌ لِّرَّسُوْلِکَ اِنَّکَ اَنْتَ اِلٰہٌ مُّجِیۡبٌ  
 بتوں میں مصدر منصوب، نزع الفاقص یہ اصل میں پان لہ۔ اے ہے جدا بجز روزِ سنائے کے متعلق ہوئے (روح المعانی) اِنَّ حرف تحقیق آیا  
 ضمیر اس کا اسم اَحَافٌ فعل اَکَا مستتر فاعل عَلَیْکُمْ ظرف لغو متعلق ہوئے عَدَابٌ مضاف یَوْمَ اَلْیَوْمِ مرکب تو محلی مضاف الیہ، مضاف  
 ہا مضاف الیہ مفعول بہ، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی خبر اِنَّ ہا اسم خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

**فَقَالَ الْمَلَأَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوْا مِنْ قَوْمِہٖ مَا تَرٰکَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَ مَا تَرٰکَ نَبَعًا  
 اِلَّا الَّذِیۡنَ هُمْ اَرَادْنَا بِادِی الرَّآیِ وَ مَا تَرٰی لَکُمْ عَلَیۡنَا مِنْ فَضْلِیۡ بَلْ نَنظُرُکُمْ  
 کَذِبِیۡنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۷:** اَفَا عٰفِیۡہٗ قَالِ الْمَلٰٓئِمُ مَوْصُوْفِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوْا اَمْ مَوْصُوْلٌ بِاَصْلِ ذٰلِہِ اِلٰہِ مِنْ قَوْمِہٖ عٰفِیۡہٗ مَسْتَرٌ کَاثِمًا لِّکَ مَسْتَقْلَبًا  
 ہو کر حال، ذوالحال ہا حال فاعل، فعل ہا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، مآثرانیہ نکرئی فعل نَحْنُ مستتر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اول اِلَّا  
 حرف استثناء بَشَرًا مَوْصُوْفٌ مِثْلَنَا مرکب اضافی صفت، موصوف نکرئی کا مفعول بہ ثانی، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ  
 مفعول علیہ، واو عافہ مآثرانیہ نکرئی فعل نَحْنُ مستتر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اول اِنْتَجِیۡعٌ فعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ اِلَّا  
 حرف استثناء الَّذِیۡنَ اسم موصول ہُوَ ضمیر مبتدہ اَرَادْنَا لَنَا مرکب اضافی خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ اِنْتَجِیۡعًا کافاعل،  
 فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ عٰفِیۡہٗ مَعْرُوفٌ نَحْنُ کا مفعول بہ ثانی، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفعول اول ہوا او عافہ مآثرانیہ  
 نکرئی فعل نَحْنُ مستتر فاعل لَکُمْ جدا بجز روز متعلق ہوئے عَلَیۡنَا ظرف مستتر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر حال مقدم، میں جدا زائد و فَضْلِیۡ لفظ  
 بجز روز عافہ منصوب ذوالحال مؤخر، ذوالحال ہا حال نکرئی کا مفعول بہ، فعل ہا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفعول ثانی، اِنَّ حرف عطف  
 نَحْنُ فعل قلب نَحْنُ مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ اول کَذِبِیۡنَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر ضمیر فاعل سے مل کر مفعول بہ ثانی، فعل ہا فاعل  
 و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفعول ثالث، مفعول علیہ ہا مفعولات ثلاثہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مفعول سے آرزو سنائے ہے۔

**قَالَ یَقُوْمُ اَرۡءَیۡتُمْ اِنْ کُنْتُمْ عَلٰیٰ بَیۡنَہٗ مِنْ رَیِّ وَاَنْتُمۡ رَحِمۡۃٌ مِّنْ عِنۡدِہٖ فَعَبِیۡتُ  
 عَلَیۡکُمْ ۝ اَنْزَلْنَا مَکِیۡوٰہَا وَاَنْتُمْ لَهَا کٰرِہُوۡنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۸:** اَقَالَ لَعَلَّہٗ مَسْتَرٌ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یَقُوْمُ یہ اصل میں یَا قُوْمِیٰ ہے اور یہ ندا ہے اَرۡءَیۡتُمْ یعنی  
 اَخْبِرُوْنِیۡ ہے اور یہ فعل امر ہے واو ضمیر فاعل ہے اور مفعول بہ اول مخدوف ہے بَیۡنَہٗ مِّنْ رَیِّ اور بعد میں جملہ انشائیہ استقہامیہ مفعول بہ  
 ثانی ہے، فعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ندا کا جواب، ندا ہا جواب جملہ انشائیہ ندا ہے ہو کر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِنَّ حرف  
 شرط کُنْتُمْ فعل ناقص ثناء مضمومہ اس کا اسم علی جاہ بَیۡنَہٗ مَوْصُوْفٌ مِنْ رَیِّ ظرف مستتر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت  
 بجز روز، جدا بجز روز طرف مستتر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ ہوا او عافہ اِنِّ فعل ہُوَ مستتر فاعل  
 نون و تاقیہ کا بیاد ضمیر مفعول بہ اول رَحِمۡۃٌ مَوْصُوْفٌ مِنْ عِنۡدِہٖ طرف مستتر کَاثِمًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت مفعول بہ ثانی،

فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فآء عاطفہ عُبُودَاتُ فعل مجہول ہی مستتر بائیں فاعل عَلَیْكُمْ جہا باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط، اور جزاء محذوف ہے اَنْذِرْتُمْ كَمَا هُمْ حَرْفِ اسْتِفْهَامِ نَلْزِمُوْهُ فاعل لَنْحَنُ مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اول ہا ضمیر مفعول بہ ثانی، چاروں مل کر جملہ انشائیہ استفہامیہ اَنْذِرْتُمْ کا مفعول بہ ثانی ہے جیسا کہ اوپر گزرا ہے اور جملہ انشائیہ ضمیر مبتدا لَهَا جہا باجرور متعلق مقدم کَرِهْتُمْ اسم فاعل اَلْكُمْ مستتر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا باجرور جملہ اسمیہ خبریہ لَنْزِمُوْكُمْ کے مفعول بہ اول سے حال ہے۔

وَيَقْوِمُ وَلَا آسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَادَانَ اجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا آتَانَا بَطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْمَعُونَ اِرْتِبَهُمْ وَلَكِنَّ آرِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝

آیت نمبر ۲۹: واو عاطفہ یَا قَوْمِ پر یہ اصل میں یَا قَوْمِ ہے اور یہ ندا ہے لَآسَأَلُكُمْ فاعل اَنَا مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اول عَلَیْكُمْ جہا باجرور متعلق ہوئے مَا لَادَانَ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ندا کا جواب ہے، ندا با جواب جملہ انشائیہ ندا ہے معطوف ہول ان ناخریہ مرکب انشائیہ مبتدا اِلَّا حَرْفِ اسْتِفْهَامِ عَلَيَّ اللَّهُ جہا باجرور مستثنی مفرغ کافِئُونَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باجرور جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ مَا تَجْهَلُونَ کا ضمیر اس کا اسم بآء جارہ ناکندہ طَارِدِ اسم فاعل اَنَا مستتر فاعل الَّذِينَ آمَنُوا موصول باصلہ مفعول بہ لَهَا مضاف الیہ، اسم فاعل مضاف با مضاف الیہ ملامنوب خبر، مَا تَجْهَلُونَ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف مطلق ہوں۔

إِنَّ حَرْفِ تَحْقِيقِ هُمْ ضمیر اس کا اسم مُلْمَعُونَ اصیغہ اسم فاعل مضاف اِرْتِبَهُمْ مرکب انشائی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر بیانِ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔ واو عاطفہ لَكِنَّ حَرْفِ اسْتِدْرَاكِ يَا ضَمِيرِ اس کا اسم آزی فعل اَنَا مستتر فاعل كُمْ ضمیر مفعول بہ اول، قَوْمًا موصوف تَجْهَلُونَ فعل باباؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف باصفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ لَكِنَّ کی خبر، لَكِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اولی پر معطوف ہے۔

وَيَقْوِمُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ أَقْلًا تَدْكُرُونَ ۝

آیت نمبر ۳۰: واو عاطفہ يَقْوِمُ پر یہ اصل میں یَا قَوْمِ ہے اور یہ ندا ہے مَنْ اس اسم استفہامیہ مبتدا، يَنْصُرُنِي فاعل هُوَ مستتر فاعل نون و قایہ کا بابی ضمیر مفعول بہ مِنْ اَللّٰهِ جہا باجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مَنْ کی خبر، مبتدا باجرور جملہ اسمیہ انشائیہ ندا کا جواب ہے، ندا با جواب جملہ انشائیہ ندا ہے ہول ان حرف شرط طَرَدْتَهُمْ فاعل اَنَا مضموم، اس کا فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء محذوف ہے فَمَنْ يَنْصُرُنِي فِيْ شَرْطِ اَبْرَاجِ اَجْمَلِ شَرْطِيْهِ مَسْتَفْهَمٌ ہوا۔ ہمزہ حَرْفِ اسْتِفْهَامِ فآء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے تَأْمُرُونِي بِطَرَدِهِمْ تَجْهَلُونَ، لَآ تَدْكُرُونَ فعل باباؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ انشائیہ ہوں۔

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا

لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳﴾

**آیت نمبر ۳:** وَاَوْعَاظُهُ لَا أَقُولُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ مُسْتَقْرَّاعٌ لَمْ يَجْرُدْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعَلٌّ بِأَقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ، قَوْلٌ، عِنْدِي دِي مَرْكَبٍ اِسْمَانِي كَمَا لَيْتُهُ كَا مَفْعُولٌ فِيهِ هُوَ كَرِخْرِمٌ مُقَدَّمٌ حَقْوًا يَمِينُ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِسْمَانِي مُبْتَدَأٌ بِمَوْضِعٍ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَاظُهُ لَا اسَ كَعْدُ فَعَلٌ مُقَدَّرٌ بِأَقُولُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَغَيْرِهِ (اور یہ قول ہے بِالْعَلْمِ الْعَلِيْبِ فَعَلٌ بِأَقَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ اِثْلٌ، وَاَوْعَاظُهُ لَا أَقُولُ فَعَلٌ اِنَّا مُسْتَقْرَّاعٌ سَلَّ سَلَّ كَرِخْرِمٌ قَوْلٌ بِأَقَاعِلٍ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ ثَانِي، وَاَوْعَاظُهُ لَا أَقُولُ فَعَلٌ اِنَّا مُسْتَقْرَّاعٌ لَمْ يَجْرُدْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعَلٌّ بِأَقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ مَرْكَبٌ اِسْمَانِي تَاعِلٌ، فَعَلٌّ بِأَقَاعِلٍ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صَلَ، مَوْصُولٌ بِاصِلٍ جَمْرُورٌ، جَمَلٌ بِجَمْرُورٍ لَا أَقُولُ كَعْدُ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعَلٌّ بِأَقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ، اِنَّ يَنْبُؤِي فَعَلٌ مُخْبِرٌ مَفْعُولٌ بِهِ اِنَّ لَفْظًا اَللّٰهُ تَاعِلٌ حَقْوًا مَفْعُولٌ بِهِ ثَانِي، چاروں سَلَّ كَرِخْرِمٌ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ ثَالِثٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفَاتٍ ثَلَاثَةٍ جَمَلٌ مَعْطُوفٌ هُوَ

اللّٰهُ مُبْتَدَأٌ بِالْعَلْمِ تَقْضِيلٌ هُوَ مُسْتَقْرَّاعٌ تَاءٌ جَاهِدًا مَعًا اسْمٌ مَوْصُولٌ فِي اَنْفُسِهِمْ طَرَفٌ مُسْتَقْرَّاعٌ مَعْدُوفٌ تَبَيَّنَتْ كَا مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْرِمٌ، مَوْصُولٌ بِاصِلٍ جَمْرُورٌ، جَمَلٌ بِجَمْرُورٍ مُتَعَلِّقٌ هُوَ اسْمٌ تَقْضِيلٌ بِأَقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ شَبَّ جَمَلٌ هُوَ كَرِخْرِمٌ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْرُوضَةٌ هِيَ اَوَّلَانِ حَرْفٌ تَحْقِيقِي تَيَّاسِيرِ اسْمِ اسْمِ اِذَا حَرْفٌ جَوَابٌ وَجَزَاءٌ مَعْمَلٌ لَمْ يَجْرُدْ مُتَعَلِّقٌ هُوَ طَرَفٌ مِّنَ الظَّالِمِينَ طَرَفٌ مُسْتَقْرَّاعِيْنَ كَعْدُ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْرِمٌ اِنَّ يَمِينُ اسْمٌ خَبْرٌ جَمَلٌ اِسْمِيَّةٌ جَمَلَةٌ هُوَ

قَالُوا اَيْنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَاَسْمُوتُ جِدَالًا تَنَا قَاتِنَا بِمَا تَعِدُ اَنَّا اَنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۴﴾

**آیت نمبر ۴:** قَالُوا اَيْنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَاَسْمُوتُ جِدَالًا تَنَا قَاتِنَا بِمَا تَعِدُ اَنَّا اَنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْرِمٌ مُقَدَّمٌ حَقْوًا يَمِينُ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِسْمَانِي مُبْتَدَأٌ بِمَوْضِعٍ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَعَلٌّ بِأَقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ ثَانِي، چاروں سَلَّ كَرِخْرِمٌ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ ثَالِثٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفَاتٍ ثَلَاثَةٍ جَمَلٌ مَعْطُوفٌ هُوَ

قَالَ هُوَ مُسْتَقْرَّاعٌ سَلَّ سَلَّ كَرِخْرِمٌ مُقَدَّمٌ حَقْوًا يَمِينُ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِسْمَانِي مُبْتَدَأٌ بِمَوْضِعٍ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَعَلٌّ بِأَقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ ثَانِي، چاروں سَلَّ كَرِخْرِمٌ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ ثَالِثٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفَاتٍ ثَلَاثَةٍ جَمَلٌ مَعْطُوفٌ هُوَ

قَالَ اِنَّمَا يَا اَيْنُكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَ مَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۵﴾

**آیت نمبر ۵:** قَالَ اِنَّمَا يَا اَيْنُكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَ مَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْرِمٌ مُقَدَّمٌ حَقْوًا يَمِينُ اللّٰهِ مَرْكَبٌ اِسْمَانِي مُبْتَدَأٌ بِمَوْضِعٍ، مُبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَعَلٌّ بِأَقَاعِلٍ وَ مُتَعَلِّقٌ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ ثَانِي، چاروں سَلَّ كَرِخْرِمٌ جَمَلٌ فَعَلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَقُولٌ، قَوْلٌ بِمَقُولٍ مَعْطُوفٌ ثَالِثٌ، مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْطُوفَاتٍ ثَلَاثَةٍ جَمَلٌ مَعْطُوفٌ هُوَ

اَنْتُمْ ضمیر اس کا اسم ہاں جارہ نامہ معجزین اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر قائل سے ل کر ماضی مضرب خبر، ماہ ہے اسم و خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ یَاٰتِيَكُمْ کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے۔

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصِيحِي اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ تَدْوِ اِلَيْهِ تَرْجَعُوْنَ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: او او ماضی لَا يَنْفَعُ فعل کُم ضمیر مفعول بہ، نَصِيحِي مرکب اضافی مرفوع تقدیر اِن فاعل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ یَاٰتِيَكُمْ بہ اللہ پر معطوف ہے۔ اِنْ حرف شرط اَرَدْتُ فعل تاکہ مضمومہ فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب اَنْصَحَ فعل اِنَا مستتر قائل لَكُمْ جارہ باجور و متعلق ہوئے، تیںوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدر مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط ل اِلٰی اِنْ حرف شرط ط کا قائل فعل ناقص لِنْفَعُ اَللّٰهُ سَمِيْرٌ يُّرِيْدُ فعل هُوَ مستتر قائل اَنْ حرف مصدری و نصب يُغْوِي فعل هُوَ مستتر قائل کُم ضمیر مفعول بہ، تیںوں ل کر تاویل مصدر مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ کان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط ط اِن اِس کی جزاء مخدوف ہے لَا يَنْفَعُكُمْ نَصِيحِي، شرط ط با جزاء جملہ شرطیہ شرط ل اِلٰی اِنْ حرف، شرط ط با جزاء جملہ شرطیہ مستافہ ہوا۔ هُوَ ضمیر مبتدا یُرِيْدُ مرکب اضافی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ او او ماضی اِلَيْهِ جارہ باجور و متعلق مقدم اَنْصَحُ فعل مجہول و او ضمیر نائب قائل اور متعلق مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا۔

اَمْرٌ يَقُوْلُوْنَ اَفْتَرٰهُ هَلْ قُلْنَا اِنْ اَفْتَرَيْتُهُ فَعَلِيْ اَجْرًا مِیْ وَ اَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: اَمْرٌ متعلقہ يَقُوْلُوْنَ فعل ہاوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول اِفْتَرٰی فعل هُوَ مستتر قائل ضمیر مفعول بہ، تیںوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قُلْنَا فعل امر اَنْت مستتر قائل سے ل کر قول اِنْ حرف شرط ط اِفْتَرَيْتُ فعل تاکہ مضمومہ قائل ضمیر مفعول بہ، تیںوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ط اَفْتَرٰی عَلٰی جارہ باجور و کائنوں کے متعلق ہو کر خبر مقدم باجور ماضی مرکب اضافی مبتدا اَمْرٌ، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ او او ماضی اِنَا ضمیر مبتدا بَرِيْءٌ صیغہ صفت اِنَا مستتر قائل و من جارہ ما موصول اَمْرٌ مَقْرُوْبٌ فعل ہاوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جارہ باجور و متعلق ہوئے، صیغہ صفت با قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط ط با جزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ اِنشائیہ امریہ ہوا۔

﴿۳۴﴾ رکوع نمبر ۳

وَ اُوْحٰی اِلٰی نُوْحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَتَّبِعِمْ يٰمٰكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا وَ لَا تُخٰطِبْنِيْ فِي الدِّيْنِ كَلِمٰوٰجٍ اِنَّهُمْ مَخْرُوْقُوْنَ ﴿۳۶﴾

آیت نمبر ۳۵، ۳۶: او او استیثناء اُوْحٰی فعل مجہول اِلٰی نُوْحٍ جارہ باجور و متعلق ہوئے اَنْ حرف تحقیق ضمیر شان اس کا اسم اَنْ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ جارہ باجور و متعلق ہوئے اِلَّا حرف استثناء مَنْ اسم موصول قَدْ علامت فعل اٰمَنَ فعل هُوَ مستتر قائل، فعل با قائل

جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصولہ باصلہ مستثنیٰ مفرغ لَنْ یُؤْمِنَ کافعال، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ آن کی خبر اِنَّ اِلٰہَکُمْ اِلٰہٌ وَ خیر جملہ اسمیہ خبریہ بتاول مفرد اَوْجِحْ کاتب قاعل، فعل مجہول بہاتب قاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستأنفہ ہوں۔

فَاءِ فعیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذْ کَانَ الْاَکْمَرُ کَذٰلِکَ، لَا تَکْتُمِیْنِمْ فعل نئی اَنْتَ مستتر قاعل بہاء جارہما موصولہ کا تاول فعل ناقص ہُمْ ضمیر اسم یفعلون فعل باوا ضمیر قاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہا م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصولہ باصلہ مجرور، جارہما مجرور متعلق ہوتے، فعل نئی باقاعل و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ معطوف علیہ، و او عاطفہ اَضْمَعْ فعل امر اَنْتَ مستتر زوال الہا بہاء جارہما اَعْبَدْنَا کرب انسانی معطوف علیہ، و او عاطفہ وَ حَسِبْنَا کرب انسانی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جارہما مجرور ظرف مستقر مُتَلَمِّسًا کے متعلق ہو کر حال، و ذوالحال باحال قاعل اَلْفَلَکْ مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ معطوف اول، و او عاطفہ لَا تَخْطِیْبُ فعل نئی اَنْتَ مستتر قاعل نون و قایہ کا، یا ضمیر مفعول بہ فی حرف جہا اَلَّذِیْنَ کَلَمُوْا موصولہ باصلہ مجرور، جارہما مجرور لَا تَخْطِیْبُ کے متعلق ہوتے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین فی شرط مخدوف کی جڑ، شرط ہا جڑ ہا جملہ شرطیہ ہوں اِنْ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم مَفْعُوْلٌ اِسْم مفعول ہُمْ مستتر جب قاعل، دونوں مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر اِنَّ اِلٰہَکُمْ اِلٰہٌ وَ خیر جملہ اسمیہ خبریہ منقلبہ ہوں۔

وَيَصْنَعُ الْفَلَکَ ۚ وَ کَلَّمَآ مَرَّ عَلَیْہِ مَلَاۤءِٔمِنۡ قَوْمِہِ سَخِرُوْا مِنْہُ ۚ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا

فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْکُمْ کَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: ۱۱-۱۲: اَوْ اِتٰیْنَا بِیَضْمَعٍ فعل ہو مستتر قاعل اَلْفَلَکْ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستأنفہ ہوا۔ و او حالیہ کَلَّمَآ متضمن معنی شرط مفعول بہ مقدم مَرَّ فعل عَلَیْہِ جارہما مجرور متعلق ہوتے مَلَاۤءِٔ موصوفین قَوْمِہِ ظرف مستقر کَلَّمَآ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت قاعل، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، سَخِرُوْا فعل واو ضمیر قاعل مِنْہُ جارہما مجرور متعلق ہوتے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جڑ، شرط ہا جڑ ہا جملہ شرطیہ ہو کر یَضْمَعٍ کی ضمیر قاعل سے حال ہے۔

قَالَ فعل ہو مستتر قاعل سے مل کر قول اِنْ حرف شرط تَسْخَرُوْا فعل واو ضمیر قاعل و متعلق جارہما مجرور ظرف لغو متعلق ہوتے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط فاء جڑ اِنْ حرف تحقیق نَا ضَمِیْرُ اس کا اسم نَسْخَرُوْا فعل تَخْنُ مستتر قاعل مِنْکُمْ ظرف لغو متعلق ہوتے کاف حرف جارہما مصدر یَسْخَرُوْنَ فعل واو ضمیر قاعل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جارہما مجرور ظرف مستقر کَلَّمَآ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوفہ مخدوف سَخِرُوْا کے نَسْخَرُوْا کا مفعول مطلق، فعل باقاعل و متعلق مطلق جملہ فعلیہ خبریہ جڑ، شرط ہا جڑ ہا جملہ شرطیہ ہو کر مقلول، قول یا مقلولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَمَنْ یَّآتِیْہِ عَذَابٌ یُّخْزِیْہِ وَ یَجِلُّ عَلَیْہِ عَذَابٌ مُّقِیْمٌ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: ۱۲-۱۳: فاء عاطفہ سَوْفَ علامت فعل تَعْلَمُوْنَ فعل واو ضمیر قاعل مَن موصولہ بتائی فعل ہا ضمیر مفعول بہ عَذَابٌ موصوفہ یُخْزِیْ فعل ہو مستتر قاعل ہ ضمیر مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، و او عاطفہ وَ یَجِلُّ فعل عَلَیْہِ جارہما مجرور متعلق ہوتے عَذَابٌ مُّقِیْمٌ مرکب توصیفی قاعل، فعل باقاعل و متعلق معطوف، معطوف علیہ با معطوف عَذَابٌ کی صفت، موصوفہ باصفت یَّآتِیْ کافعال، فعل با

فَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ بِهِ، موصول باصله تَعْلَمُونَ کا مفعول ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔

حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُوْرُ قُلْنَا اٰخِيْلُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اِثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ  
اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿۳۰﴾

**آیت نمبر ۳۰:** حَتَّىٰ حرف نایبیت برائے ابتدا اِذَا کا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل اَصْحَرُ کا مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوُ اعاطفہ فَاوُ فعل اَلْتَنُوْرُ فَاوُ فاعل، وِدوونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، قُلْنَا فعل ناقص خبریہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول باخویل فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل فِيْهَا جار باجمرور متعلق ہوئے ہیں کُلِّ ظرف مستقر کا یثینین کے متعلق ہو کر حال مقدم زَوْجِیْنِ موصوف اِثْنِیْنِ برائے تاکید، وِدوونوں مل کر ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال معطوف علیہ، وَاوُ اعاطفہ اَهْلَكَ مرکب اضافی مستثنیٰ منہ، اِلَّا حرف استثناء، مِّنَ اسم موصول سَبَقَ فعل عَلَیْهِ جار باجمرور متعلق ہوئے اَلْقَوْلُ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ معطوف علیہ، وَاوُ اعاطفہ مِّنَ اسم موصول اَمَنَ فعل هُوَ مستتر فاعل، وِدوونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِخِیْلُ کا مفعول ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ وَاوُ استثنائیہ (تفسیر) مَنَ اَمَنَ فعل مَعَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ اِلَّا حرف استثناء قَلِیْلٌ مستثنیٰ مفرغ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَ قَالَ اِذْ كَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَاَمْزَسَهَا اِنَّ رَبِّيْ لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۳۱:** وَاوُ استثنائیہ فیہ قَالَ فعل هُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول باذْ كَبُوْا فعل وَاوُ ضمیر فاعل بِسْمِ اللّٰهِ ظرف مستقر کا یثینان کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَجْرِبَهَا مرکب اضافی معطوف علیہ، وَاوُ اعاطفہ مَوْزَسَهَا مرکب اضافی معطوف، وِدوونوں مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال سے فِيْهَا کی ہا ضمیر سے، فِيْهَا جار باجمرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ اِنَّ حرف تَحْقِیْقِ رَبِّيْ مرکب اضافی اس کا اسم، لاکہ مذ حلقہ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ دو خبر، اِنَّ بال اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

وَ هِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَدُوْ نَادِیْ نُوْحٍ اِبْنَهٗ وَ كَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يُبَيِّنُ  
اِذْ كَبَ مَعَنَا وَا لَا تَكُنْ مَعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

**آیت نمبر ۳۲:** وَاوُ استثنائیہ (روح العالیٰ) ہی ضمیر مبتدا، تَجْرِيْ فعل ہی مستتر فاعل بِهِمْ جار باجمرور متعلق ہوئے (روح) فی حرف جار مَوْجٍ موصوف کَالْجِبَالِ جار باجمرور طرف مستقر کا یثین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار باجمرور متعلق ثانی، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ وَاوُ اعاطفہ نَادِیْ فعل نُوْحٌ فاعل اِبْنَهٗ مرکب اضافی ذوالحال، وَاوُ اعاطفہ کان فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا اسم فی مَعْزِلٍ طرف مستقر کا یثینا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں۔

یاء حرف نداء اذْعُوا کے قائم مقام اذْعُوا فعل انا ضمیر قائل بقی مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر نداء، اِذْ كَيْبُ فَعْلٍ اَنْتَ مَسْتَرْتَا فاعل مَعْتَا مرکب انشائی مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہوا و عطف لاکُنْ فاعل نا قس نیا اَنْتَ مَسْتَرْتَا ام، مَعَ الْكُفْرِ فاعل مرکب انشائی کا یثما، کا مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل نا قس با ام، خبر جملہ انشائیہ نہ مِعْطُوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب قَائِلًا مَعْدُوفٌ کا مقولہ ہو کر تَفْوِجٌ کا حامل ہے (فقیر)

قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ مَا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَزِمَهُ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٣٣﴾

**آیت نمبر ۳۳:** قَالَ فاعل هُوَ مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یسین علامت فعل اوئی فعل انا مستتر قائل الی حرف جہ جَبَلٍ موصوف یَعْصِمُ فعل هُوَ مستتر قائل نون و قائم کا یاء ضمیر مفعول بہ مِنَ الْمَاءِ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جَبَلٍ کی صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جار مجرور اوئی کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

قَالَ فاعل هُوَ مستتر قائل سے مل کر قول لائمی جمل عاصمہ موصوف الْيَوْمَ مفعول فیہ فعل معذوف یَعْصِمُ کا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ جار مجرور متعلق ہوئے اسی فعل معذوف یَعْصِمُ کے اور هُوَ ضمیر اس میں قائل ہے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف بہ صفت مستثنیٰ مِنْهُ إِلَّا حرف استثناء مِنْ ام موصول وَحَالٌ فعل هُوَ مستتر قائل، دونوں مل کر صلہ موصول با صلہ مستثنیٰ، مستثنیٰ مِنْهُ با مستثنیٰ لا کا ام اور خبر معذوف ہے هُوَ جُودٌ اِلا با ام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا (فخص اعراب القرآن للرد ویش) واو عطف حَالٌ فعل بَيْنَهُمَا مرکب انشائی مفعول فیہ الْمَوْجُ قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، عطاء عطف کان فعل نا قس هُوَ مستتر ام مِنْ الْمُغْرَقِينَ جار مجرور کا یثما کے متعلق ہو کر خبر، فعل نا قس با ام، خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قَالَ لَا عَاصِمَ بِه معطوف ہے۔

وَقِيلَ يَا رَأْسُ ابْلِغِي مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ أَقْلِبِي وَغِيصُ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَ اللَّقْوَةِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٤﴾

**آیت نمبر ۳۴:** قِيلَ او استانیہ قِيلٌ فعل مجہول هُوَ مستتر خارج، سے مصدر القول (فقیر) نائب قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول یَا رَأْسُ یہ نداء ہے ابْلِغِي فعل امر یکا ضمیر ظاہر فاعل مَاءَكَ کی مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ جواب نداء، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء یہ معطوف علیہ ہوا و عطف یَسْمَاءُ یہ نداء ہے، أَقْلِبِي فعل امر یکا ضمیر ظاہر قائل، فعل با فاعل جملہ انشائیہ جواب نداء، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء یہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عطف غِيصُ الْمَاءِ فعل مجہول اور نائب قائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، ہوا و عطف قُضِيَ فعل مجہول الْأَمْرُ نائب قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، ہوا و عطف اسْتَوَتْ فعل ہی مستتر قائل عَلَى الْجُودِيِّ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، ہوا و عطف قِيلَ فعل

بجول ہو مستتر راجح، دئے قول مصدر نائب فاعل، لامر جادہ العَظِيمِ الظَّالِمِينَ مرکب تو صیغی مجرور، جادہ باجرور قَبِيلَ کے متعلق ہوئے، فعل  
بجول ہوا نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، بَعْدَ مصدر مفعول مطلق ہے فعل مخذوف يَبْعِدُوا كَا، فعل امر بافاعل و مفعول مطلق جملہ  
انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف راجح، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ جملہ معطوفہ ہوں۔

و نَادَى نُوْحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ

الْحَكِيمِينَ ﴿۲۱۳﴾

آیت نمبر ۲۱۳: او استغاثہ نَادَى فعل نُوْحٌ فاعل رَبَّهُ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاقلہ  
فعل نُوْحٌ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے اور یہ ندا ہے اِنَّ حرف تحقیق اِنِّي مرکب اضافی اسم ہون  
اھلی طرف مستقر کاؤٹا کے متعلق ہو کر خبر اِنَّ بِاسْمِ ذَا نَبْرٍ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، او عاقلہ اِنَّ حرف تحقیق وَعْدَكَ مرکب اضافی اسم  
اَلْحَقُّ خبر اِنَّ بِاسْمِ ذَا نَبْرٍ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اِنَّ او عاقلہ اَلتَّ ضمیر مبتدا، اَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ مرکب اضافی خبر، مبتدا اِنْ خبر جملہ  
اسمیہ خبریہ خبر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جواب ندا، پھر ندا با جواب جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ نَادَى کا معطوف، دونوں  
مل کر جملہ معطوفہ ہوں۔

قَالَ يُنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَسْنِنُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ

عِلْمٌ اِنِّي اَعْطَلْتُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجُهْلِيْنَ ﴿۲۱۴﴾

آیت نمبر ۲۱۴: قَالَ فعل نُوْحٌ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنِّي اَنْتَ یہ ندا ہے اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اسم لَيْسَ فعل  
ناقص ہو مستتر اسم ہون اَهْلِكَ طرف مستقر کاؤٹا کے متعلق ہو کر خبر لَيْسَ بِاسْمِ ذَا نَبْرٍ جملہ فعلیہ خبریہ اِنَّ کی خبر اِنَّ بِاسْمِ ذَا نَبْرٍ جواب ندا،  
ندا با جواب جملہ انشائیہ ندا یہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوا اِنَّ حرف تحقیق ضمیر اسم کا اسم عَمَلٌ موصوف غَيْرُ صَالِحٍ  
مرکب اضافی مفت، موصوف با صفت خبر اِنَّ بِاسْمِ ذَا نَبْرٍ جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

فقاء ضمیر اور اس کی شرط مخذوف ہے اِنَّا وَقَفْتُ عَلَىٰ حَبْلِيَّةِ الْحَالِ (روح) اَلَا تَسْتَسْنِنُ فعل نبي اَنْتَ مستتر فاعل نون و قايہ کا، يَاءُ مَكْلَم  
مخذوف مفعول بہ اِنَّل مَا موصولہ لَيْسَ فعل ناقص لَكَ جادہ باجرور کاؤٹا کے متعلق ہو کر خبر مقدم بہ جادہ باجرور عِلْمٌ کے متعلق مقدم  
ہوئے عِلْمٌ مصدر اپنے متعلق مقدم سے مل کر اسم مؤخر لَيْسَ بِاسْمِ ذَا نَبْرٍ جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل  
و مفعولین جملہ انشائیہ نہر جہا، شرط مخذوف باجرور جملہ شرطیہ ہوا اِنَّ حرف تحقیق يَاءُ ضمیر اسم کا اسم اَعْطَلْتُكَ مستتر فاعل کان  
ضمیر مفعول بہ اَنْ مصدر یہاں تَكُوْنَ فعل ناقص اَنْتَ مستتر اسم کا اسم ہون الْجُهْلِيْنَ طرف مستقر کاؤٹا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص  
بِاسْمِ ذَا نَبْرٍ تِلْكَ موصوف منسوب بنوع الفاعل متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنَّ بِاسْمِ ذَا نَبْرٍ جملہ اسمیہ خبریہ  
محللہ ہوں۔

قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَاَلَّا تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَا كُنْ





هَذَا قَاصِبٌ طَائِنَ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱:** بتلک اسم اشارہ مبتدا، من حرف جار اَنْبَاءُ الْغَنِيْبِ مرکب اضافی مجرور، جار باجور و ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر اول، تُوْجِيْ فصل مضارع تَحْنُوْنَ مستقر قائل ہَا ضمیر مفعول بہ اِنَّیْلَکَ جار باجور و متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبری ثانی، مَآئِنَہِ کُنْتُ فعل ناقص تَاءِ مفتوحہ اس کا اسم تَعَلَّمْتُ فعل اَدَّتْ مستقر مؤکد اَدَّتْ مرفوع منفصل تاکید، مؤکد تاکید معطوف علیہ، وَاُوَ عَاطِفٌ لَا نَاکِدُ قَوْمُکَ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف تَعَلَّمْتُ کا قائل، ہَا ضمیر مفعول بہ، وین جارہ قَبْلِ هَذَا مرکب اضافی مجرور، جار باجور و متعلق ہوئے (روح منطہری) فصل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل ناقص ہَا ضمیر باجور خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتلک کی تیسری خبر، مبتدا با اخبار علائقہ جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا فقاء نصیہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِنْ عَرَفْتَ هَذِهِ الْقِصَّةَ وَمَنْظُورٌ بِأَيِّهَا، اِضْبِیْضٌ فعل امر اَدَّتْ مستقر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوا اِنْ حرف تَحْنُوْنَ الْعَاقِبَةَ اسم لِلْمُتَّقِينَ جار باجور و ظرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر ثانی ہَا ضمیر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔

﴿۱۱﴾ رُكُوْعٌ نَّبْرَهٗ ﴿۱۱﴾

وَالِی عَادٍ اٰخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ یَقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهِ غَیْرَہٗ ؕ اِنۡ اَنْتُمْ اِلَّا

مُفْتَرُوْنَ ﴿۱۲﴾

**آیت نمبر ۱۲:** وَاُوَ عَاطِفٌ طَائِنَ الْعَاقِبَةِ جار باجور و متعلق ہوئے فعل محذوف اَوْسَلْنَا کے اَخَافُھُ مرکب اضافی مبدل منہ هُوْدًا بدل یا عطف بیان، مبدل منہ بدل مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قصیدہ نوح پر معطوف ہے قَالِ فَاعِلٌ هُوَ مستقر قائل سے مل کر قول یَا قَوْمِ یہ اصل میں یَا قَوْمِ ہے اور یہ نداء ہے، اَعْبُدُوا وَا فاعل امر وَا ضمیر قائل اَللّٰہُ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ مَآئِنَہِ لَکُمْ جار باجور و رکائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، وین جارہ ناکدہ اِلٰہِ غَآرُ فَوْعٌ موصوف غَیْبٌ اُمرکب اضافی صفت، موصوف با صفت مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا (روح) اِنْ نَابِہِ اَنْتُمْ ضمیر مبتدا اِلَّا حرف استثناء مُفْتَرُوْنَ اسم قائل اَنْتُمْ مستقر قائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

یَقَوْمِ لَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا ؕ اِنۡ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی الَّذِیْ فَطَرَنِیْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۳﴾

**آیت نمبر ۱۳:** یَا قَوْمِ یہ اصل میں یَا قَوْمِ ہے اور یہ نداء ہے، لَا اَسْأَلُکُمْ فعل اَنَا مستقر قائل کُمْ ضمیر مفعول بہ اول عَلَیْہِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم اَجْرًا ازوال حال مؤخر، دونوں مل کر مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جواب نداء، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء یہ مستانفہ ہوا اِنْ نَابِہِ اَجْرِیْ مرکب اضافی مبتدا، اِلَّا حرف استثناء عَلٰی حرف جار الَّذِیْ اسم موصول فَطَرَ فعل هُوَ مستقر قائل نون و قایہ کا بیاء ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار باجور و مستثنیٰ مفرغ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔ ہَمْز ہا حرف استفہام فقاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے اَنْتُمْ عَلَیْہِ عَنْ ذٰلِکَ یَا تَعْقِلُوْنَ کُلُّ شَیْءٍ (روح) لَا تَعْقِلُوْنَ فعل اِوَاوِ ضمیر قائل جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا۔



مفعول بہ بعضُ الہیتینا مرکب اضافی فاعل ماضی ہوا جاہا مجرد متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قَوْلُنَا مَحْدُوفٌ کا مفعول، قول یا مفعول مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ یا مستثنیٰ مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ قَالَ لَنْ هُوَ مُسْتَرْ قَاعِلٌ سے ل کر قول، اِنَّ حرف تحقیق یتاء ضمیر اس کا اسم اُشْهَدُ فعل مضارع اَنَّا مُسْتَرْ قَاعِلٌ اَللّٰهُ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اُشْهَدُ وَا فاعل امر واو ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق یتاء ضمیر اس کا اسم بُرِّیَءٌ مینہ صفت اَنَّا مُسْتَرْ قَاعِلٌ، میں جاہہ مَاسُو صولٌ تَنْصُرُ کُنُونٌ فعل واو ضمیر فاعل، میں ڈونہ جاہا مجرد متعلق ہوئے (روح المعانی) فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول یا صلہ مجرد، جاہا مجرد متعلق ہوئے مینہ صفت بافاعل و متعلق شبہ خبریہ اِنَّا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتلاویل مفرد مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ اَقُولُ مَحْدُوفٌ کا مفعول ہو کر اُشْهَدُ پر معطوف ہے (روح) معطوف علیہ یا معطوف اِنَّا کی خبر اِنَّا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقول، قول یا مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ نصیر اور شرط محذوف ہے اِن صَحَّ مَا دَعَاؤُكُمْ (نصیر) کیید وَا فاعل امر واو ضمیر فاعل نون و قایہ یتاء ضمیر مفعول بہ جَمِیْعًا کیید وَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عَاطِفٌ لَکَنْظُرُ وَا فاعل نئی واو ضمیر فاعل نون و قایہ کا یا ع محذوفہ لتخفیف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جزاء، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

اِنَّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَ رَبِّکُمْ مِمَّا مِنْ دَاۤیْبَةٍ اِلَّا هُوَ اَخِذْ بِنَاصِیٰتِہَا اِنَّ رَبِّیْ عَلَی

صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۵۶﴾

**آیت نمبر ۵۶:** اِنَّ حرف تحقیق یتاء ضمیر اس کا اسم تَوَكَّلْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل علی حرف جاہا اَللّٰهُ مبدل منہ ربّی مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ رَبِّکُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ یا معطوف بدل، مبدل منہ بادل مجرد، جاہا مجرد تَوَكَّلْتُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنَّا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا اور معلل محذوف ہے لَکَنْظُرُ وَا اَللّٰهُ وَلَا اَصْنَا مَکُمْ عَلَی مَضْمُونِی (نصیر) مَآئِنَہِ مِنْ حرف جاہا ناکہ دَاۤیْبَةٍ لَکَافٌ مجرد و غلامر فروع مبتدا، اِلَّا حرف استثناء ہُوَ ضمیر مبتدا، اَخِذْ اسم فاعل ہُوَ مُسْتَرْ قَاعِلٌ تاء جاہہ نَاصِیٰتِہَا مرکب اضافی مجرد، جاہا مجرد متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ خبریہ مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدا اول کی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔ اِن حرف تحقیق ربّی مرکب اضافی اسم علی جاہہ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ مرکب تو صبی مجرد، جاہا مجرد ظرف مستقر کلّوں کے متعلق ہو کر خبر اِنَّا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُکُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِہِ اِلَیْکُمْ ط و یَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ وَا لَا

تَضَرُّوْکَ شَیْءًا اِنَّ رَبِّیْ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ حَفِیظٌ ﴿۵۷﴾

**آیت نمبر ۵۷:** فَا عَاطِفٌ اِنَّ حرف شرط تَوَلَّوْا یہ اصل میں تَوَلَّوْا ہے فعل مضارع واو ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط معافہ جزائیہ قَدْ علامت فعل اَبْلَغْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ اول مَاسُو صولٌ اُرْسِلْتُ فعل مجهول تاء مضمومہ تاجب فاعل یہ جاہا مجرد متعلق ہوئے اِلَیْکُمْ جاہا مجرد متعلق ثانی ہوئے، فعل مجهول یا تاجب فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ

مفعول بہ ثانی، فعل با نامل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط و جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوا اور استیعریہ بہ متخلف فعل یعنی مرکب انسانی نامل قَوْماً موصوف، عَلِيٌّ كَلِمٌ مرکب انسانی صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ ہوا اور ملاحظہ لَوْ كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَمَلِ اور خیر فاعل و ضمیر مفعول بہ کَثُرَتْ اور اسطہ موصوف مضاف مَعْدُو کے مفعول مطلق، فعل با نامل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مفعول، مفعول علیہ یا مفعول جملہ مفعول متانفہ ہوا۔ اِن حرف تعلق یعنی مرکب انسانی اس کام علی جملہ تعلق قوی ہو کر مرکب انسانی مجرور، جملہ مجرور، متعلق مقدم مَحْبُوطِ سِمْتِ مَفْتَحُوْهُ استتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر اِن کا ۱۴م، خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو رہی۔

وَلَمَّا جَاءَ اَصْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ نَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابِ عَلِيْلٍ ۝۸

آیت نمبر ۸، شور اور استیعریہ کثرتاً شرطیہ مفعول یہ مقدم جَاءَ فعل اَمْرُ تاسرکب انسانی فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، نَجَّيْنَا فعل نا ضمیر فاعل مَعْدُو، اسطہ موصوف علیہ ہوا اور ملاحظہ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَمْرُ موصول اَمْتُوْا فعل اور ضمیر فاعل مَعْدُو مرکب انسانی مفعول یہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ملہ، موصول با صلہ مفعول، مفعول علیہ یا مفعول نَجَّيْنَا کا مفعول بہ، بناء جملہ، و رَحْمَةٍ موصوف مضافاً لطرف مستقر کا تعلق کے متعلق ہو کر لغت، موصوف با صفت مجرور، جملہ مجرور، نَجَّيْنَا کے متعلق ہوئے، فعل با نامل و مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرطیہ جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوا اور ملاحظہ نَجَّيْنَا فعل نا ضمیر فاعل مَعْدُو مفعول بہ من جملہ مفعول بہ من جملہ مفعول بہ من جملہ مفعول بہ من جملہ مجرور، جملہ مجرور، متعلق ہوئے، فعل با نامل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نَجَّيْنَا پر مفعول ہے۔

وَتِلْكَ اَعَادٌ لَّجَحْدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا سُؤْلَهُ وَ اتَّبَعُوْا اَصْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۹ اٰتَّبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لِعَمَلِكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَا اِنَّ عَاكِفُوْا رَبَّهْمُ ؕ اَلَا بَعْدُ اِلْعَادُ قَوْمٍ هُوْدٍ ۝۱۰

آیت نمبر ۹، شور اور استیعریہ تِلْكَ اسم ائشہ مبدل منہ عَاكِفُوْا فعل، دونوں مل کر مبتدہ جَحْدُوْا فعل اور ضمیر فاعل بناء جملہ بائیاتِ رَبِّهِمْ مرکب انسانی مجرور، جملہ مجرور، متعلق ہوئے، فعل با نامل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ ہوا اور ملاحظہ عَصَوْا اَمْرُ اور ضمیر فاعل و مَثَلَةٌ مرکب انسانی مفعول یہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول اول ہوا اور ملاحظہ اَتَّبَعُوْا اَمْرُ اور ضمیر فاعل اَمْرُ متعلق کُلِّ جَبَّارٍ علیہ، مضاف با مضاف علیہ عَنِيدٍ مرکب تو صلی کُلِّ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ اَمْرُ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول ثانی ہوا اور ملاحظہ اَتَّبَعُوْا اَمْرُ جملہ فعلیہ خبریہ مفعول بہ، فعل با نامل و مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ ہوا اور ملاحظہ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مرکب انسانی مفعول یہ فعل مَعْدُو اَتَّبَعُوْا اَمْرَهُمْ کا ہے پھر یہ جملہ من کہ مفعول راجع ہے، مفعول علیہ یا مفعولات تریہ تِلْكَ عَلَانٌ خبر ہے، مبتدہ تا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو رہی۔

اَلَا حرف تہذیب اِن حرف تعلق عَاكِفُوْا کا ۱۴م اسم مَعْدُوْا فعل اور ضمیر فاعل رَبَّهْمُ مفعول بہ، فعل با نامل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ،

اِنَّ بِالْاِسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔ اَلَا حرف تہنید بعد مفعول مطلق فعل منذوف بَعْدُ وَکَا کَا بَعْدُ وَکَا فعل امر وَاذ ضمیر فاعل لآمر جارہ عائد مبدل منہ یا مبین قوہم ہُوْدِ مرکب اضافی بدل یا عطف بیان، مبدل منہ بابدل مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول مطلق و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔

﴿٢٠﴾ رکوٰۃ نمبر ٦

وَالِیُّ تَمُوْدَ اَخَاهُمْ صِلِحًا قَالَ یَقُوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنَ الْاِلٰهِ غَیْرَہٗ ؕ هُوَ اَنْشَا کُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَ کُمْ فِیْہَا فَاسْتَغْفِرُوْہُ ثُمَّ تَوَبُّوْا اِلَیْہِ ؕ اِنَّ رَّبِّیْ قَرِیْبٌ

﴿٢١﴾ مُجِیْبٌ

آیت نمبر ۲۱: وَاو عاقلہ فی حرف جار تَمُوْدَ مجرور، دونوں مل کر متعلق ہوئے فعل مقدر اَرْسَلْنَا کے، اَخَاهُمْ مرکب اضافی مبدل منہ صلیحاً بدل، مبدل منہ بابدل مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوا۔ قَالَ یَقُوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنَ الْاِلٰهِ غَیْرَہٗ کی ترکیب آیت نمبر ۲۰ میں دیکھیں، هُوَ ضمیر مبتدہ اَنْشَا فعل ہُوَ مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ مین الارض جار مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاو عاقلہ اِسْتَعْمَرَ فعل ہُوَ مستتر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ فیہا ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فَاہ فصیحہ اور شرط معذوف ہے اِذَا کَانَ الْاَمْرُ کَذٰلِکَ اِنَّ اَنْشَا کُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاَسْتَعْمَرَ کُمْ فِیْہَا اَنْشَا کُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاقلہ تَوَبُّوا فعل وَاذ ضمیر فاعل اِلَیْہِ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط معذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق رَّبِّیْ مرکب اضافی منصوب تقدیراً اس کا اسم قَرِیْبٌ مُجِیْبٌ دو خبر بیان بالاسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

قَالُوْا یٰضِلْحَ قَدْ کُنْتَ فِیْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَا

اِنَّا لَفِیْ شَکِّ مِمَّا تَدْعُوْنَا اِلَیْہِ مُرِیْبٌ ﴿٢٢﴾

آیت نمبر ۲۲: قَالُوْا فعل باواذ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول بیانہ حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل اَنَا مستتر فاعل صَالِحٌ مبدائی ظلاً منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء، قَدْ علامت فعل کُنْتَ فعل ناقص قائم مفتوح ضمیر ذوالحال فِیْنَا ظرف مستقر کَلٰیْمَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اسم، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ذوالحال نہ بنایا جائے بلکہ فِیْنَا مَرْجُوًّا کا متعلق مقدم ہو۔ مَرْجُوًّا اسم مفعول اَنْتَ مستتر نائب فاعل قَبْلَ هٰذَا مرکب اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر شکیہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

ہَمْزہ حرف استفہام تَنْہٰی فعل اَنْتَ مستتر فاعل کا ضمیر مفعول بہ اَنْ حرف مصدری و نصب تَعْبُدُ فعل لَنْحُنْ مستتر فاعل مَا اسم موصول یَعْبُدُ فعل اِنَّا وَاو قائم مرکب اضافی فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتلازم مبدل منہ موصول بنوع

تقاضی تعلق کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل وصول ہو، متعلق بدلہ انشائیہ استفہامیہ ہو، واؤ استفہامیہ یا عاملیہ اِن حرف تحقیق ناقصیر اسم لازمہ مذکر مطلق، جملہ غائی موصوف میں حرف جار عام وصولیہ عموماً فعل اَنْتَ مستقر ناقص ناقصیر مفعول بہ الیہ جملہ جار مجرور متعلق ہوئے، پہلوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جملہ جار مجرور ظرف مستقر کا مین کے متعلق ہو کر غائی کی صفت اولیٰ موصیوب اسم ناقص ملہ مستقر ناقص سے مل کر صفت ثانیہ، موصوف باصطین مجرور، جملہ جار مجرور کا یثون کے متعلق ہو کر خبر بیان ہام ذخر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ یا تنہائی ناقصیر مفعول بہ سے ماں ہوں

قَالَ يُقَوْمِ اَرْءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيْ وَاتَّبِعْتُمْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُمْهُ فَمَا تَزِدُوْنَ نِيَّ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ۝۶۳

**آیت نمبر ۶۳:** قَالَ يُقَوْمِ اَرْءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيْ وَاتَّبِعْتُمْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُمْهُ فَمَا تَزِدُوْنَ نِيَّ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ۝۶۳  
 آیت نمبر ۶۳: قَالَ يُقَوْمِ اَرْءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيْ وَاتَّبِعْتُمْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُمْهُ فَمَا تَزِدُوْنَ نِيَّ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ۝۶۳  
 استفہامیہ ذمّیہ فعلیہ ناقصہ ضمیر ناقص اولیٰ دونوں مل کر جملہ استفہامیہ ہو کر نہادہ کا جواب، دونوں مل کر مفعول، قول باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو، اولیٰ ان حرف شرط کُنْتُ فعل ناقص تاء مضمومہ ضمیر اسم علی حرف جار بَيِّنَةٍ موصوف میں رَّبِّيْ ظرف مستقر کا مین کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصطین مجرور، جملہ جار مجرور کا یثون کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہام ذخر جملہ فعلیہ خبریہ مطوف علیہ، واؤ ماظہ اُنّی فعل ملہ مستقر ناقص ملہ کا یہ یناہہ ضمیر مفعول بہ وینہ ظرف مستقر کا مین کے متعلق ہو کر حال مقدم ہو، مینہ ذمّیہ، اولیٰ باصلہ مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل مفعولین، جملہ فعلیہ خبریہ مطوف، مطوف علیہ باعطفین شرط، فقاه جزائیہ میں استفہامیہ مبتدأ، یَنْصُرُنِي فعل ملہ مستقر ناقص ملہ و کا یہ کا یناہہ ضمیر مفعول بہ میں اللّٰہ طرف لغو ہو کر متعلق ہوئے، پہلوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ جار جملہ اسمیہ استفہامیہ جزاء شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

ان حرف شرط عَصَيْتُمْ فعل ناقص تاء مضمومہ ضمیر ناقصہ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور جزاء ممدوف ہے فَمَنْ يَنْصُرُنِي، فقاه ماظہ اور مطوف علیہ ممدوف ہے اَنْ اَعْمَلَنْ يَزِدْ نِيَّ كَيْفَ (تعمیر) تَزِدُوْنَ فعل ناقصہ ضمیر ناقص ملہ انوں کا یہ کا یناہہ ضمیر مضموب مفعول بہ اِنّ اَلْغَيْرَ تَخْسِيْرٍ مرکب اضافی بواسطہ موصوف ممدوف حقیقت کے مفعول بہ ثانی، پہلوں مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ مطوف، دونوں مل کر جملہ مطوف ہوں

وَ يُقَوْمِ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰیَةٌ فَذُرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝۶۴

**آیت نمبر ۶۴:** وَ يُقَوْمِ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰیَةٌ فَذُرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝۶۴  
 آیت نمبر ۶۴: وَ يُقَوْمِ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰیَةٌ فَذُرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝۶۴  
 لَكُمْ ظرف مستقر کا مین کے متعلق ہو کر حال مقدم اٰیَةٌ ذوالحال مرفوعہ، ذوالحال باصلہ نَاقَةُ اللّٰہ کا ماں ہے، ذوالحال باصلہ خبر، مبتدأ جار جملہ اسمیہ خبریہ جزاء نہادہ، جواب جملہ انشائیہ نہادہ ہے اولیٰ فقاه فصیح اور اس کی شرط ممدوف ہے اِنّ اَلْاَكْمَرُ كَمْذَلِكْ حَذُوْا فعل امر واد ضمیر ناقص ملہ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں، تانکل فعل ممدوف مستقر ناقص فی جملہ ارض اللّٰہ

مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط محذوفہ ان کَذُوْهُمَا کی جزاء ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔  
 واو عائد لا تَمْسُوْهُمَا یَسُوْءٌ قِيَاْمًا کُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ یہ لایکن مُسْکُمْ اِيَّاكُمْ یَسُوْءٌ فَاقْتَدُوْا کُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ کی  
 تکرار میں ہے اور پھر اس کی ترکیب ہوگی جو کہ واضح ہے اصل عبارت کے مطابق ترکیب نہیں ہو سکتی ورنہ جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر عطف  
 لازم آئے گا۔

**فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعَدَّ غَيْرُكُمْ ذُوْپٍ ۲۵**

**آیت نمبر ۲۵:** قاء عائد اور معطوف علیہ محذوف ہے۔ فَعَقَرُوْا مَأْمُوْرٌ وَايَةٌ عَقَرُوْا فَعَلٌ وَاوْضِعٌ فاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں  
 مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، قاء عائد قَال فاعل ہُو مستتر فاعل سے مل کر قول تَمَتَّعُوْا فاعل امر وَاوْضِعٌ فاعل ہا ضمیر ذوالحال فی دَارِكُمْ ظرف  
 مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِيزٌ بِالْمِيزِ مفعول فیہ، فعل ہا فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول  
 ہا مقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ محذوف ہا معطوفین جملہ معطوف ہوا۔ ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدا وَعَدَّ موصوف غَيْرُكُمْ ذُوْپٍ مرکب اضافی  
 صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

**فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالدِّينِ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ**

**رَبِّكَ هُوَ الْعَزِيْزُ ۲۶**

**آیت نمبر ۲۶:** قاء عائد لَمَّا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فاعل اَمْرُنَا مرکب اضافی فاعل، فعل ہا فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ  
 شرط، تَجَّيْنَا فاعل ہا ضمیر فاعل صَالِحًا معطوف علیہ، واو عائد الدِّينِ اسم موصول اَمْرُنَا فاعل وَاوْضِعٌ فاعل مَعَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ،  
 تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تَجَّيْنَا فاعل ہا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء،  
 شرط باجزاء جملہ شرطیہ معطوف ہوا۔ يَوْمِئِذٍ جارہ رَحْمَةٍ موصوف وِنَا ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت خبر، جار  
 باجرور ظرف مستقر مُتَلَبِّسِيْنَ کے متعلق ہو کر تَجَّيْنَا کی ضمیر فاعل سے حال ہے وَاوْضِعٌ مِّنْ جَارِهِ خِزْيٍ مضاف يَوْمِئِذٍ مرکب اضافی  
 مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف تَجَّيْنَا کے، جس پر تَجَّيْنَا نہ کو ر دلالت کر رہا ہے اِنَّ حرف  
 تحقیق رَبِّكَ مرکب اضافی اس کا اسم ہو ضمیر فاعل الْقَوِي الْعَزِيْزُ دو خبر، اِنَّ اسم و خبر، جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

**وَ اَخَذَ الدِّينِ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جُثِيْمِيْنَ ۲۷**

**آیت نمبر ۲۷:** واو استیفاء اَخَذَ فاعل الدِّينِ كَلِمَةٌ موصول باصلہ مفعول بہ مقدم الصَّيْحَةَ فاعل مَوْخِرٌ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ  
 خبریہ معطوف علیہ، قاء عائد اصْبِرْ فاعل تَا قس وَاوْضِعٌ اسم فاعل دِيَارِهِمْ ظرف لغو متعلق مقدم جُثِيْمِيْنَ اسم فاعل هُمْ مستتر فاعل  
 و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف مستانفہ ہوں۔

**كَانَ لَمْ يَخْتُوْا فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّا بَعْدَ اَلْتَمُوْدِ ۲۸**

**آیت نمبر ۲۸:** كَانَ مُنْفَعِدٌ مِنَ الشُّكْلِ ضمیر ہُمْ مقدر اس کا اسم لَمْ يَخْتُوْا فاعل وَاوْضِعٌ فاعل فِيْهَا جار باجرور متعلق ہوئے، تینوں



لں کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مکنان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اَصْبَحُوا کی خبر و اسم بالآکرن کُنُوا کَفَرُوا وَارْتَبَهُمْ کی ترکیب آرائین کا کا کَفَرُوا وَارْتَبَهُمْ کی طرح ہے جو آیت نمبر ۶۰ میں گزری ہے آلا حرف عمیہ بَعْدُ مفعول مطلق ہے فعل مخدوف بَعْدُ وَاکَابِلُ مَعْدُ جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل امر بافعل و مفعول مطلق و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

﴿۱﴾ ﴿۲﴾ ﴿۳﴾ ﴿۴﴾ ﴿۵﴾ ﴿۶﴾ ﴿۷﴾ ﴿۸﴾ ﴿۹﴾ ﴿۱۰﴾ ﴿۱۱﴾ ﴿۱۲﴾ ﴿۱۳﴾ ﴿۱۴﴾ ﴿۱۵﴾ ﴿۱۶﴾ ﴿۱۷﴾ ﴿۱۸﴾ ﴿۱۹﴾ ﴿۲۰﴾ ﴿۲۱﴾ ﴿۲۲﴾ ﴿۲۳﴾ ﴿۲۴﴾ ﴿۲۵﴾ ﴿۲۶﴾ ﴿۲۷﴾ ﴿۲۸﴾ ﴿۲۹﴾ ﴿۳۰﴾ ﴿۳۱﴾ ﴿۳۲﴾ ﴿۳۳﴾ ﴿۳۴﴾ ﴿۳۵﴾ ﴿۳۶﴾ ﴿۳۷﴾ ﴿۳۸﴾ ﴿۳۹﴾ ﴿۴۰﴾ ﴿۴۱﴾ ﴿۴۲﴾ ﴿۴۳﴾ ﴿۴۴﴾ ﴿۴۵﴾ ﴿۴۶﴾ ﴿۴۷﴾ ﴿۴۸﴾ ﴿۴۹﴾ ﴿۵۰﴾ ﴿۵۱﴾ ﴿۵۲﴾ ﴿۵۳﴾ ﴿۵۴﴾ ﴿۵۵﴾ ﴿۵۶﴾ ﴿۵۷﴾ ﴿۵۸﴾ ﴿۵۹﴾ ﴿۶۰﴾ ﴿۶۱﴾ ﴿۶۲﴾ ﴿۶۳﴾ ﴿۶۴﴾ ﴿۶۵﴾ ﴿۶۶﴾ ﴿۶۷﴾ ﴿۶۸﴾ ﴿۶۹﴾ ﴿۷۰﴾ ﴿۷۱﴾ ﴿۷۲﴾ ﴿۷۳﴾ ﴿۷۴﴾ ﴿۷۵﴾ ﴿۷۶﴾ ﴿۷۷﴾ ﴿۷۸﴾ ﴿۷۹﴾ ﴿۸۰﴾ ﴿۸۱﴾ ﴿۸۲﴾ ﴿۸۳﴾ ﴿۸۴﴾ ﴿۸۵﴾ ﴿۸۶﴾ ﴿۸۷﴾ ﴿۸۸﴾ ﴿۸۹﴾ ﴿۹۰﴾ ﴿۹۱﴾ ﴿۹۲﴾ ﴿۹۳﴾ ﴿۹۴﴾ ﴿۹۵﴾ ﴿۹۶﴾ ﴿۹۷﴾ ﴿۹۸﴾ ﴿۹۹﴾ ﴿۱۰۰﴾

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا اسْلَمَا قَالَ سَلِمَ فَمَا لِيكِ أَنْ جَاءَ

بِعَجَلٍ حَيْنِيذٍ ﴿۱﴾

آیت نمبر ۶۹: واؤ عاقلہ کلام موطن القسم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل جَاءَتْ فعل رُسُلُنَا قائل إِبْرَاهِيمَ مفعول بہ بِالْبَشْرَى ظرف لئو متعلق ہوئے، فعل بافعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم مخدوف کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا۔ قَالُوا فعل واؤ ضمیر قائل سے لں کہ جملہ فعلیہ خبریہ قول، سَلِمَا یہ اصل میں سَلِمْنَا تَلَامَا ہے سَلِمْنَا فعل نا ضمیر قائل سَلِمَا مفعول مطلق، تینوں لں کہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قَال فعل ہو مستتر قائل سے لں کہ قول سَلِمَ خبر ہے مبتدا مخدوف جَوَازِی کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قَاہ عاقلہ مَنَانِہ لِبَيْتِ فعل اَنْ مصدر یہ جَاءَ فعل ہو مستتر قائل بہ جہد با عَجَلٍ حَيْنِيذٍ مرکب توسیعی مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافعل و متعلق بتویل مصدر قائل، فعل بافعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

فَلَمَّا رَأَى اٰیٰتِيْهِمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ لُّوْطٍ ﴿۲﴾

آیت نمبر ۷۰: قَاہ عاقلہ لَمَّا شرطیہ زای فعل ہو مستتر قائل اٰیٰتِيْهِمْ مرکب انسانی ذوالحال لَّا تَصِلُ فعل ہی مستتر قائل اٰیٰتِيْهِمْ جہد با مجرور متعلق ہوئے۔ تینوں لں کہ جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافعل و مفعول بہ و مفعول فیہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط، لَكَرَ فعل ہو مستتر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں لں کہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاقلہ اَوْجَسَ فعل ہو مستتر قائل مِنْهُمْ ظرف مستقر کا کَيْفَةً کے متعلق ہو کر حال مقدم خِيفَةً ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، تینوں لں کہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ قَالُوا فعل ہواؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَّا تَخَفْ فعل ہی اَنْتَ مستتر قائل، دونوں لں کہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم اُرْسِلْنَا فعل جمول نا ضمیر نائب قائل اِن حرف جہد قَوْمٍ لُّوْطٍ مرکب انسانی مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل جمول نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

وَاَمْرًا اِنَّهٗ قَابِلَةٌ فَضَحِكْتَ فَبَشَّرْنٰهَا بِاسْحٰقٍ لَّو مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقٍ يَعْقُوْبُ ﴿۳﴾

آیت نمبر ۷۱: واؤ عالیہ اَمْرًا اِنَّهٗ مرکب انسانی مبتدا، قَابِلَةٌ اسم قائل ہی مستتر قائل سے لں کہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قَالُوا کی واؤ ضمیر سے حال ہے با جملہ مستانفہ ہے (روح) قَاہ ضمیر اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ لَكَ خَفْ وَا

امْرَاَتُهُ قَائِمَةً عَلَىٰ أُنُفُسِهِمْ صَاحِبَاتٌ لِّأُولِي الْأَرْحَامِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ مَا تَرَكَ لِوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ مَا تَرَكَ لِوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ مَا تَرَكَ لِوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

قَالَتْ يٰٓأَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّا كُنَّا نَعْتَدُ بِأَنَّكَ تَكْفُرُ بِهِمْ لَبِيبًا أَنتَ نَادِيَهُمْ فَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا مِّثْلَ مَا صَبَرْتَهُمْ فَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا مِّثْلَ مَا صَبَرْتَهُمْ فَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا مِّثْلَ مَا صَبَرْتَهُمْ فَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا مِّثْلَ مَا صَبَرْتَهُمْ

**آیت نمبر ۷۲:** قَالَتْ فُلٌ مِّمَّنْ تَقُولُ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ غَدَاةً مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَبْتَاعُ غَدَاةً مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَبْتَاعُ غَدَاةً مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَبْتَاعُ غَدَاةً مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَبِيبٌ

مَّجِيدٌ ﴿ ۷۳ ﴾

**آیت نمبر ۷۳:** قَالُوا فُلٌ مِّمَّنْ تَقُولُ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ غَدَاةً مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَبْتَاعُ غَدَاةً مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَبْتَاعُ غَدَاةً مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَبْتَاعُ غَدَاةً مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّفْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ۷۴ ﴾

**آیت نمبر ۷۴:** فَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿ ۷۵ ﴾



فَاءَ فَعِيْرٍ اَوْ رَأْسِ كِي شَرْطِ مَحْذُوفٍ ۚ اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ، يَا اِنَّ كُنْتُمْ رَاشِدِيْنَ اَلْفَعْلُ اَمْرٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاَعْلُ اَللّٰهُ مَفْعُوْلٌ بِهِ، تَمِيْرٌ لِّ اَنْ كَرِهْلَهُ اَلنَّشَاءُ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَاطِفٌ لَا تُحْزُوْا فَعْلٌ اَمْرٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاَعْلُ نَوْنٌ وَقَايَةُ كَايَاةٌ ضَمِيْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ فِيْ جَاهِ صَفِيْحٍ مَرْكَبِ اَضَائِيٍّ مَجْرُورٍ، جَاهِدًا مَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ جَمَلَةُ اَلنَّشَاءِ مَعْفُوْفٌ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفٍ جَزَاءً، شَرْطِ مَحْذُوفٍ بِاِجْرَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ۔ هَمْزٌ حَرْفِ اسْتِفْهَامٍ لَيْسَ فَعْلٌ نَاقِصٌ مِنْكُمُ غَرْفِ اسْتِقْرَاطِ كَايَاةَ كَيْتُكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْبَرٍ مَقْدَمٍ وَجُوْزٍ وَشَيْئًا مَرْكَبِ تَوْصِيْفِيٍّ اِسْمٍ مَوْخَرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٍ جَمَلَةٍ فَعْلِيَّةٍ اسْتِفْهَامِيَّةٍ هُوَ۔

قَالُوْا اَلْقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِيْ بَنِيَّتِكَ مِنْ حَقِّيْ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيْدُ ﴿٢١﴾

آیة نمبر ۲۱: قَالُوْا فَعْلٌ بِاِسْمٍ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاَعْلُ جَمَلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ لَّا هُوَ مَوْضِعٌ لِّلْقِسْمِ اَوْ حَسْمِ مَحْذُوفٍ ۚ هُوَ قَدْ عَلِمْتُمْ فَعْلٌ نَاقِصٌ لِّاَنَّهٗ مَلْتَوَدٌ ضَمِيْرٌ فَاَعْلُ مَا تَانِيَّةٌ لِّتَا غَرْفِ اسْتِقْرَاطِ كَايَاةَ كَيْتُكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْبَرٍ مَقْدَمٍ فِيْ بَنِيَّتِكَ غَرْفِ اسْتِقْرَاطِ كَايَاةَ كَيْتُكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْبَرٍ مَقْدَمٍ مِنْ جَاهِ زَائِدَةٍ حَقِّيٌّ عَظْمًا نَوْعِ اِدْوَالٍ مَوْخَرٌ، وَاَوْعَاطِفٌ لَّا هُوَ اِبْرَءَالٌ بِاِحَالٍ مَبْتَدَاً مَوْخَرٌ، مَبْتَدَاً خَبْرٍ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَاطِفٌ اَنْ حَرْفِ تَحْقِيْقِ كَايَاةَ كَيْتُكَ مَقْدَمٍ اِسْمٍ لَّا هُوَ مُدْحَقَةٌ تَعْلَمُ فَعْلٌ اَلَّتْ مُشْتَرَفَا عِلِّ مَا اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ لِّرِيْدٌ فَعْلٌ مُشْتَرَفَا عِلِّ مَلْ اِحْوَالٍ مَوْصُوْلٌ بِاِسْمٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، مَوْصُوْلٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٍ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفٍ عَكْلَتُكَ كَا مَفْعُوْلٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٌ بِهِ جَوَابٌ حَسْمٌ، حَسْمٌ اِجْرَابٌ حَسْمٌ مَقْرُوْلٌ، قَوْلٌ بِاِقَاعِلٍ جَمَلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هُوَ۔

قَالَ لَوْ اَنْ لِّيْ بِكُمْ قُوَّةٌ اَوْ اَوْحِيْ اِلَى رُكْنٍ شَهِيدِيْ ﴿٢٢﴾

آیة نمبر ۲۲: قَالَ لَوْ اَنْ لِّيْ بِكُمْ قُوَّةٌ اَوْ اَوْحِيْ اِلَى رُكْنٍ شَهِيدِيْ، تَمِيْرٌ لِّ اَنْ كَرِهْلَهُ اَلنَّشَاءُ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَاطِفٌ لَا تُحْزُوْا فَعْلٌ اَمْرٌ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاَعْلُ نَوْنٌ وَقَايَةُ كَايَاةٌ ضَمِيْرٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ فِيْ جَاهِ صَفِيْحٍ مَرْكَبِ اَضَائِيٍّ مَجْرُورٍ، جَاهِدًا مَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ هُوَ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٌ بِهِ وَمُتَعَلِّقٌ جَمَلَةُ اَلنَّشَاءِ مَعْفُوْفٌ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفٍ جَزَاءً، شَرْطِ مَحْذُوفٍ بِاِجْرَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ هُوَ۔ هَمْزٌ حَرْفِ اسْتِفْهَامٍ لَيْسَ فَعْلٌ نَاقِصٌ مِنْكُمُ غَرْفِ اسْتِقْرَاطِ كَايَاةَ كَيْتُكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْبَرٍ مَقْدَمٍ وَجُوْزٍ وَشَيْئًا مَرْكَبِ تَوْصِيْفِيٍّ اِسْمٍ مَوْخَرٌ، فَعْلٌ نَاقِصٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٍ جَمَلَةٍ فَعْلِيَّةٍ اسْتِفْهَامِيَّةٍ هُوَ۔

قَالُوْا اَلْيَلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصْلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الْاَيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا اَمْرًا تَاكَ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَا اَصَابَهُمْ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ

الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٢٣﴾

آیة نمبر ۲۳: قَالُوْا فَعْلٌ بِاِسْمٍ وَاَوْضَمِيْرٌ فَاَعْلُ جَمَلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٌ قَوْلٌ لَّا هُوَ مَوْضِعٌ لِّلْقِسْمِ اَوْ حَسْمِ مَحْذُوفٍ ۚ هُوَ قَدْ عَلِمْتُمْ فَعْلٌ نَاقِصٌ لِّاَنَّهٗ مَلْتَوَدٌ ضَمِيْرٌ فَاَعْلُ مَا تَانِيَّةٌ لِّتَا غَرْفِ اسْتِقْرَاطِ كَايَاةَ كَيْتُكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْبَرٍ مَقْدَمٍ فِيْ بَنِيَّتِكَ غَرْفِ اسْتِقْرَاطِ كَايَاةَ كَيْتُكَ مُتَعَلِّقٌ هُوَ كَرِخْبَرٍ مَقْدَمٍ مِنْ جَاهِ زَائِدَةٍ حَقِّيٌّ عَظْمًا نَوْعِ اِدْوَالٍ مَوْخَرٌ، وَاَوْعَاطِفٌ لَّا هُوَ اِبْرَءَالٌ بِاِحَالٍ مَبْتَدَاً مَوْخَرٌ، مَبْتَدَاً خَبْرٍ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، وَاَوْعَاطِفٌ اَنْ حَرْفِ تَحْقِيْقِ كَايَاةَ كَيْتُكَ مَقْدَمٍ اِسْمٍ لَّا هُوَ مُدْحَقَةٌ تَعْلَمُ فَعْلٌ اَلَّتْ مُشْتَرَفَا عِلِّ مَا اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ لِّرِيْدٌ فَعْلٌ مُشْتَرَفَا عِلِّ مَلْ اِحْوَالٍ مَوْصُوْلٌ بِاِسْمٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، مَوْصُوْلٌ بِاِسْمٍ وَخَبْرٍ جَمَلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ، مَعْفُوْفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوْفٍ عَكْلَتُكَ كَا مَفْعُوْلٌ بِهِ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٍ وَمَفْعُوْلٌ بِهِ جَوَابٌ حَسْمٌ، حَسْمٌ اِجْرَابٌ حَسْمٌ مَقْرُوْلٌ، قَوْلٌ بِاِقَاعِلٍ جَمَلَةُ فَعْلِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ هُوَ۔

کامل، ہنہ حرف جار قطع موصوف من الیل طرف مستقر کلین کے متعلق ہو کہ مفت موصوف ہفت جرد، ہجر اور متعلق ہوتے، فعل باقل و متعلق جملہ ثانیہ مطلق علیہ، واو عاقلہ لا یلتفت عمل لم یصلنک طرف مستقر کلین کے متعلق ہو کہ حال مقدم آئندہ اہل موخر، واو اہل باقل نامل، فعل باقل جملہ ثانیہ مطلق، مطلق علیہ با مطلق جزاء، شرطیہ جزاء، جملہ شرطیہ ہو۔

الإحرف استہما قرآنا کلمہ مرکب انشائیہ اقلیک سے مستثنی ہے اور عند البعض آئندہ کا مستثنی ہے یا ان حرف مشبہ فعل فاضل اس کا مضمون یہ ہے کہ انسانی خرقہ، ماس موصول اصلک فعل ہو متعلق فعل مضمون مفعول بہ، جنوں کی کہ ملہ موصول ہاسل مبتدا موخر، مبتدا خبر ان کی خبر، ان با م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہو۔ ان حرف تحقیق مضمون مضمون مرکب انسانی کا اسم الضمیح خبر بیان با م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ ہمزہ حرف استہمام لیس فعل ناقص الضمیح اس کا ہنہ جانہ ناکہ کو یب لنگا مجرد فلا منسوب خبر، لیس با م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہو۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّينٍ مِّن مَّوْءٍ

مَسْمُومَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ ذَوِّ مَآءٍ مِّنَ الظُّلُمِیْنِ بِبَعْدٍ

آیت نمبر ۸۲، ۸۳: فقاء عاقلہ لا یلتفت علیہ مفعول فی مقدم جہا فعل امو قنا مرکب انشائیہ نامل، فعل باقل جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ، جعلنا فعل ناقص خبر نامل عالیہا مرکب انشائیہ مفعول بہ اول ساقلہا مرکب انشائیہ مفعول بہ ثانی، فعل باقل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مطلق علیہ، واو عاقلہ اَمْطَرْنَا فعل ناقص خبر نامل عالیہا جہا مجرد متعلق ہوئے، حجابا موصوف من جہا مضمون مضمون مرکب تو سبلی مجرد، ہجر اور متعلق جملہ ثانیہ مطلق علیہ، واو عاقلہ لا یلتفت عمل لم یصلنک طرف مستقر کلین کے متعلق ہو کہ مفت اونی مسمومۃ ماس مفعول ہی مستقر باب نامل عند ربک مرکب انشائیہ مفعول فیہ، ام مفعول باب نامل و مفعول فیہ جملہ ہو کہ مفت ثانیہ، موصوف با مضمون مفعول بہ، فعل باقل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مطلق، مطلق علیہ با مطلق جزاء، شرطیہ جزاء، جملہ شرطیہ ہو۔ واو استہما فی مآء علیہ ہی خبر اس کا مضمون من الظلیمین جہا مجرد متعلق مقدم ہوئے ہنہ جانہ ناکہ کو یب مینہ مفت ہی مستقر نامل و متعلق مقدم سے ل کر خبر، مآء علیہ با م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿ ۸۲ ﴾ ﴿ ۸۳ ﴾

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

مُحِيطٍ ﴿ ۸۴ ﴾

آیت نمبر ۸۴: واو عاقلہ اِلَى مَدْيَنَ جہا مجرد طرف مستقر متعلق ہوئے فعل مذکور اَرْسَلْنَا کے باز سلتا فعل ناقص خبر نامل أَخَاهُمْ مرکب انشائیہ مبدل منہ شُعَيْبًا مبدل، مبدل منہ مبدل مفعول بہ، فعل باقل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مطلق ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اس کی ترکیب آیت نمبر ۶۱ میں دیکھیں۔ واو عاقلہ اَنْتُمْ تَنْقُصُوا فعل ناقص خبر نامل اَلْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ مطلق علیہ با مطلق مفعول بہ، جنوں کی کہ جملہ ثانیہ مطلق ہو۔ ان حرف تحقیق ہنہ خبر اس کا اسم ازی فعل انا مستقر نامل

کلمہ ضمیر مفعول بہ یخبر جار مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، اِنَّ بِالْاَسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِنَّ حرف تحقیق ثانیہ ضمیر اس کا اسم اَحْكَافٍ فعل اَنَا مستتر قائل عَلَيكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے عَذَابٍ مضاف یخبر مَرْمِجٍ مَرْكَبٍ تَوْسَلِيٍّ مضاف الیہ، مضاف باضاف الیہ مفعول بہ، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنَّ بِالْاَسْمِ وَخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف معلل ہوں

وَيَقَوْمٍ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْبَثُوا

فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۸۵﴾

**آیت نمبر ۸۵:** اَوْفُوا عطف یَا قَوْمِ یہ اصل میں یَا قَوْمِ ہی ہے اور یہ نداء ہے، اَوْفُوا فعل امر واو ضمیر زائدہ بِالْقِسْطِ ظرف مستقر عَادِلِينَ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل، وَالْمِيزَانَ وَالْمِكْيَالَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَبْخَسُوا فعل نہی واو ضمیر قائل النَّاسِ مفعول بہ اَذَلْ اَشْيَاءَهُمْ مَرْكَبٍ اضافی مفعول بہ ثانی، چاروں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا تَعْبَثُوا فعل نہی واو ضمیر ذوالحال مُفْسِدِينَ حال، ذوالحال باحال قائل فی الْاَرْضِ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جواب نداء، نداء با جواب نداء، جملہ انشائیہ نداء ہے ہوں

بَقِيَّتِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۸۶﴾ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿۸۷﴾

**آیت نمبر ۸۶:** بَقِيَّتِ اللّٰهِ مَرْكَبٍ اضافی مبتدأ، خَيْرٌ اسم تفضیل ہی مستتر قائل لَكُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، اسم تفضیل باقائل و متعلق ہے جملہ ہو کر خبر، مبتدأ جار جملہ اسمیہ خبریہ ہو اِنَّ حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص لَكُمْ ضمیر اس کا اسم مُؤْمِنِينَ اسم قائل اَنْتُمْ ضمیر قائل سے مل کر خبر، فعل ناقص بِالْاَسْمِ وَخبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور اس کی جڑاء محذوف ہے فَبَقِيَّتِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ، شرط باجڑاء جملہ شرطیہ ہو واو عاطفہ مَا نَا فِيهِ جملہ اسمیہ خبریہ اَنَا ضمیر اس کا اسم عَلَيكُمْ جار مجرور ظرف لَفَوْ متعلق مقدم ہوئے، بناء جارہ زائدہ حَفِيظٍ صیغہ صفت اَنَا مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مَا جملہ اسمیہ خبریہ ہو

قَالُوْا اِشْعَبِيْبُ اَصْلُوْكَ تَأْمُرُكَ اَنْ تَتَّوْكَ اَبَاؤَنَا اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ اِنَّكَ لَآلِئُ الْحَلِيْمِ الرَّشِيْدِ ﴿۸۸﴾

**آیت نمبر ۸۸:** قَالُوْا فعل باواو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِشْعَبِيْبُ یہ نداء ہے ہمہزہ حرف استفہام صَلَوَاتِكَ مَرْكَبٍ اضافی مبتدأ، تَأْمُرُ فعل ہی مستتر قائل کا ضمیر مفعول بہ اَنْ حرف مصدری و نصب تَتَّوْكَ فعل تَخُنٌ مستتر قائل مَا مَوْصُوْلٌ يَعْبُدُ اَبَاؤَنَا تَأْمُرُكَ مَرْكَبٍ اضافی قائل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ تَتَّوْكَ کا مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتناول مصدر معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ اَنْ مصدری تَفْعَلَ فعل تَخُنٌ مستتر قائل فی اَمْوَالِنَا جار مجرور ظرف لَفَوْ متعلق ہوئے، مَا مَوْصُوْلٌ نَشَآءُ فعل تَخُنٌ مستتر قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتناول مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف منصوب بزرع الحافض تَأْمُرُكَ کے متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ جار جملہ انشائیہ استفہامیہ جواب نداء، نداء

باجواب جملہ انتہائی مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستعمل ہو لہذا حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم لہذا مطلقاً آنت ضمیر مبتدا  
الْحَيِّدِ وَالزَّيْحِدِ وَخبر مبتدیانہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان کی خبریں ہوں گے اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ يَدَيْنَا مِنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ  
أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَيْتُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتِطَعْتُ وَمَا  
تُوْفِقُنِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

آیت نمبر ۸۸: قَالَ لعل ہو مستتر قائل سے ل کر قول یا ناقص خبریہ اصل میں یا ناقص خبریہ ہے اور یہ ندا ہے، تَوَكَّلْتُ یعنی اُخْبِرُوا نِي،  
أَخْبِرُوا نِي فعل امر اور ضمیر قائل نون و تاء کا پتہ ضمیر مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی مقدم ہے، قَالَ مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی مقدم ہے، رَزَقْنِي بِالْحَقِّ وَرِزْقِي بِالْحَقِّ مِنَ الْبَيْحِ  
وَالظُّلْمِ، لعل ہا قائل و مفعولین جملہ انتہائی ندا کا جواب، ندا اور اجواب مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لہذا حرف شرط کُنْتُ فعل  
ناقص تاکہ مضمومہ اسم حرف عمل جملہ بَيِّنَاتٍ موصوفہ میں رُزْقِي ظرف مستقر کا پتہ کے متعلق ہو کہ صفت، موصوفہ صفت مجرور، جملہ جار مجرور  
کُنْتُ کے متعلق ہو کہ خبر، فعل ناقص ہا ضم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مطلق علیہ سواؤ ماخذ رَزَقْنِي لعل ہو مستتر قائل نون و تاء کا پتہ ضمیر  
مفعول بہ و پتہ ظرف مستقر کُنْتُ کے متعلق ہو کہ حال مقدم رِزْقًا حَسَنًا کسب تو صیغہ ذواللہل متحرک ذواللہل باحال مفعول مطلق، فعل یا  
قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مطلق، مطلق علیہ یا مطلق شرط اور جزاء متخالف ہے، فَكُلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتُخَوِّنُ نِي وَخِيءَ (مظہری)  
شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَأَوْاسْتِغْنِي مَا نِي أُرِيدُ لعل آنا مستتر قائل ان حرف مصدریہ نصب أَخَالِفُ لعل آنا مستتر قائل کُنْ ضمیر مفعول بہ اول حرف جملہ دعا  
موصول اُنْھي فعل آنا مستتر قائل کُنْ ضمیر مفعول بہ، عَنَّہُ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مطلق،  
موصول باصل مجرور، جار مجرور أَخَالِفُ کے متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و مفعول بہ، متعلق بتدوین مصدر اُرِيدُ کا مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول  
بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لہذا نانی اُرِيدُ لعل آنا مستتر قائل اَلْاَحْرَابِ اسْتِغْنِي الْاِصْلَاحَ مفعول بہ، ما قریب مصدریہ اسْتِطَعْتُ فعل ہا قائل بتدوین  
مصدر وقت متخالف کا مطلق الیہ، مضارع باضعف علیہ مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو۔

وَأَوْماخذ مَا نِي تُوْفِقُنِي مَر كسب انشائی مبتدا اَلْاَحْرَابِ اسْتِغْنِي بِالْمَقْبُولِ ظرف مستقر کُنْتُ کے متعلق ہو کہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ  
ہو لہذا عَلَيَّ جار مجرور ظرف لعل مطلق مقدم ہوئے، تَوَكَّلْتُ فعل ناقہ مضمومہ ضمیر قائل و مطلق مقدم سے ل کر مطلق علیہ سواؤ ماخذ  
اُنِيبُ جار مجرور متعلق مقدم ہوئے، اُنِيبُ فعل آنا مستتر قائل، متعلق مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مطلق، مطلق علیہ یا مطلق جملہ  
مضمون ہو۔

وَيَقَوْمٍ لَا يُخْجِرُ مَتَكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ  
قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَوْ طُفِئَتْ مِنْكُمْ بَعِيدٌ ۝

آیت نمبر ۸۹: وَأَوْماخذ يَا قَوْمِ یہ اصل میں یا ناقص خبریہ ہے اور یہ ندا ہے، لَا يُخْجِرُ مِنْ لعل ہی کُنْ ضمیر مفعول بہ، فعل شِقَاقِي

مرکب اضافی نازل آن حرف مصدری و نصب یضییبت فعل کُذِّمَ ضمیر منصوب مفعول بہ، یعنی مضاف موصولہ اصحاب فعل ہو مستتر نازل  
قَوْمَ نُوْحٍ مرکب اضافی معطوف علیہ واو عاطفہ قَوْمَ نُوْحٍ مرکب اضافی معطوف الال او عاطفہ قَوْمَ ضلیح مرکب اضافی معطوف ثانی،  
معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ، فعل با نازل و مفعول بہ صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ قائل، فعل با نازل و مفعول بہ  
جملہ فعلیہ خبریہ بتولید مصدر لا یتجزی من کا مفعول بہ ثانی، فعل با نازل و مفعولین جملہ فعلیہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ  
ہو۔ واو عاطفہ ماخوذ از قَوْمَ نُوْحٍ مرکب اضافی اس کا اسم ہنکھہ جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے بآء جارہ ناکہہ یجیب صیغہ مفت ہو ضمیر  
قائل، صیغہ مفت با نازل و متعلق مقدم سے ل کر مآلی خبر، معانی اسم اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ یا معترضہ ہو۔

### وَأَسْتَغْفِرُكُمْ وَأُذَوِّدُكُمْ وَإِن رَّبِّي رَحِيمٌ ۝۱۰

آیت نمبر ۱۰: واو عاطفہ اِسْتَغْفِرُكُمْ وَاذُوِّدُكُمْ فعل امر واو ضمیر قائل رَبِّكُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، نَفْعٌ عاطفہ  
تُوِّدُكُمْ فعل امر واو ضمیر قائل اَلَيْهِ جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با نازل و متعلق سے ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔ اِن  
حرف تحقیق رَبِّي مرکب اضافی اس کا اسم و حینم وَاذُوِّدُكُمْ خبر اِن کا اسم و خبر اِن جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

قَالُوا يُشْعِبُكَ مَا تَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضِعْفًا ۝۱۱ وَلَوْلَا رَهْطُكَ

### لَرَجَجْنَاكَ وَمَا آتَيْتَ عَلَيْنَا يَعْزِيذُ ۝۱۲

آیت نمبر ۱۱: قَالُوا فعل باواو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، يُشْعِبُكَ یہ نداء ہے مآنانیہ نَفْعٌ فعل نَحْنُ مستتر قائل كَثِيرًا  
موصوف بہ جارہ موصولہ تَقُولُ فعل آتت مستتر نازل سے ل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر كَثِيرًا کے متعلق ہو کر  
صفت، موصوف با صفت مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اِن حرف تحقیق نَا ضَمِير اس کا اسم لہرہ مطلق تَزِي  
فعل نَحْنُ مستتر قائل كاف ضمیر منصوب مفعول بہ الال، فِينَا ظرف لغو تَزِي کے متعلق ضِعْفًا مفعول بہ ثانی، فعل با نازل و مفعولین جملہ  
فعلیہ خبریہ خبر اِن کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ واو عاطفہ لَوْلَا انشائیہ  
رَهْطُكَ مرکب اضافی مبتدا، اور خبر مذکورہ سے مؤجُود، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط لہرہ جو ایسے جَعْنَتًا فعل نَا ضَمِير قائل كاف ضمیر  
منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ واو عاطفہ مَا خُذِيَ اَنْتَ ضمیر مرفوع منفصل، اسم عَلَيْنَا جار  
با مجرور متعلق مقدم ہوئے بآء جارہ ناکہہ عَزِيذُ صیغہ مفت اَنْتَ مستتر قائل و متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، معانی اسم اور خبر سے  
ل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

قَالَ يَقَوْمِ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَوَأَتَّخِذُكُمْ وَرَاءَ كُمُ ظَهْرِيَا وَإِن رَّبِّي بِمَا

### تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝۱۳

آیت نمبر ۱۲: قَالَ فعل ہو ضمیر مستتر نازل سے ل کر قول، يَا قَوْمِ یہ اصل میں يَا قَوْمِي ہے اور یہ نداء ہے، ہمزہ حرف استفہام



یعنی مرکب اسانی مبتدہ اَعُوْا م تفضیل ہو مستتر فاعل عَلَيَّ كُمْ ہر جا جرد متعلق ہوئے ہیں حرف جار لفظاً اَلْبَعْدُ وَالْاَوَّلُ جملہ اَتَّخَذْتُكُمْ لعل كُمْ ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول بہ لائل و زاء اَعُوْا كُمْ مرکب اسانی مفعول غیر ظہور یا مفعول بہ جلی لعل باقاعل و داخل جملہ علیہ جملہ فعلیہ خبریہ مائل و ناقص مال مال جرد و ہر جا جرد اَعُوْا کے متعلق جلی ہوتے اسم تفضیل باقاعل و متعلقین خبر مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ انتہائیہ عمادہ کا جواب عمادہ با جواب جملہ انتہائیہ ثانیہ ہو کر مفعول و قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو اِن حرف تحقیق یعنی مرکب اسانی اس کا اسم بناء جملہ موصولہ تَقْتُلُوْنَ لعل باقاعل ضمیر فاعل صلہ موصول با صلہ جرد و ہر جا جرد متعلق مقدم ہوئے مُجِيبًا اسم ناقص ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر اِن با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

وَيَقُوْمِرْ اَعْمَلُوْا اَعْلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَاوِمٌ ۙ مَسُوْفٌ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَن يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ  
وَمَن هُوَ كَاذِبٌ ۙ اَوْ اَزْتَبٰوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۲۹:** اَو اَعْمَلُوْا يَّاقُوْمِيْہ اے اصل میں یا قومی ہے اور یہ عمادہ ہے اَعْمَلُوْا فعل امر واہ ضمیر ذوالحال علی مَكَانَتِكُمْ جملہ جار جرد طرف مستتر ہو صُوْمُوْا فِعْلٌ کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باقاعل فاعل و لعل باقاعل جواب عمادہ عمادہ کا جواب جملہ انتہائیہ معطوفہ ہو اِن حرف تحقیق یا قومیہ میں اس کا اسم عَاوِمٌ اسم ناقص اَنَا مستتر فاعل سے مل کر خبر اِن با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو اِن حرف تحقیق یا قومیہ میں اس کا اسم لعل واہ ضمیر فاعل من مفعول یا قومی لعل ہ ضمیر مفعول بہ عَذَابٌ موصولہ یخْزِيْ لعل ہو ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ لعل باقاعل و مفعول بہ صفت موصولہ با صفت یا قومی کا فاعل و لعل باقاعل و مفعول بہ سے مل کر صلہ موصول با صلہ معطوف علیہ واو اعطف صُن موصولہ ہو ضمیر مبتدہ کا ذب خبر مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول با صلہ معطوف و معطوف علیہ با معطوف تَقْتُلُوْنَ کا مفعول بہ لعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو واو اعطف اَزْتَبٰوْا لعل واہ ضمیر فاعل و لعل باقاعل جملہ انتہائیہ معطوفہ ہو اِن حرف تحقیق یا قومیہ میں اس کا اسم مَعَكُمْ مرکب اسانی مفعول فی مقدم رَقِيْبٌ مینہ صفت اس میں ضمیر اَنَا مستتر فاعل مینہ صفت باقاعل و مفعول فی مقدم سے مل کر خبر اِن با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ منظر ہوں

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۙ وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ  
كَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَاصْبِرُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِيْمِيْنَ ﴿۳۲﴾

**آیت نمبر ۳۰:** وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا اس کی ترکیب آیت نمبر ۲۸ و ۲۹ سے اور واو اعطف اَخَذَتِ لعل اَلَّذِيْنَ كَلَمُوا ا موصول با صلہ مفعول بہ الصَّيْحَةَ فاعل و تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ عمادہ اعطف اَصْبِرُوْا لعل ناقص واہ ضمیر اس کا اسم فی و یکار ہنہ طرف لغو متعلق مقدم ہوئے جٰثِيْمِيْنَ اسم ہنہ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر جملہ ناقص واہ خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف و معطوف علیہ با معطوف تَقْتُلُوْنَ ہر جا جرد معطوف ہے

كَانَ لَمْ يَغْتَوِا فِيْهَا اَلَا بُعْدًا لِمَدِيْنٍ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُوْدُ ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۳۱:** كَانَ لَمْ يَغْتَوِا فِيْهَا اس کی ترکیب آیت نمبر ۲۸ و ۲۹ سے اور واہ ضمیر اَلَا حرف حمیر یعنی مفعول مطلق ہے لعل مفعول

يَعْدُوْا كَالْيَدِيْنَ جَارِ بِاَجْرٍ و فعل مخدوف کے متعلق ہے کاف جارہ ما مصدریہ یعدت فعل تکوید قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ بتداول مصدر مجرور، جار مجرور کا تئیک کے متعلق ہے، فعل باقائل و مفعول مطلق و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہوں

﴿ ۱۱ ﴾ رُكُوْعٌ ۹ ﴿ ۱۲ ﴾

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِآيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۹۹: ۱۱ و اوستینا یہ لامر موطن القسم اور قسم مخدوف ہے قد علامت فعل ارسَلْنَا فعل نا ضمیر قائل موسیٰ ذوالحال بآء جارہ ایتنا مرکب انشائی معطوف علیہ، واو عاطفہ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ مرکب توصیفی معطوف، دونوں مل کر مجرور، جار مجرور طرف مستقر مُمْتَلِكِيْنَ سَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متنافیہ ہوں

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلٰٓئِئِهٖ فَاتَّبَعُوْا اَمْرًا فِرْعَوْنَ ۚ وَ مَا اَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۰۰: ۱۲ ای حرف جار فِرْعَوْنَ وَ مَلٰٓئِئِهٖ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور ارسَلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ اَتَّبَعُوْا فعل واو ضمیر قائل اَمْرًا فِرْعَوْنَ مرکب انشائی ذوالحال واو حالیہ مآشایہ " یہ کیسے اَمْرًا فِرْعَوْنَ مرکب انشائی اسم بآء جارہ نامکہ رَشِيْدٍ مینہ صفت ہو مستقر قائل سے ل کر کفلاً منصوب خبر، صآ جتاریہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال اَتَّبَعُوْا کا مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں

يَقْدُمُ قَوْمُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاُوْرَدَهُمُ النَّارَ ۗ وَ يَبْسُ الْوُرُوْدُ الْمُوْرُوْدُ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۹۸: ۱۳ یَقْدُمُ فعل ہو مستقر قائل قَوْمُهٗ مرکب انشائی مفعول بہ یَوْمَ الْقِيٰمَةِ مرکب انشائی مفعول فیہ، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاطفہ اُوْرَدُ فعل ہو مستقر قائل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول اَلنَّارِ مفعول بہ ثانی، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف متنافیہ ہوں واو حالیہ یَبْسُ فعل ذم الوُرُوْدُ الْمُوْرُوْدُ مرکب توصیفی قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ انشائیہ خبر، اور مخصوص بالذم مبتدا مخدوف ہے النَّارُ، مبتدا با خبر النَّارُ سے حال ہے۔

وَ اَتَّبَعُوْا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ يَبْسُ الْوُرُوْدُ الْمَزْفُوْدُ ﴿۱۴﴾

آیت نمبر ۹۹: ۱۴ وَ اَتَّبَعُوْا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اس کی ترکیب آیت نمبر ۹۸ میں دیکھیں یَبْسُ فعل ذم اَلْوُرُوْدُ الْمَزْفُوْدُ مرکب توصیفی قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ انشائیہ خبر، اور مخصوص بالذم مبتدا مخدوف ہے جَهَنَّمَ، مبتدا با خبر اسمیہ انشائیہ متنافیہ ہوں

ذٰلِكَ مِنَ الْاَنْبِآءِ الْقُرٰى نَقْصُهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَابِلٌ وَّ حَصِيْدٌ ﴿۱۵﴾

آیت نمبر ۱۰۰: ۱۵ ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدا، من حرف جار اَلْاَنْبِآءِ الْقُرٰى مرکب انشائی مجرور، جار مجرور طرف مستقر کَلٰٓئِنِ کے متعلق ہو کر خبر اول، نَقْصٌ فعل تَخْنِ مستقر قائل نا ضمیر مفعول بہ عَلَيْكَ جار مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثانی، مبتدا با خبر من جملہ اسمیہ خبریہ ہوں مِنْهَا طرف مستقر کَلٰٓئِنِ کے متعلق ہو کر خبر مقدم قَابِلٌ وَّ حَصِيْدٌ معطوف علیہ با معطوف مبتدا ابوخر، مبتدا با

خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستند ہو، اور متعلق بعض نفعیہ کی ضمیر منقول بہ سے ملے ہے۔

وَمَا كَلَّمْنَاهُمْ وَلَا لَكِن كَلَّمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ مِنْ عَشْيٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَحَيَّبِ ۝

**آیت نمبر ۱۱:** او او ایستیا نے یا معاند ممانا یہ کلمتنا فعل کا ضمیر قائل ہے ضمیر مشبوع ذوالحال و او مایہ لیکن حرف استدراک حملہ کلمتو افعول و او ضمیر قائل الہتہم مرکب انسانی منقول بہ، حیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، قاء معاند ممانا الہتہم فعل عنہم جدا مجرور متعلق ہوئے الہتہم مرکب انسانی موصوف الیق ام سوسول یدعون فعل و او ضمیر ذوالحال من دون اللہ طرف مستقر متجانس و ذین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل، دونوں مل کر صل، سوسول باصل الہتہم کی صفت، موصوف ہفت، آغنت کا قائل میں بدہ ناکہ و بقیہ و فلا مشبوع منقول بہ، آغنت فعل باقائل و متعلق و منقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، ذوالحال باحال کلمتنا کا منقول بہ، فعل باقائل و منقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو اسکا ضمیر منصف جآء فعل اموز ربک مرکب انسانی قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منصف الیہ، منصف باصناف الیہ آغنت کا منقول بہ ہے، او او معاند ممانا یہ زانو افعول و او ضمیر قائل ہے ضمیر منقول بہ اول، غیو تکتیبہ مرکب انسانی منقول بہ، ہائی، چہوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ما آغنت پر معطوف ہے۔

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ كَأَلِيمَةٌ إِنَّ آخِذَةَ الْآيَاتِ كَأَلِيمَةٌ ۝

**آیت نمبر ۱۲:** او او اظہر کذلیک عرف مستقر کالین کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ آخذ مصدر مضارع ربک مرکب انسانی منصف الیہ، إذا حرف زمان منصف آخذ، فعل ہو مستقر فال القرآنی ذوالحال و او مایہ ہی ضمیر مبتدہ کالینہ خبرا مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ماں ذوالحال باحال آخذ کا منقول بہ، فعل باقائل و منقول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ایذا کا منصف الیہ، منصف باصناف الیہ آخذ کا منقول بہ، مصدر منصف باصناف الیہ و منقول بہ مبتدہ اسخر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ ان حرف تخبیث آخذہ مرکب انسانی اس کا اسم الیظہ صلیقہ خبریہ ان با سوسول خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مشبوع ہو۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ الْعَذَابَ الْآخِرَةَ ۝ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لِّلنَّاسِ وَ ذَٰلِكَ

يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝

**آیت نمبر ۱۳:** ان حرف تخبیث فی ذلیک عرف مستقر کالینہ کے متعلق ہو کر خبر مقدمہ کلام نہ مطلق آیۃ موصوف کلام حرف جدا منقن ام سوسول خان فعل ہو مستقر فال عذاب الآخیرۃ مرکب انسانی منقول بہ، فعل باقائل و منقول بہ صل، سوسول باصل مجرور، جدا مجرور عرف مستقر کالینہ کے متعلق ہو کر آیۃ کی صفت، موصوف ہفت ام سوسولین با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں ذلیک اسم مبتدہ مبتدہ، یوم موصوف مجتموع اسم منقول لہ جدا مجرور متعلق ہوئے الناس نائب قائل، اسم منقول باناب قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر یوم کی صفت، موصوف ہفت خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ او او اظہر ذلیک اسم اشارہ مبتدہ، یوم مشہود مرکب توسلنی خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

**وَمَا تَوْجِهُهُ إِلَّا لِاجْلٍ مَعْدُودٍ ﴿۱۰۳﴾**

**آیت نمبر ۱۰۳** تَوَجَّهَ: توجہ دینا اور عاقلہ مانتا ہے، تَوَجَّهَ: فعل، تَحْنُ: مستتر قائل، ضمیر مفعول بہ، إِلَّا حرف استثناء لاکر جارہ اجلی مَعْدُودٍ مرکب توصیفی مجرور، جار باجور، مستثنیٰ مفرغ متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِأُذُنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيْقٌ وَسَعِيْدٌ ﴿۱۰۵﴾**

**آیت نمبر ۱۰۵** يَوْمَ: متعلق، مضاف، يَأْتِ: فعل، تَحْنُ: مستتر قائل، دونوں مل کر مضاف الیہ، مضاف، مضاف الیہ مفعول فیہ مقدم، لَا تَكَلَّمُ: فعل، نَفْسٌ قائل، إِلَّا حرف استثناء یا لکنہ جار باجور، مستثنیٰ مفرغ ہو کر متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ فَكَلَّمَ تفریحیہ و مِنْهُمْ ظرف مستتر کلین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، شَقِيْقٌ مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر معطوف علیہ و اَوْ عاقلہ سَعِيْدٌ مبتدأ اور اس کی خبر و مِنْهُمْ مخدوف ہے، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، دونوں مل کر جملہ معطوف منقطہ ہوں۔

**فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِی النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ ﴿۱۰۶﴾**

**آیت نمبر ۱۰۶** أَفَاءَ: عاقلہ برائے تفصیل، أَمَّا حرف شرط، الَّذِينَ اسم موصول شَقُوا فعل، باداؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ متضمن معنی شرط مبتدأ، فَكَلَّمَ جزا سیفی النَّارِ ظرف مستتر کلین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ لاکر جارہ هُمْ ضمیر مجرور، جار باجور، ظرف مستتر کلین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، فِيهَا ظرف مستتر کلین کے متعلق ہو کر حال مقدم، زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعٰلٌ لِّمَا**

**يُرِيْدُ ﴿۱۰۷﴾**

**آیت نمبر ۱۰۷** خُلِدِيْنَ: اسم قائل، هُمْ ضمیر پوشیدہ، مستثنیٰ منہ، إِلَّا حرف استثناء، مَا یعنی مَنْ، اسم موصول شَاءَ فعل، رَبُّكَ مرکب اضافی قائل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ، مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ، مستثنیٰ خُلِدِيْنَ کا قائل، فِيهَا جار باجور، متعلق ہوئے، مَا مصدر یہ دامت فعل السَّمٰوٰتُ وَّ الْاَرْضُ معطوف علیہ با معطوف قائل، فعل باقاعل بنا و مل مصدر وقت مضاف معطوف کا مضاف الیہ، مضاف، مضاف الیہ خُلِدِيْنَ کا مفعول فیہ، اسم قائل، باقاعل و متعلق و مفعول فیہ حال ہے، فِي النَّارِ کے متعلق کلین کی ضمیر قائل سے۔ اِنَّ حرف تحقیر، رَبُّكَ مرکب اضافی اِنَّ کا مفعول، فَكَلَّمَ مبتدأ، هُوَ مستتر قائل لاکر جارہ مَا اسم موصول یُرِيْدُ فعل، مستتر قائل، دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجور، متعلق ہوئے، صیغہ مبالغہ باقاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منقطہ ہوں۔

**وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِی الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا**

**شَاءَ رَبُّكَ ط عَطَا ءٌ غَيْرَ مَجْدُوْدٍ ﴿۱۰۸﴾**

**آیت نمبر ۱۰۸** وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِی الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ

وَيَلْكَ اس کی ترکیب آیت نمبر ۱۰۶ء کی ترکیب کے مطابق ہے عِظَاءُ موصوف غَيْرُ مَجْدُوذٍ مرکب تو سنی مفت، موصوف ہفت  
مفعول مطلق فعل مخدوف لُغَطِي كَا۔ (روح المعانی)

فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةِ مَبَا يَعْبُدُ هُوَ لَاءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ مَا  
إِنَّا لَنُوقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۝

آیت نمبر ۱۰۹: فاء استینافیہ لا تَكُ لعل لئی اَنْتَ مستقر فاعل فی جادہ مَرْيَةِ موصوف وین جادہ مَا موصولہ يَعْبُدُ فعل هُوَ لَاءٌ اسم  
اشادہ فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول ہاسلہ مجرور جادہ با مجرور ظرف مستقر کَائِنَةِ کے متعلق ہو کر مَرْيَةِ کی مفت، موصوف ہفت مجرور، جادہ  
با مجرور ظرف مستقر کَائِنَةِ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ مستانفہ ہول مَبَا تَائِي يَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر فاعل اِلَّا حرف  
استثناہ کاف حرف جار ماصدریہ يَعْبُدُ فعل اَبَاؤُهُمْ مرکب انشائی ذوالحال وین قَبْلُ ظرف مستقر کَائِنَتِیْنِ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال  
بامال فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بتالیں مصدر مجرور، جادہ با مجرور ظرف مستقر کَائِنَةِ کے متعلق ہو کر مستثنی مفرغ ہو کر عِبَادَتَا  
موصوف کے واسطے سے مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ (روح المعانی) واو عاظف ان حرف تحقیق نا  
ضمیر اس کا اسم لامر نہ ملنے مَوْفُوْا اسم فاعل مضاف هُمْ ضمیر مضاف الیہ نَصِيبُهُمْ مرکب انشائی ذوالحال غَيْرُ مَنقُوصٍ مرکب انشائی حال،  
ذوالحال بامال مفعول بہ، اسم فاعل مضاف بمضاف الیہ و مفعول بہ شہ جملہ ہو کر خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول

﴿ رُكُوْعٌ نَمْبِرٌ ۱۰ ﴾

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مَوْسٰى الْكِتٰبَ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقَفُوْا  
بِئْسَ نَهْمًا ؕ وَاِنَّهُمْ لَلْبٰسُ ۝

آیت نمبر ۱۰: واو استینافیہ لآمر مَوْسٰى لکم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل اٰتَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل مَوْسٰى مفعول بہ اول  
الکِتٰبَ مفعول بہ ثانی، چادوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مقام عاظف اُخْتَلَفَ فعل مجهول هُوَ مستقر تَاب فاعل و فِيْهِ جار با مجرور متعلق  
ہوئے، فعل مجهول تَاب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم مخدوف قسم اجواب جملہ انشائیہ قسمیہ  
ہول واو عاظف لَوْلَا انشائیہ کَلِمَةٌ موصوف سَبَقَتْ فعل ہی مستقر فاعل وین رَبِّكَ جار با مجرور متعلق ہونے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ  
صفت، موصوف ہفت مبتدأ اور خبر مخدوف ہے مَوْجُوْدَةٌ مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرطا لآمر جوابیہ قَفِيْضٍ فعل مجهول هُوَ مستقر تَاب فاعل  
یٰۤیْنَ مضاف هُمْ ضمیر مضاف الیہ مرکب انشائی مفعول فیہ، تیوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ واو عاظف اِنْ  
حرف تحقیق هُمْ ضمیر اسم لامر نہ ملنے فَاخْتَلَفَ حرف جار حلقی موصوف وینہ جار با مجرور ظرف مستقر کَلِمَتِیْنِ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ معرُوبِی  
صفت ثانیہ، موصوف با مستقر مجرور، جادہ با مجرور ظرف مستقر کَلِمَتُوْنَ کے متعلق ہو کر خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہول

وَ اِنْ كَلَّا لَمَّا لِيَوْفِيْتَهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

آیت نمبر ۱۱: واو استینافیہ اِنْ حرف تحقیق كَلَّا اس کا اسم لَمَّا اصل میں لکن مآ ہے، لآمر نہ ملنے مِّنْ اَسْمِ موصول مآ تَائِي كَلَّا

مقدر يُعْطُوا (منظہری) فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل سے مل کر صلہ موصولہ باصلہ خبر بیانِ اہم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں (مفصل الاظہری) لہر موسطہ لغزم اور قسم مخدوف ہے یُوْفِقِنَ فعلُ مُضَمَّرٌ مفعول بہ اَوَّلُ رَبَّنَا رَبَّنَا فاعل اَعْمَا اَلْهَمْ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم جاء جارہ ما یَعْمَلُوْنَ موصولہ باصلہ مجرور، جار باجرور و متعلق مقدم مَحْبُوْبُوْہِ مینہ صفت ہو متعلق فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر بیانِ اہم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

فَاسْتَقِمْ كَمَا اَمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: استقامت نصیحت اور شرط مخدوف ہے اِنَّا كُنَّا اَلَا اَمْوَرًا كَذٰلِكَ اِسْتَقِمْ فعل امر انت متعلق معطوف علیہ واو عاطفہ مِنْ اِسْمِ

موصول تَابَ فعل ہو متعلق فاعل مَعَكَ مرکب اضافی مفعول فیہ، تَبَوُّل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصولہ باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف فاعل بیان حرف جارہ ما مصدریہ اَمِرْتُ فعل مجہول تَاء ضمیر مفتوحہ نائب فاعل، دونوں مل کر بتاویں مصدر مجرور، جار باجرور و کَلِمَةً کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف اِسْتِقَامَةً کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو عاطفہ لَا تَطْغَوْا فعل نہی واو ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

سوال: ضمیر مرفوع متصل پر کسی اسم کے عطف کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر مرفوع مفصل کے ساتھ تاکید لائی جائے اور یہاں تاکید نہیں لائی، تو پھر مَنْ تَابَ کا عطف اِسْتَقِمْ کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ پر کیسے کیا گیا ہے؟

جواب: یہاں تاکید لاء بغیر عطف اس لئے کیا گیا ہے کہ درمیان میں فاصلہ آیا ہے۔ (فلا اشکال)

اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حَبِيْبُوْہِ کی طرح ہے جو آیت نمبر ۱۱ میں گزری ہے

وَلَا تَرْكَبُوْا اِلَى الدِّیْنِ ظُلْمًا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۗ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ

ثُمَّ لَا تَنْصُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: واو عاطفہ لَا تَرْكَبُوْا اِلَى الدِّیْنِ ظُلْمًا یَا لَیْكُنْ وَّلَا تُكُوْلُكُمۡ اِلَى الدِّیْنِ ظُلْمًا وَاٰی اِلٰہِیْنَ مَعًا ہے لَیْكُنْ فعل نہی

وَكُوْنُ مصدر مضاف كُفُّ ضمیر مضاف الیہ الی حرف جارہ اَلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اموصولہ باصلہ مجرور، جار باجرور و متعلق ہوئے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ و متعلق سے مل کر معطوف علیہ، فقہ سیبہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے تَمَسَّسَ فعل كُفُّ ضمیر مفعول بہ اَلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویں مصدر معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَا یَكُوْنُ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ انشائیہ نہی ہوں۔ واو عاطفہ مَا تَابِہِ لَكُمۡ ظَرْفِ سِقْرِ کَلِمَةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ظَرْفِ سِقْرِ کَلِمَةً کے متعلق ہو کر حال مقدم مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ظَرْفِ سِقْرِ کَلِمَةً لَنْظَرِہِمْ مَعًا مرفوع ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدئہ مؤخر، مبتدئہ باجرور جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، كُفُّ عاطفہ لَا تَنْصُرُوْنَ فعل مجہول واو ضمیر نائب فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ متلفہ ہوں۔

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَرَلْقًا مِّنَ الَّیْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُدْہِبْنَ السَّیِّاٰتِ ۗ اَذٰلِكَ

ذُكْرِى لِلذَّكْرِ لِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۳۳:** واو استثنایہ آیت فعل امر آنک مستقر قائل الصلوة منقول یہ ظن فی التَّهَارُ مرکب اسنادی معلوف علیہ واو عاقلہ ذُنُقًا موصوف من الیالی طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفت، موصوف بہفت معلوف، معلوف علیہ با معلوف آیتہ کا مفعول ہے، فعل با قائل و مفعولین جملہ ثنائیہ امریہ ہو لہذا حرف تَحْقِيقِ الْعَسْنِيَّتِ اس کا اسم کُذِّهْنِ فعل نون منقود قائل اَنْتِ يَنْتَبِهُنَّ منقول ہے۔ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اَنْتِ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا اذَلِکَ اسم اشارہ مبتدا کُذِّی موصوف لیدلُّ کُیوْنِ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفت، موصوف بہفت خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستفادہ ہو۔

وَ اَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۳۵:** واو عاقلہ اَصْبِرْ فعل امر آنک مستقر قائل سے مل کر جملہ ثنائیہ آیتہ پر معلوف ہے۔ فاء تعلیلیہ اَنْ حرف تَحْقِيقِ لفظ اللّٰه اسم لا يُضِيعُ فعل ہو مستقر قائل اَنْجُو الْمُحْسِنِيْنَ مرکب اسنادی مفعول ہے۔ تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر اَنْتِ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

فَلَوْ لَا كَانِ مِنَ الْقُرْۤوٰنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اَوْ لَوْ اَبَقْتُمْ يَنْتَهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمۡ وَ اتَّبَعِ الَّذِيْنَ كَلَّمُوۡا مَا اَنْزَرُوۡا فِيْهِ وَ كَانُوۡا مُصْجِرِيۡنَ ۝

**آیت نمبر ۱۱۶:** فاء استثنایہ لَوْ لَا حرف تَحْقِيقِ كَانَ فعل تامہ من حرف جہد الْقُرْۤوٰنِ ذوالحال میں قَبْلِكُمْ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال مجرد، جہد با مجرد گن کے متعلق ہوئے اَوْ لَوْ اَبَقْتُمْ مرکب اسنادی موصوف يَنْتَهَوْنَ فعل واو ضمیر قائل عن حرف جہد الْقُرْۤوٰنِ مصدر فی الأرض جہد با مجرد مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر با متعلق عن کا مجرد، جہد با مجرد يَنْتَهَوْنَ کے متعلق ہوئے، تینوں مل کر مفت، موصوف بہفت كَانَ قائل، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

اِلَّا حرف استثناء یعنی لِيْنَ - قَلِيْلًا مِّمَّنْ حرف جہد من اسم موصول اَنْجَيْنَا فعل واو ضمیر قائل، فعل با قائل صلہ، موصول با صلہ ذوالحال و متعلقہ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال جن کے لئے مجرد، جہد با مجرد طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفت، موصوف بہفت لِيْنَ کا اسم، حرف جر متصرف ہے تَهَوُّ اَعْيُنِ الْفَسَادِ واو عاقلہ اَصْبِرْ موصوف علیہ متصرف ہے قَلِيْلًا يَنْتَهَوْنَ اَعْيُنِ الْفَسَادِ اَتَّبَعِ فعل اَلَّذِيْنَ اسم موصول كَلَّمُوۡا فعل واو ضمیر قائل سے مل کر صلہ، موصول با صلہ قائل مَا موصول اسم موصول اَنْزَرُوۡا فعل محمول واو ضمیر نائب قائل فِيْهِ جہد با مجرد متعلق ہوئے، فعل محمول با نائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معلوف علیہ واو عاقلہ كَلَّمُوۡا فعل ناقص واو ضمیر اَعْيُنِ موصوف جہد موصوف من لِيْنَ قائل هُوَ ضمیر مستقر قائل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معلوف، معلوف علیہ با معلوف صلہ، موصول با صلہ اَتَّبَعِ کا مفعول ہے، فعل با قائل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معلوف ہے، معلوف علیہ متصرف با معلوف جملہ معلوف ہو۔

**وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِٰلِحُونَ ﴿۱۰﴾**

**آیت نمبر ۱۰:** او ایستہا یہ مآکانہ کان فعل ناقص رَبُّكَ مرکب انسانی فاعل لاہر محمد یہ جارہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے فُهِلِكَ فعل ہو مستتر فاعل بِظُلْمٍ ظرف مستقر مُتَّكِئِينَ کے متعلق ہو کر فُهِلِكَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے الْقُرَى ذوالحال واو حالہ اھلہا مرکب انسانی مبتدأ، مُصِٰلِحُونَ اسم فاعل ہُمُ مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اس یہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فُهِلِكَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ خبریہ بتاول مصدر مجرور، جار مجرور و طرف مستقر مُرِيدًا کے متعلق ہو کر کان کی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستأنف ہو۔

**وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَذُرُّونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿۱۱﴾ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۲﴾**

**آیت نمبر ۱۱، ۱۲:** او ایستہا یہ لو حرف شرط شَاءَ فعل رَبُّكَ مرکب انسانی فاعل، دونوں مل کر شرط لاہر جوابیہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل النَّاسِ مفعول بہ، ازل أُمَّةً وَاحِدَةً مرکب تو صبی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَیْذُرُّونَ فعل ناقص واو ضمیر مستثنیٰ منہ، اِلَّا حرف استثناء من اسم موصول رَجِمَ فعل رَبُّكَ مرکب انسانی فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مستثنیٰ ہو، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ لَیْذُرُّونَ کا اسم مُخْتَلِفِينَ اسم فاعل ہُمُ مستتر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف براء، شرط با براء جملہ شرطیہ ہو۔

او ایستہا یہ لِذَٰلِكَ جار مجرور متعلق مقدم ہوئے خَلَقَ فعل ہو مستتر فاعل ہُمُ ضمیر مفعول بہ و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستأنف ہو۔ واو عاطفہ تَمَّتْ فعل کَلِمَةُ رَبِّكَ مرکب انسانی فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔ لاہر موطن القسم اور قسم مخدوف ہے اَمْلَأَنَّ فعل اِنَّا مستتر فاعل جَهَنَّمَ مفعول بہ وین حرف جار الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ معطوف علیہ با معطوف مؤکد، أَجْمَعِينَ تاکید، مؤکد ہا تاکید مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

**وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فَوَدَّكَ هُوَ جَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ ۗ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾**

**آیت نمبر ۱۳:** او ایستہا عطفہ کُلًّا موصوف من حرف جار أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مرکب انسانی مجرور، جار مجرور کَاتِبًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مبدل منہ ما اسم موصول نُنَبِّئُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل یہ جار مجرور متعلق ہوئے فَوَدَّكَ مرکب انسانی مفعول بہ، جاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ بدل، مبدل منہ بادل مفعول بہ مقدم نَقُصُّ فعل نَحْنُ مستتر فاعل عَلَيْكَ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ واو حالہ جَاءَ فعل کان ضمیر مفعول بہ فی ہذیہ جار مجرور متعلق ہوئے الْحَقُّ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَوْعِظَةٌ معطوف ازل واو عاطفہ ذِكْرٌ موصوف لِلْمُؤْمِنِينَ ظرف مستقر کَاتِبًا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف



ہفت معطوف ثانی معطوف علیہ با معطوفین قائل، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اکتباہ الرسل سے حال ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَمِلُوْنَ ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱:** واوستانیہ قائل فعل امر آت مستتر قائل لام حرف جہا الذین اسم موصول لا یؤمنون فعل واوستانیہ قائل سے مل کر صلہ موصول ہاسلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر قول اعملوا فعل واوستانیہ قائل علی مکانیکم کلیدیوں کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با قائل، فعل با قائل مفعولہ، قول با مفعولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ ان حرف تحقیق تا ضمیر اسم موصول اسم قائل نحن مستتر قائل، اسم قائل با قائل خبر بان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۲﴾

**آیت نمبر ۱۲:** واوا عطف انتظروا فعل امر واوستانیہ قائل سے مل کر جملہ انشائیہ اعملوا پر معطوف ہے، ان حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم منتظرون اسم قائل نحن مستتر قائل سے مل کر خبر بان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَاللّٰهُ غَنِيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مَا

رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳﴾

**آیت نمبر ۱۳:** واواستانیہ قائلہ ظرف مستتر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم غنیب مضاف السموات والارض معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واوا عطف الیہ جار مجرور متعلق مقدم ہوئے یرجع فعل مجہول الامر مؤکد کلہ مرکب اضافی تاکید، مؤکدہ تاکید نائب قائل، فعل مجہول بانائب قائل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔ فاع نصیر اور شرط محذوف ہے اذاکن الامر كذلك اعین فعل امر آت مستتر قائل و ضمیر مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واوا عطف کوکل فعل امر آت مستتر قائل علیہ جار مجرور ظرف نحو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط محذوف کی جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ واوا عطف ما جانہ ربک مرکب اضافی اس کا اسم پاء حرف جار ناکہ قائل اسم قائل هو مستتر قائل عن جارہ ما موصولہ تکمیل فعل واوستانیہ قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہاسلہ مجرور، جار مجرور اسم قائل کے متعلق ہوئے، اسم قائل با قائل و متعلق متکا مجرور عطا منصوب خبر معانی اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی

(دور بیچ الاوّل بروز جمعہ ۳۳۸ھ بوقت صبح ۴:۴۵:۰۰ پر سورۃ ہود کی ترکیب کی تکمیل ہوئی)

## ترکیب سُورَةُ قَائِيُوسُفٍ

● رُكُوعُ نَهْرًا ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّوْدُ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ①

**آیت نمبر ۱:** الراضی کی ترکیب سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں دیکھیں تِلْكَ اِسْمُ اِسْمِہٖ مُبْتَدَا اِیْتِ مَضَافِ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ مرکب

توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فَرٰغًا عَلٰی عَرَبٍ نَّیْبًا اَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ②

**آیت نمبر ۲:** اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم اَنْزَلْنٰهُ فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر ذوالحال یا مبدل من قَدْ ذَا نَعَارَ یُنَامِرُ کرب توصیفی

حال یا بدل ذوالحال یا حال مفعول بہ، فعل یا فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا لَعَلَّ حرف ترمی کُفْمِہٖ اِسْمُ تَعْقِلُوْنَ فعل یا فاعل و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ و اِنِّیْ عَقَلْتُ کھ کی تاویل میں ہو کر اَنْزَلْنٰهُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے یا جملہ منطوق ہے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ اَحْسَنَ الْقَصِصِ بِمَآءٍ وَّحَیْنًا اِلَیْكَ هٰذَا الْقُرْآنُ مَنّٰ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ

قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ ③

**آیت نمبر ۳:** نَحْنُ ضمیر مبتدأ، نَقُصُّ فعل مستقر فاعل عَلَیْكَ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَحْسَنَ الْقَصِصِ مرکب

اضافی مفعول بہ یا مفعول مطلق بتاء حرف جار ما مصدریہ اَوْ حَیْنًا فعل نا ضمیر فاعل اِلَیْكَ جار مجرور متعلق ہوئے هٰذَا الْقُرْآنُ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل یا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور نَقُصُّ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل یا فاعل و متعلقین و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔ وَاِذَا حَالِیْہٖ اِنْ مَحْفَظٌ مِّنَ الشَّعْلِہٖ ضَمِیْرُ شَاہِدٍ مَّقْدِمًا كُنْتُ فَعْلٌ نَّاقِصٌ تَاءٌ مَعْتَوِدٌ ضَمِیْرُ اِسْمٍ مِّنْ قَبْلِهٖ ظَرْفٌ مَسْتَقَرٌّ کَالِیْتَا کے متعلق ہو کر فعل یا فاعل کی ضمیر اِسْمٍ سے حال ہے لَآءٌ فَارِقَةٌ مِّنَ الْغٰفِلِیْنَ جار مجرور کَالِیْتَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل یا فاعل با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر هٰذَا الْقُرْآنُ سے حال ہے۔

اِذْ قَالَ یُوْسُفُ لِاِبْنِهٖ یٰ اَبَتِ اِنِّیْ رَاٰیْتُ اَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَّ الشَّمْسَ وَّ الْقَمَرَ رَاٰیْتَهُمْ

www.kitabosunnat.com

لِی سَجْدٰتِیْنَ ④

**آیت نمبر ۴:** اِذْ ظرف زمان مضاف قال فعل یُوْسُفُ فاعل لَآءٌ جارہ اِبْنِهٖ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق

ہوئے، فعل یا فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول یٰ اَبَتِ کہ تا تم مقام، اَدْعُوْا فعل نا ضمیر فاعل اَبَتِ اصل میں اَبی تھا، سَدَاہِی مضاف مفعول بہ، فعل یا فاعل و مفعول بہ ہو کر سَدَاہِی اِنْ حرف تحقیق بتاء ضمیر اس کا اسم رَاٰیْتُ فعل ناقص مضمومہ فاعل اَحَدًا عَشَرَ میز کو کَوْکَبًا تَبِیْرٌ، میز یا تَبِیْرٌ معطوف علیہ، وَاِذَا عَاظَفَ الشَّمْسُ معطوف اول، وَاِذَا عَاظَفَ الْقَمَرَ دُورًا معطوف، معطوف علیہ یا معطوفین

مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب نداء، نداء باجواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہو کر مفعول، قول با مفعول إذا کا مضارع الیہ، پھر مرکب انشائی مفعول فیہ ہوا اذ کفو، فعل امر کا اذ کفو، فعل امر آتت مستتر فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا امر آتت فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل ہضم ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ امر باجرور متعلق مقدم ہوا و السجدین کا سجدین اسم فاعل ہضم ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔

قَالَ يُبْنَىٰ لَكَ تَقْصُصُ رُءُوكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

آیت نمبر ۵: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے لڑ کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یُبْنَىٰ نداء ہے لاکتقصص فعل ثمر آتت مستتر فاعل و رُءُوكَ مرکب انشائی مفعول بہ، عمل جاہ یا اِخْوَتِكَ مرکب انشائی باجرور، جاہ باجرور متعلق ہوئے، چاروں لڑ کر جملہ انشائیہ جواب نداء، نداء باجواب جملہ انشائیہ ندائیہ مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔

فَأَنذَرَكَ لَآ تَقْصُصُ رُءُوكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ "یہ لایکُنْ مِنْكَ قَصٌّ رُءُوكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ کی تاویل میں ہے۔

فَاء سببیہ عاطفہ یُكَيِّدُوا فاعل واو ضمیر فاعل لکے جاہ باجرور متعلق ہوئے کَيِّدَا مفعول مطلق، چاروں لڑ کر بتا ویل مصدر قَصٌّ رُءُوكَ پر معطوف ہے۔ اِنَّ حرف تَحْقِيقِ الشَّيْطَانِ اس کا اسم لَآ اِنْسَانِ طرف مستقر کا کَیِّدَا کے متعلق ہو کر حال مقدم عَدُوٌّ مُّبِينٌ مرکب توصیفی ذوالحال متوخر ذوالحال باحال خبر بیان بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معلقہ ہوا۔

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اٰلِ يَعْقُوْبٍ كَمَا كَتَبْنَا عَلَىٰ اَبُوَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۗ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ

حَكِيْمٌ ۝

آیت نمبر ۶: واو عاطفہ کذٰلِكَ جاہ باجرور ظرف لغو ہو کر متعلق مقدم يَجْتَبِيْكَ فعل كان ضمیر مفعول بہ رَبُّكَ مرکب انشائی فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ جواب نداء پر معطوف ہے۔ واو استثنائی يُعَلِّمُكَ فعل ہو ضمیر فاعل كان ضمیر مفعول بہ۔ مین حرف جاہ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ مرکب انشائی باجرور، جاہ باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ يُتِمُّكَ فعل ہو مستتر فاعل نِعْمَتَهٗ مرکب انشائی مفعول بہ عَلَيَّكَ جاہ باجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ عَلَىٰ حرف جاہ اِلِ يَعْقُوْبٍ مرکب انشائی باجرور، جاہ باجرور معطوف، معطوف علیہ یا معطوف يُتِمُّكَ کے متعلق ہوئے، كاف حرف جاہ مَا مصدر يَكْتُمُ فَاعِلُ هُوَ مستتر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ عَلَىٰ حرف جاہ اَبُوَيْكَ مرکب انشائی مبدل من اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ معطوف علیہ یا معطوف بدل، مبدل من بدل ذوالحال مین قَبْلُ ظرف مستقر کا کَيِّدُوا کے متعلق ہو کر حال ذوالحال باحال باجرور، جاہ باجرور متعلق ہوئے اَتَمُّ فَاعِلُ هُوَ، اَتَمُّ فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق بتا ویل مصدر يَجْرُدُ، جاہ باجرور طرف مستقر کا کَيِّدَا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف حذف اِنَّمَا هَا کے يُتِمُّكَ کا مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوفہ مستانفہ ہوا اِنَّ حرف تَحْقِيقِ رَبُّكَ مرکب

انسانی اس کا اسم عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ دو خبریں ہوں یا اسم دو خبریں جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿۲﴾ رکوع نمبر

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلسَّالِيْنِ ﴿۱﴾

آیت نمبر ۱: لاکر موصوفہ القوم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل لگان فعل ناقص فی حرف جار یوسف معطوف علیہ واو عاطفہ  
 إخوتہ مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم آیت موصوفہ  
 لِّلَسَّالِيْنِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفت، موصوفہ ہفت اسم مؤخر، فعل ناقص یا اسم دو خبر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم  
 با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ متانفہ ہوں۔

إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنَّمَا أَتَوْنَحْنُ عَصِيْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ﴿۲﴾

آیت نمبر ۲: اذ ظرف زمان مضارع قالوا فعل باوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لاکر ابتدائیہ یوسف معطوف علیہ واو عاطفہ  
 أَخُوهُ مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ، أَحَبُّ اسم تفضیل ہما ضمیر پوشیدہ ذوالحال واو حالیہ نَحْنُ ضمیر مبتدأ عَصِيْبَةً  
 خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال با حال قائل ایلی حرف جملہ ایقنا مرکب انسانی مجرور، جار با مجرور متعلق اذل ہوئے وقتاً جار با مجرور  
 متعلق ہائی ہوئے، اسم تفضیل ہا بالعلو متعلقین شہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ مضارع الیہ، مضارع با مضارع  
 الیہ فعل محذوف اذ لکن مفعول فیہ، فعل امر یا قائل مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ اِن حرف تحقیق اباناکا مرکب انسانی اسم لاکر مذمتیہ فی  
 حرف جار ضللی مُبِينٍ مرکب توصیفی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر اِن ہا اسم دو خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ انظُرُوهُ أَرَضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهَ آيِنِكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا

طٰلِحِيْنَ ﴿۳﴾

آیت نمبر ۳: اقتلوا فعل امر واو ضمیر قائل یوسف مفعول بہ، تیوں مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ انظروا فعل امر واو ضمیر قائل ہا  
 ضمیر مفعول بہ اَرْضَا مفعول فیہ اور عند البعض مفعول بہ ثانی، فعل با قائل مفعولین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ  
 متانفہ ہوں۔ یخُلُ فعل لکم جار با مجرور متعلق ہوئے وَجْهَ آيِنِكُمْ مرکب انسانی قائل، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط محذوف  
 اِن تَقْتُلُوا یوسفَ او انظروا حوۃ کی جزا ہے، شرط با جزا جملہ شرطیہ ہوا۔ واو عاطفہ تَكُونُوا فعل ناقص واو ضمیر اسم من بَعْدِهِ ظرف مستقر  
 کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، قَوْمًا طٰلِحِيْنَ مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر ذوالحال با حال خبر، فعل ناقص ہا اسم دو خبر جملہ فعلیہ خبریہ  
 یخُلُ پر معطوف ہے۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي عَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِظُهُ بَعْضُ السِّيَّارَةِ  
 اِن كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ﴿۴﴾



ذوالحال واو حال یہ تفسیر مبتدأ معنئہ جاد باجرور متعلق مقدم غَفِلُوْنَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ باجرور جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال باحال یا اَنْتُمْ کافعال، فعل با فاعل و مفعول بہ بتا ویل مصدر اَحَاكَ فاعل مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ با معطوفین کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معقول، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متناصفہ ہوں۔

**قَالُوْا لَیْسَ الْاَكْلَةُ الذِّئْبِ وَ نَحْنُ عَصَبَةُ اِنَّا اِذَا الْخَسِرُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۳:** قَالُوْا فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول لاکر موطن التکسیر اور قسم مخدوف ہے ان حرف شرط اکل فعل ضمیر مفعول بہ اَلذِّئْبُ ذوالحال واو حال یہ تفسیر مبتدأ معنئہ جاد باجرور متعلق مقدم غَضِبْتُمْ خبر، مبتدأ باجرور جملہ اسمیہ خبریہ حال ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط با ان حرف تحقیق نا ضمیر اس پر اذا حرف جزاء و جواب مہمل، لاکر مذہ طلقہ خاکیسُوْنَ اسم فاعل نَحْنُ مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم، اور شرط کی جزاء مخدوف ہے جس پر جواب قسم وال ہے، قسم با جواب قسم مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متناصفہ ہوں۔

**فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَ اَجْمَعُوْا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيْبَتِ الْجَبِّ ۙ وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهٖ لَتَتَّبِعَنَّهُمْ بِاَمْرِ رَّبِّهِمْ هٰذَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۵:** فَاذ غاظہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے فَاذ سئلہ مَتَّهْمٌ "لَتَاثر طیہ مفعول فیہ مقدم ذَهَبُوْا فعل واو ضمیر فاعل یہ جاد باجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو غاظہ اَجْمَعُوْا فعل واو ضمیر فاعل ان مصدر یہ یَجْعَلُوْا فعل واو ضمیر فاعل واو ضمیر فاعل واو ضمیر مفعول بہ فی جاہ غَیْبَتِ الْجَبِّ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مفعول بہ ہوا اَجْمَعُوْا کا، فعل با فاعل و مفعول بہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، اور جزاء مخدوف ہے فَعَلُوْا بِهٖ مَا فَعَلُوْهُ مِنْ الْاٰدَمِیِّ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ واو غاظہ اَوْحَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل اِلَيْهٖ جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اَجْمَعُوْا پر معطوف ہے۔ لاکر موطن التکسیر اور قسم مخدوف ہے لَتَتَّبِعَنَّ فعل اَلتَّ متعلق فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ بتا جاہ اَمْرِهِمْ مرکب اضافی موصوف ہَذَا صفت، موصوف با صفت مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ تفسیر اَوْحَيْنَا کی تفسیر ہوں واو حال یہ ہُمْ ضمیر مبتدأ لَیْسَ ذُوْلُوْهُلِجَةِ فعل باوا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ باجرور جملہ اسمیہ خبریہ تَنْبِیْہِیْنَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

**وَ جَاءَ وَاٰبَاؤُهُمْ عِشَاءً یَّبْکُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۶:** وَاٰبَاؤُهُمْ عِشَاءً یَّبْکُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال یَّبْکُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر حال، ذوالحال باحال فاعل اَبَاؤُهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ عِشَاءً مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

**قَالُوْا لَیْسَ اَبَاؤُنَا اِنَّا ذَهَبْنَا لَنَسْتَبِقُ وَ تَرَکْنَا یُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاکَلَهُ الذِّئْبُ ۙ وَ مَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ کُنَّا صٰدِقِیْنَ ۝**

**آیت نمبر ۷:** قَالُوْا لِمَا دَاوَسْمِیْرًا قَاعُلْ جملہ فعلیہ خبریہ قول، یا کہا تاکہ ترکیب آیت نمبر ۱۱ میں دیکھیں اور یہ نداء ہے اِنْ حرف تحتین تا ضمیر اس کا اسم ذہبنا اَصْلُ تا ضمیر ذوالحال اَسْتَبْرِیْشُ لَنْ اَصْلُ مستتر قاعل سے اَلْ کَرَامَال، ذوالحال ہا حال قاعل، مَدْحَبْنَا اَصْلُ ہا قاعل معطوف علیہ، او اعاطف کوڑ کُنَّا اَصْلُ تا ضمیر قاعل قُودِیُّوْ سَفْ مفعول بہ عِنْدَ مَا تَعَانَا مَرْکِبُ اضافی مفعول بہ، فعل ہا قاعل، و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اوّل، سَقَامُ عَاطِفٌ اَنْکَلُ فِعْلٌ ہا ضمیر مفعول بہ الذُّؤْبِ اَصْلُ، تینوں اَلْ کَرَامَال فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین خبر، اِنْ بِاِسْمٍ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء، نداء جواب جملہ اسمیہ نداء یہ معقولہ، قول ہا معقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول

او استیناف یہ مَا جازیہ اَنْکَلُ ضمیر اس کا اسم بناء جارہ ناکہ مؤویں اسم قاعل اَنْکَلُ مستتر قاعل لَنَا جار ہا جَزَرٌ و متعلق ہوئے، اسم قاعل ہا قاعل و متعلق شہ جملہ لفظا جَزَرٌ و غلامصوب خبر، مَا جازیہ ہا اسم، خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہول، او اعاطف کوڑ شَرْطِیہ لَنَا اَصْلُ ہا قص تا ضمیر اس کا اسم صَدِیْقِیْنَ اَصْلُ قاعل اَنْکَلُ مستتر قاعل سے اَلْ کَرَامَال، فعل ہا قص ہا اسم، خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جزاء مخدوف ہے مَا اَنْکَلُ و مؤویں لَنَا شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مؤویں کی اَنْکَلُ ضمیر سے حال ہے

**وَجَاءُوْا عَلٰی قَبِیْضِہٖ بِدَمٍ کَذِیْبٍ اَقَالَ بَلَنْ سَوَوْتُ لَكُمْ اَنْفُسُکُمْ اَمْرًا اَفْصَبْرٌ و جَمِیْلٌ وَاَللّٰہُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ ﴿۱۰﴾**

**آیت نمبر ۸:** او اعاطف جَاءُوْا اَصْلُ ہا ضمیر قاعل عَلٰی قَبِیْضِہٖ طرف مستتر کَانُوْا کے متعلق ہو کر حال مقدم بناء جار حقیقیہ کَذِیْبِ مرکب توصیفی ذوالحال مؤخر ذوالحال ہا حال جَزَرٌ و جار جَزَرٌ و متعلق جملہ معطوف ہول قَالُ اَصْلُ ہو مستتر قاعل سے اَلْ کَرَامَال فعلیہ خبریہ قول، بَلَنْ حرف عطف اور معطوف علیہ مخدوف ہے لَمْ تَصُدُّوْا اِنِّیْ لَا کَلِمَتُہُمْ، سَوَوْتُ اَصْلُ لَنْکُمْ جار ہا جَزَرٌ و متعلق ہوئے اَنْفُسُکُمْ مرکب اضافی قاعل اَمْرًا مفعول بہ، پادوں اَلْ کَرَامَال فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف معقولہ، قول ہا معقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہول

قَاء لیسر اور شرط مخدوف ہے اَذَا کَانَ الْاَمْرُ کَذِیْبٌ و جَمِیْلٌ مرکب توصیفی خبریہ مبتدأ مخدوف اَمْرٍ کی، مبتدأ جار جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، او اعاطف اِنَّہُ مبتدأ اَلْمُسْتَعَانُ اسم مفعول ہو مستتر ہا جَمِیْلٌ قاعل عَلٰی حرف جار ہا وصولہ تَصِفُوْنَ اَصْلُ ہا او ضمیر قاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہا صلہ جَزَرٌ و جار جَزَرٌ و متعلق ہوئے، اسم مفعول ہا باب قاعل و متعلق شہ جملہ خبر، مبتدأ جار جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہول

**وَجَاءَتْ سَبَّارَةٌ فَاسْأَلُوْا وَاِرَدَهُمْ فَادُلُوْا اَقَالَ اَقَالَ یُبْشِرُیْ ہَذَا اَعْلَمَ وَاَسْرُوْا بِصَاعَةً وَاَللّٰہُ عَلَیْمٌ بِمَا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱﴾**

**آیت نمبر ۱۱:** او استیناف جَاءَتْ اَصْلُ سَبَّارَةٌ قاعل، و دونوں اَلْ کَرَامَال معطوف علیہ، سَقَامُ عَاطِفٌ اَصْلُ ہا ضمیر قاعل وَاِرَدَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں اَلْ کَرَامَال معطوف اوّل، سَقَامُ عَاطِفٌ اَصْلُ ہا ضمیر قاعل دَلُّوْا مَرْکِبُ اضافی مفعول بہ، تینوں اَلْ کَرَامَال فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین جملہ معطوفہ متانفہ ہول قَالُ اَصْلُ ہو مستتر قاعل سے اَلْ کَرَامَال، نداء حرف نداء اَعْلَمَ کے قائم

مقام، اَدْعُوْا فِعْلٌ اَنَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ يُشْفَى مَفْعُوْلٌ بِهِ، تَبَيَّنَ لَمْ كَرَجَلُهُ اِنشائيہ ہو کر ندا، هَذَا عَلَمٌ مُبْتَدَا بِخَبْرٍ جملہ اسمیہ خبریہ جو اب نداء، نداء جو اب مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

واو استیفاء سَمَوْتُ وَافْعَلُ وَاذْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ بِضَاعَةٌ "جَاعِلِيْهِ كَمَا مَفْعُوْلٌ بِهِ" ہو کر اَسْتَوْذَا كِي ضَمِيرٌ فَاعِلٌ سے حال ہے، تَبَيَّنَ لَمْ كَرَجَلُهُ جملہ فعلیہ خبریہ اَسْتَوْذَا كِي مَفْعُوْلٌ بِهِ یا جملہ متناصفہ ہے، واو استیفاء اَللّٰهُ مُبْتَدَا عَلَيِّهِ مِيْثَرٌ هُوَ مُشْتَرَفٌ فاعِلٌ بِأَنَّهُ جَارِعًا مَوْصُولٌ يُعْمَلُونَ فِعْلٌ بِأَنَّهُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ مجرور، جار مجرور، متعلق ہوسے، مِيْثَرٌ مَفْعُوْلٌ بِأَنَّهُ وَ مُشْتَرَفٌ شَبَّ جملہ ہو کر خبر، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متناصفہ ہوں۔

وَسَوْرَةٌ وَابِعَمِينَ يَخْبِسُ دَرَاهِمَهُ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

آیت نمبر ۲۰: واو عاطفہ سَوْرَةٌ وَافْعَلُ وَاذْ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ بِأَنَّهُ جَارِعًا مَوْصُولٌ بِأَنَّهُ ضَمِيرٌ فَاعِلٌ مَبْدَلٌ مِنْ مَبْدَلٍ مَجْرُورٌ، جار مجرور، متعلق ہوسے، چاروں لَمْ كَرَجَلُهُ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَانَوا فِعْلٌ ناقص واو ضمیر اسم فِیْهِ جار مجرور، متعلق مقدم میں حرف جار الزَّاهِدِيْنَ اِسْمٌ فَاعِلٌ هُوَ مُشْتَرَفٌ فَاعِلٌ وَ مُشْتَرَفٌ مُقَدِّمٌ سے لَمْ كَرَجَلُهُ جملہ ہو کر مجرور، جار مجرور، ظرف مستقر كَانِيْنَہُمْ كَيْفِيَّةً کے متعلق ہو کر خبر، فِعْلٌ ناقص ہاسلہ مجرور خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف اَسْتَوْذَا كِي مَفْعُوْلٌ بِهِ ہے۔

﴿ ۲۰ ﴾ رُكُوْعٌ نُمْبَرٌ ۳

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَا رَأَيْتَهُ اَكْرَمِيْ مَثْوَاهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۗ وَكَذٰلِكَ مَنَّآ لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ ۗ وَ لِنَعْلِمَہُ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۗ وَ اَللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِہٖ ۗ وَ لٰكِنْ اَسْأَلُوْا النَّاسَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾

آیت نمبر ۲۱: واو عاطفہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے دَخَلُوْا اِصْرًا وَعَزَّوَجَزَّوَالْبَيْتِ قَالَ فِعْلٌ اَلَّذِي اِسْمٌ مَوْصُولٌ اِشْتَرَى فِعْلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مُشْتَرَفٌ فاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ مِنْ مِصْرَ مَقْدُومٌ عَلَى مَقْدُومٍ مَجْرُورٌ، جار مجرور، متعلق ہوسے، لِمَا رَأَيْتَهُ اَكْرَمِيْ مَثْوَاهُ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۗ وَكَذٰلِكَ مَنَّآ لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ ۗ وَ لِنَعْلِمَہُ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۗ وَ اَللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِہٖ ۗ وَ لٰكِنْ اَسْأَلُوْا النَّاسَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، معطوف علیہ مخدوف یا معطوف جملہ معطوف ہوں۔

عَسَىٰ فِعْلٌ مُقَابِلٌ هُوَ مُشْتَرَفٌ كَالِاسْمِ اَنْ مَصْدَرِيَّةٌ نَامِيَّةٌ يَنْفَعُ فِعْلٌ هُوَ مُشْتَرَفٌ فَاعِلٌ نَا ضَمِيرٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ، تَبَيَّنَ لَمْ كَرَجَلُهُ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ نَتَّخِذُ فِعْلٌ لِنَعْلِمَ مُشْتَرَفٌ فَاعِلٌ هُوَ ضَمِيرٌ مَفْعُوْلٌ بِهِ اَوَّلٌ وَلَكِنَّا مَفْعُوْلٌ بِهِ ثَانِي، فِعْلٌ بِأَنَّهُ فاعِلٌ وَ مَفْعُوْلِيْنِ مَعطوف، معطوف علیہ یا معطوف بتاویل مصدر خبر، فِعْلٌ مُقَابِلٌ ہاسلہ مجرور خبر جملہ فعلیہ انشائیہ مطلقہ ہوں۔ واو استیفاء یہ كَذٰلِكَ جار مجرور كَانِيْنَا کے متعلق ہو کر ہاسلہ موصوف مخدوف كَانِيْنَا کے مفعول مطلق مقدم مَنَّآ فِعْلٌ نَا ضَمِيرٌ فَاعِلٌ لِيُوسُفَ جار مجرور ظرف لِنَعْلِمَ اَوَّلٌ ہوسے فِي الْاَرْضِ جار



با مجرد ظرف لغو متعلق مائل ہوئے، فعل بافعل و مفعول مطلق و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

واو عاطفہ معطوف علیہ مخدوف ہے بِعَلْعَلْمُ بِالْعَدْلِ (مظہری) لآمر جملہ فعلیہ مخدوف فعل ہو مستتر قائل بِالْعَدْلِ متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف علیہ ہواو عاطفہ لآمر جارہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے نُعَلِّمُ فعل نَحْنُ مستتر قائل ہضمیر مفعول بہ۔ مین جارہ تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ مرکب انشائی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مَعْنَا کے متعلق ہوئے۔ واو استیضائی اَللّٰهُ مُبْتَدَا، عَابِلٌ اِسْم قائل ہو مستتر قائل عَلٰی اَمْرٍ جارہ با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اسم قائل بافعل و متعلق خبر، مبتدایا خبر جملہ اسبیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ واو عاطفہ لِكِنَّ حرف استدراک اَنْتُمْ النَّاسُ مرکب انشائی اسم لَا يُعْلَمُونَ فعل باو ہضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لِكِنَّ با اسم و خبر جملہ اسبیہ خبریہ جملہ اولیٰ پر معطوف ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۳﴾

**آیت نمبر ۲۳:** واو استیضائی لَمَّا شرطیہ مفعول فیہ مقدم بَلَغَ فعل ہو مستتر قائل أَشُدَّهُ مرکب انشائی مفعول بہ، فعل بافعل و مفعول بہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اَتَيْنَاهُ فعل نَحْنُ ہضمیر قائل ہضمیر مفعول بہ، حُكْمًا وَعِلْمًا معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ مائل، فعل بافعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ واو عاطفہ كَذَلِكَ جارہ با مجرور ظرف لغو مستتر قائل كَذَلِكَ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف جہاں کہ آئے کہ مفعول مطلق مقدم نَجْزِي فعل نَحْنُ مستتر قائل الْمُحْسِنِينَ مفعول بہ، پادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَرَاوَدْتُهُ الْبَيْتَ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ يَا قَالِ

مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۴﴾

**آیت نمبر ۲۴:** واو استیضائی رَاوَدْتُهُ فعل ہضمیر مفعول بہ مقدم اَلْبَيْتَ اسم موصول ہو ضمیر مبتدایا فِي بَيْتِهَا ظرف مستتر کلان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدایا خبر جملہ اسبیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ قائل عَن نَفْسِهِ مرکب انشائی مجرور، جارہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ عَلَقَتِ فعل ہی مستتر قائل الْأَبْوَابِ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ہواو عاطفہ قَالَتْ فعل ہی مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، هَيْت قول، اَنْتِ مستتر قائل لَكَ جارہ با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف مائل، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہوں۔

قَالَ فعل ہو مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، مَعَادَ اللَّهِ مرکب انشائی فعل مخدوف اَعُوذُ کا مفعول مطلق اَعُوذُ فعل اَنَا ضمیر قائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ اِنْ حرف تحقیق ہضمیر اس کا اسم زنی مرکب انشائی خبر اول، أَحْسَنَ فعل ہو مستتر قائل مَثْوَايَ مرکب انشائی مفعول بہ، فعل بافعل و مفعول بہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثانی، اِنْ با اسم و خبرین جملہ اسبیہ خبریہ منقذہ ہوں۔ اِنْ حرف تحقیق ہضمیر اَمْ لَا يُفْلِحُ فعل الظَّالِمُونَ قائل، فعل بافعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ثانی، اِسْم و خبر جملہ اسبیہ خبریہ جملہ اولیٰ سے بدل ہے۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۲۴﴾

**آیت نمبر ۲۴:** واؤ عطف لہر موطن القسم اور قسم محذوف ہے۔ قَدْ علامت فعل هَمَّت فعل ہی مستتر قائل یہ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عطف ہمَّ فعل ہو مستتر قائل یہا جار مجرور متعلق ہوئے تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جواب قسم، قسم جار جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا، لَوْلَا حرف امتناع مان مصدر یہ وہی فعل ہو مستتر قائل بُرْهَانَ رَبِّہ مرکب انشائی مفعول یہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدر مبتدہ خبر محذوف ہے مَوْجُودًا، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ شرط، جزاء محذوف ہے لَجَاء مَعَهَا (مشہری) بِالْقَمَرِ یہا ہے، شرط جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

کَذَلِكَ ظرف مستقر متعلق ہوئے فعل محذوف فَعَلْنَا کے، فَعَلْنَا فعل نا ضمیر قائل لہر جارہ نَصْرِفَ فعل تَحْوِنُ مستتر قائل عَنْہُ جار مجرور ظرف نعو متعلق ہوئے السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ معطوف علیہ یا معطوف مفعول یہ، فعل با قائل و مفعول یہ، متعلق جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدر مجرور، جار مجرور فَعَلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق تا ضمیر اسم ہون جارہ عِبَادِنَا مرکب انشائی موصوف الْمُخْلَصِينَ اسم مفعول ہمَّ ضمیر مستتر تاجب قائل سے مل کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار مجرور کَائِنِیْن کے متعلق ہو کر خبر اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔

وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ ۚ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ ۚ وَالْقِيَا سَيِّدَهَا كَذَا الْبَابُ ۗ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۵﴾

**آیت نمبر ۲۵:** واؤ عطف اسْتَبَقَا فعل الف ضمیر قائل الْبَابِ منصوب، بزعم النبی متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عطف قَدَّت فعل ہی مستتر قائل قَمِيصَهُ مرکب انشائی ذوالحال ہون دُبُرٍ ظرف مستقر کَائِنِیْن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول یہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عطف الْقِيَا فعل الف ضمیر قائل سَيِّدَهَا مرکب انشائی مفعول یہ، لَذَا الْبَابِ مرکب انشائی مفعول یہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین جملہ معطوف ہوا۔ قَالَتْ فعل ہی مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، مآثرا فیہ جَوَّأ مضاف مِنْ ام موصول آوَاد فعل ہو مستتر قائل بِأَهْلِكَ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے سُوءًا مفعول یہ، چاروں مل کر صلہ، موصول با صلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ، مبتدہ اَلْآحْرَفِ اسْتِثْمَانُ مصدر یہ يُسْجَنُ فعل مجہول ہو مستتر تاجب قائل سے مل کر تاویل مصدر معطوف علیہ، واؤ عطف عَذَابٌ أَلِيمٌ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ یا معطوف خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

قَالَ هِيَ رَأَتْ دُتَيْبِي عَنْ نَفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ ۚ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲۶﴾ ۚ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ ۚ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۲۷﴾

الصَّادِقِينَ ﴿۲۷﴾



**آیت نمبر ۳۰:** **وَاذِئْتَنِي قَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ مَوْصُوفٌ فِي الْمَدِينَةِ لَمْ يَنْفَعْ مَسْتَرْقَاةً لَمْ يَنْفَعْ مَوْصُوفٌ بِمَعْنَى**  
**قَالَ،** دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول یا امراتُ العزیزِ مرکب اضافی مبتدا مکتواؤد فعل ہے مستتر قائل قَدْهَا مَرْكَبٌ اِنشائی مفعول بہ عن  
 نَفْسِهِ جاد باجبر و متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ  
 خبریہ ہوا۔ قَدْ طَلَسْتُ فعل مَعْتَقٌ فعل ہو مستتر قائل ہا مفعول بہ۔ حَبِيْبًا تَبِيْرٌ جادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تُوْاؤد کی ضمیر قائل یا ضمیر مفعول  
 سے حال ہے یا امراتُ العزیزِ کی خبر ثانی ہے، اِنْ حَرْفٌ تَحْقِيْقٌ قَا ضمیر اس کا لام مد ملحقہ تَلَوِيْ فعل نَحْنُ مستتر قائل ہا ضمیر مفعول بہ  
 فِي حَرْفٍ جادِ مُطَلِّبٌ مُبِيْنٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِي جبر و جاد باجبر و متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِنْ باسْمِ و خبر  
 جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

**فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ**  
**سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ**  
**لِيْلَهُ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۱﴾**

**آیت نمبر ۳۱:** **فَاءَ عَاطِفٌ لِّتَأَثُّرِ طَبْعِ مَفْعُولٍ فِي مَقْدَمِ سَمِعَتْ** فعل ہے مستتر قائل بِأَمْرٍ جادِ مَعْتَكِرٌ هُنَّ مَرْكَبٌ اِنشائی جبر و جاد باجبر و  
 متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، **أَرْسَلَتْ** فعل ہے مستتر قائل اِلَيْهِنَّ جاد باجبر و متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ  
 فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، **وَاوَّاعِلَةٌ** **أَعْتَدَتْ** فعل ہے مستتر قائل لَهُنَّ متعلق ہوئے **مُتَّكًا** مفعول بہ، جادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف  
 الٰہ، **وَاوَّاعِلَةٌ** **آتَتْ** فعل ہے مستتر قائل كُلِّ مَضَافٍ وَاحِدَةً مَوْصُوفَةٌ مِّنْهُنَّ طرف مستتر **قَائِدَةٌ** کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت  
 مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ الٰہ **سِكِّينًا** مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، **وَاوَّاعِلَةٌ** **قَالَتْ**  
 فعل ہے مستتر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، **اُخْرُجْ** فعل امر **آتَتْ** مستتر ذوالحال عَلَیْهِنَّ طرف مستتر **مُطَّلَعٌ** کے متعلق ہو کر حال، **ذُو اِلْحَالِ** باحال  
 قائل، فعل باقائل جملہ اسمیہ مقولہ، قول یا مقولہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوقات ثلاثہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

**فَاءَ عَاطِفٌ لِّتَأَثُّرِ طَبْعِ رَافِعٌ لِّنَوْنِ مَفْعُولٍ قَائِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ بِهٖ** تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، **اَلْاَكْبَرُ** فعل نون مفتوحہ  
 قائل یا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، **وَاوَّاعِلَةٌ** **قَطَّعْنَ** فعل نون مفتوحہ قائل **اَيَّدِيَهُنَّ** مَرْكَبٌ اِنشائی مفعول بہ،  
 تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف الٰہ، **وَاوَّاعِلَةٌ** **قُلْنَ** فعل نون مفتوحہ قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، **مَا تَجَدَّرِيْ هَذَا** اس کا اسم  
 بِكَسْرٍ وَاخْرَجْتَنِيْ بِاسْمِ وَاخْرَجْتَنِيْ بِاسْمِ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوفہ  
 ہوا۔ **حَاشَ** اسم فعل بمعنی چاہا **آتَتْ** (روح المعانی) **هُوَ** مستتر راجع اِلٰی قَائِلُ شَفِ قائل، **لِيْلَهُ** جاد باجبر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ  
 معترضہ ہوا اور عند اِن الحَاجِبِ اسم فعل بمعنی بَرَاءَةٌ ہے۔ اِنْ نَافِيَةٌ هَذَا اسْمُ اِشْرَافٍ مَبْتَدَا اِلَّا حَرْفٌ اِسْتِثْنَاءٌ مَلَكٌ كَرِيْمٌ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِي جبر،  
 مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

**قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَّمْ**



ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنَّتْهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۵﴾

**آیت نمبر ۳۵:** ثُمَّ حرف عطف بَدَأَ فعل ہو ضمیر مستتر مفسر لَيْسَ جُنَّتْهُ فعل واو محدودہ قائل ضمیر مفعول بہ حَتَّىٰ حِينٍ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، مفسر یا مفسر بَدَأَ کا قائل لَهْمُ جار مجرور متعلق ہوئے مِنْ جارہ بَعْدِ مضاف مآ مصدریہ رَأَوُا فعل واو ضمیر قائل الْآيَاتِ مفعول بہ، تینوں مل کر تینوں مصدر مضاف الیہ، مضاف باضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق تینوں ہوئے، فعل باقائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں

﴿ رکوع نمبر ۸ ﴾

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنُ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۚ لَبِئْسَ مَا تَدَبَّرُوا ۚ وَتَلَا آيَاتِ الْكُرْآنِ ۚ

الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۶﴾

**آیت نمبر ۳۶:** وَاو استئنافیہ دَخَلَ فعل مَعَهُ مرکب اضافی مفعول فیہ السَّجَنُ دوسرا مفعول فیہ فَتَيْنِ قائل، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں قائل قَالَ أَحَدُهُمَا مرکب اضافی قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول بَرَأْنِ حرف تحقیق بَيَّأ ضمیر اسم آزی فعل اَنَا مستتر قائل نون و قایہ کا بیَّأ ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ اَعْصِرُوْا مفعول بہ، تینوں مل کر مفعول یعنی، یا آزی کی ضمیر قائل سے حال ہے، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر بَرَأْنِ بِاسْمِ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَقُولَ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قَالَ فعل الْآخَرُ قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ قول بَرَأْنِ حرف تحقیق بَيَّأ ضمیر اسم آزی فعل اَنَا مستتر قائل نون و قایہ کا بیَّأ ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ اَحْمِلُ فعل اَنَا مستتر قائل فَوْقَ رَأْسِي مرکب اضافی مفعول فیہ خُبْرًا موصوف تَأْكُلُ فعل الطَّيْرُ مِنْهُ جملہ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خُبْرًا کی صفت، موصوف باصفت اَحْمِلُ کا مفعول بہ، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبر بَرَأْنِ بِاسْمِ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مَقُولَ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

تَفِيٍّ فعل اسم اَنْتَ مستتر قائل تَا ضمیر مفعول بہ بَيَّأ جارہ تَأْوِيلُهُ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ ہوں بَرَأْنِ حرف تحقیق تَا ضمیر اسم آزی فعل اَنْتَ مستتر قائل کاف ضمیر مفعول بہ مِنْ الْمُحْسِنِينَ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بَرَأْنِ بِاسْمِ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

قَالَ لَا يَا تُبَيِّكُمَا طَعَامٌ تَرْزُقْنِيهِ إِلَّا تَبَأْتِكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۖ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمْنِي رَبِّي ۖ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۷﴾ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ۖ ابْرَاهِيمَ وَاسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۸﴾

**آیت نهم** ۳۸۳ تا ۳۸۴ تک فعل هو مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول لایا یعنی فعل میں ضمیر مفعول بہ کلمتہ موصوفہ کُذِّبَتْ کئی فعل مجہول الف ضمیر ہر حال میں مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کلمتہ کی صفت، موصوفہ ہست ذال لیل الا حرف استثناء کُنْتُکَ فعل قائم مضموم قائل کما ضمیر مفعول بہ، پتا و بیٹہ بد باجر و مطلق ہوئے، پہلے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوال لیل باصل لایا یعنی کا نامل، فعل با نامل و مفعول بہ، جملہ فعلیہ خبریہ مطلق، قول با مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قیام صفت آن مصدری و نصب لایا یعنی فعل هو مستتر قائل کما ضمیر مفعول بہ، فعل با نامل و مفعول بہ، جملہ فعلیہ خبریہ صفت الیہ، صفت با صفت الیہ کُنْتُکَ کا مفعول یہ ہے، ذوال کما اسم اشارہ مبتدیان حرف جار ماسموسول عَلَّمَ فعل نون و قاریہ کا بیاد ضمیر مفعول بہ یعنی مرکب انسانی نامل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ بحر و، جدا بحر و حرف مستتر کلین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدیان خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

ان حرف متعلق یہاں ضمیر اس کا اسم تُوکْتُکَ فعل قائم مضموم اس کا نامل بیلگہ صفت قُوْمِ موصوف لایا یعنی فعل او ضمیر قائل یا لقیہ جدا بحر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مطلق علیہ، واو عائدہ حُفَّ ضمیر مبتدیان در سری حُفَّ ضمیر اس کی تاکید ہے ذال اخیر ذہ جدا بحر و مطلق مقدم ہوئے گا قُوْمِ اسم نامل حُفَّ مستتر فعل و متعلق مقدم سے مل کر شہر جملہ ہو کر خبر، مبتدیان خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق، مطلق علیہ با مطلق قُوْمِ کی صفت، موصوف ہست بیلگہ کا صفت الیہ، صفت با صفت الیہ تُوکْتُکَ کا مفعول بہ، فعل با نامل و مفعول بہ، جملہ فعلیہ خبریہ مطلق علیہ، واو عائدہ اَنْبَتْ فعل قائم مضموم قائل بیلگہ صفت اَنْبَتْ مرکب انسانی مبدل منہ اِنْبُوْهُمْ و اِسْحَقْ و یَعْقُوْبَ مطلق علیہ با مطلقین بدل مبدل منہ بدل بیلگہ کا صفت الیہ، صفت با صفت الیہ مفعول بہ، فعل با نامل مفعول بہ، جملہ فعلیہ خبریہ مطلق، مطلق علیہ با مطلق خبریہ ان با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

مٹا فی کائنات فعل ناقص لکا حرف مستتر کلین کے متعلق ہو کر خبر مقدم آن حرف مصدری و نصب نُظِرَکَ فعل تَعْنَنَ مستتر نامل یا لقیہ جدا بحر و متعلق ہوئے ہیں جدا نامہ قتی ہو مٹا بحر و نفا منصوب مفعول بہ، فعل با نامل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متعلیل مصدر اسم مؤخر کما ہے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ ذلک اسم اشارہ، مبتدیان حرف جدا قطعی مصدر صفت لفظاً لکھو صفت الیہ معنی قائل ہے عَلَمٌکَ جدا بحر و مطلق علیہ، واو عائدہ عَلَ النَّاسِ جدا بحر و مطلق، مطلق علیہ با مطلق حرف انوکھل کے متعلق ہوئے، مصدر ہے صفت الیہ اور متعلق سے مل کر بحر و، جدا بحر و کلین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدیان خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق علیہ، مطلق علیہ با مطلق خبریہ مطلق علیہ واو عائدہ لکن حرف متدراک اکثر انکس مرکب انسانی اس کا اسم لایا یعنی کُوْنُ فعل باوا ضمیر قائل خبر لکن نام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق مطلق علیہ با مطلق جملہ مطلق ہو۔

**يُصَاحِبِي السَّجْنِ ۹** وَأَرْيَاكُ مَتَقَرِّ قُوْنٌ حَيْدُ أَمْرٌ إِنَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۸۴﴾

**آیت نهم** ۳۸۴ تا ۳۸۵ تک حرف ندا اذْعُوْا کے قائم مقام اذْعُوْا فعل انا مستتر نامل صاحبی السجین مرکب انسانی نداوی مفعول بہ، فعل با نامل و مفعول بہ، جملہ فعلیہ اشاریہ ہو کر ندا، عتذہ حرف استفہام اَرْيَاكُ مَتَقَرِّ قُوْنٌ مرکب قومی مبتدیان اسم تشبیل حُفَّ مستتر قائل سے مل کر خبر، مبتدیان خبر جملہ اسمیہ اشاریہ مطلق علیہ اذ حرف صفت اِنَّهُ موصوف الوَاحِدُ الْقَهَّارُ اس کی صفت، موصوف با مطلقین مبتدیان اور خبر موقوف ہے، خبریہ مبتدیان خبر جملہ اسمیہ اشاریہ مطلق، مطلق علیہ با مطلق ندا، واجب ندا، واجب جملہ اشاریہ

عدائیہ ہوں

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

**آیت نمبر ۳۰:** مَا تَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر قائل مِنْ دُونِهِ ظرف مستقر کافئۃ کے متعلق ہو کر حال مقدم اللاحرف اسٹلمہ اَسْمَاءُ موصوف سَمَّيْتُمْ فعل ثَمَّ ضمیر مؤنث، اَنْتُمْ ضمیر تائید، مؤنث ہوتا تائید معطوف علیہ، واو عاطفہ اَبَاؤُكُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف قائل ہا ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت اولیٰ، مَا تَعْبُدُونَ فعل لفظاً اَللَّهُ تَعْبُدُ و ہا جادہ باجرور متعلق ہوتے ہیں جاہ ناکدہ سُلْطَنٍ لفظاً جبرور و تَعْبُدُونَ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَسْمَاءُ کُلِّ صفت ثانیہ، موصوف با مضمین ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال تَعْبُدُونَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ان تائید اَلْحُكْمُ مبتدأ باللاحرف اسٹلمہ جادہ باجرور ظرف مستقر کلاؤن کے متعلق ہو کر مستثنیٰ مفرغ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں

اَمْرٌ فعل ہو مستقر قائل اَنْ حرف مصدری و نصب لا تَعْبُدُوا و الفعل واو ضمیر قائل اللاحرف اسٹلمہ اِيَّاهُ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاؤں یا مصدر منصوب بزرع الفاضل اَمْرٌ کے متعلق ہوتے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ ذلک اسم ابتداء مبتدأ بالذین الْقَيِّمَةُ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَكِنَّ حرف استدراک اَكْثَرُ النَّاسِ مرکب اضافی اس کا اسم لا يَعْلَمُونَ فعل باواو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَكِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، دونوں مل کر جملہ معطوف ہوں

يُصَاحِبِي السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمْ فَيَسْتَقِي رَبَّهُ حَمْرًا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُضَلُّبُ فَتَاكُلُ الظُّلْمِ مِنْ رَاْسِهِ وَاَقْضَى الْاَمْرَ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيْنَ ﴿٣١﴾

**آیت نمبر ۳۱:** يُصَاحِبِي السِّجْنِ اس کی ترکیب آیت نمبر ۲۹ میں دیکھئے اور یہ عداوت ہے اَمَّا اَحَدُ شرط و تفسیر اَحَدُ كُنَّا مرکب اضافی مبتدأ فہا جادہ جزائیہ يَسْتَقِي فعل ہو مستقر قائل رَبَّهُ مرکب اضافی مفعول بہ اِلَّا حَمْرًا موصول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَمَّا اَحَدُ شرط و تفسیر اَلْاٰخَرُ مبتدأ فہا جزائیہ يُضَلُّبُ فعل مجہول ہو مستقر نائب قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فہا عاطفہ فَاكُلُ فعل الظُّلْمِ قائل مِنْ جادہ رَاْسِهِ مرکب اضافی جبرور، جادہ باجرور متعلق ہوتے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب عداوت، عداوت با جواب جملہ انشائیہ عدائیہ متعلق ہوں

فَقِيْحٌ فعل مجہول الاَمْرُ موصوف الَّذِي اسم موصول فیہ جادہ باجرور متعلق مقدم ہوتے تَسْتَفْتِيْنَ فعل الف ضمیر قائل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الاَمْرُ کی صفت، موصوف با صفت نائب قائل، فعل مجہول ہا نائب قائل جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہوں

خبریہ متعلق ہوں





قَالُوْا اَصْغَاثٌ اَخْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيْلٍ الْاَخْلَامِ بِعَلِيْمِيْنَ ۝۳

**آیت نمبر ۳:** قَالُوْا اَصْغَاثٌ اَخْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيْلٍ الْاَخْلَامِ بِعَلِيْمِيْنَ ۝۳  
 باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ، مآثر مشابہہ "یہ کیسے نَحْنُ ضمیر منفصل اسم بیہادہ قائل و یل الِاَخْلَامِ مرکب اضافی مجرور، جاہ مجرور متعلق مقدم ہوئے، بیہادہ جارہ نامکدہ عَلَیْمِيْنَ اسم قائل نَحْنُ مستتر قائل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، مآثر مشابہہ یا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مقولہ، قول یا مقولہ، جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہو۔

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اَنْبَتُكُمْ بِتَاوِيْلِهِ فَازْسَلُوْنَ ۝۴

**آیت نمبر ۴:** وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اَنْبَتُكُمْ بِتَاوِيْلِهِ فَازْسَلُوْنَ ۝۴  
 مرکب اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال قائل مِنْهُمَا جاہ مجرور نَجَا کے متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَنَا ضمیر مبتدأ، اَنْبَتُ فعل اَنَا مستتر قائل کُفُ ضمیر مفعول بہ بیہادہ جاہ قائل و یلہ مرکب اضافی مجرور، جاہ مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قَاہ ضمیر اولیٰ شرا محذوف ہے اِنْ شَيْئَكُمْ تَعْبِيْرٌ وُفِيْنَا كُفُہُ اَزْ سَلُوْنَا فعل امر واو ضمیر قائل نون وقایہ کا بیہادہ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ جزا، شرا باجزا جملہ شرطیہ ہو۔

يُوْسُفُ اِيْهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَّ سَبْعِ

سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَّاَخْرَجِيْسِيْتِ لَعَلِّيْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝۵

**آیت نمبر ۵:** يُوْسُفُ اِيْهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَّ سَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَّاَخْرَجِيْسِيْتِ لَعَلِّيْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝۵  
 مضاف بَقَرَاتٍ موصوفہ سِمَانٍ صفت اولیٰ، یَاكُلُهُنَّ ضمیر مفعول بہ سَبْعِ عَجَافٍ مرکب توصیفی قائل، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بَقَرَاتٍ کی صفت ثانیہ، موصوفہ سَبْعِ سَبْعِ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ سَبْعِ مضاف سُنْبُلَاتٍ مضاف خُضْرٍ مرکب توصیفی معطوف علیہ، واو عاطفہ اَخْرَجِيْسِيْتِ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ بمعطوف سَبْعِ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ سَبْعِ بَقَرَاتٍ کا معطوف، معطوف علیہ بمعطوف مجرور، جاہ مجرور اَفْتِنَا کے متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہو۔

اَنْیٰ موصوفہ هَا بَرَسِيْتِ تَحْمِيْرُ الصِّدِّيْقِيْنِ صفت، موصوفہ بامفت مَخْلَا منصوب مفعول بہ ہوا فعل محذوف اَخْضُصْ کا اَخْضُصْ فعل اَنَا مستتر قائل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لَعَلَّ حرف ترمیمی بیہادہ ضمیر اس کا اسم اَرْجِعْ فعل اَنَا مستتر قائل اِلَى النَّاسِ جاہ مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، لَعَلَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مطلبہ ہو۔ یا اَفْتِنَا کی ضمیر قائل سے حال ہے۔ لَعَلَّ حرف ترمیمی بیہادہ ضمیر اس کا اسم پہنچاؤن فعل اولیٰ ضمیر قائل خبر، لَعَلَّ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ انشائیہ و اجعی علیہم کئی تاویل میں ہو کر اَرْجِعْ کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۳۷﴾

آیت نمبر ۳۷۔ قَالَ تَزْرَعُونَ سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول تَزْرَعُونَ فعل اور ضمیر ذوالہا دَائِبًا تَائِبِينَ کے معنی میں ہو کر حال یا حال باہل قائل سَبْعَ سِنِينَ مرکب لغائی مفعول فرما، فعل باقاعل و مفعول فرما جملہ فعلیہ خبریہ مفعول، قول یا مفعول جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو کر قائم ہے (رواج العالی) مَا اس شرط مفعول بہ مقدم حَصَدْتُمْ فعل ثانیہ ضمیر قائل اور مفعول بہ مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط عقارہ جزویہ قَوْلُ اَعْلُ اس شرط مفعول بہ ضمیر مستثنیٰ سِرِّ الْأَحْرَفِ اسْتَعْقَلِيْلًا موصوفہ میں حرف مقدمہ تَامُ موصول تَامًا كَلْبُونَ فعل باہر ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول بصلہ مجرور، جملہ مجرور طرف سِتْرًا كَلْبِيْلًا کے متعلق ہو کر كَلْبِيْلًا کی صفت، موصوفہ بعنت مستثنیٰ پھر مستثنیٰ سِرِّ اسْتَعْقَلِيْلًا کا مفعول بہ، فی جملہ سُنْبُلِهِ مرکب لغائی مجرور، جملہ مجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ جزا، شرط جزا، جملہ شرطیہ انشائیہ مستانفہ ہو کر

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۳۸﴾  
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ ﴿۳۹﴾

آیت نمبر ۳۸، ۳۹۔ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مرکب لغائی مجرور، جملہ مجرور طرف سِتْرًا كَلْبِيْلًا کے متعلق ہو کر حال مقدم سَبْعٌ موصوفہ شِدَادًا کی صفت اولیٰ یَأْكُلْنَ فعل ثانیہ مستور قائل مَا اس موصول قَدْ مَتَّعْتُمْ فعل ثانیہ ضمیر قائل لَهُنَّ جملہ مجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول بصلہ مستثنیٰ سِرِّ الْأَحْرَفِ اسْتَعْقَلِيْلًا موصوفہ میں حرف مقدمہ تَامُ موصول تَامًا كَلْبِيْلًا کی صفت ہے، جو اسمی کزوی ہے اور یہ مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ سِرِّ یَأْكُلْنَ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ سَبْعٌ کی صفت ثانیہ، موصوفہ سُنْبُلِهِ ذوالہا باہل یَأْتِي كَالْقَاعِ، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ صحتوف علیہ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ جملہ مجرور متعلق ہو کر حال مقدم عَامٌ موصوفہ فَيُغَاثُ جملہ مجرور متعلق مقدم يُغَاثُ فعل بھول النَّاسُ تَائِبًا قائل، فعل بھول تَائِبًا قائل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ صحتوف علیہ، او او صحتوف فَيُغَاثُ جملہ مجرور متعلق مقدم ہوئے یُعْصِرُونَ فعل باہر ضمیر قائل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ صحتوف علیہ پھر صحتوف علیہ یا صحتوف عَامٌ کی صفت، موصوفہ بعنت ذوالہا مَوْجَرًا، ذوالہا باہل یَأْتِي كَالْقَاعِ، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ صحتوف علیہ یا صحتوف جملہ صحتوف ہو کر

﴿۳۸﴾ اور نمبر ۳۹

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَانَ مِنَ الْمَسْئَةِ الَّتِي كُفِّرْتُمْ وَأَن يَكْفِيَهُمْ ﴿۴۰﴾

آیت نمبر ۴۰۔ او او عاقل اور او صحتوف علیہ صحتوف سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ائْتُونِي باہل اَعْلُ اس شرط مفعول بہ ضمیر مستثنیٰ سِرِّ الْأَحْرَفِ اسْتَعْقَلِيْلًا موصوفہ میں حرف مقدمہ تَامُ موصول تَامًا كَلْبِيْلًا کے متعلق ہو کر حال مقدم جملہ فعلیہ خبریہ صحتوف علیہ پھر صحتوف علیہ یا صحتوف عَامٌ کی صفت، موصوفہ بعنت ذوالہا مَوْجَرًا، ذوالہا باہل یَأْتِي كَالْقَاعِ، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ صحتوف علیہ یا صحتوف جملہ صحتوف ہو کر

ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ محذوف یا معطوف جملہ معطوف ہو کر فاعل عاقلہ لکن شریعی مفعول فیہ مقدم چہاں فعل کا ضمیر مفعول بہ الذمّیّون فاعل، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ مکالم فعلیّ ہو مستقر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول یا ازجیع فعل امر آنک مستقر فاعل الیٰ ذیٰ ذلک جاہد باجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو عاطفہ اشکن فعل امر آنک مستقر فاعل کا ضمیر مفعول بہ اول ما استقبہا یہ مبتدہ ہاں مضاف الیٰسویۃ موصوف الّٰتی اسم موصول کلّکون فعل نون متقدّم ضمیر فاعل آید یذہبن مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الیٰسویۃ کی صفت، موصول باصفت ہاں کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مضافاً اشکن کا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ براء، شرطہ با جزاء جملہ شرطیہ ہوں ان حرف تحقیق و بی مرکب اضافی اس کا اسم ہاں جاہد گنید یذہبن مرکب اضافی بجر و، جاہد باجر و متعلق مقدم علیہ صیغہ صفت ہو مستقر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر بیان یا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْتَنِّي يُوسُفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الشَّنْ حَضَّحَصَّ الْحَقُّ اَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۵:** قَالَ هُوَ مستقر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ما اسم استفہام مبتدہ ما خَطْبُكُمْ مرکب اضافی ذوالحال (از تقریر) اذ طرف زمان مضاف رَأَوْتَنِّي فعل نون متقدّم ضمیر فاعل یُوسُفُ مفعول بہ عن نَفْسِهِ جاہد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ کا کئی ما کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال باصل خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قُلْنَ فعل نون متقدّم ضمیر فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ما کئی عن عَلِمْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلِمْنَا جاہد باجر و متعلق ہوئے ہوں جاہد ناکدہ سُوْرَةُ لَقَا بجر و مضافاً مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

حَاشَ یعنی تَنْوِيْهَا مفعول مطلق ہے فعل محذوف تَنْوِيْءُ کا، تَنْوِيْءُ فعل نَحْنُ مستقر فاعل یلٰہ جاہد باجر و کا کئی ما کے متعلق ہو کر حَاشَ یعنی تَنْوِيْهَا کا حال ہے، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ مترشہ ہو۔ قَالَتِ فعل امْرَأَتِ الْعَزِيزِ مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَلْحَقُّ طرف زمان مفعول فیہ مقدم حَضَّحَصَّ فعل الْحَقُّ فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ اَنَا ضمیر منفصل مبتدہ رَأَوْتَنِّي فعل تاء مضمومہ فاعل کا ضمیر مفعول بہ عن نَفْسِهِ جاہد باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف تحقیق کا ضمیر اسم لامرہ ملحقہ ہوں الصّٰدِقِيْنَ جاہد باجر و طرف مستقر کا کئی کے متعلق ہو کر خبر بیان یا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف منظر ہو۔

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰبِئِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۵۲:** ذٰلِكَ اِسْمُ اِسْتِهْدَاءٍ اِوَّاسٍ كِىْ خَبْرٌ مَّخْذُوْفٌ يَّهٰ كَاَنَ (مظہری) مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں یا فعل ماضی منصوب  
 قُلْتُ کا مفعول ہے، لآہر جادہ تعلیلہ اِوَّاسِ کے بعد اَنَ مقدّم ہے یَعْلَمُہُ فعل ہو مستتر قائل اَنَ حرف تحقیق بیاد ضمیر اس کا اسم لَہُ اَخْبَنَ  
 فعل اَنَا مستتر قائل ضمیر ذوالحال بِالغَیْبِ ظرف مستقر کا بُنَا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال ہا حال مفعول ہے، فعل ہا قائل و مفعول یہ جملہ فعلیہ  
 خبریہ اَنَ کی خبر اَنَ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و ما عطف اَنَ حرف تحقیق اَللّٰہِ اس کا اسم لَہُ اَخْبَنَ ہئی فعل ہو مستتر قائل کَیْدًا  
 الحَاظِبِیْنِ مرکب اضافی مفعول ہے، تیوں ل کر خبر، اِنَ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف یَعْلَمُہُ کے دو مفعول کے  
 قائم مقام، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتولیل مصدر مجرور، جادہ با مجرور، کان مخذوف کے متعلق ہوتے۔

**وَمَا اَبْرِئِیْ لِنَفْسِیْ اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَارَآةٌ بِالسُّوْرِِ الْاَمَّا رَجَحَ رَبِّیْ اِنَّ رَبِّیْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۵۳﴾**

**آیت نمبر ۵۳:** وَاوَّاعِلٌ مَا نَا فِیْ اَبْرِئِیْ لِنَفْسِیْ اِنَّ اَنَا مستتر قائل نفیسی مرکب اضافی مفعول ہے، فعل ہا قائل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ  
 قُلْتُ ذٰلِکَ پر معطوف ہے اِنَّ حرف تحقیق النَّفْسِ اس کا اسم لآہر مذماتہ اَمَّا رَآةٌ صیغہ ماضی مع مفعول مستتر قائل بِالسُّوْرِِ جادہ با مجرور متعلق  
 ہوتے اَلْاَحْرَفِ اسْتِهْدَاءِ مَا مَعْنٰی مِنْ اِسْمٍ مَوْصُوْلٍ وَجَحَ فعل ہو مستتر قائل و دونوں ل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول ہے، صیغہ ماضیہ  
 ہا قائل و متعلق و مفعول ہے شہہ جملہ خبریہ اَبْرِئِیْ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطلہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق وئی مرکب اضافی اِسْمُ غَفُوْرٌ  
 رَّحِیْمٌ دو خبر اَبْرِئِیْ ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ ہوں۔

**وَقَالَ الْمَلِکُ اَتُنُوْنِ بِہِ اَسْتَخْلِصُہُ لِنَفْسِیْ ۚ فَلَمَّا کَلِمَہُ قَالَ اِنَّکَ الْیَوْمَ لَکِنَّا مَکِیْنٌ**

**اٰمِیْنٌ ﴿۵۴﴾**

**آیت نمبر ۵۴:** وَاِذَا نَالِیْ قَالَ الْمَلِکُ فعل ہا قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اِنْتُمْ اَفْعَالُ امر و ضمیر قائل نون و قایہ کا، بیاد ضمیر  
 مفعول ہے، یہہ جادہ با مجرور متعلق ہوتے، فعل ہا قائل و مفعول ہے و متعلق جملہ فعلیہ انتہایہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اَسْتَخْلِصُ  
 فعل اَنَا مستتر قائل ضمیر مفعول ہے، لآہر حرف جادہ نفیسی مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوتے، چاروں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر  
 جزاء ہے شرط مخذوف اِن تَأْتُوْنِ یہہ کی، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اَفْعَاءٌ عاقلہ لکننا شرطیہ مفعول فیہ مقدم کَلِمَہُ فعل ہو مستتر قائل ضمیر  
 مفعول ہے، چاروں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قائل فعل ہو مستتر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول اِنَّ حرف تحقیق کاف ضمیر ذوالحال الْیَوْمَ  
 کَاکِبًا کا مفعول ہے ہو کر حال، ذوالحال ہا حال اِنَّ کا اسم اِلَّا الْیَوْمَ "مَکِیْنٌ" کا مفعول فیہ لکننا مرکب اضافی مَکِیْنٌ کا مفعول فیہ مقدم مَکِیْنٌ  
 صیغہ صفت اَنْتَ مستتر قائل اور مفعول فیہ سے ل کر خبر اَبْلَ اٰمِیْنِ خبر ثانی، اِنَّ ہا م و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ  
 خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**قَالَ اَجْعَلِیْ عَلٰی خَزَاۤءِیْنِ الْاَرْضِ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْہِمُ ﴿۵۵﴾**

**آیت نمبر ۵۵:** قَالَ فعل ہو مستتر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول اَجْعَلْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل نون و قایہ بیاد ضمیر  
 منصوب مفعول ہے اَبْلَ عَلٰی حرف جادہ خَزَاۤءِیْنِ الْاَرْضِ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور طرف مستقر مُسْتَوِیًّا (روح المعانی) کے متعلق ہو کر

مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ انتہائی مفعولہ، قول باقوال جملہ فعلیہ خبریہ ہو لہذا حرف تحقیق یاء ضمیر اس کا اسم حقیقہ علیہ و خبر بران با اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ أَن يَنْتَبِهُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ لِئَلَّا نُصِيبَ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۱﴾

**آیت نمبر ۵۱:** واؤ استیفاء فی کڈلک جاہر باجرور ظرف مستقر کڈلک کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوفہ مذکورہ کڈلک کے مفعول مطلق مقدم مکننا فعل ناقص خبر ناقص لہ جاہد یوسف ذوالحال فی الارض ظرف مستقر کڈلک کے متعلق ہو کر حال اولیٰ، یا فی الارض مکننا کے متعلق ہے، یکتبوا فعل ہو مستقر قاعل و منها جاہر باجرور متعلق ہوئے حینث مضاف یشاء فعل ہو مستقر قاعل سے ل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ یکتبوا کا مفعول فیہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ثانیہ، ذوالحال باحالیین مجرور، جاہر باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق و مفعول مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو لہ نصیب فعل یاء جاہد و حینثا مرکب اضافی مجرور، جاہر باجرور متعلق ہوئے من اسم موصول لئلا فعل سخن مستقر قاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لئلا فعل سخن مستقر قاعل اجزاء المحسنین مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں

وَلَا جُورَ الْأَخِرَةِ حَيْثُ يَلْدَيْنِ أَمْنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۲﴾

**آیت نمبر ۵۲:** واؤ استیفاء فی یا مایہ لہر ابتدا سیہ اجزاء الاخیرۃ مرکب اضافی مبتدأ حید و اسم تفصیل ہو مستقر قاعل لہر جاہد اللذین اسم موصول آمنوا فعل باہر ضمیر ناقص جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کانوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم متفقون فعل باہر ضمیر ناقص جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاہر باجرور حید کے متعلق ہوئے، اسم تفصیل باقاعل و متعلق خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو یا اجزاء المحسنین سے حال ہے۔

﴿۵۲﴾ اور نمبر ۸ ﴿۵۲﴾

وَجَاءَ اخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهَا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۵۳﴾

**آیت نمبر ۵۳:** واؤ استیفاء فی جاء فعل اخوة يوسف مرکب اضافی قاعل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ دخلوا فعل واو ضمیر قاعل علیہ جاہر باجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فقاء عاطفہ عرف فعل ہو مستقر قاعل ہڈ ضمیر ذوالحال واو حال ہڈ ضمیر مبتدأ جاہر باجرور متعلق مقدم ہوئے منکرؤن اسم قاعل ہڈ مستقر قاعل اور متعلق مقدم سے ل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنَ أَبِيكُمْ ؕ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي

### الْكَيْلِ وَ اَنَاخَيْرُ الْمُنْزَلِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۵۹:** واؤعاطفہ لکثیر علیہ مفعول فی مقدم جہزہ فعل ہو مستتر قائل ہے ضمیر مفعول بہ بناء جادہ جہزہ ہضم مرکب انسانی مجرور، جادہ باجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ، قال فعل ہو مستتر قائل سے مل کر قول بائشؤواصل امر واؤ ضمیر قائل نون و قایہ بناء ضمیر مفعول بہ بناء جادہ لکثیر موصوف لکثیر جادہ باجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ صیغہ حرف جادہ آیتکم مرکب انسانی مجرور، جادہ باجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف باصغین مجرور، جادہ باجرور ظرف لغو ائشؤوا کے متعلق ہوئے، فعل امر باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ مقولہ، قول باقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جڑا، شرطہ باجزا، جملہ شرطیہ ہوا۔ ہذوا حرف استفہام لاکرؤن فعل واؤ ضمیر قائل اَنْ حرف تحقیق بناء ضمیر اس کا اسم اُوْی فعل انا مستقر قائل ال کئیل ذوالعلل واؤ عالیہ انا ضمیر مبتدأ اَحْبُوْا الْمُنْزَلِيْنَ مرکب انسانی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالعلل باحال اُوْی کا مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَنْ کی خبر، اَنْ کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ کرؤن کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقائل و مفعولین جملہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔

### فَاِنْ لَمْ تَأْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرُبُوْنِ ۝

**آیت نمبر ۶۰:** فآء عاطفہ حرف شرط لَمْ تَأْتُوْا فعل واؤ ضمیر قائل نون و قایہ بناء ضمیر مفعول بہ یہ جادہ باجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ فآء جزائیہ لآئی جس کئیل اس کا اسم لکثیر جادہ باجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہوئے عِنْدِيْ مرکب انسانی کائین کا مفعول بہ ہوا کائین اسم قائل ہو مستتر قائل و متعلق و مفعول فیہ سے مل کر یہ جملہ ہو کر لآئی خبر، لآپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ واؤ عطفہ لَا تَقْرُبُوْنَ اصل میں لَا تَقْرُبُوْا لَیْسَ بِہٖ لَا تَقْرُبُوْا فعل لئی واؤ ضمیر قائل نون و قایہ بناء ضمیر مفعول بہ، تیبوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزا، شرطہ باجزا، جملہ شرطیہ ہوا۔

### قَالُوْا سُبْحٰنَ اَوْ دَعْنٰهٖ اَبَاةً وَاَنَا لَفَعْلُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۱:** قَالُوْا فعل واؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول سیدین علامت فعل لُؤا و ذ فعل لُحْن مستتر قائل عَنده جادہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَبَاةً مرکب انسانی مفعول بہ، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عطفہ اَنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لآمرہ حلقہ فاعلُوْنَ اسم قائل لُحْن مستتر قائل سے مل کر خبر لائن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول باقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

### وَ قَالَ لِفَتٰیئِهٖ اجْعَلُوْا بَصَاعْتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا اِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰی

### اٰهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۲:** واؤ استیذانہ فی قَالَ فعل ہو مستتر قائل لآمرہ جادہ فیتئہ مرکب انسانی مجرور، جادہ باجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول باجعلوا فعل امر واؤ ضمیر قائل و بَصَاعْتَهُمْ مرکب انسانی مفعول بہ فی جادہ رِحَالِهِمْ مرکب انسانی مجرور، جادہ

باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستفادہ ہو لکھن حرف تری ہُمُ ضمیر اس کا اسم یَعْرِضُوْنَ فعل ہا ضمیر مفعول بہ اِذَا ظرف زمان مضاف اَنْتَلَبُوْا فعل واو ضمیر قائل الی اَطْلَعُوْہُمْ جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ یَعْرِضُوْنَ کا مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ لکھن کی خبر لکھن ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ زانیہ مَعْرِضَتِهِمْ کی تاویل میں ہو کر اُجَعَلُوْا کی ضمیر قائل سے حال ہے۔ لکھن حرف تری ہُمُ ضمیر اس کا اسم یَجْعُوْنَ فعل ہا واو ضمیر قائل خبر لکھن ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ زانیہ و جُوْعِهِمْ کی تاویل میں ہو کر یَعْرِضُوْنَ کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلَى اٰیٰتِنَا مَنَعَ مِّنَّا الْكَيْدُ فَازْسِلْ مَعَنَا اَحَاثَا نَكْتَلُ وَاِنَّا

لَهٗ لَخٰفِضُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۶۳:** فَاء عاقلہ تاشرطیہ مفعول فیہ مقدم رَجَعُوْا فعل واو ضمیر قائل الی جادہ اٰیٰتِنَا مرکب انشائی مجرور، جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوْا فعل ہا واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یَا اے حرف جادہ اَدْعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا فعل انا ضمیر قائل اِنَّا کا مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ انشائیہ نداء، مَنَعَ فعل مجہول ہینا جاد باجرور متعلق ہوئے الکیڈیل نائب قائل، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ مقولہ، قول با مقولہ جادہ، شرط جادہ جملہ شرطیہ ہو۔

فَاء نصیبہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، یا اِنْ وَظِنْتَ فِی الْكَيْدِ، اَوْ سِلْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل مَعَنَا مرکب انشائی مفعول فیہ اَحَاثَا مرکب انشائی مفعول بہ، جادوں ل کر جادہ، شرط مخدوف جادہ جملہ شرطیہ ہو لکھن فعل نَحْنُ مستتر قائل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ جادہ ہے شرط مخدوف اِنْ تُوْسِلْ مَعَنَا اَحَاثَا کی، شرط جادہ جملہ شرطیہ ہو ل و او حال الی ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لہ جاد باجرور متعلق مقدم ہوئے لآء عاقلہ خَفِضُوْنَ اسم قائل نَحْنُ مستتر قائل اور متعلق مقدم سے ل کر ان کی خبر، اِنْ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نَكْتَلُ کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

قَالَ هَلْ اٰمَنْتُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اٰمَنْتُكُمْ عَلٰی اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ، قَالَتْ حٰیْرَةُ خَفِضًا وَّ هُوَ

اَزَحَمَ الرَّحْمٰنِ ۝

**آیت نمبر ۶۳:** قَالَ قَالَ هُوَ مستتر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، کھل حرف استعجاب اَمِنَ فعل انا مستتر قائل کُفُ ضمیر مفعول بہ عَلَیْہِ جاد باجرور متعلق ہوئے اَلْاَحْرَفِ استثناء کا ف جادہ صا مصدریہ اَمِنْتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر قائل کُفُ ضمیر مفعول بہ عَلَیْہِ جاد باجرور متعلق ہوئے مِنْ قَبْلُ طرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر اَخِيْہِ کا حال ہے، یا اَمِنْتُ کے متعلق ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق بتاویل مصدر مجرور، جاد باجرور طرف مستقر کا تینا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف اَمِنَّا کے اَمِنَ کا مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو اَفَاء نصیبہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، یا اِنْ اَرْسَلْتُهُ مَعَكُمْ، اَللّٰهُ مُبْتَلٰی سُوْرَةِ نَحْمِہِمْ تَفْصِيْلٌ هُوَ مستتر قائل خَفِضًا تیز (روح السالین) تینوں ل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ



خبر یہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہو، ضمیر مبتدأ، اَوْحَىٰ التَّوْحِيْدِيْنَ مرکب انشائی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط و معطوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۚ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا لَنَبِيٍّ هٰذَا بِهٖ بِضَاعَتُنَا ۖ رَدَّتْ إِلَيْنَا ۚ وَنَبِيُّؤُنَا هٰكُنَا وَنَحْفُظُ اٰخَانًا وَكَرَدَّا كَيْلَ بَعِيْرٍ ۚ ذٰلِكَ كَيْلَ نَبِيِّنَا ۝

**آیت نمبر ۶۵:** واو عاطفہ لَمَّا شرطیہ مفعول فی مقدم فَتَحُوا فعل واو ضمیر فاعل مَتَاعَهُمْ مرکب انشائی مفعول بہ، جہاں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ و جَدُّوا فعل واو ضمیر فاعل بِضَاعَتَهُمْ مرکب انشائی مفعول بہ اول رَدَّتْ فعل مجهول ہی مستتر تہب قائل إِلَيْهِمْ جاد باجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ فَعَلًا منسوب مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ قَالُوا فعل با واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، یناء حرف عداد اَدْعُوا کے قائم مقام، اَدْعُوا فعل اَنَّا مستتر فاعل اَبَانَا مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ انشائیہ ہو کر عدا مَعًا استفہامیہ مفعول بہ مقدم نَبِيِّنَا فعل نَحْنُ مستتر فاعل اور مفعول بہ مقدم سے ل کر جملہ انشائیہ ہو کر عدا کا جواب، عدا کا جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

هٰذَا اسم اشارہ مبدل مِنْ بِضَاعَتُنَا مرکب انشائی بدل، دونوں ل کر مبتدأ رَدَّتْ فعل مجهول ہی مستتر تہب قائل اِلَيْنَا جاد باجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، واو عاطفہ اور معطوف علیہ معطوف بہ نَسْتَنْظِرُہُمْ بِهَا نَبِيُّنَا فعل نَحْنُ مستتر فاعل اَهْلُنَا مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ نَحْفُظُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل اَخَانًا مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں ل کر معطوف ثانی، واو عاطفہ نَرَدُّا دُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل کَيْلَ بَعِيْرٍ مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثانیہ جملہ معطوف ہوں ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ کَيْلَ نَبِيِّنَا مرکب تو صغی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنَ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتِنَنِيْ بِهٖ اِلَّا اَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

**آیت نمبر ۶۶:** قَالَ فعل نَحْنُ مستتر فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَنْ اُرْسِلَهُ خبریہ قول، اَنْ اُرْسِلَ فعل اَنَّا مستتر فاعل اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ مرکب انشائی مفعول فی حَتَّى جادہ اس کے بعد اَنْ مقدر ہے تُوْتُوْا فعل واو ضمیر فاعل نون وقایہ کا یناء، ضمیر مفعول بہ اول مَوْثِقًا موصوف من اللّٰہ طرف مستقر کا یناء کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، جاد باجرور لَنْ اُرْسِلَهُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ لامر موصوفہ القسم اور قسم محذوف ہے تَأْتِنَنِيْ فعل اور محذوف فاعل نون وقایہ کا یناء، ضمیر مفعول بہ، پوچھ جاد باجرور متعلق ہوئے اِلَّا حرف استفہام اَنْ مصدریہ یحاط فعل مجهول ہو ضمیر راجع بسوئے اِلَّا حکایتہ مصدر تہب فاعل بِكُمْ جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل مجهول تہب فاعل و متعلق

جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مضاف الیہ ہوا وقت مضاف مخدوف کا، مضاف بامضاف الیہ مفعول فیہ ہوا اکتائون کا، فعل بافاعل و متعلق مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں  
 فاء عاطفہ لکثیر طیبہ مفعول فیہ مقدم اقول واو ضمیر فاعل ؕ ضمیر مفعول بہ مَوْثِقَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطہ اقال فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، اَللّٰهُ مَبْدَا عَلٰی جَارِهِ مَا مَوْثِقَهُمْ اقول فعل نحو مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول بامصلہ مجرور، جار مجرور متعلق مقدم و کینل صیغہ صفت ہو مستتر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جزا، شرط با جزا جملہ شرطیہ ہوں

وَقَالَ يُبَيِّنُ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَاذْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا اَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٥﴾

آیت نمبر ۶۵: واو عاطفہ قال فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، یاء حرف نداء اذخو کے قائم مقام، اذخو فعل انا مستتر فاعل یبیین مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں لا تَدْخُلُوا فعل واو ضمیر فاعل میں جارہ بآب و واحد مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ ہوا و عاطفہ اذخو فعل امر واو ضمیر فاعل میں جارہ ابواب موصوفہ مُتَفَرِّقَةٍ قائم مقام فعل ہی مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوفہ باصفت مجرور، جار مجرور اذخو کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب نداء، نداء باجواب جملہ انشائیہ ناسیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

واو عاطفہ مآنا فی اَعْنِي فعل انا مستتر فاعل عَنْكُمْ جارہ مجرور متعلق ہوئے مِنَ اللّٰهِ ظرف مستقر کاؤنٹا کے متعلق ہو کر حال مقدم میں جارہ نادمہ شئی ہو لفظ مجرور مضاف ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متناقضہ ہوں اِن ناسیہ الْحُكْمُ مبتدا، بِالْاَحْرَفِ استثناء لہو جارہ مجرور و ظرف مستقر کاؤنٹا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ منقطہ ہوں عَلَیْهِ جارہ مجرور متعلق مقدم تَوَكَّلْتُ فعل قائم مقام مضموم ضمیر فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو استینافیہ (فقیر) عَلَیْهِ جارہ مجرور متعلق مقدم فاء نادمہ لیکتوکون فعل باواو ضمیر فاعل امر الْمُتَوَكِّلُونَ فاعل، فعل بافاعل و متعلق مقدم جملہ انشائیہ متناقضہ ہوں

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوهُمْ مَا كَانَ يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةٌ فِيْ نَفْسٍ يَّعْقُوبَ قَضَاهَا وَاِنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلٰكِنْ اَسْئُرُ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

آیت نمبر ۶۶: واو عاطفہ لکثیر طیبہ مفعول فیہ مقدم دَخَلُوا فعل واو ضمیر فاعل میں جارہ حَيْثُ مضاف اَمَرَهُمْ فعل ہضم ضمیر مفعول بہ اَبُوهُمْ مرکب اضافی فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ مجرور، جارہ بآب و دَخَلُوا کے متعلق ہوئے،

فعل باقاعل و متعلق و مفعول فی مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط، مانا تا فی کان فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم نفی فعل ہو مستتر قاعل عنہما جہد باجرور متعلق ہوئے من اللہ طرف مستتر کا تکان کے متعلق ہو کہ حال مقدم، میں جا رہا تاکہ کہنی پہ لٹکا جہد و غلام منصوب ذوالعلی موخر، ذوالعلی باحال مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ جہاد، شرط باجزاء جملہ شرطیہ، ولہ الآخر استفہامی لکن، حاجت موصوف فی جہد نفس یتقون مرکب انشائی مجرور، جہاد باجرور طرف مستتر کا تکان کے متعلق ہو کر مفت اولیٰ، قضی فعل ہو مستتر قاعل کا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفت ثانیہ، موصوف ہا متعین مستثنیٰ منقطع، واو استینافیہ اِن حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا اسم لاکر مدحہ ذُو مضاف علیہ مصدر لاکر جہاد مانا موصول عَلِمْنَا فعل ناقص قاعل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مجرور، جہاد باجرور مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر با متعلق مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ خبر، اِن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو لو واو عطف لکن حرف تحقیق اکتو القاس مرکب انشائی لکن کا اسم الا یتعلقون فعل باوا ضمیر قاعل جملہ فعلیہ خبریہ خبر لکن، ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ سابقہ پر موقوف ہے۔

﴿ ۹ ﴾ رکوع نمبر ۹

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَآ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰:** واو عطف لکن، شرطیہ مفعول فی مقدم نے دَخَلُوا فعل ناقص ہا ضمیر قاعل علی یوسف جہاد باجرور متعلق ہوئے، جہادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ شرط، اَوَىٰ فعل ہو مستتر قاعل اِلَيْهِ جہاد باجرور متعلق ہوئے اَخَاهُ مرکب انشائی مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جہاد، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ قَالَ فعل ہو مستتر قاعل سے مل کر قول، اِن حرف تحقیق ثانیہ ہا ضمیر اس کا اسم اَنَا ضمیر مبتدأ اَخُوكَ مرکب انشائی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِن کی خبر، اِن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ قہد فیسی اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ لَا تَبْتَئِسْ فعل نمی آنت مستتر قاعل ہا جہاد مانا موصول کا تکان فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یتعمنون فعل ناقص ہا ضمیر قاعل و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہاد باجرور لاکر تَبْتَئِسْ کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ انشائی ہو کہ جہاد، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رِجْلِ أَحِيَهْ ثُمَّ أَدْنَىٰ أَيْتَهَا الْعِيُوذُ ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱:** فاعا عطف لکن، شرطیہ مفعول فی مقدم جہَّزَهُم فعل ہو مستتر قاعل ہف ضمیر مفعول بہ ہا جہاد جہَّازِهِم مرکب انشائی مجرور، جہاد باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ شرط، جَعَلَ فعل ہو مستتر قاعل السَّقَايَةَ مفعول بہ فی جہاد و رِجْلِ أَحِيَهْ مرکب انشائی مجرور، جہاد باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ موقوف علیہ، مَثَرٌ عطف ادْنَىٰ فعل ناقص قاعل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ موقوف علیہ موقوف جہاد، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ اَيْتَهَا الْعِيُوذُ یہ اصل میں

يَا أَيُّهَا الْعِجُوبُ يَا هَـٰٓؤُلَاءِ أَعْمَىٰ فَاعْبُدْ آلَٰهَهُمْ قُلْ إِيَاسِي عِبَادِ اللَّهِ قُلْ لِي إِعْرَابٌ مِّمَّا يَـَٔخُذُونَ بِاللِّغْوِ اللَّعِينِ  
صفت پیدل، موصوف باصفت عجم منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء بان حرف تحقیق کلمہ ضمیر اس کا اسم لاہر  
بذمہ صارت فون اسم فاعل انکشم مستقر قائل سے ل کر خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جو با نداء نداء با جواب نداء جملہ انشائیہ عماتیہ ہوں

قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَهُونَ ۝

آیت نمبر ۱۱: قَالُوا قَالُوا فعل باواضاحیہ اقبَلُوا فعل واو ضمیر فاعل واو ضمیر فاعل علیہم جار باجر و متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ  
فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال قَالُوا کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، صما استفہامیہ مبتدا کا اسم موصول تَفْقَهُونَ فعل با  
واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

قَالُوا انْفَقَدَ صُوعًا الْمَلِكُ وَلَيْسَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۝

آیت نمبر ۱۲: قَالُوا فعل باواضاحیہ انْفَقَدَ فعل تَحْنُ مستقر فاعل صُوعًا الْمَلِكُ مرکب انسانی  
مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں و او عاقلہ لاہر جارہ من موصول جَاءَ فعل ہو  
مستقر فاعل پہ جار باجر و متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ خبر و جار باجر و طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر  
خبر مقدم حِمْلُ بَعِيرٍ مرکب انسانی مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ سابقہ پر مطوف ہے و او استہانیہ فعل انکا ضمیر مبتدا پہ جار با  
جر و متعلق مقدم ہوئے زَعِيمٌ صیغہ صفت انکا مستقر فاعل و متعلق مقدم سے ل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ قال المؤمنون کا مقولہ ہے

قَالُوا اتَّانَاهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْتُمَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ۝

آیت نمبر ۱۳: قَالُوا فعل باواضاحیہ قَالُوا فعل تَالَهُو جار باجر و متعلق ہوئے فعل مخدوف اَقْبَسُوا کے اَقْبَسُوا  
فعل انکا ضمیر فاعل اور متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مؤکلہ لاہر موطن القسم اور یہ قسم اول کی تاکید ہے قَدْ حرف تحقیق عَلِمْتُمْ  
فعل بافاعل، صما نافیہ جِئْتُمَا فعل انکا ضمیر فاعل، لاہر جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے نَفْسِدَ فعل تَحْنُ مستقر فاعل فی الْأَرْضِ جار  
باجر و متعلق ہوئے، تیوں مل کر متاویل مصدر مجرور، جار باجر و متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مطوف علیہ و او عاقلہ صا  
نافیہ سُنَّتْنَا ناصب ناصب انکا ضمیر اس کا اسم سَارِقِينَ اسم فاعل تَحْنُ مستقر فاعل سے ل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مطوف،  
مطوف علیہ با مطوف عَلِمْتُمْ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جواب قسم، قسم با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں

قَالُوا فَمَا جَزَاءُ أُو۟لَٰئِكَ لَئِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِينَ ۝

آیت نمبر ۱۴: قَالُوا فعل باواضاحیہ قَالُوا فعل تَعَاءَ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول تعاء نصیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے ان لَمْ تَكُونُوا سَارِقِينَ  
(از فقیر) صما استفہامیہ مبتدا، جَزَاءُ أُو۟لَٰئِكَ ب انسانی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ  
خبریہ ہوں بان حرف تحقیق كُنْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم كَذِبِينَ اسم فاعل انكشم ضمیر فاعل سے ل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر  
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور جزاء مخدوف ہے فَمَا جَزَاءُ السَّارِقِ، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں

قَالُوا اجْرَأْ اَوْ هَمَّ مِنْ وُجْدٍ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَّ اَوْهُ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝

**آیت نمبر ۵۷:** قَالُوا اجْرَأْ اَوْ هَمَّ مِنْ وُجْدٍ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَّ اَوْهُ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝  
 مجھوں کو مستتر قائل نائب قائل فی رَحْلِهِ جملہ باجبر و متعلق ہوئے، فعل مجھوں ہائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط علقہ ترازیہ ہو ضمیر مبتدا اجْرَأْ اَوْهُ مرکب انشائی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر صحن کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اول کی خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معقول، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ کَذَلِكَ ظرف مستقر کجائتا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف جَرَّ اَوْهُ کے مفعول مطلق، نَجْزِي فعل نَحْنُ مستتر قائل الظَّالِمِينَ مفعول بہ، یہاں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فَبَدَأَ بِاَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخَرَّ جَهَّاهَا مِنْ وِعَاءِ اَخِيهِ ۚ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۙ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللهُ ۚ نَزَّلْنَا سَفَاً مِنْ نَشَاءِ ۙ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

**آیت نمبر ۶۱:** فَبَدَأَ بِاَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيهِ ۚ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۙ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللهُ ۚ نَزَّلْنَا سَفَاً مِنْ نَشَاءِ ۙ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝  
 آخِيهِ مرکب انشائی کائتہ کا مفعول نہ ہو کر اَوْعِيَّتِهِمْ کا صل ہے (تقریباً یا بدتاً کا مفعول نہ ہے۔ بدتاً فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ اسْتَخَرَّ جَهَّاهَا فعل ہو مستتر قائل ہا ضمیر مفعول بہ، مِنْ جہا وِعَاءِ اَخِيهِ مرکب انشائی مجرور، جہا باجبر و متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔ کَذَلِكَ ظرف مستقر کجائتا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف کِيدْنَا کے مفعول مطلق مقدم کِيدْنَا فعل نا ضمیر قائل لِيُوسُفَ جہا باجبر و متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

ماتا ہے گا تُو اَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيهِ ۚ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۙ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللهُ ۚ نَزَّلْنَا سَفَاً مِنْ نَشَاءِ ۙ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝  
 متعلق بہ فی جہا وِعَاءِ اَخِيهِ دِينِ الْمَلِكِ مرکب انشائی مجرور، جہا باجبر و ظرف مستقر کجائتا کے متعلق ہو کر یاخُذَ کی ضمیر قائل سے حال ہے یا یاخُذَ کے متعلق ہے اَلْاَحْرَفُ اسْتِثْمَانٌ مصدر یہ تاصبہ نَشَاءِ فعل اَللّٰهُ اسم الجلالہ قائل، دو نون ل کر تباوایل مصدر حال ہو یاخُذَ کی ضمیر قائل سے، یا اسٹشی مطلق ہے، یاخُذَ فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ تباوایل مصدر مجرور، جہا باجبر و ظرف مستقر کجائتا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص یا اس و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مطلق ہو۔

نَزَّلْنَا سَفَاً مِنْ نَشَاءِ ۙ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝  
 نَزَّلْنَا فعل نَحْنُ مستتر قائل ذَرَجَاتٍ مفعول نہ صِن اِم موصول نَشَاءِ فعل نَحْنُ مستتر قائل سے ل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ وَاوِ عِلْمٍ قَوْنِي مضاف کَلِّ مضاف الیہ ذی عَلِيمٍ مرکب انشائی کَلِّ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ قَوْنِي کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ کَالِيْنَ کا مفعول نہ ہو کر خبر مقدم عَلِيْمٌ مبتدا و خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

قَالُوا اِنْ يَمْسُرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَهٗ مِنْ قَبْلُ ۙ فَاسْرَهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهٖ ۙ وَكَمْ يُبْدِهَا

**آیة نمبر ۷۷:** قَالُوا لَوْلَا فَعَلَ فَعْلًا فَعْلًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۷۷﴾

آیة نمبر ۷۷: قَالُوا لَوْلَا فَعَلَ فَعْلًا فَعْلًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۷۷﴾  
 جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عقابہ جزائیہ کا علامت فعل سَوَقِیْ فَعْلًا موصوفہ کہ طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ یا صفت ذوالحال میں قَبْلَیْنَ طرف مستقر کا تین کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل اور یہ بھی جائز ہے کہ میں قَبْلَیْنَ سَوَقِیْ کے متعلق ہو، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ متوالہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فقہ استثنائیہ (روح المعانی) اَسْوَدَ فَعْلًا صَیْرَ مَعْفُولٍ بِہِ یُؤَسِّفُ فاعل فی نفسیہ جادہ باجود متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کَعْرُیْتُ فَعْلًا ہُوَ مستقر فاعل صَیْرَ مَعْفُولٍ بِہِ لَہُمْ جادہ باجود طرف نحو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

قَالَ فَعْلًا ہُوَ مستقر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَللَّهُ صَیْرَ مَعْفُولٍ بِہِ شَوَّیْ م تفضیل اَللَّهُ فاعل مَكَانًا تَمِیز، اسم تفضیل بافاعل و تمیز خبریہ مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَللَّهُ مبتدأ اَعْلَمَ اسم تفضیل ہُوَ مستقر فاعل بآء جادہ ماموصولہ تَصِفُونَ فَعْلًا ہُوَ صَیْرَ فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصولہ باصلہ مجرور، جادہ باجود متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف متوالہ، قول یا مقولہ بدل ہے اَسْوَدَ کَعْرُیْتُ فَعْلًا فی نفسیہ سے (مظہری)

قَالُوا يَا كَيْفَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ آبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۸﴾

آیة نمبر ۷۸: قَالُوا يَا كَيْفَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ آبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۸﴾  
 قَالُوا آئی موصوفہ کا ہر اسے تمیہ الْعَزِيزُ مینہ صفت ہُوَ مستقر فاعل سے مل کر صفت، موصوفہ یا صفت مَعْرُوبِ مَعْفُولِ بِہِ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر ذوالحال حرف تحقیق کہ طرف مستقر کا تین کے متعلق ہو کر خبر مقدم با آبا موصوفہ شَيْخًا صفت اولیٰ، کَبِيرًا صفت ثانیہ، موصوفہ یا صفتین اسم مؤخر خبریان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نداء کا جواب، نداء با جواب نداء جملہ ندائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فقہ استثنائیہ (روح المعانی) اَسْوَدَ فَعْلًا صَیْرَ مَعْفُولٍ بِہِ یُؤَسِّفُ فاعل فی نفسیہ جادہ باجود متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ کَعْرُیْتُ فَعْلًا ہُوَ مستقر فاعل صَیْرَ مَعْفُولٍ بِہِ لَہُمْ جادہ باجود طرف نحو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف متوالہ، قول یا مقولہ بدل ہے اَسْوَدَ کَعْرُیْتُ فَعْلًا فی نفسیہ سے (مظہری)

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مِنْ وَجْدِنَا مَعَآءَنَا عِنْدَنَا ۖ إِنَّا إِذَا لَطْمُونَ ﴿۷۹﴾

آیة نمبر ۷۹: قَالَ لَوْلَا فَعَلَ فَعْلًا فَعْلًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۷۹﴾  
 قَالُوا لَوْلَا فَعَلَ فَعْلًا فَعْلًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۷۹﴾  
 قَالُوا لَوْلَا فَعَلَ فَعْلًا فَعْلًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۷۹﴾

فاعل متنازعاً مرکب انشائی مفعول به عدل مرکب انشائی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین، جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصولہ اسلمہ مستثنیٰ مفرغ  
تأخُّذٌ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر تَعَوَّذُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول، قول  
بمقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہولاً لَنْ حرف تحقیق تَاخْمِیرِ اس کا اسم اِذَا حرف جواب و جزاء، مہملہ لَاحِظہ معلقہ طَلَبُوتُنَّ، اسم فاعل تَحْنَنُ مستتر فاعل سے  
مُل کران کی خبر، اِنْ تَاخْمِیرِ اس کا اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿۱۰﴾ رکوع نمبر ۱۰

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنْ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ  
عَلَيْكُمْ مَوثِقًا مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّظْتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى  
يَاْذَنَ لِيْ اَوْ يَنْحِىَ اللّٰهُ لِيْ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

آیت نمبر ۸۰: مقام استینائیہ لَمَّا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اسْتَيْسَسُوا فعل واو ضمیر فاعل وبنہ جاد باجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر  
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط خَلَصُوا فعل واو ضمیر ذوالحال نَجِيًّا حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط جاد جزاء جملہ شرطیہ  
ہوا۔ قَالَ فعل کَبِيرُهُمْ مرکب انشائی فاعل، و دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، مَعْوِذَةٌ استنبہا یہ لَمْ تَعْلَمُوْا فعل واو ضمیر فاعل اَنْ  
حرف تحقیق اَبَاكُمْ مرکب انشائی اس کا اسم قَدْ علامت فعل اَخَذَ فعل مستتر فاعل عَلَيْكُمْ جاد باجرور متعلق ہوئے مَوثِقًا موصوف چون  
اللّٰهُ ظرف مستتر کَبِيْرًا کے متعلق ہو کر مفت، موصوف بہفت مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اَنْ کی خبر اَنْ  
بہم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ تَعْلَمُوْا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ انشائیہ مفعول، قول باقول جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔  
واو عاطفہ مِنْ قَبْلُ متعلق مقدم مَآ نَاذَمَا فَرَّظْتُمْ فعل تَعْمُرِ فاعل فِي يُوسُفَ جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ  
خبریہ ہو کر اَخَذَ بہ معطوف ہے۔

قَامَ عاطفہ اور معطوف علیہ مزدوف ہے سَا تَقُوْا فِي وَصُوْرٍ لَنْ اَبْرَحَ فعل ہم لَمَّا مستتر اسم الْاَرْضِ مفعول بہ حَتّٰى حرف غایت و جر  
اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے یَاْذَنَ فعل فی جاد باجرور متعلق ہوئے اَبِيْ مرکب انشائی فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ  
عاطفہ يَنْحِىْكُمْ فعل اللّٰهُ اسم الجلال فاعل فی جاد باجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف  
بتاویل مصدر جبر و جاد باجرور لَنْ اَبْرَحَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ مزدوف با  
معطوف جملہ معطوف ہو۔ واو استینائیہ هُوَ ضمیر مبتدئہ تَعْمُرِ الْحٰكِمِيْنَ مرکب انشائی خبر، مبتدئہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متضافہ ہو۔

اِرْجِعُوْا اِلٰى اٰيٰتِكُمْ فَتَقُوْا اَيَّ اٰبَا نَا اِنْ اَبْنٰكَ سَمَوٰى ۚ وَ مَا شَهِدْنَا اِلَّا بَمَا عَلَّمْنَا وَا مَا كُنَّا  
لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝

آیت نمبر ۸۱: اِرْجِعُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل اِلٰى جاد اَيُّكُمْ مرکب انشائی خبر و جاد باجرور متعلق ہوئے، خبر مل کر جملہ انشائیہ  
معطوف علیہ بِنَاء عاطفہ فَوَلُّوا فعل امر واو ضمیر فاعل جملہ انشائیہ ہو کر قول، بِنَاء حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام اَدْعُوْا فعل اَنَا ضمیر فاعل

آیات مرکب اضافی متادئی مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ نداء بیان حرف تحقیق اِنْتَلَكَ مرکب اضافی اسم سوَوِيْ قُلْ هُوَ مُسْتَرْتَابٌ قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء ہا جواب مقولہ، قول یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوفہ ہوا۔ واو عاطفہ متادئی فی شہادت قائل تا ضمیر قائل اِلَّا حرف استثناء بناء جارہ ماسو موصولہ کَلِمَاتًا فعل تا ضمیر قائل، فعل بافاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ مجرور مستثنیٰ مفرغ متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا واو عاطفہ مَتَانِيَةً كُنَّا فعل ناقص تا ضمیر اسم الغائب جارہ مجرور متعلق مقدم معطوفین اسم قائل لَنْحُنَّ مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف اِنَّا اِنْتَلَكَ سوَوِيْ پر معطوف ہے۔

**وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا وَ اِنَّا لَصِدْقُونَ ﴿۷۰﴾**

**آیت نمبر ۸۲:** واو عاطفہ اور اس کا عطف آیا تاکہ آپ سے (فقیر) اشکلی فعل امر آتت مستتر قائل الْقَرْيَةَ موصوف الَّتِي اسم موصول کُنَّا فعل ناقص تا ضمیر اسم فیہا طرف مستقر کائینوں کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الْقَرْيَةَ کی صفت، موصول با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ الْعَيْرَ موصوف الَّتِي اسم موصول اَقْبَلْنَا فعل تا ضمیر قائل فیہا طرف مستقر کائینوں کے متعلق ہو کر اَقْبَلْنَا کی ضمیر قائل سے حال ہے، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الْعَيْرَ کی صفت، موصول با صفت معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ انشائیہ معطوفہ ہوا۔ واو عاطفہ اِنَّا اِنْتَلَكَ سوَوِيْ پر معطوف ہے۔

فصلطہ صَادِقُونَ اسم قائل لَنْحُنَّ مستتر قائل سے مل کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهَمْ جَبِيْلًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۷۱﴾**

**آیت نمبر ۸۳:** قَالَ فعل موصول مستتر قائل سے مل کر قول، بَلْ حرف عطف واضرب اور معطوف علیہ محذوف ہے کیسبت الْحَقِيْقَةُ كَمَا اَخْبَرْتَهُ (روح المعانی) سوَوَّلَتْ فعل موصول لَكُمْ جارہ مجرور متعلق ہوئے اَنْفُسُكُمْ مرکب اضافی قائل اَمْرًا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ یا معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فَاصْبِرْ فیسر اور اس کی شرط محذوف ہے (تفسیر) صَبْرٌ جَبِيْلٌ مرکب توسیعی مبتدا محذوف صَبْرٌ کی خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ عَسَى فعل مقارب اَللّٰهُ اسم الجلالہ اس کا اسم آن حرف مصدری و نصب یأتی فعل موصول مستتر قائل نون وقایہ کا، یأتی ضمیر مفعول بہ بناء جارہ هُمْ ضمیر زوال جَبِيْلًا حال، ذوالحال باحال مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر خبر، فعل مقارب با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم موصول مبتدا الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ دو خبر، مبتدا خبر ن جملہ اسمیہ خبریہ اِنَّ کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوا۔

**وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِيْ عَلٰى يُوسُفَ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿۷۲﴾**

**آیت نمبر ۸۴:** واو عاطفہ تَوَلَّى فعل موصول مستتر قائل عَنْهُمْ جارہ مجرور متعلق ہوئے، تَمَيَّلُوا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا۔



عاطفہ قَالَ لعل ھُوَ مستتر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ینامہ حرف ندما دَعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا لعل انا ضمیر قائل اسقیٰ اصل میں اسقیٰ ہے مرکب انسانی منادئی مفعول بہ علی یوسف متعلق ہے اسقیٰ کے، لعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندما اور جواب ندما معذوف ہے تَعَلَّمَ فَهَذَا الْاَوَّلُ لکن (مظہری) ندما باجواب مقولہ، قول یا مقولہ معطوف اول، واو عاطفہ اِنصَحْتَ لعل عِذْنَهُ مرکب انسانی قائل مِنَ الْحُرْنِ جملہ باجرور متعلق ہوئے، لعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، فَاَمَّا عاطفہ ھُوَ ضمیر مبتدہ کَظِيْمَةٌ صیغہ مفت ھُوَ مستتر قائل سے ل کر خبر، مبتدہ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ جملہ معطوف ہو۔

قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ تَعَفَّوْا اِنَّكَ كَرِيْمٌ سَفِيْحٌ حَتّٰى تَكُوْنَ كَحَرَضٍ اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝۸۵

**آیت نمبر ۸۵:** قَالُوْا لعل واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، تَالُوْا جملہ باجرور متعلق ہوئے لعل معذوف اَقْسِمُ کے، اَقْسِمُ لعل انا مستتر قائل و متعلق سے ل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندما تَعَفَّوْا یہ اصل میں لَا تَعَفَّوْا ہے اور یہ لعل نا قس ہے اکت مستتر اس کا اسم تَدْرُكُ لعل اکت مستتر قائل یوسف مفعول بہ، حَتّٰى حرف نایت و جر اور اس کے بعد اَن تَكُوْنَ مقدر ہے تَكُوْنَ لعل نا قس اکت مستتر اسم حَرَضًا خبر، لعل نا قس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ملوْا حرف عطف تَكُوْنَ لعل نا قس اکت مستتر اس کا اسم مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ظرف مستقر کَظِيْمَةٌ کے متعلق ہو کر خبر، لعل نا قس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر جرور، جملہ باجرور تَدْرُكُ كُوْا کے متعلق ہوئے، لعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لعل نا قس با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم باجواب قسم مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستفاد ہو۔

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَيْنِيْ وَخُرُوجِيْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۸۶

**آیت نمبر ۸۶:** قَالَ لعل ھُوَ مستتر قائل سے ل کر قول اِنّ حرف تحقیق مَا كَانَهُ اَشْكُوْا لعل انا مستتر قائل بَيْنِيْ و خُرُوجِيْ مرکب انسانی معطوف علیہ، واو عاطفہ خُرُوجِيْ مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اِلَى اللّٰهِ جملہ باجرور متعلق ہوئے، لعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَعْلَمُ لعل انا مستتر قائل مِنَ اللّٰهِ جملہ باجرور متعلق ہوئے فَاَمَّا موصول لَا تَعْلَمُوْنَ لعل با و ضمیر قائل صلہ موصول با صلہ اَعْلَمُ کا مفعول بہ، لعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْهَبُوْا فَاَتَّخِذْ سُبُوٰمِنۡ يُّوسُفَ وَاٰخِيْنِهٖ وَاَلَا تَأْتِيْ سُبُوٰمِنۡ رَّوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا

يَاۤاَيُّسُّ مِنَ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝۸۷

**آیت نمبر ۸۷:** ینامہ حرف ندما دَعُوْا کے قائم مقام، اَدْعُوْا لعل انا مستتر قائل بَيْنِيْ و خُرُوجِيْ مرکب انسانی مفعول بہ، تَجِيْوْنَ ل کر جملہ انشائیہ ہو کر ندما، اَذْهَبُوْا لعل امر واو ضمیر قائل جملہ انشائیہ، معطوف علیہ فَاَمَّا عاطفہ تَحْتَ سُبُوٰمِنۡ لعل امر واو ضمیر قائل مِنَ جملہ یوسف معطوف علیہ، واو عاطفہ اٰخِيْنِهٖ مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ با معطوف باجرور جملہ باجرور متعلق ہوئے، لعل باقائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا تَأْتِيْ سُبُوٰمِنۡ لعل نئی واو ضمیر قائل مِنَ جملہ رَوْحِ اللّٰهِ مرکب انسانی جرور، جملہ باجرور متعلق ہوئے، لعل باقائل و متعلق جملہ

انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء یہ مستانفہ ہوا۔ ان حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لا یَا یَٰسَسْ فاعل من جادہ رَفِیْحُ اللّٰہِ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے۔ اَلَا حرف استنہاد لِقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ مرکب توسیعی فاعل، فاعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیانِ باسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

**فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ مَّا نَدْرِكُ لَهَا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ مَّا نَدْرِكُ لَهَا**

**فَاَوْفُوا بَعْدَ مَا قَضَيْتُمْ مِنْ حَقِّكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝**

**آیت نمبر ۸۸:** قَامَ عَاطِفٌ اِبْرٰهٖمَ عَلٰی مَعطوف علیہ معذوف ہے فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِ اٰیْبِهٖمُ ذَا هٰیٖمٍ اِنِّیْ اِلٰی وَضِعُوْهُ اِنَّا شَرِیْهُ مفعول فیہ مقدم دَخَلُوا فاعل واو ضمیر فاعل عَلَیْهِ جادہ با مجرور متعلق ہوئے چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالُوا فاعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول یَاءَمَّ حرف نداء اَذْعُوْا کے قائم مقام، اَذْعُوْا فاعل اَنَّا ضمیر فاعل اَنْیُّ موصوف ہا برائے حمیہ الْعَزِیْزُ مفت، موصوف با صفت مفعول بہ، فاعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء، مَسَّنَا فاعل اَنَّا ضمیر مفعول بہ واو بمعنی مَع " اَهْلَنَا مرکب اضافی مفعول معد الضُّرُّ فاعل مؤخر، فاعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عَاطِفٌ جَمَلْنَا فاعل اَنَّا ضمیر فاعل تَبَاہ جادہ بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ مرکب توسیعی مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف نداء کا جواب، نداء با جواب مقولہ، قول با مقولہ جزاء، شرط با جزاء معطوف ہے معطوف علیہ معذوف با معطوف جملہ معطوف ہوں۔ قَامَ ضمیر اس کی شرط معذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ یَا اِنِّیْ قَبْلَتِہَا اَوَّلٰی فاعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لَمَّا جادہ با مجرور متعلق ہوئے الَکَیْلِ مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو عَاطِفٌ تَصَدَّقْ فاعل امر اَنْتَ مستتر فاعل عَلَیْكَ جادہ با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با معذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِنِّیْ حرف تحقیق اِنَّ اللّٰہَ کا اسم بَجَزٰی فاعل ہُوَ مستتر فاعل الْمُتَصَدِّقِیْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیانِ باسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

**قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۝**

**آیت نمبر ۸۹:** قَالَ هَلْ هُوَ مُسْتَرَفٌّ فاعل سے مل کر قول، هَلْ استنہاد ہے عَلِمْتُمْ فاعل تُمَّ ضمیر فاعل مَّا موصول فَعَلْتُمْ فاعل ضمیر فاعل تَبَاہ جادہ یُوسُفَ وَأَخِيهِ موصوف علیہ با معطوف مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہوئے۔ اِذَا عَرَفَ زَمَانَ مَضَى أَنْتُمْ مِتَدًا اِحْجَاہُونَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستتر فاعل سے مل کر خبر، مِتَدًا خبر مضاف الیہ پھر مرکب اضافی فَعَلْتُمْ کا مفعول فیہ، فاعل با قائل و متعلق مفعول فیہ صلہ، موصول با صلہ عَلِمْتُمْ کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

**قَالُوا عَرَأَيْكَ لَآئِن لَّيُوسُفُ، قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَّتَقَى وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝**

**آیت نمبر ۹۰:** قَالُوا فاعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، هَمَزَةٌ حرف استنہاد اِنِّیْ حرف تحقیق کان ضمیر اس کا اسم لامر مدخلتہ اَنْتَ یُوسُفُ مِتَدًا خبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر بیانِ باسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔ قَالُوا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستتر فاعل

سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَنَا كَيْسُفٌ مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَافَةُ هَذَا اسم اشارة مبتدأ خبر مرکب اضافی ذوالحال قَدْ عَلِمْتَ فعل مَن فعل اللہ اسم الجلالہ فاعل عَلِمْتَ جادہ باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف معقول، قول با معقول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِيْلَهُنَّ اَنْتُمْ سِدْرٌ مِّنْ بَابِلٍ مبتدأ اور قَدْ مَن اللّٰهُ عَلَيْنَا کی خبر ہو۔

اِنَّ حَرْف تَحْقِيقٌ مُّضْمِرٌ اس کا اسم مَن شرط مبتدأ، يَتَّقِيْ فِعْلٌ مَسْتَقْرًا فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاَوْعَافَةُ يَتَّقِيْ فِعْلٌ مَسْتَقْرًا فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، فَعَاذَ جَزَائِيْنَ اِنَّ حَرْف تَحْقِيقٌ اللّٰهُ اس الجلالہ اسم لا يُضَيِّعُ فِعْلٌ مَسْتَقْرًا فاعل اَجْمَعُ الْمُخْسِفِيْنَ مرکب اضافی مفعول بہ، فِعْلٌ باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خبر اَنَّ با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اَنَّ کی خبر اَنَّ با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ مُطْلَقٌ ہو۔

**قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آتَوْنَا اللّٰهُ عٰلَمِيْنَ اِنْ كُنَّا لَخٰطِيْئِيْنَ ﴿۱۰﴾**

**آیت نمبر ۱۰:** قَالُوا فِعْلٌ باءِ وَاَوْعَافَةُ فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، تَاللّٰهُ جادہ باجرور ظرف مستقر فعل معذوف اَقْبَسُمُ کے متعلق ہوئے، اَقْبَسُمُ فِعْلٌ اَنَا مَسْتَقْرًا فاعل، تِيْنٌ لُّر جملہ اِثْمَانِيَّةٌ ہو کر قسم لاکر جوابیہ قَدْ عَلِمْتَ فعل اَوْ فِعْلٌ كَانِ مُضْمِرٌ مفعول اللّٰهُ اسم الجلالہ ذوالحال وَاَوْعَافَةُ اِيْلَانٍ مَخْفَدٌ مِّنِ الشَّلَّةِ مُضْمِرٌ شَانِ اس کا اسم كُنَّا فاعل ناقص تَامِيْرٌ اس کا اسم لامر فَادَةُ خَطِيْئِيْنَ اسم فاعل اَنْحَنُ مستقر فاعل سے ل کر خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنَّ خبر اَنَّ کی خبر اَنَّ با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال اَوْ كُنَّا فاعل عَلِمْتَ جادہ باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب قسم معقول، قول با معقول جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

**قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ۗ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿۱۱﴾**

**آیت نمبر ۱۱:** قَالَ فِعْلٌ مَسْتَقْرًا فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَا تَلِيْ جَمْرٌ تَلِيْ رَبِّ اس کا اسم عَلَيْنَكُمْ ظرف مستقر كَلِمَةٌ کے متعلق ہوا كَلِمَةٌ اسم فاعل مَسْتَقْرًا فاعل الْيَوْمَ مفعول فیہ، اسم فاعل باقاعل و متعلق فیہ شبہ جملہ ہو کر خبر، لَا تَلِيْ جَمْرٌ اِسْمٌ اِسْمٌ اور خبر سے ل کر معقول، قول با معقول جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ يَغْفِرُ فِعْلٌ اللّٰهُ اسم الجلالہ فاعل لَكُمْ جادہ باجرور و متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ اِثْمَانِيَّةٌ دعائیہ ہو۔ وَاَوْعَافَةُ فاعل (فقیر) ہو مُضْمِرٌ مبتدأ اَوْعَافَةُ الرَّحِيْمِيْنَ مرکب اضافی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**اِذْهَبُوْا بِقَمِيصِيْ هٰذَا ۗ فَالْقَوْلُ عَلٰى وَجْهِ اَنْ يَّاتَ بِصِيْرًا ۗ وَاَتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۲﴾**

**آیت نمبر ۱۲:** اِذْهَبُوْا فِعْلٌ امر وَاَوْعَافَةُ فاعل بآء جادہ قَمِيصِيْ مرکب اضافی موصوف هٰذَا اسم اشارة مفت، موصوف با مفت مجرور، جادہ باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ اِثْمَانِيَّةٌ معطوف علیہ، فَعَاذَ عَافَةُ اَعْلَفُ فاعل امر وَاَوْعَافَةُ فاعل اَجْمَعِيْنَ مفعول بہ علی جادہ وَجْهِ اَنْ يَّاتَ مرکب اضافی مجرور، جادہ باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ اِثْمَانِيَّةٌ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔ يَأْتِ فِعْلٌ اصل میں يَأْتِيْ ہے مَسْتَقْرًا ذوالحال بِصِيْرًا مَعِيْنَةٌ مفت مَسْتَقْرًا فاعل سے ل کر حال، ذوالحال باحال فاعل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، امر وَاَوْعَافَةُ مَعْدُوْفٌ ہے اِنَّ تَلَقَّوْا اَقْبَسِيْصِيْ عَلٰى وَجْهِ اَنْ يَّاتَ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ وَاَوْعَافَةُ اَتُوْنَا فاعل امر وَاَوْعَافَةُ فاعل

نون و قایہ کا یہاں ضمیر مفعول بہ ہاں جارہ اھلکم مرکب انسانی مؤکد اھم جوین تاکید، مؤکد ہاں تاکید مجرور، جار ہاں مجرور متعلق ہوئے، فعل ہاں فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ اذھبوا پر موقوف ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۱۱ ﴾

وَلَمَّا فَصَلَ الْعَيْبُ قَالَ أَبُوهُمَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تَقْنُدُونَ ﴿٩٥﴾

**آیت نمبر ۹۵:** ۹۵: وَاوَاتَيْنَا نِي لَمَّا شَرِيَه مفعول فیہ مقدم فَصَلَ فعل العیوب فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عقاب فعل ابوہم مرکب انسانی فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ان حرف تحقیق یتاہ ضمیر اس کا اسم لامر نہ طلقہ آچوں فعل انا مستتر فاعل ریح یوسف مرکب انسانی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ان اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہاں مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط ہاں جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ لَوْ لَا تَعْنِي اَنْ حَرْفٌ مَصْدُورٌ وَنَسْبٌ تَقْنُدُونَ فعل واد ضمیر فاعل نون و قایہ یتاہ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر تینوں مصدر مبتدئہ خبر مخرّوف ہے مَوْجُودٌ مبتدئہ ہاں خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لَوْ لَا كَا جَوَابٌ مخرّوف ہے لَصَدَّ قَتْمُوْنِي۔

قَالُوا تَأْتِيهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٦﴾

**آیت نمبر ۹۶:** ۹۶: قَالُوا لَفِي واد ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، تائیدہ جار ہاں مجرور طرف مستقر فعل مخرّوف اَقْسِمُ کے متعلق ہوئے، اَقْسِمُ فعل انا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ان حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا لامر نہ طلقہ فی حرف جار ضَلَالِكَ مرکب انسانی موصوف القديم صیغہ مفعول مستتر فاعل سے مل کر مفعول، موصوف ہاں مفت مجرور، جار ہاں مجرور کافین کے متعلق ہو کر خبر ان اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم، قسم ہاں جواب قسم مقولہ، قول ہاں مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فَلَمَّا آتَى الْبَيْتِ يُرْ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَازَتْكَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ

مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

**آیت نمبر ۹۷:** ۹۷: قَاءَ عَائِدَةً لَمَّا شَرِيَه مفعول فیہ مقدم آتَى لَمَّا آتَى الْبَيْتِ يُرْ فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط اَلْفَى فعل ہو مستتر فاعل ضمیر مفعول بہ علی جارہ و وجھہ مرکب انسانی مجرور، جار ہاں مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ موقوف علیہ عائدہ عاقلہ اَزَتْكَ فعل ہو مستتر واد اَلْبَصِيرَةَ صیغہ مفعول مفت ہو مستتر فاعل سے مل کر حال، ذوالحال ہاں حال فاعل، فعل ہاں فاعل جملہ فعلیہ خبریہ موقوف، موقوف علیہ ہاں موقوف جزاء، شرط ہاں جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ قَالَ فعل ہو مستتر فاعل سے مل کر قول، ہمزہ حرف استفہام لَمْ أَقُلْ فعل انا مستتر فاعل لَكُمْ جار ہاں مجرور متعلق ہوئے، فعل ہاں فاعل و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر قول، ان حرف تحقیق یتاہ ضمیر اس کا اسم اَعْلَمُ فعل انا مستتر فاعل مِنَ اللَّهِ جار ہاں مجرور متعلق ہوئے، مآس موصول اَتَعْلَمُونَ فعل ہاں فاعل ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہاں صلہ مفعول بہ، فعل ہاں فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ان اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول ہاں مقولہ جملہ استفہامیہ ہو کر قول اَقُلْ ہاں مقولہ، قول ہاں مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالُوْا يَا بَاتَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا كُنَّا خٰطِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۹۷:** قَالُوْا فعل باہر ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول یا بَاتَا کا یہ عدا ہے اسْتَغْفِرْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل لَنَا کہہ جا بجز و متعلق ہوئے ذُنُوْبَنَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ امر یہ عدا کا جواب، عدا ہا جواب جملہ انشائیہ ہو کر مفعول، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم مَعْنَا فعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم خَطِيْنَ اسم فاعل تَعْنُ مستتر فاعل سے ل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

قَالَ سُوْفٌ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

**آیت نمبر ۹۸:** قَالَ فعل مستتر فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول سُوْفٌ علامت فعل اسْتَغْفِرُ فعل ناقص امر ضمیر مستتر فاعل لَكُمْ جا بجز و متعلق ہوئے رَبِّيْ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنْ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم هُوَ ضمیر مبتدأ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ دو خبر، مبتدأ با خبر جن جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اِنْ کی خبر اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

فَاَمَّا دَخَلُوْا عَلٰی يُسُفٰ اَوْ اٰیِ الْيَهِ اَبُوْيهٖ وَّ قَالَ اَدْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِيْنٌ ۝

**آیت نمبر ۹۹:** فَاَمَّا عاطفہ لَمَّا شرطیہ مفعول فیہ مقدم دَخَلُوْا فعل باہر ضمیر فاعل عَلٰی یُسُفٰ جا بجز و متعلق ہوئے، مہدوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اَوْ اٰیِ الْيَهِ اَبُوْيهٖ فعل مستتر فاعل الْيَهِ جا بجز و متعلق ہوئے اَبُوْیُوْہِ مرکب اضافی مفعول بہ، مہدوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ہوا واطافہ قَالَ فعل مستتر فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول اَدْخُلُوْا فعل امر ہوا و ضمیر ذوالحال اَمِيْنٌ حال، ذوالحال باحال فاعل مِصْرٌ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ شرطیہ ہوا۔ اِنْ حرف شرط شَاءَ اللّٰهُ فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جزاء مخدوف ہے دَخَلْتُمْ اَمِيْنٌ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستتر ہوں۔

وَرَفَعَ اَبُوْيهٖ عَلٰی الْعَرْشِ وَ خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَّ قَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاوِيْلُ رُءُوسِیْ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا وَّ قَدْ اَحْسَنَ بِيْ اِذْ اَخْرَجْتَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَّ جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِّ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّرْعَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ اِخْوَتِيْ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَآ اَشَاءُ ۚ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

**آیت نمبر ۱۰۰:** ہوا واطافہ رَفَعَ فعل ہُوَ ضمیر مستتر فاعل اَبُوْیُوْہِ مرکب اضافی مفعول بہ عَلٰی الْعَرْشِ جا بجز و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا واطافہ خَرُّوْا فعل ہوا و ضمیر ذوالحال سُجَّدًا حال، ذوالحال باحال فاعل لَہُ کہہ جا بجز و متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف ہوں ہوا واطافہ قَالَ فعل مستتر



فَاعِل سے مل کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ مفعول علیہ، واو عاقلہ اَلْحَقُّ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل نون برائے و تانیہ  
یاء ضمیر مفعول بہ، یاء الضمیر جملہ باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافَاعِل و مفعول بہ، و متعلق جملہ انشائیہ مفعول، مفعول علیہ با مفعول  
جملہ مفعولہ ہوں۔

ذٰلِكَ مِنَ الْاَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا جَمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ  
يَنْكُرُوْنَ ۝ وَ مَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَ مَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ  
اَجْرٍ ۗ اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴:** ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، مِنْ حرف جملہ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ مرکب انشائیہ مجرد، جملہ باجرور طرف مستقر کلّیوں  
کے متعلق ہو کر خبر اَنْبَاءِ الْغَيْبِ فعل نَحْنُ مستقر فاعل و ضمیر مفعول بہ اِلَيْكَ جملہ باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافَاعِل و مفعول بہ، و متعلق  
جملہ فعلیہ خبریہ خبر ثانی، مبتدأ باجرور، جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ ہوا۔ واو عاقلہ مَا تَانِيَهُ كُنْتَ فعل ناقص تاء متوحد ضمیر اس کا اسم لَدَيْهِمْ  
مرکب انشائیہ کاؤن کا مفعول بہ ہے اِذَا ظرف زمان مضاف اَجْمَعُوْا فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ هُمْ ضمیر مبتدأ يَنْكُرُوْنَ فعل واو ضمیر  
فَاعِل سے مل کر خبر، مبتدأ باجرور جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل اَمْرَهُمْ مرکب انشائیہ مفعول بہ، فعل بافَاعِل و مفعول بہ مل کر جملہ  
فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ کاؤن کا مفعول بہ، اسم فاعل بافَاعِل و مفعولین شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اَمْ وَ خَيْرِ جملہ  
فعلیہ خبریہ مفعول علیہ، واو عاقلہ مَا سَأَلَهُ "بہ لَيْسَ اَكْثَرُ النَّاسِ" مرکب انشائیہ اس کا اسم تاء جارہ ناکدہ مَوْحِيْنَ لَمَّا جَرَّ و رَفَعَا منصوب  
خبر، مَا جَرَّ ہا اَمْ وَ خَيْرِ جملہ اسمیہ خبریہ مفعول اول، واو عاقلہ مَا تَانِيَهُ تَسْأَلُ فعل اَنْتَ مستقر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ عَلَيْهِمْ طرف مستقر  
کلّیوں کے متعلق ہو کر حال مقدم میں جارہ ناکدہ اَجْرٍ لَمَّا جَرَّ و رَفَعَا منصوب ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ ثانی، فعل بافَاعِل و مفعولین  
جملہ فعلیہ خبریہ مفعول ثانی، مفعول علیہ با مفعولین نُوْحِيْهِ پر مفعول ہے واو اعتراضیہ لَوْ شرطیہ حَرَصْتَ فعل تاء متوحد فاعل، فعل با  
فَاعِل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، اور جزاء اَمْ وَ خَيْرِ جملہ شرطیہ مترشحہ ہوا۔ اِنْ تَانِيَهُ هُوَ ضمیر مبتدأ اِلَّا حرف استثنیہ  
ذِكْرٌ موصوف لِّلْعٰلَمِيْنَ طرف مستقر کلّیوں کے متعلق ہو کر مفت، موصوف با مفت خبر، مبتدأ باجرور جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

﴿ دیکھ نمبر ۱۳ ﴾

وَ كٰلِيْنٍ مِّنْ اٰيَةِ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَمْزُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۰۵:** واو استینائیہ کلّیوں کے مبرزوں جارہ آیۃ موصوف فی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مفعول علیہ با مفعول مجرد، جملہ  
باجرور طرف مستقر کلّیوں کے متعلق ہو کر مفت، موصوف با مفت تیز، مبرز یا تیز مبتدأ يَمْزُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال واو حالیہ هُمْ ضمیر  
مبتدأ سَأَلَهُمْ جارہ باجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے مُعْرِضُوْنَ اسم فاعل هُمْ مستقر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، مبتدأ باجرور جملہ اسمیہ  
خبریہ حال ذوالحال باحال اَمْ وَ خَيْرِ جملہ اسمیہ خبریہ شرط، جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ باجرور جملہ اسمیہ خبریہ

مستأنفہ ہوں۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۲۷﴾

**آیت نمبر ۲۷:** واو عاطف مانا فی یؤمن فعل اکثرہم مرکب اضافی ذوالحال اِلَّا حرف استثناء واو حالیه ہُم ضمیر مبتدہ مشرکون اسم فاعل ہُم مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدہ باخبر حال، ذوالحال باحال فاعل باللہ جہ باجور و طرف نحو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

اَفَاَمِنُوا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا

يَشْعُرُونَ ﴿۲۸﴾

**آیت نمبر ۲۸:** ھمزہ حرف استفہام فقاء عاطف معطوف علیہ مخدوف ہے نَسُوا اَرْبَهُمْ اَمِنُوا فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب تآئی فعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ غَاشِيَةٌ موصوفہ من جارہ عَذَابِ اللّٰهِ مرکب انشائی خبرور، جہ باجور و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہافت تآئی کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطف تآئی فعل ہُم ضمیر ذوالحال واو حالیه ہُم ضمیر مبتدہ، لَا يَشْعُرُونَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدہ باخبر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ مقدم السَّاعَةُ فاعل بَعَثَتْ مفعول فیہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتولی مصدر اَمِنُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائی معطوف، معطوف علیہ مخدوف با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعْنِيْ ۚ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَا

اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۲۹﴾

**آیت نمبر ۲۹:** قُلْ فعل امر آتت مستتر فاعل سے مل کر قول، ہٰذِیْہ اسم اشارہ مبتدہ، سَبِيْلِيْ مضاف یاء ضمیر مضاف الیہ، بجز مرکب انشائی خبر، مبتدہ باخبر مقولہ، قول باقول جملہ انشائیہ مستانفہ ہوں اَدْعُوْا فعل اَنَا مستتر فاعل ذوالحال عَلٰی بَصِيْرَةٍ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَنَا معطوف علیہ، واو عاطف مِّن اسم موصول اتَّبِعْ فعل ہو مستتر فاعل نون برائے و تالی یاء ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدہ مؤخر، مبتدہ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال اَدْعُوْا کا فاعل اِلٰی اللّٰہ جہ باجور و طرف نحو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوں واو عاطف سُبْحٰنَ اللّٰہ مرکب انشائی مفعول متعلق ہے فعل مخدوف اَسْتَبِيْحْ کا اَسْتَبِيْحْ فعل اَنَا مستتر فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطف مَا جہا یہ اَنَا ضمیر اس کا اسم مِّن الْمُشْرِكِيْنَ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مَا جہا یہ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحِيْ اِلَيْهِمْ مِنَ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَ لَكَ اِرْءَا الْاٰخِرَةَ حَٰخِوْهُ لِّلَّذِيْنَ اٰتَقُوا ؕ اَفَلَا

تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۰﴾



**آیت نمبر ۱۰۹** **وَاَوْعَافِ مَنَا فِيْ اَرْسَلْنَا فِعْلًا مُّصِيْرًا فَا لِمِنْ قَبِيْلِكَ ظَرْفٌ مُّسْتَقَرٌّ كَائِيْدِيْنَ كَيْفٌ** متعلق ہو کر حال مقدم الارحرف استثنائی جہاں موصوف ٹوٹی فعل تَنْحَنِ مستقر فاعل التَّيْمَةُ جہاں مجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفت اولیٰ، ومن جارہ اَهْلِ الْقُرَى مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَائِيْدِيْنَ کے متعلق ہو کر مفت ثانیہ، موصوف ہافت ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

ہمزہ حرف استقبال فاء عاطفہ اور یہ رسا صل ہمزہ سے مقدم ہے لَمْ یَسْبِقُوْا فِعْلًا وَاَوْ مُصِيْرًا فاعل فی الْاَرْضِ جار مجرور متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ تَنْظُرُوْا فِعْلًا وَاَوْ مُصِيْرًا فاعل کَيْفٌ ظرف زمان کَائِيْدَةً کا مفعول نہ ہو کر خبر مقدم مگان فعل ناقص عَاقِبَةُ مضاف الَّذِيْنَ اسم موصول مِنْ قَبْلِهِمْ ظرف مستقر فعل مَحْذُوفٌ كَيْفُوْا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مضف الیہ، پھر مرکب اضافی اسم مؤخر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ انشائیہ مضافاً موصوف مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف، جملہ معطوف ہو۔

واو استثنائیہ لکہ ابتدائیہ تاکیدہ دَاوِ الْاُخْرٰی مرکب اضافی مبتدئہ، تَحِيْرُ اسم تفضیل (جی) مستقر فاعل لکہ جارہ الَّذِيْنَ اسم موصول اَنْقَوْا فِعْلًا وَاَوْ مُصِيْرًا فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اسم تفضیل باقاعل و متعلق شہ جملہ ہو کر خبر مبتدئہ جار مجرور اسیمہ خبریہ مستانفہ ہو۔ ہمزہ حرف استقبال فاء عاطفہ معطوف علیہ محذوف ہے لَكَتَفَكَّرُوْنَ، لَا تَعْقِلُوْنَ فِعْلًا وَاَوْ مُصِيْرًا فاعل معطوف، معطوف علیہ با معطوف، جملہ انشائیہ معطوف ہو۔

حَتَّىٰ اِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَكَلَّمُوا النَّهْمُ قَدْ كَذِبُوا اَجَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَنْ نَّشَاءُ وَاَوْ

### لَا يَزِدُّ بِاسْتِنَاعِنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۱۰** **اِحْتَقَىٰ** حرف غایت وجر اور فعل محذوف کے متعلق ہے تقدر عبارت و مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبِيْلِكَ الْاَرَجَالَ فَتَوَكَّرَ اَنْحَى نَصْرُهُمْ اِذَا اشْرطیہ مفعول نہ مقدم اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ فاعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ كَلَّمُوا فِعْلًا وَاَوْ مُصِيْرًا فاعل اَنْحَى تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم قد علامت فعل كَذِبُوا فاعل مجہول اِذَا ضمیر نائب فاعل خبر اَنْحَى باسم و خبر جملہ اسیمہ خبریہ دو مفعول بہ کے قائم مقام، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط اَجَاءَهُمْ فِعْلًا هُمْ ضمیر مفعول بہ نَصْرُنَا مرکب اضافی فاعل، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ فاء عاطفہ فَتَجِيْ فِعْلًا مجہول مِنْ اسم موصول نَشَاءَهُمْ فاعل تَنْحَنِ مستقر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ لَا يَزِيْدُ فِعْلًا مجہول بِاسْتِنَاعِنِ مرکب اضافی نائب فاعل عَنِ جہاں الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مضاف مجرور، جار مجرور و متعلق ہوئے فعل محذوف فَتَوَكَّرَ اَنْحَى کے

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلٰكِن تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۱۱۱:** بلاہ موطنہ للقسیم اور قسم محذوف ہے۔ قَدْ علامت فعل کا ن فعل ناقص فی قصصہم جار مجرور ظرف مستقر کا کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے۔ موصوف آہر جاہ اولی الالکتاب مرکب انشائی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کا کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر قسم کا جواب قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا۔ مآتایہ کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم حکمیت موصوف یفتخری فعل مجہول ہو مستتر باجب فاعل سے ل کر صفت، موصوف باصفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔

واو عاطفہ لیکن حرف استدراک مہمل تصدیق مضاف الیہ اسم موصول بکین یدکیو مرکب انشائی فعل محذوف کسبت کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مرکب انشائی معطوف علیہ، واو عاطفہ تفصیل مضاف کلّ فہی مرکب انشائی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف اول، واو عاطفہ ہڈی معطوف ثانی، واو عاطفہ حستہ موصوف آہر جاہ قوہ موصوف یؤمنون فعل باوایہ ضمیر فاعل صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کا کائنۃ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات چارہ فعل محذوف آنزلہ اللہ کا مفعول لہ ہے (فقیر غفرل)



## ترکیب سُورَةِ الرَّعْدِ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ التَّمْرُ تَدْتَلُّكَ أَيُّهُ الْكِتَابِ ۖ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

**آیت نمبر ۱:** التَّمْرُ کی ترکیب ابتدائے قس دیکھئے تَلَّةٌ اسم اشارہ مبتدئہ ایٹھ الْكِتَابِ مرکب انسانی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الَّذِي اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو مستتر بجا نازل اِلَيْكَ جملہ با خبر اور متعلق اول ہوئے، مِنْ رَبِّكَ جملہ با خبر اور طرف لغو متعلق مانی ہوئے، فعل مجہول بجا نازل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول بصلہ مبتدأ، الْحَقُّ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف اول ہو واو عاطفہ لَكِنَّ حرف سدک اسْمُ النَّاسِ مرکب انسانی اسم لا یُؤْمِنُونَ فعل ابداؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر لیکن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف مانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہو۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ أَيَدٍ يُؤْتِي الْأَمَرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝

**آیت نمبر ۲:** اللَّهُ مبتدئہ الَّذِي اسم موصول رَفَعَ فعل ہو مستتر قائل السَّمَوَاتِ مفعول بہ، بآء جادہ عَطْرٍ مضاف عَمَدٍ موصوف با تَرَوْنَ فعل واو ضمیر قائل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفت، موصوف با مفت مضاف الیہ پھر مرکب انسانی خبر اور، جادہ با خبر اور رَفَعَ کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ثُمَّ عاطفہ اسْتَوَىٰ فعل ہو مستتر قائل علی العرش جملہ با خبر اور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول ہو واو عاطفہ سَخَّرَ فعل ہو مستتر قائل وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف مانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ موصول بصلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہو۔

كُلٌّ مبتدئہ يَجْرِي فعل ہو مستتر قائل لآء جادہ اَجَلٍ مُّسَمًّى مرکب توصیفی خبر اور، جادہ با خبر اور طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر سَخَّرَ کے مفعول بہ سے حال ہے یَدَيِ يُوْتِي فعل ہو مستتر قائل الْأَمَرَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہو۔ یا اسْتَوَىٰ کی ضمیر قائل سے حال ہے يُفَصِّلُ فعل ہو مستتر قائل الْآيَاتِ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہو۔ یا اسْتَوَىٰ کی ضمیر قائل سے حال ہے لَعَلَّ حرف ترقی کُنْ ضمیر اس کا اسم بآء جادہ لِقَاءِ و رَبِّكُمْ مرکب انسانی خبر اور، جادہ با خبر اور متعلق مقدم ہوئے تُوْتِي مفعول اول واو ضمیر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ اشاریہ زائجی اِيْقَانِكُمْ کی تامل میں ہو کر يُفَصِّلُ کی ضمیر قائل سے حال ہے یا جملہ معطلہ ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْحَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳﴾

**آیت نمبر ۳:** او او اعطف ہو ضمیر مبتدہ الذی اسم موصول مدّ فعل ہو مستتر قائل الارض مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او او اعطف جعل فعل ہو مستتر قائل فیہا جار باجر و در طرف لغو متعلق ہوئے رواسی و انہار معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول او او اعطف من جار کل الثمرات مرکب اضافی مجرد، جار باجر و در متعلق مقدم ہوئے جعل فعل ہو مستتر قائل فیہا جار باجر و در متعلق ثانی ہوئے روجین الثنین مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلہ ہو کی خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

یغشی فعل ہو مستتر قائل الیل مفعول بہ اول النهار مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانہ ہوا۔ یا جعل کی ہو ضمیر سے حال ہے ان حرف تحقیق فی ذلک جار باجر و در طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم لآرہ مذ حلقہ آیات موصوف لآرہ جارہ قویم موصوف یتفکرون فعل اول ضمیر قائل سے مل کر قویم کی صفت، موصوف با صفت مجرد، جار باجر و در طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر آیات کی صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر، ان بال اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانہ ہو۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّزٌ وَجَنَّتْ مِنَ اعْتَابٍ وَزَرَعَ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَعَيْرٌ صِنَوَانٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ نَقَضُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۴﴾

**آیت نمبر ۴:** او او اعطف فی الارض طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم قطع متجوز مرکب توصیفی معطوف علیہ، او او اعطف جنّت موصوف من اعتاب طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف اول او او اعطف زرع معطوف ثانی او او اعطف نخیل صنوان مرکب توصیفی معطوف علیہ، او او اعطف عیر صنوان مرکب اضافی معطوف ہو، معطوف علیہ با معطوف قطع کا معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مبتدہ مؤخر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، یسقی فعل مجہول ہو مستتر بہ قائل تاکہ جارہ ماء و واحد مرکب توصیفی مجرد، جار باجر و در طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او او اعطف نقضوا فعل نخب مستتر قائل بعضہا مرکب اضافی مفعول بہ علی بعض طرف لغو متعلق ہوئے فی الاکل طرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جنّت و غیرہ کی صفت ہے ان فی ذلک لآیات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کی ترکیب ان فی ذلک لآیات لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ کی مثل ہے جو کہ اوپر والی آیت میں گزری ہے۔

وَإِنْ تَعَجَّبْتَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ عِذَا كُنَّا تُرَابًا عَرَأْنَا لَنِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَوَلَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَوَلَيْكَ الْأَعْغَلُ فِي آعْنَاقِهِمْ أَوَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵﴾



حرف تحقیق مَا کا فاعل اَنْتَ ضمیر مبتدا، مَعْنِيْہُ اسم فاعل اَنْتَ مستتر فاعل سے مل کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، یَا وَ ا حرف عطف لآء جارہ کُنْ قَوْہِ مرکب اضافی مجرور، جار باخبر و ظرف مستقر کا کُنْ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، ہَاکُوْا اصل میں ہَاکُوْی ہے مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۲ ﴾

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْتِیْهِ كُلُّ اَنْثَىٰ وَا مَا تَغِيْضُ الْاَزْحَامُ وَا مَا تَزِدُّا دَا وَا كُنْ هٰیءٍ عِنْدَہٗ

بِیْقَدَارٍ ﴿۱﴾

آیت نمبر ۸: اَللّٰهُ يَعْلَمُ فعل ہو مستتر فاعل مَا اسم موصول تَحْتِیْهِ فعل کُنْ اَنْثَىٰ مرکب اضافی فاعل، دونوں مل کر صلہ موصولیہ، معطوف علیہ، یَا وَ ا عطف، مَا اسم موصول تَغِيْضُ فعل الْاَزْحَامُ فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصولیہ، معطوف اول، یَا وَ ا عطف، مَا اسم موصول تَزِدُّا دَا فعل ہے مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصولیہ، معطوف ثانی، یَا وَ ا عطف، کُنْ هٰیءٍ فاعل، معطوف بہ جملہ فعلیہ خبریہ، خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، یَا وَ ا عطف، کُنْ هٰیءٍ قَوْہِ مرکب اضافی معطوف بہ، فعل یا فاعل کا مفعول بہ، یہ جملہ فعلیہ خبریہ، موصوف باصفت، مبتدا، بِیْقَدَارٍ جار باخبر و ظرف مستقر کا کُنْ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہوں۔

عِلْمُ الْغَيْبِ وَا الشَّہَادَةُ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ﴿۲﴾

آیت نمبر ۹: عِلْمُ مغزایا الْغَيْبِ وَا الشَّہَادَةُ معطوف علیہ یا معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مبتدا مخدوف ہو کر خبر اول ہے، الْكَبِيْرُ خبر ثانی ہے الْمُتَعَالِ خبر ثالث ہے، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

سَوَّآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَ الْقَوْلَ وَا مَنْ جَہَرَ بِہٖ وَا مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ وَا سَارِبٌ

بِالنَّہَارِ ﴿۳﴾

آیت نمبر ۱۰: سَوَّآءٌ یعنی مُسْتَوٍ ہے، مُسْتَوٍ اسم فاعل ہو مستتر ذوالحال، مِّنْكُمْ ظرف مستقر کا کُنْ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال، باحال فاعل، اسم فاعل یا فاعل شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، مَّنْ اسم موصول اَسَرَ فعل ہو مستتر فاعل الْقَوْلِ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصولیہ، معطوف علیہ، یَا وَ ا عطف، مَّنْ اسم موصول جَہَرَ فعل ہو مستتر فاعل یہ جار باخبر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصولیہ یا صلہ معطوف اول، یَا وَ ا عطف، مَّنْ اسم موصول ہو ضمیر مبتدا، مُسْتَخْفٍ اسم فاعل ہو مستتر فاعل بِاللَّیْلِ جار باخبر و متعلق ہوئے، اسم فاعل یا فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر معطوف علیہ، یَا وَ ا عطف، سَارِبٌ اسم فاعل ہو مستتر فاعل بِالنَّہَارِ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر شبہ جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف خبر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصولیہ، معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوفین مبتدا مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا۔

لَہٗ مَعْصِيَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْہِہٖ وَا مَنْ خَلْفَہٗ يَحْفَظُوْنَہٗ مِّنْ اَمْرِ اللّٰہِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغَيِّرُ مَا

بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ؕ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ

مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّالٍ ۝

آیت نمبر ۱۱: کہ طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کہ خبر مقدم معقبت موصوف میں جارہ ہیں یکنوی مرکب انسانی مجرور، جار مجرور معطوف علیہ، واو عاطفہ میں جارہ خلیفہ مرکب انسانی مجرور، جار با مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کہ صفت اولیٰ یخفظون فعل واو ضمیر قائل نا ضمیر مفعول بہ میں جارہ امر اللہ مرکب انسانی مجرور، جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسیم خبریہ ہوا۔ ان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم لا یغیروا فعل ہو مستقر قائل ما اسم موصول بقوم جار با مجرور طرف مستقر فعل مخدوف کسبت کا متعلق ہو کہ صلہ موصول با صلہ مفعول بہ، حقی حرف نایب و جز اور اس کے بعد ان مقدر ہے یغیروا فعل واو ضمیر قائل ما اسم موصول با صلہ جارہ اَلْقَوْمِ مرکب انسانی مجرور، جار با مجرور طرف مستقر فعل مخدوف کسبت کا متعلق ہو کہ صلہ موصول با صلہ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور طرف لغو لا یغیروا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ ان با اسم و خبر جملہ اسیم خبریہ مطلقہ ہوں۔

واو استینافیہ اذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَرَادَ فعل اللہ اسم الجلالہ قائل بقوم جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے سُوءًا مفعول بہ، جاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ شرط اور جزاء مخدوف ہے وقوع، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ فاء تعلیلیہ لانی جنس مخدوف مصدر سیمی بمعنی نام قائل اس کا اسم کہ طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کہ خبر مقدم ہو کہ شرط ہے اس و خبر سے مل کر جملہ اسیم خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مآلینا لہم طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کہ خبر مقدم میں دُوْنِهِ طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کہ حال مقدم میں تاکہ، وال نکاتہ مجرور ملامت فرج ذوالحال، ذوالحال با صلہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسیم خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف، مطلقہ ہوں۔

هُوَ الَّذِیْ یُرِیْكُمْ الْبَرْقَ حَوَاقٍ وَ طَمَعًا ۗ وَیُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝

آیت نمبر ۱۲: ہو ضمیر مبتدا الَّذِی اسم موصول یُرِی فعل ہو مستقر قائل کُم ضمیر مفعول بہ اِذِ الَّذِی مفعول بہ حلقی حَوَاقٍ وَ طَمَعًا حَافِیْفِیْنِ وَ کَا مِوَعِیْنِ کے معنی میں ہو کہ یُرِی کے مفعول بہ اول سے حال ہے، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا واو عاطفہ یُنْشِئُ فعل ہو مستقر قائل السَّحَابِ الثِّقَالَ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ موصول با صلہ ہو کہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسیم خبریہ ہوں۔

وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ۗ وَالْمَلٰٓئِکَةُ مِنْ خِیْفَتِهِ ۗ وَ یُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فِیْصِیْبُ بِهَا  
مَنْ یَشَآءُ ۗ وَ هُمْ یَجَادِلُوْنَ فِی اللّٰهِ ۗ وَ هُوَ شَدِیْدُ الْحٰلِ ۝

آیت نمبر ۱۳: واو عاطفہ یُسَبِّحُ فعل الرَّعْدُ ذوالحال بِحَمْدِهِ طرف مستقر مَلٰٓئِکَةُ کے متعلق ہو کہ حال، ذوالحال با حال معطوف علیہ، واو عاطفہ الْمَلٰٓئِکَةُ معطوف، معطوف علیہ با معطوف قائل میں حرف جار خِیْفَتِهِ مرکب انسانی مجرور، جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے،

فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ یُوْجِئُ پر معطوف ہے۔ واو عاطفہ یُوْجِئُ فعل مستتر قائل الصَّوَابِعِ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ معافہ عاطفہ رُصِیْبِمْ فعل ہو مستتر قائل یہاں جاد باجر و در طرف لغو متعلق ہوئے، مَن اسم موصول یَنْشَأُ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر صلہ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف مفعول علیہ بمعطوف یَسْتَجِخُّمْ پر معطوف ہے۔ واو عالیہ هُمْ ضمیر مبتدأ یُجَادِلُوْنَ فعل واو ضمیر قائل فی حرف جاد اللہ اسم الجلال ذوالحال واو عالیہ هُوَ ضمیر مبتدأ شَدِیْدُ الْعِصَابِ مرکب انسانی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال باجر و در طرف لغو یُجَادِلُوْنَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مَن یَنْشَأُ سے حال ہے۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ  
كَفْيِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ قَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا دَعَا الْكُفْرَيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

آیت نمبر ۱۳: لهُ طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم دَعْوَةُ الْحَقِّ مرکب انسانی مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔ واو عاطفہ الَّذِينَ اسم موصول يَدْعُونَ فعل واو ضمیر قائل مِنْ دُونِهِ جاد باجر و در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مبتدأ لَا يَسْتَجِيبُونَ فعل واو ضمیر قائل لَهُمْ جاد باجر و متعلق اول ہوئے بِشَيْءٍ جاد باجر و در طرف لغو متعلق جانی ہوئے إِلَّا حرف استثناء کاف حرف جاد کبسط اسم قائل مضاف كَفْيِهِ مرکب انسانی مضاف الیہ إِلَى الْمَاءِ جاد باجر و در طرف لغو متعلق اول ہوئے تاکہ برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے وَيَبْلُغُ فعل ہو مستتر قائل قَاهُ مرکب انسانی ذوالحال، واو عالیہ مَا جاد بہ ہُوَ ضمیر اس کا اسم بناء جاد ناکہ بِالْبِغْہِ مرکب انسانی تظکار و در قفا منصوب خبر، مآ جاد بہ باسم و خبر حال ہے، ذوالحال باحال یَبْلُغُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر باجر و در قفا جاد باجر و در کبسط کے متعلق جانی ہوئے، اسم قائل مضاف با مضاف الیہ و متعلقین شہ جملہ ہو کر باجر و جاد باجر و در طرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف اِسْتَجَابَہُ کے مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلقین و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الَّذِينَ کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اولیٰ پر معطوف ہو۔ واو استثنائیہ مَا جاد بہ تالیہ دَعَا الْكُفْرَيْنَ مرکب انسانی اس کا اسم الآخر استثنائی ضلالتی جاد باجر و در طرف مستقر مشتمل مفرغ کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر معانیہ اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلْمًا بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝

آیت نمبر ۱۵: واو استثنائیہ يَلُوْجُ جاد باجر و در طرف لغو متعلق ہو کر متعلق مقدم ہوئے يَسْجُدُ فعل مَن اسم موصول فی جادہ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ بمعطوف باجر و در طرف مستقر فعل مخدوف كَيْتًا کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ ذوالحال، طَوْعًا وَكَرْهًا معطوف علیہ بمعطوف طَائِعِيْنَ وَكَارِهِيْنَ کے معنی میں ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف علیہ، واو عاطفہ ظُلْمًا مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ بمعطوف يَسْجُدُ کا قائل، بناء جاد الغدُوِّ وَالْاَصَالِ معطوف علیہ بمعطوف باجر و در طرف مستقر جانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔



قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ  
لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ أَمْ هَلْ  
تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ  
عَلَيْهِمْ ۗ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۳﴾

**آیت نمبر ۱۳:** قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ  
لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ أَمْ هَلْ  
تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ  
عَلَيْهِمْ ۗ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۳﴾  
اَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضایف الیہ، مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں قُلْ فعل  
امر آت مستتر قائل سے ل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول ما لہ، اور خبر محذوف ہے رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ  
مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں قُلْ فعل امر آت مستتر قائل سے ل کر قول ہذہ حرف استفہام قاء عاطفہ اور معطوف علیہ محذوف  
ہے اَقْرَبُكُمْ بِالْجَوَابِ السَّابِقِ بِاتَّخَذْتُمْ فعل کُفْ ضمیر قائل مِنْ دُونِهِ ظرف مستقر کَلَيْتَةً کے متعلق ہو کر حال مقدم اَوْلِيَاءَ  
موصوف لا یملکون فعل واو ضمیر قائل لِأَنْفُسِهِمْ ظرف لغو متعلق ہوئے لَفْعًا معطوف علیہ واو عاطفہ لَانَا مَرءٌ صَدْرًا معطوف، معطوف علیہ  
با معطوف مقسول بہ، فعل با تا اعلیٰ و متعلق مقسول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَوْلِيَاءَ کی صفت، موصوف با صفت ذوالحال مؤخر، ذوالحال با حال اَتَّخَذْتُمْ  
کا مقسول بہ، فعل با تا اعلیٰ و مقسول بہ جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ  
لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ أَمْ هَلْ  
تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ  
عَلَيْهِمْ ۗ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۳﴾  
قُلْ فعل امر آت مستتر قائل سے ل کر قول ہلْ یسْتَوِی الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ معطوف علیہ با معطوف قائل، فعل با  
قائل جملہ انشائیہ معطوف علیہ اَمْ حارف استفہام تَسْتَوِی فعل الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ معطوف علیہ با معطوف قائل، فعل با تا اعلیٰ جملہ  
انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں اَمْ حارف استفہام جَعَلُوا فعل واو ضمیر قائل لِلَّهِ جار با مجرور متعلق ہوئے  
شُرَكَاءَ موصوف خَلَقُوا فعل واو ضمیر قائل کا جار جارہ خَلْقِهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَلَيْتَةً کے متعلق ہو کر بواسطہ  
موصوف محذوف خَلَقًا کے مفعول مطلق، فعل با تا اعلیٰ و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ قاء عاطفہ فَتَشَابَهَ فعل الخَلْقُ قائل  
عَلَيْهِمْ جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شُرَكَاءَ کی صفت، موصوف با صفت جَعَلُوا  
کا مقسول بہ، فعل با تا اعلیٰ و متعلق مقسول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوں قُلْ فعل امر آت مستتر قائل سے ل کر جملہ انشائیہ قول ما لہ، اَللَّهُ مبتدا، مخالفی  
کُلِّ شَیْءٍ مرکب اضافی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ هُوَ ضمیر مبتدا اَلْوَّاحِدُ الْقَهَّارُ و خبر، مبتدا با خبر جن جملہ اسمیہ  
خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہوں

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اُدْوِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ وَمِمَّا  
يُوْقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَّةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ  
وَالْبَاطِلَ ۗ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذٰهُبُ جَفَاءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۗ



جملہ اسیر خبریہ تاویل مصدر فعل محذوف کتبت کا قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ شرط لاکر جوابیہ افتقدوا نواؤ ضمیر قائل پہ چار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط کی جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر الذین کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسیر خبریہ ہوا۔

أُولَئِكَ اسم اشارة مبتدأ، لَهْفُ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم، سُوءَ الْحِسَابِ مرکب اضافی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسیر خبریہ، أُولَئِكَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسیر خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ماؤ لَهْفُ مرکب اضافی مبتدأ، جَهَنَّمَ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسیر خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف الذین کی خبر ثانی ہوا، واو عالیہ یلتمس فعل الذم الیہاذا قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم اور مخصوص مبتدأ محذوف ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسیر انشائیہ جَهَنَّمَ سے حال ہوا۔

● رکوع نمبر ۳ ●

أَمَنَ يَعْلمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْلَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو

### الْأَلْبَابِ ۝

آیت نمبر ۲۹: ہمزہ حرف استفہام فاء استیثناء اور یہ اصل میں ہمزہ سے مقدم ہے، مَنْ اسم موصول یَعْلَمُ فعل ہو مستتر قائل آن حرف تحقیق ما اسم موصول اُنزِلَ فعل مجہول ہو مستتر باب قائل إِلَيْكَ جار مجرور متعلق ہوئے، مَنْ حرف جار رَبِّكَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل مجہول بآب قائل، متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ، اَنَّ کلام الْحَقُّ خبر مَآءٌ اسم خبر جملہ اسیر خبریہ یَعْلَمُ کے رد مفعول بہ کے قائم مقام، فعل با قائل مفعول بہ مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، کاف جارہ، مَنْ اسم موصول ہو ضمیر مبتدأ، اَعْلَىٰ خبر، دونوں مل کر جملہ اسیر خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسیر انشائیہ متعلق ہوا، اِنَّ حرف تحقیق کونو ما کاند یَتَذَكَّرُ فعل اُولُو الْأَلْبَابِ مرکب اضافی قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہوا۔

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ وَلَا يَتَّقُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَرَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عِقبَى الدَّارِ ۝ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

آیت نمبر ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶: الَّذِينَ اسم موصول يُؤْفُونَ فعل واؤ ضمیر قائل بآء جارہ عہد اللہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہو، لہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا يَتَّقُونَ فعل واؤ ضمیر قائل الیہاذا قائل، تینوں مل کر معطوف،

معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، و او اعطف الذین اسم موصول یصلون فعل واو ضمیر قائل ما اسم موصول امر فعل  
 اللہ اسم الجلال قائل بآء جارہ و ضمیر مبدل منہ ان حرف مصدری و نصب یوصل فعل مجہول ہو مستتر نائب قائل سے ل کر یتوکل مصدر  
 بدل مبدل منہ با بدل مجرور، جارہ با مجرور امر کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق صلہ، موصول باصلہ یصلون کا مفعول بہ، فعل با قائل  
 و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او اعطف یخشون فعل واو ضمیر قائل و یتھم مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ  
 معطوف اول، و او اعطف یخافون فعل واو ضمیر قائل سُوْرَةُ الحِجَابِ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں ل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با  
 معطوفین صلہ، موصول باصلہ معطوف اول، و او اعطف الذین اسم موصول صَبَرُوا فعل واو ضمیر قائل اِیْتَمَعُوا وَ جُوْرَتُهُمْ مرکب اضافی  
 مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او اعطف اَقَامُوا فعل واو ضمیر قائل الصَّلٰوةَ مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ  
 خبریہ معطوف اول، و او اعطف اَنفَقُوا فعل واو ضمیر زوال حال سَبَرًا وَ عَلَیْنِیْہِمْ معطوف علیہ با معطوف اسم قائل کے متعلق ہیں ہو کر حال، زوال حال  
 با حال قائل ہیں جارہ ما اسم موصول یَزَقْنَا فعل واو ضمیر قائل ہُم ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہ با مجرور ظرف لغو  
 اَنفَقُوا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، و او اعطف یَذَرُون فعل واو ضمیر قائل بِالْحَسَنَةِ جارہ با مجرور  
 متعلق ہوئے السَّیِّئَةِ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ صلہ، موصول باصلہ  
 معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مبتدا اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدا ثانی لَہُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَقَبِی الدَّارِ  
 مرکب اضافی مبدل منہ، جَعَلْتُمْ عَدُوِّنَہُمْ مرکب اضافی موصوف یَذْخُلُونَ فعل واو ضمیر قائل خَاصِمًا مفعول بہ، و او بعضی معنی اسم موصول  
 صَلَاحِ فعل ہو مستتر زوال حال ہیں حرف جارہ اَبَآئُہُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، و او اعطف اَزَّوْا جِہْمُ مرکب اضافی معطوف اول، و او اعطف  
 ذُرِّیَّتِہُمْ مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جارہ با مجرور ظرف لغو مستقر کائین کے متعلق ہو کر حال، زوال حال با حال صَلَاحِ کا  
 قائل، فعل با قائل صلہ، موصول باصلہ یَذْخُلُونَ کا مفعول معہ، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جَعَلْتُمْ عَدُوِّنَہُمْ کی صفت، موصوف با  
 صفت بدل مبدل منہ با بدل مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اُولَئِكَ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ الذین مبتدا کی خبر، مبتدا با  
 خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو و او استیناف لَیْسَ لَہُمْ عَدُوٌّ مَبْدَا یَذْخُلُونَ فعل واو ضمیر قائل عَلَیْہُمْ ظرف لغو متعلق اول ہوئے ہیں جارہ کُنْ بآپ  
 مرکب اضافی مجرور، جارہ با مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ

متناسفہ ہوں

سَلَّمَ عَلَیْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۳﴾

آیت نمبر ۲۳: سَلَّمَ بِمَبْدَا (لَاَنَّ فِیْہِ مَعْنٰی الدُّعَا) عَلَیْكُمْ ظرف مستقر کائین کے متعلق ہوئے کائین اسم قائل ہو  
 مستتر قائل بآء جارہ ما مصدریہ صَبَرْتُمْ فعل با قائل تاویل مصدر مجرور، جارہ با مجرور ظرف لغو کائین کے متعلق ہوئے اسم قائل و متعلقین شبہ  
 جملہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ فَا فاء فیحہ اور شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ نِعْمَ فعل مدح عَقَبِی الدَّارِ مرکب  
 اضافی قائل، فعل با قائل خبر، مخصوص بالمدح مبتدا محذوف ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ اشاریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

**وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَأُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝**

**آیت نمبر ۲۵:** واوستانیہ اَلَّذِیْنَ اِسْم موصول یَتَقَسُّوْنَ فعل واو ضمیر قائل عَهْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ میں حرف جار یَعْدِ یَتَقَدِّمُ مرکب اضافی مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ یَقْسِدُوْنَ فعل واو ضمیر قائل مَآءِ موصول مَآءِ اللّٰہ اسم الجلالہ قائل بناء جارہ ضمیر مبدل من ان حرف مصدری و نصب یُقْسِدُوْنَ فعل مجہول ہُوْ مستتر تاب فاعل سے مل کر بناو لیا مصدر بدل، مبدل منہ بادل مجرور، جار مجرور مَآءِ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باسملہ یَقْسِدُوْنَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول و او عاطفہ یُقْسِدُوْنَ فعل واو ضمیر قائل فی الْاَرْضِ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با مفعولین صلہ، موصول باسملہ مبتدہ اُولَئِكَ اسم اشارہ مبتدہ اُولَئِكَ لَہُمْ ظرف مستقر کَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم اللّعنة مبتدہ مؤخر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ لَہُمْ ظرف مستقر کَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر خبر مقدم سُوءُ الدَّارِ مرکب اضافی مبتدہ مؤخر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اُولَئِكَ کی خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَلَّذِیْنَ کی خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متلافہ ہوں۔

**اِنَّہٗ یَبْسُطُ الزُّرْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیَقْدِرُ مَا وَفَّرِ حُواِیَالِ الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا وَمَا الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا فِی الْاٰخِرَةِ الْاَمْتَاعِ ۝**

**آیت نمبر ۲۶:** اَللّٰهُ مبتدہ اَبْسُطُ فعل ہُوْ مستتر قائل الزُّرْقَ مفعول بہ لآمر جارہ مَن اسم موصول یَشَاءُ فعل ہُوْ مستتر قائل سے مل کر معطوف علیہ ہواو عاطفہ یَقْدِرُ فعل ہُوْ مستتر قائل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متلافہ ہوں، واوستانیہ فی حُواِیَالِ فعل واو ضمیر قائل بناء جارہ الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا مرکب لاصینی ذوالحال و او حالیہ مَآءِ فی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا مرکب لوصینی ذوالحال فی الْاٰخِرَةِ ظرف مستقر کَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مبتدہ اَلْاَمْتَاعِ حرف استثناء مَتَاعٌ خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور فی حُواِیَالِ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متلافہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۳ ﴾

**وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اِلَّا الَّذِيْنَ كُرِهُوا اللّٰهَ وَتَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝**

**آیت نمبر ۸۶:** واوستانیہ یَقُوْلُوْنَ فعل اَلَّذِیْنَ اِسْم موصول كَفَرُوْا فعل ہواو ضمیر قائل صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول لَوْ لَا حرف تَحْضِیْضِ اَنْزِلَ فعل مجہول عَلَیْہِ جارہ مجرور متعلق ہوئے اَيَّةٌ موصوفہ مِنْ رَبِّہِ ظرف مستقر کَاثِنَةٌ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ صفت تَابِ فاعل، فعل مجہول تَابِ فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول باقول جملہ فعلیہ خبریہ متلافہ

ہو۔ **قُلْ** فعل امر آنت مستتر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ قول بیان حرف تحقیق اللہ اسم الجلالہ اس کا اسم بیضیل فعل ہو مستتر قائل یعنی اسم موصول یسقاء فعل ہو مستتر قائل سے مل کر صلہ موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، **وَاَوْعَاطِفَ يَهْدِي** فعل ہو مستتر قائل الیہ جار مجرور متعلق ہوئے **مَنْ** اسم موصول آتاکل فعل ہو مستتر قائل سے مل کر صلہ موصول باصلہ مبدل منہ، **الَّذِينَ** اسم موصول آمنوا فعل واو ضمیر قائل معطوف علیہ، **وَاَوْعَاطِفَ تَكَلِّمِينَ** فعل قَلْبُهُمْ مرکب انشائی قائل بتاء جارہ **ذِكْرُ اللّٰهِ** مرکب انشائی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ موصول باصلہ بدل، مبدل منہ بادل یهدی کا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر بیان اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معقولہ، قول با مفعول جملہ انشائیہ ہو۔ **اَلَا حُرُوفٌ تَحْمِيهٌ** بتاء جارہ **ذِكْرُ اللّٰهِ** مرکب انشائی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے **تَكَلِّمِينَ** فعل اَلْقَلْبُ بِقائل، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

**الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يُبَدَّلُ**

**آیت نمبر ۲۹:** الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يُبَدَّلُ  
ضمیر قائل الصَّالِحَاتِ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، دونوں مل کر صلہ موصول باصلہ مبتدأ، طُوبَىٰ مبتدأ (لَاَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الدُّعَاءِ) لَهُمْ ظرف مستقر کا ثبوت کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ **وَاَوْعَاطِفَ حَسُنَ مَا يُبَدَّلُ** مرکب انشائی طُوبَىٰ بہ معطوف ہے۔

**كَذٰلِكَ اَرْسَلْنَا فِيْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِّتَشُوْا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالْحَقِّ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۙ**

**آیت نمبر ۳۰:** كَذٰلِكَ جَار مجرور ظرف مستقر کا ثبوت کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف حذف از سبب مقدم اَرْسَلْنَا فعل ناقص ضمیر قائل کا ضمیر مفعول بہ، **فِيْ جَارِهَا** مَوْصُوْفٌ قَدْ عَامَتْ فعل حَكَت فعل میں جارہ **قَبْلَهَا** مرکب انشائی مجرور، جار با مجرور متعلق اول ہوئے **اُمَّةٍ** قائل لآہہ برائے تعلیل حرف جار اور اس کے بعد آن مقدر ہے **تَشُوْا** فعل آنت مستتر قائل عَلَيْهِمْ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے **الَّذِيْ** اسم موصول اَوْحَيْنَا فعل ناقص ضمیر قائل اَلَيْكَ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ تَشُوْا کا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف لغو حَكَت کے متعلق عَمِي تعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ اُمَّةٍ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور ظرف لغو اَرْسَلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہو۔

**وَاَوْعَاطِفَ هُوَ** ضمیر مبتدأ، **اَيُّكْفُرُوْنَ** فعل واو ضمیر قائل بِالْحَقِّ ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ تَشُوْا کے قائل با مفعول بہ سے حال ہے۔ **قُلْ** فعل امر آنت مستتر قائل سے مل کر قول ہو ضمیر مبتدأ خبری مرکب انشائی خبر اول **اَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** کی ترکیب سورۃ الرزل میں دیکھیے اور یہ جملہ ہو کر **هُوَ** کی خبر ثانی ہے، **تَكَلِّمَةُ** جار با مجرور ظرف لغو متعلق مقدم **تَوَكَّلْتُ** فعل ناقص مضمومہ قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ **وَاَوْعَاطِفَ اَلَيْهِ** جار با مجرور ظرف لغو مستقر کا ثبوت کے متعلق ہو کر

خبر مقدم ہوئے متناہیہ اصل میں متناہی ہے مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر ثانی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر ثانی ہے۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ الْمَوْتَىٰ، بَلَّغَ اللَّهُ  
الْأَمْرَ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَأْتِ الْبَشَرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَا يَذَّالِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ تَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا آقَارِعًا ۖ أَوْ تَحُلَّ قَرْيَبًا مِّنْ دَارِهِمْ  
حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

آیت نمبر ۳۱: واوستینا فی لَوْ حرف شرط آن حرف تحقیق قُرْآنًا اس کا اسم سُبُوت فعل مجہول بہ طرف لغو متعلق ہوئے الْجِبَالُ نائب فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ با و حرف عطف قُطِعَتْ فعل مجہول بہ جہاد باجر و متعلق ہوئے الْأَرْضُ نائب فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ با و عاطف کُفِّرَتْ فعل مجہول بہ طرف لغو متعلق ہوئے الْمَوْتَىٰ نائب فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین خبر، اَنْ بآسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ فعل محذوف تَبَيَّنَتْ کا فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء محذوف ہے عندا بعض لَمَّا اَمَّا ۖ بعض لَكَنَّ هَذَا النُّقْرَانُ ہے، شرط با جزاء مبتدا خبریہ ہوں۔

بَلَّغَ حرف عطف وا ضرب بَلَّغَ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم الاکثر ذوالحال جَمِيعًا محال، ذوالحال محال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں، ہذا حرف استفہام فآء عاطف اور معطوف علیہ محذوف ہے عَقَلُوا اَعْنِ كَوْنِ الْاَمْرِ جَمِيعِهِ لِذِهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَمَّا يَأْتِ الْبَشَرِ فعل الْبَشَرِ موصول باصل فاعل اَنْ مخفف من الشك ضمیر شان مقدر اس کا اسم لَوْ حرف شرط يَشَاءُ فعل اَللَّهِ اسم الجلالہ فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط بلاخر جوابی ہدای فعل ہو مستقر فاعل النَّاسِ ذوالحال جَمِيعًا محال، ذوالحال محال مفعول بہ، تینوں مل کر جزاء، شرط با جزاء خبر اَنْ بآسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف، پھر معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

واوستینا فی لَوْ اَنْ فعل ناقص الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا وَا فاعل صلہ موصول باصل اس کا اسم تَصِيبُ، فعل هُمْ ضمیر متناہی بہ کیا جارہ ہذا مصدر بہ صنفہ انش با و ضمیر فاعل بتلوں مصدر خبر و جارہ باجر و متعلق دے قَارِعَةً فاعل مؤخر، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ با و عاطف تَحُلَّ فعل قَرِيبًا مبدع صفت ہو مستقر فاعل مین دَارِهِمْ طرف لغو متعلق ہوئے، صیغہ صفت با فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر بواسطہ موصوف محذوف حکاکا کے تَحُلَّ کا مفعول فیہ، فعل با فاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص بآسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستفہ ہوں۔

حقی حرف فایہ، جزا اور اس کے بعد اَنْ مقدم ہے یَأْتِيَ فعل ناقص وَعْدَ اللّٰهِ مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل بتلوں مصدر خبر و جارہ باجر و متعلق ہوئے اَنْ حرف تحقیق اَللَّهِ اسم الجلالہ اس کا اسم لَا يُخْلِفُ فعل ہو مستقر فاعل الْمِيعَادَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اَنْ بآسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستفہ ہوں۔

﴿ رُكُوْعٌ نَحْوُهُ ۱ ﴾

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاَمَلَيْتَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْمَّ اَخَذَتْهُمُ فَدَفْكَيْفِ

كَانَ عِقَابِ ﴿۱﴾

**آیت نمبر ۳۲:** واو استہانی لاکر موطئہ القم اور قسم مخدوف ہے۔ قَدْ علامت فعل اسْتَهْزَيْتَ فعل مجہول ہو مستتر راجع بسُوْرے مصدر اِسْتَهْزَيْتَ تاء فاعل تاء حرف جار و سئل موصوف من قَبْلِكَ ظرف مستقر کائناتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور ظرف لغو اسْتَهْزَيْتَ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول ہا نائب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاَمَلْتَ ماضی ماضی فعل مجہول ت مضمومہ قائل لاکر جارہ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّل، ثُمَّ عَاطِفٌ اَخَذَتْ فعل ت مضمومہ قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با مفعولین قسم کا جواب، قسم کا جواب جملہ تسمیہ ہو لہذا قسمیہ اور شرط مخدوف ہے اِذَا اَخَذَتْهُمُ، کَيْفَ ظرف زمان کا مفعول فیہ ہو کر کُن کی خبر مقدم ہوگان فعل ناقص عِقَابِ یہ اصل میں عِقَابِ ہے مرکب انشائی مرفوع بقدر اسم، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سَمَّوْهُمُ ؕ اَمْ كُنْتُمْ تُوَدُّوْنَهُ ۗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ يَبْظَاهِرُ مِنْ الْقَوْلِ ؕ اَبَلْ لِّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرَهُمْ ۗ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيْلِ ؕ اَوْ مِنْ يُّضِلُّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۱﴾

**آیت نمبر ۳۳:** ہمدہ حرف استفہام قائل استہانی من ام موصول ہو ضمیر مبتدا قائلہ اسم فاعل ہو مستتر قائل علی جارہ کُلِّ نفس مرکب انشائی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق اول ہوئے، تاء جارہ ما اسم موصول کَسَبَتْ فعل حج مستتر قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، اسم فاعل بافاعل و متعلقین خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا اور خبر مخدوف ہے کَشَرُوْا کَاثِمُوْا اَلَيْقِ لَا تَضُرُّوْا وَلَا تَنْفَعُ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو لہذا استہانیہ جَعَلُوْا فعل و ضمیر قائل یَلُوْا ظرف مستقر کائناتہ کے متعلق ہو کر مفعول ثانی مقدم شُرَكَاءَ مفعول بہ اول، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو لہذا قُلُوبًا امر آت مستتر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ قول سَمَّوْا فعل امر و ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ متانفہ ہوں۔

**آمر متعلقہ کُنْتُمْ تُوَدُّوْنَهُ** فعل و ضمیر قائل ہ ضمیر مفعول بہ تاء جارہ ما اسم موصول لَا يَعْلَمُ فعل ہو مستتر قائل ہ ضمیر مخدوف مفعول بہ اول فی الْاَرْضِ جارہ مجرور ظرف مستقر مَوْجُوْدًا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور معطوف علیہ، اَمْ مَا ظَنَرَ تاء جارہ ظاہر موصوف من الْقَوْلِ ظرف مستقر کائناتہ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت مجرور، جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف کُنْتُمْ تُوَدُّوْنَهُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔



بَلْ كَرِهَ غُلْفٌ وَمَضَىٰ رُؤْيُنٌ لِّمَلَأٍ هَدَاهُ الْبَلَدَيْنِ نَكَّرُوا بِمُحَمَّدٍ إِذْ هَبَسَ لَمَّا جَاءَهُمْ بِجُرُودٍ فَجَدَّ بَأْسَهُمْ فَجَرَّدَ خَمْرًا وَمَضَىٰ لَخْمًا فَجَدَّ أَسْفَهُمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ  
 تیسوں نے کہہ کر حملہ لیا، خیر یہ معطوف علیہ ہوا، واو عطف صِدْقُ، اصل مجہول واو ضمیر جبہ مثل عَسَى السَّيِّئِينَ  
 جلد باجمود طرف نحو متعلق ہوئے، تیسوں نے کہہ کر حملہ لیا، خیر یہ معطوف علیہ معطوف جملہ معطوف ہو، واو استیعاب عن اسم شرط  
 مقبول بہ مقدم، مضمیل مثل اللہ اسم البیادہ، تیسوں نے کہہ کر حملہ لیا، خیر یہ شرط حاکمہ جزا، ماضی لفظ عرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کہ  
 خبر مقدم میں جملہ کا معطوف اس کا ماضی جملہ معطوف بہ خبر جملہ اسے خبریہ جزا، شرط طیارہ جملہ شرطیہ ہو۔

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿۳۳﴾  
 جلد باجمود طرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کہ خبر مقدم عَذَابٌ موصوفہ فی بداءہ الحیوۃ الدُّنْیَا، مرکب اسئل مجہود،  
 لآہ ابتدائے عَذَابُ الْآخِرَةِ، مرکب اسنائی مبتدأ ماقشئ، اسم تفضیل ہو مستتر قائل سے ل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسے خبریہ معطوف علیہ ہوا، واو  
 عطف ماضی لفظ لَّهُمْ طرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کہ خبر مقدم میں اللہ طرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کہ اصل مقدم میں جملہ ماضیہ، واو عطف  
 مرفوعہ دال علی مؤخرہ، والی اصل مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسے خبریہ معطوف علیہ معطوفین جملہ متعلق ہو۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ لَنَدْخُلَنَّهَا بَعْدَ أَكْفَادِهِمْ وَفِيهَا زُجُجَاتٌ

تِلْكَ عَشْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَسِعَ عَقْبَى الْكُفْرَيْنِ النَّارُ ﴿۳۴﴾

آیت نمبر ۳۴: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ، جب قائل سے ل کر حملہ ہو، موصول با  
 صلہ مفتہ، موصوفہ با صفت متعلق علیہ مرکب اسنائی مبتدأ معترضی فعل میں جملہ تختہ ہمارک اسنائی مجہود، جرد، جلد باجمود متعلق ہوئے  
 الْأَنْهَارِ قَائِلٍ، تیسوں نے ل کر حملہ لیا، خیر یہ ہو کہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسے خبریہ متعلق ہو، الْكُفْرَيْنِ اسنائی مبتدأ مؤخرہ، واو  
 صفت ہو مستتر قائل سے ل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسے خبریہ معطوف علیہ ہوا، واو عطف جِلْدَانِ، اور خبر مؤخرہ ہے جَدَائِدُ،  
 مبتدأ با خبر جملہ اسے خبریہ معطوف، معطوف علیہ معطوف تختہ ہا کی ضمیر سے حال ہے، تِلْكَ اسم ابتداء، مبتدأ معترضی صفت الَّتِي، اسم  
 موصول اتَّقَوْا فعل باء ضمیر قائل صلہ، موصول با صلہ متعلق علیہ مرکب اسنائی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسے خبریہ معطوف علیہ ہوا، واو عطف عَقْبَى  
 الْكُفْرَيْنِ، مرکب اسنائی مبتدأ ماقشئ، خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسے خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

وَالَّذِينَ أَكْنِئَهُمْ إِلَيْكَ يَفِرُّ حُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَخْرَابِ مَن يُنَكِّرُ

بِعِصْمَةٍ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۵: وَإِلَيْهِ أَدْعُوا، واو استیعاب الَّتِي، اسم موصول اَكْنِئَهُمْ، قائل کا ضمیر قائل لفظ ضمیر مقبول بہ، لیل الکتیب مقبول بہ، اصل !  
 قائل و معطوفین صلہ، موصول با صلہ مبتدأ مَقْرُونُونَ فعل باء ضمیر قائل جملہ، قائل موصول انزول فعل مجہول ہو مستتر جبہ لیل الکتیب  
 جلد باجمود متعلق ہوئے، تیسوں نے ل کر حملہ، موصول با صلہ مجہود، جلد باجمود مَقْرُونُونَ کے متعلق ہوئے، اصل با قائل و متعلق جملہ شرطیہ خبریہ



فعل تاضیر مفعول تاضیر جار مجر متعلق ہوئے اَوْ اَوْ اَجَا وَ ذَرِيَّةٌ مَعطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، چاروں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔ واو عاطفہ مآثریہ کان فعل ناقص یُرْسُوْلٌ جار مجر و ظرف مستقر کَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہاں حرف مصدری و نصب یَأْتِيْ فِعْلٌ هُوَ مستقر تال بائیۃ جار مجر و ظرف لغو متعلق ہوئے بِالْا حَرْفِ اسْتِثْنَاءٍ بِمَا جَارِهِ اِذْنِ اللّٰهِ مَرْكِبِ اِنْسَانِيٍّ جَرَّوْرٍ جَارِ مَجْرُورٍ وَ ظَرْفِ لَفْوٍ مُّشْتَقِيٍّ مَفْرَعٌ مُّتَعَلِّقٌ ثَمَانِيٌّ هُوَ، فعل باقاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ بتولید مصدر اسم مؤخر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لام حرف جار کَلِمَاتٍ اَجَلِيٍّ مَرْكِبِ اِنْسَانِيٍّ جَرَّوْرٍ جَارِ مَجْرُورٍ وَ ظَرْفِ لَفْوٍ مُّسْتَقَرٍّ كَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر مقدم یَكْتَابُ مَبْتَدَاً مَوْخَرٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا

يَمْنَحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُعْتَبِ سَلَةٌ وَعِنْدَ اَمْرٍ الْكِتٰبِ ۝

آیت نمبر ۳۹: يَمْنَحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ موصول یَمْنَحُو فِعْلٌ هُوَ مستقر تال سے مل کر صلہ، موصول باصلہ یَمْنَحُو کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا واطافہ يُعْتَبِ فِعْلٌ هُوَ مستقر تال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ عِنْدَ مَرْكِبِ اِنْسَانِيٍّ كَلِمَاتٍ کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم اَمْرٍ الْكِتٰبِ مَرْكِبِ اِنْسَانِيٍّ مَبْتَدَاً مَوْخَرٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہوں

وَ اِنْ مَّا لَرِيَّتِكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ اَوْ نَتَّوْفِيْنَكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

آیت نمبر ۴۰: وَاِذَا اسْتِغْنٰی فِیْ رِ حَرْفِ شَرْطٍ مَا لَمَّا نَمَدَ نُوْرِيْنٌ فِعْلٌ نَّحْنُ مستقر تال ک ضمیر مفعول بہ یَعْتَصُ مَضَافِ الَّذِي اِسْمٌ موصول نَعُدُّ فِعْلٌ نَّحْنُ مستقر تال هُنَّ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مَضَافِ الیہ مَرْكِبِ اِنْسَانِيٍّ نُوْرِيْنٌ کا مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شَرْطٍ اَوْرُجْزَاءٌ مَحْذُوفٌ هُوَ فَذٰلِكَ شَافِيْكَ، شَرْطٍ اَوْرُجْزَاءٌ جملہ شرطیہ معطوف علیہ یا و حرف عطف نَتَّوْفِيْنٌ فِعْلٌ نَّحْنُ مستقر تال ک ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شَرْطٍ اَوْرُجْزَاءٌ مَحْذُوفٌ هُوَ فَذٰلِكَ هُوَ عَلَيْنِكَ، شَرْطٍ اَوْرُجْزَاءٌ جملہ شرطیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف متعلق ہے اِنْ حَرْفِ تَحْقِيْقِ كَلِمَاتٍ مَا كَانَتْ عَلَيْكَ وَ ظَرْفِ لَفْوٍ مُّسْتَقَرٍّ كَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْبَلْغُ مَبْتَدَاً مَوْخَرٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا واطافہ عَلَيْنِكَ جَارِ مَجْرُورٍ وَ ظَرْفِ لَفْوٍ مُّسْتَقَرٍّ كَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْحِسَابُ مَبْتَدَاً مَوْخَرٌ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلقہ ہوا

اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اُظْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لِمَا مَعْتَبٍ لِحْكُمِهَا ؕ

هُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

آیت نمبر ۴۱: هَمْزٌ حَرْفِ اسْتِغْنَاءٍ هُوَ واطافہ اَوْ لَمْ يَرَوْا فِعْلٌ نَّحْنُ مستقر تال اَنَّ حَرْفِ تَحْقِيْقِ تَا ضَمِيْرِ اِسْمِ كَامٍ تَأْتِيْ فِعْلٌ نَّحْنُ مستقر تال الْاَرْضَ نَنْقُصُ فِعْلٌ نَّحْنُ مستقر تال هَا ضَمِيْرِ مَفْعُولِ بَيْنِ جَارِ اَطْرَافِهَا مَرْكِبِ اِنْسَانِيٍّ جَرَّوْرٍ جَارِ مَجْرُورٍ وَ ظَرْفِ لَفْوٍ مُّتَعَلِّقٌ هُوَ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال تَأْتِيْ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَنَّ كَيْ خَبْرُ اَنَّ بِالْاِسْمِ وَ خَبْرُ جَمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ خَبْرِيَّةٍ لَمْ يَرَوْا كَيْ دُو مَفْعُولِ بَيْنِ كَيْ قَامَ مَقَامَ، فعل باقاعل و دُو مفعول بہ جملہ انشائیہ

معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہو۔ واو استینا فی اللہ اسم الجلالہ مبتدأ یخکم فعل ہو مستتر ذوالحال لانی جنس معقبات اس کا اسم لآجر جملہ حکمیہ مرکب انسانی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کاتین کے متعلق ہو کہ خبر لانی جنس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال یخکم کا قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہو ضمیر مبتدأ مستر یخج الحسب مرکب انسانی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہو۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِئِهَ الْمَكْرُجِيئَاتِ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَّ سَيَعْلَمُ الْكَفُورَ لِمَنْ عَقَبِيَ الدَّارِ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: واو استینا فی قَدْ علامت فعل مکو فعل الذین اسم موصول مِنْ قَبْلِهِمْ ظرف مستقر فعل مخدوف مخدوفا کے متعلق ہو کہ صلہ موصول باصلہ قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ متناقدہ ہو۔ قائہ تلیلیہ لئِهَ ظرف مستقر کاتین کے متعلق ہو کہ خبر مقدم المکرو ذوالحال جیئعات حال، ذوالحال باحال مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ تلیلیہ ہے اور معلن مخدوف ہے لآحشش مکو الکفار، یعلم فعل ہو مستقر قائل ما اسم موصول تکیسب فعل کل نفس مرکب انسانی قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول یا صلہ معقول یہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ بیین علامت فعل یعلم فعل الکفار قائل لآجر حرف جار من اسم استفہام مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کاتین کے متعلق ہو کہ خبر مقدم عَقَبِيَ الدَّارِ مرکب انسانی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر: اسمیہ الثانیہ ظا مشدوب مفعول یہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہو۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لَا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واو استینا فی يَقُولُ فعل الذین کفرو اسم موصول باصلہ قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَسْتَ فعل ناقص کاہ مفتوحہ ضمیر اس کا اسم مُرْسَلًا اسم مفعول اَنْتَ مستتر نائب قائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ قُلْ فعل امر اَنْتَ مستقر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ قول، کفَىٰ فعل ناقص باہم شایء جارہ ناکدہ اللہ اسم الجلالہ مضاف مرفوع معطوف علیہ واو عاطفہ من اسم موصول عِنْدَهُ مرکب انسانی کاتین کا مفعول فیہ ہو کہ خبر مقدم عِلْمُ الْكِتَابِ مرکب انسانی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف کفَىٰ کا قائل شَهِيدًا صیغہ صفت ہو مستقر قائل بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ مرکب انسانی معطوف علیہ واو عاطفہ بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ مرکب انسانی معطوف ہے دونوں مل کر مفعول فیہ، صیغہ صفت با قائل مفعول فیہ شبہ جملہ ہو کہ کفَىٰ کی نسبت سے تیز ہے، فعل با قائل و تیز جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ ہو۔

﴿يَحْمِذُ﴾ تَعَالَىٰ سُورَةُ الرَّعْدِ كِتَابُ ۱۷، ۲۰، ۲۳، ۳۰، ۳۳ بجے شام کو مکمل ہوئی ہے ﴿﴾



وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَ  
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

**آیت نمبر ۳:** واؤ استینا فی مانا فی ارسلتنا فعل نا ضمیر قائل من جاہہ ناکہ ہو رسوٰی فلا منسوب مفعول بہ الا حرف استثناء بآء جاہہ  
لسان قومہ مرکب اضافی مجرور، جاہہ مجرور، مستثنیٰ مفرغ ہو کر ظرف لغو متعلق اول ہوئے، لاہر جاہہ تحلیل ادراس کے بعد ان مقدر ہے  
یُبَیِّنُ فعل ہو مستتر قائل لہم جاہہ مجرور، ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتلاویں مصدر مجرور، جاہہ مجرور  
اؤرسلتنا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو، قاءہ استینا فی یضِلُّ فعل اللہ اسم الجلال قائل من  
اسم موصول یَشَاءُ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤ عاطفہ  
یہدی فعل ہو مستتر قائل من اسم موصول یَشَاءُ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ یہدی کا مفعول بہ، فعل با قائل مفعول  
بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف متانفہ ہو، واؤ استینا فی ہو ضمیر مبتدا، الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خبر، مبتدا  
خبریں جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَلَا ذِكْرَهُمْ  
بِأَيْمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

**آیت نمبر ۵:** واؤ استینا فی لاہر موطن القسم اور قسم مخدوف ہے قذ علامت فعل اؤرسلتنا فعل نا ضمیر قائل موسیٰ ذوالحال بآء جاہہ  
ایاتنا مرکب اضافی مجرور، جاہہ مجرور، ظرف مستقر معذروا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب  
قسم، قسم باجواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہو، ان ناسب اخرج فعل امر آنت مستتر قائل قَوْمَكَ مرکب اضافی مفعول بہ، مِنَ الظُّلُمَاتِ جاہہ مجرور  
ظرف لغو متعلق اول ہوئے، اِلَى النُّورِ جاہہ مجرور، ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلقین جملہ انشائیہ معطوف علیہ واؤ  
عاطفہ ذکرو فعل امر آنت مستتر قائل لہم ضمیر مفعول بہ، بآء جاہہ آیاتہم اللہ مرکب اضافی مجرور، جاہہ مجرور، متعلق ہوئے، فعل با قائل  
و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر قائلین کا مفعول بہ ہو کر اؤرسلتنا کی ضمیر قائل سے حال ہے۔  
اِن حرف تحقیق فی ذلک ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لاہر مذعلقہ آیات موصوف لاہر جاہہ کل منصف صَبَّارٍ شَكُورٍ  
مرکب توسیلی منصف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جاہہ مجرور، ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر آیات کی صفت، موصوف باصفت اسم  
مؤخر، اِن باسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہو۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ  
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَّبُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ  
لِكَلَامٍ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٍ ۝



لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي آفْوَاهِهِمْ وَ

قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝

آیت نمبر ۹: ہمزہ حرف استہمام آئی ہے فعل کُفِرَ ضمیر مفعول بہ کیوں کہ مضاف الٰہیّین اسم موصول من قبلیکم طرف مستقر فعل محذوف مَصْوُوع کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ مبدل منہ قَوِّمَ مضاف نُجُوح وَعَايِدٌ وَكُنُودٌ معطوف علیہ با معطوفین مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ بدل مبدل منہ بادل کیوں کہ مضاف الیہ پھر مرکب اضافی فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ واؤ اعتراضیہ الٰہیّین اسم موصول من بعد ہومرکب اضافی فعل محذوف مَصْوُوع کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ مبتدأ اَلَا يَعْلَمُکُمْ فعل کُفِرَ ضمیر مفعول بہ الٰہ حرف استہمام اَللّٰهُ مثنوی مفرغ فاعل، تینوں مل کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہو۔

جَاءَتْ فعل کُفِرَ ضمیر مفعول بہ و رُسُلُهُم مرکب اضافی فاعل بِالْبَيِّنَاتِ طرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ عَقَابٌ عَاطِفٌ رُدُّوا فعل واؤ ضمیر فاعل اَيْدِيَهُمُ مرکب اضافی مفعول بہ فی جہادہ اَفْوَاهِهِمُ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف الٰہی ہواؤ عَاطِفٌ قَالُوا فعل باہاؤ ضمیر فاعل قول، اِنّ حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم کَفَرُوا فعل تا ضمیر فاعل باہاؤ جار ماص موصول اُرْسِلْتُمْ فعل مجہول کُفِرَ ضمیر تاجب فاعل پہ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ موصول باصلہ مجرور، جار مجرور کَفَرُوا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر اِنّ بال اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہواؤ عَاطِفٌ اِنّ حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم لاہر ہمزہ عَطْفٌ فی جہادہ شَکِّکِ موصوف من حرف جار ماص موصول قَدْعُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل تا ضمیر مفعول بہ اِلَيْهِ جار مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر صلہ موصول باصلہ مجرور، جار مجرور کَافِلِیْنَ کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ مَعْرُوبِ اسم فاعل کُفِرَ مستقر فاعل سے مل کر صفت ثانیہ موصوف با معطوفین فی کا مجرور، جار مجرور کَافِلِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر اِنّ بال اسم و خبر معطوف، معطوف علیہ با معطوف متولر، قول با مقول معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہو۔ اِلٰہیّین من بعد ہومرکب خبر ثانی ہے۔

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنِّي لَأَنْذِرُكُمْ لِيَعْفَوْكُمْ مِنَ

ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا اِن اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۗ تُسْرِيدُونَ اَنْ

تُصَدُّوْنَ وَتَاعَمَا كَانَ يُعْبَدُ اٰبَاؤُنَا فَانُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝

آیت نمبر ۱۰: قَالَتْ فعل و رُسُلُهُمُ مرکب اضافی فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزہ استفہامیہ فی اللّٰہ طرف مستقر کَافِلِیْنَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم شَکِّکِ مبتدأ مؤخر، دونوں مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ متولر، قول با مقولر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فَاظْفِرُ مضاف السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مرکب اضافی ذوالحال، یَذْعُونَ فعل کُفِرَ مستقر فاعل کُفِرَ ضمیر مفعول بہ، لاہر جار تعلیلیہ اور اس کے بعد اِنّ متدر ہے و یُعْفَوْکُمْ فعل کُفِرَ مستقر فاعل کُفِرَ جار مجرور متعلق اول ہوئے، من ذُنُوبِکُمْ متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواؤ عَاطِفٌ یُؤَخِّرُکُمْ فعل کُفِرَ مستقر فاعل کُفِرَ ضمیر مفعول بہ اِلٰہی جہادہ اَجَلٍ مُّسَمًّى مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور یُؤَخِّرُکُمْ کے متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف متاول مصدر مجرور، جار مجرور طرف لغو



يَذْعُوَكَ متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ فاعلہ باحال باحال لفظاً اَللّٰهُ كِي صفت يَدْعُوْكَ ہے۔  
 قَالَوْا فاعل باء او ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول بان تا نِيْ اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ بالآحرف استثناء بَشَرُوْا موصوف و مثلثا مرکب اضافی صفت  
 اولیٰ شَرُّ يَذْعُوْكَ فاعل باء او ضمیر قائل اَنْ مصدریہ تَصَدَّقُوْا فاعل باء او ضمیر قائل تا ضمیر مفعول بہ عَن جہادہ ماموصول کان فاعل تا قس ہو  
 ضمیر شان مستتر اسم یَعْبُدُ فاعل باء او ضمیر قائل اَنْ مصدریہ خبریہ ہو کر صلہ موصولہ باصلہ مجرور، جہادہ مجرور و طرف لغو  
 تَصَدَّقُوْا کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق بتاویل مصدریہ يَذْعُوْكَ مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بَشَرُوْا  
 کی صفت ثانیہ، موصوف باصمتین اَنْتُمْ کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لفظاً ضمیر اور اس کی شرط  
 ممدوف ہے اَنْ كَلِمَتُهُ وَسَمَلُ اللّٰهِ (ضمیر) اَنْتُمْ فاعل امر باء او ضمیر قائل تا ضمیر مفعول بہ بَہاد جہادہ سَلْطَنُ مُّبِيْنٍ مرکب تو سنی مجرور، جہاد  
 باجور و متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جَزَاہ، شرط با جزا، شرط ممدوف با جزا، جملہ شرطیہ ہو ل

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ مِنْ  
 عِبَادِهٖ ؕ وَ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا يٰۤاٰذِنُ اللّٰهُ ؕ وَ عَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ ۱۳ ﴾

آیۃ نصیر ۱۱: قَالَتْ لَهُمْ جہاد باجور و متعلق ہوئے رُسُلُهُمْ مرکب اضافی قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول بان تا نئی  
 نَحْنُ ضمیر مبتدأ بالآحرف استثناء بَشَرُوْا موصوف و مثلثا مرکب اضافی صفت، موصوف باصمت، خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول  
 علیہ ہوا و عطفہ لَكِنَّ حرف استدراک لفظاً اللّٰہ اس کا اسم یَمُنُّ فاعل ہو مستتر قائل علی جہادہ مَن موصول بَشَرًا فاعل ہو مستتر قائل سے مل کر  
 صلہ موصولہ باصلہ ذوالحال ہون جہادہ عبادہ مرکب اضافی مجرور، جہاد باجور و طرف مستتر کالیتا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جہاد  
 باجور و یَمُنُّ کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لَكِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول لائل ہوا و عطفہ مَاتَانِیہ  
 کان فاعل تا قس لَنَا طرف مستتر کالیتا کے متعلق ہو کر خبر مقدم اَنْ ہا صہ تَا نِيْ فاعل نَحْنُ مستتر قائل کُم ضمیر مفعول بہ، بَہاد جہاد سَلْطَنُ  
 ذوالحال بالآحرف استثناء يٰۤاٰذِنُ اللّٰهُ طرف مستتر کالیتا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جہاد باجور و تَا نِيْ کے متعلق ہوئے، فعل با  
 قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدریہ مَزُوْر، فعل تا قس ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول جانی، مفعول علیہ با مفعولین  
 مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو لفظاً عطفہ عَلٰی اللّٰہ جہاد باجور و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے، لفظاً نَا كُمْ (ضمیر) فَلْيَتَوَكَّلِ فاعل  
 امر الْمُؤْمِنُوْنَ قائل، فعل باقاعل و متعلق مقدم جملہ انشائیہ امریہ ہو ل

وَ مَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلٰی اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰۤا نَا سُبُلَنَا ؕ وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلٰی مَا اَدٰۤاٰنَا ؕ وَ عَلٰی

اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿ ۱۴ ﴾

آیۃ نصیر ۱۴: وَاُوَاعِظُهُمَا جہاد لَنَا طرف مستتر کالیتا کے متعلق ہوئے، کالیتا اسم قائل ہو مستتر قائل اَنْ حرف  
 مصدری و نصب لَنَصْبِرَنَّ فاعل نَحْنُ مستتر قائل علی حرف جہاد لَنَا اللّٰہ ذوالحال، قَدْ علامت فعل ہڈی فاعل ہو مستتر قائل تا ضمیر مفعول بہ

ثَوَابٌ مُّبِينًا مرکب اضافی مفعول بہ ثَمَانِي، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور لا تَمُوتُكَ لَکَ کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق بتاویل مصدر منصوب بترجیع الفاعل مجرور، جار با مجرور کَائِلَاتِ کے متعلق ثَمَانِي ہوئے، اسم قائل با قائل و متعلقین خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف علیہ ہوا و اعطاف لآھر موطن اللقیم اور قسم مخدوف ہے تَصْدِيقًا فعل تَخْنُ مَسْتَرَقاً علی حرف جار موصولہ اول اَدْبَيْتُہُ فعل تُخْمِرُ ضمیر قائل تا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جار با مجرور تَصْدِيقًا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب قسم، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو و علی اللہ قَلِيَّتَوْكَ لَکَ الْمُتَوَكِّلُونَ کی ترکیب و علی اللہ قَلِيَّتَوْكَ لَکَ الْمُتَوَكِّلُونَ کی مثل ہے۔

● رکوع نمبر ۳ ●

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ لِنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۗ فَأَوْخَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ اَلْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳** اور استغنیاء فیہ قال فعل الْاِذْنَ اسْم موصول کَفَرُوا فعل واد ضمیر قائل، دونوں مل کر صلہ، موصول ہاصلہ قائل لِرُسُلِهِمْ جار با مجرور ظرف نحو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، لآھر موطن اللقیم اور قسم مخدوف ہے نُخْرِجَنَّكَ فعل تَخْنُ مَسْتَرَقاً قائل ضمیر مفعول بہ میں اَوْضِيْنَا جار با مجرور متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم با جواب معطوف علیہ، اَوْاعطاف لآھر موطن اللقیم اور قسم مخدوف ہے تَعُوذُنَّ فعل واد مخدوفہ لِالتَّقَا السَّالِكِينَ قائل، فی و ملَّتِنَا جار با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جواب قسم، قسم با جواب معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متاسفہ ہو۔

فَاء اعطاف اَوْخَىٰ فعل الْاِذْنَ ظرف نحو متعلق ہوئے رَبُّهُمْ مرکب اضافی قائل، فعل با قائل و متعلق مقرر لآھر موطن اللقیم اور قسم مخدوف ہے نُهْلِكَنَّكَ فعل تَخْنُ مَسْتَرَقاً الظَّالِمِينَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہوا و اعطاف لآھر موطن اللقیم اور قسم مخدوف ہے تُسَكِّنَنَّكَ فعل تَخْنُ مَسْتَرَقاً قائل ضمیر ذوالحال میں بَعْدِهِمْ ظرف مقرر ظرف مقرر کَائِلَاتِ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ اَلْاَرْضَ منصوب بترجیع الفاعل اصل میں فی اَلْاَرْضَ ہے جار با مجرور و متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق مفعول بہ جواب قسم، قسم با جواب قسم معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقرر، مقرر یا مقرر قائل پر معطوف ہے ذٰلِكَ اسْم انشاء مبتدأ لآھر جاہ من اسم موصول خَافَ فعل هُوَ مَسْتَرَقاً قائل معطوف بہ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و اعطاف خَافَ فعل هُوَ مَسْتَرَقاً وَعَبَدَ اصل میں وَعَبَدَ ہے مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہاصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مقرر کَائِلَاتِ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۵**: وَاِذَا اسْتَفْتَحُوا فَاَنْصَرَفَتْ اَنْصَرَفَتْ اَنْصَرَفَتْ اَنْصَرَفَتْ فَاَنْصَرَفَتْ وَاِذَا اسْتَفْتَحُوا فَاَنْصَرَفَتْ اَنْصَرَفَتْ وَاِذَا اسْتَفْتَحُوا فَاَنْصَرَفَتْ فَاَنْصَرَفَتْ فَاَنْصَرَفَتْ

مضارع جَبَّارٌ عَلِيْدٌ مرکب تو صیغی مضارع الیہ پھر مرکب اضافی کَلْبٌ کَالِئَالٌ، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف متساوقہ ہو۔

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۝ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝

**آیت نمبر ۱۶، ۱۷:** مِنْ وَرَائِهِ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور کَالِيْنَةُ کے متعلق ہو کر خبر مقدم جَهَنَّمُ مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جَبَّارٌ کی صفت ثانیہ ہے وَاوُ عَاطِفٌ اور معطوف علیہ مخدوف ہے یَلْقَى فِي جَهَنَّمَ اور وہ سوال مقدر کا جواب ہے یُسْقَى فعل مجہول ہُوَ مستتر بافاعل مِنْ جَارِ مَاءٍ صَدِيدٍ مرکب تو صیغی ذوالحال، يَتَجَرَّعُ فعل ہُوَ مستتر بافاعل یا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور یُسْقَى کے متعلق ہوئے، فعل مجہول بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مخدوف کا معطوف ہے، پھر جملہ معطوف ہو۔

وَاوُ عَاطِفٌ لَا يَكَادُ فعل مقارب ہُوَ ضمیر شان اس کا اسم یُسِيغُ فعل ہُوَ مستتر بافاعل یا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل مقارب با اسم و خبر حال ہے يَتَجَرَّعُ کی ضمیر بافاعل یا ضمیر مفعول یا دونوں سے (روح المعانی) وَاوُ عَاطِفٌ يَأْتِي فعل و ضمیر مفعول بہ الْمَوْتُ بافاعل مِنْ جَارِ كُلِّ مَكَانٍ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ يَتَجَرَّعُ پر معطوف ہے وَاوُ عالیہ مَا جَلَّيْهِ هُوَ ضمیر اس کا اسم بِنَاء جَلَّيْهِ مَيِّتٌ لفظاً مجرور مَعْلُومٌ منصوب خبر، مَا جَلَّيْهِ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ الْمَوْتُ سے حال ہے۔ وَاوُ عَاطِفٌ مِنْ وَرَائِهِ ظرف مستقر کَالِيْنَةُ کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ غَلِيظٌ مرکب تو صیغی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہو۔

مِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۝ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۝ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝

**آیت نمبر ۱۸:** مِثْلُ مضاف الَّذِينَ الَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا وَاوُ ضمیر بافاعل بِرَبِّهِمْ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مَعْلُومٌ مِمَّا كَسَبُوا مرکب اضافی مبتدأ ثانی، كاف حرف جار مَعْلُومٌ موصوف اشْتَدَّتْ فعل یہ جملہ جار مجرور متعلق ہوئے الرِّيحُ بافاعل فِي جَارِ يَوْمٍ عَاصِفٍ مرکب تو صیغی مجرور، جار با مجرور اشْتَدَّتْ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مَعْلُومٌ کی صفت، موصول باصفت مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَالِيْنَةُ کے متعلق ہو کر أَعْمَالُهُمْ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متساوقہ ہو۔

لَا يَقْدِرُونَ فعل وَاوُ ضمیر بافاعل مِنْ جَارِ مِمَّا موصول كَسَبُوا فعل وَاوُ ضمیر بافاعل دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کَالِيْنَةُ کے متعلق ہو کر حال مقدم علی حرف جار هَبِيْهُ ذُوَالْحَالِ ذُوَالْحَالِ باحال مجرور، جار با مجرور لَا يَقْدِرُونَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ كَفَرُوا وَاوُ ضمیر سے حال ہے ذَلِكَ اسم اشارہ مِمَّا هُوَ ضمیر فعل الضَّلَالُ الْبَعِيدُ مرکب تو صیغی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يِشَاءُ يَذُوبُ هَبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ

جَدِيدٍ ﴿١٩﴾

**آیت نمبر ۱۹:** ہمزہ حرف استفہام آئے کہ تو نے اس کا اسم خَلَقَ فعل ہو مستقر فاعل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ معطوف علیہ بالمعطوف معطوف علیہ بالمعطوف ہونے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیان ہوا۔ خبر جملہ اسمیہ خبریہ لَمْ تَرَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ انشائیہ ہو۔ ان حرف شرطیہ شَاءَ فعل ہو مستقر فاعل دونوں مل کر شرط، یَذُوبُ فعل ہو مستقر فاعل لَمْ تَرَ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عطفیہ یَأْتِ فعل ہو مستقر فاعل بآء جادہ خَلَقِ جَدِيدٍ مرکب توسیعی مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہونے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بالمعطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

www.kitabosunnat.com

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾

**آیت نمبر ۲۰:** او او علیہ ما جاز یہ ذلک اسم اشارہ اس کا اسم عَلَ اللہ جادہ با مجرور متعلق مقدم ہونے بآء جادہ ناکندہ عَزِيزٌ صیغہ مفت ہو مستقر فاعل متعلق مقدم سے مل کر لٹکا مجرور عَلَا منصوب خبر ماضی جاز یہ باسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ یَأْتِ ضمیر فاعل سے حال ہے۔ اِنْ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْرٌ عَنَّا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾

**آیت نمبر ۲۱:** او او استثنائیہ بَرَزُوا فعل او او ضمیر ذوالحال جَمِيعًا حال، دونوں مل کر فاعل بَلَّغَ جادہ با مجرور متعلق ہونے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بمقادیر الضُّعَفَاءُ قَالُوا فعل الضُّعَفَاءُ فاعل لآء جادہ لِلَّذِينَ اسم موصول اسْتَكْبَرُوا فعل او او ضمیر فاعل، دونوں مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جادہ با مجرور متعلق ہونے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول بیان حرف تحقیق تَا ضمیر اس کا اسم کُنَّا فعل ناقص تَا ضمیر اس کا اسم لَمْ تَرَ جادہ با مجرور طرف مستقر کَالَّذِينَ متعلق ہو کر حال مقدم تَبَعًا تابع کی صحت ہے ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص باسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر بیان کی خبر باسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ معقول، قول باقول بَرَزُوا کا معطوف ہے قَاءَ صیغہ اور اس کی شرط مَحْدُوف ہے اِنَّا اَتَّبَعْنَا لَمْ تَرَ (فقیر) ہَلْ حرف استفہام اَنْتُمْ ضمیر مبتدأ، مُعْتَدُونَ اسم فاعل اَنْتُمْ مستقر فاعل عَنَّا جادہ با مجرور متعلق ہونے میں جادہ عَذَابِ اللہ مرکب اضافی مجرور، جادہ با مجرور طرف مستقر کَالَّذِينَ کے متعلق ہو کر حال مقدم میں جادہ ناکندہ شَيْءٍ ہو غلا منصوب ذوالحال، ذوالحال باحال مفعول بہ، اسم فاعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ شیبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط مَحْدُوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

قَالُوا فعل با او او ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَوْ حرف شرط ہَدَى فعل ناقص خبر مفعول بہ لِنَظَرِ اللہ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ

شرطاً کہ جوابی کھینچنا فعل ناقص مفعول ہے، تینوں ل کے جزاء، شرطاً جزاء، جملہ شرطیہ مفعول، قول یا مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا  
سواءً یعنی مستثنیٰ اسم فاعل ہو مستتر قائل علیٰ تائید بالجود، متعلق ہوئے، اسم فاعل باہمال و متعلق شیبہ جملہ ہو کہ خبر مقدم، مفعول ہرے  
تسویہ جہز عتقاً فعل ناقص باہمال بتول مصدر مفعول علیہ، امر معلق صیغہ تامل ناقص مفعول خبریہ مفعول، مفعول علیہ یا مفعول  
مبتدا، مؤخر، مبتدا خبر جملہ، اسمیہ خبریہ ہوا، مضافاً شیبہ، یہ لکھیں لکن اعراف مستتر کثیبات کے متعلق ہو کہ خبر مقدم، مفعول ہوا، مضافاً مضمینین لقا  
مرفوع اسم مؤخر مضافاً خبریہ یا اسم مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

❁ دیکھ نمبر ۳ ❁

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قَضٰى الْاَمْرَانَ اِنَّهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَعَدَّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ  
وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَسْتَجِبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْا مُوَدَّةَ  
لَوْ مَوٰ اَنْفُسِكُمْ ۗ يَا اَآءَا نَا بِيْضِرِّحِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُضِرِّحِيْ ۗ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ  
مِّنْ قَبْلُ ۗ اِنَّ الظَّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

آیت نمبر ۲۲: واو معلق قائل الشیطان قائل اتاظر فی معنی قُضِيَ الْاَمْرُ فعل مجہول بہا لب فاعل جملہ فعلیہ خبریہ مضاف  
لیہ، مضاف بہ مفعول علیہ مفعول فیہ، فعل باہمال و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ، قول، اِنّ حرف تحقیق لئنا اللہ اسم وَعَدَّ فعل مستتر قائل کُتِبَ  
خبر مفعول بہ وَعَدَّ الْحَقُّ مرکب انسانی مفعول مطلق، فعل باہمال و مضمولین جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ، واو معلق وَعَدَّتُ فعل قائم  
مضمومہ قائل کُتِبَ خبر مفعول بہ، تینوں ل کے جزاء، شرطیہ خبریہ مفعول علیہ، مضافاً معلقاً قائل کُتِبَ خبر مفعول  
یہ تینوں ل کے جزاء، شرطیہ خبریہ مفعول، مفعول علیہ یا مفعول مفعول کا مفعول ہے، مفعول علیہ یا مفعول ان کی خبر ان یا اسم مؤخر جملہ اسمیہ  
خبریہ مفعول علیہ، واو معلق مآثریہ کائن فعل ناقص لے طرف مستتر کثیبات کے متعلق ہو کہ خبر مقدم، مفعول علیہ یا مفعول ان کے متعلق ہو  
کہ حال مقدم میں جہاد نامہ ماضی، مآثر وقوع ذہالی مؤخر، ذہالی باہمال کائن کلام مؤخر، فعل ناقص یا اسم مؤخر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول،  
مفعول علیہ یا مفعول قول یا مفعول قول یا مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

اَلْاَحْرَفِ اسْتِمْعَانُ حرف مصدری دَعَوْتُكُمْ فعل باہمال و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ، مضافاً معلقاً قائل کُتِبَ خبر مفعول  
قائل لے جہاد بالجود، متعلق ہوئے، تینوں ل کے مفعول، مفعول علیہ یا مفعول بتول مصدر قائل مضموم سُلْطٰنُ کا ماضی مطلق ہے، مضاف  
فیہ ہوا اس کی شرط مفعول ہے اِنّ عَلَيْنَا اَنْتُمْ اَشْرَكْتُمْ فِيْ اِجْتَابِيْ دَعَوِيْ ۗ فَلَا تَلُوْا مُوَدَّةَ اَصْلِ نَمِيْهِ اَذْخَمِيْرًا نَّالِ لَوْنٍ وَقَاِيْہَ اَيَّاهُ  
خبر مفعول بہ، تینوں ل کے جزاء، شرطیہ خبریہ مفعول علیہ، واو معلق لَوْ مَوٰ اَنْفُسِكُمْ فعل ناقص مفعول خبریہ مفعول، تینوں ل کے جزاء  
انسانی مفعول، مفعول علیہ یا مفعول جزاء، شرطاً مضمومہ باہمال جملہ شرطیہ ہوا

مآثر جہاد یہ اَنَّا خَمِيْرًا کلام یاد نامہ ماضی ماضی مرکب انسانی قائل مضموم خبر مضافاً خبریہ یا اسم مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول  
علیہ، واو معلق مآثر جہاد یہ اَنَّا خَمِيْرًا کلام یاد نامہ ماضی ماضی مرکب انسانی قائل مضموم خبر مضافاً خبریہ یا اسم مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول  
مفعول، مفعول علیہ یا مفعول جملہ مفعول ہوا اِنّ حرف تحقیق یاد نامہ ماضی ماضی مرکب انسانی قائل مضمومہ قائل یاد نامہ ماضی ماضی

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ فاعِلٌ مُصْمِرٌ فاعِلٌ نون و تاء کا یہاں مذکورہ مفعول ہے۔ مین قَبْلُ جارِ مجرور متعلق ہوئے، فاعِلُ بافعل و مفعول بہ و متعلق بتناول مصدر مجرور، جارِ مجرور متعلق ہوئے، فاعِلُ بافعل و متعلق خبرِ اِنْ بِاسْمِ وَ خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ اِنْ حرف تَحْتِیْنِ الظَّالِمِیْنَ اس کا اسم اَلَمْ تَرَ ظرفِ مستقر کاؤں کے متعلق ہو کر خبرِ مقدم مَعْدَاثُ اَلَّذِیْنِ مرکبِ توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ اِنْ کی خبرِ اِنْ بِاسْمِ وَ خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَ اُدْخِلَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ

فِیْهَا یَاۤاِذْنَ رَبِّهٖمْ ؕ وَ تَحِیَّتُهُمْ فِیْهَا سَلٰمٌ ۝

**آیت نمبر ۲۳:** ۱) اِذْ تَسْتَبِیْ اِذْ دُخِلَ فاعِلٌ مجهول الَّذِیْنَ اسم موصول اَمَّنُوْا فاعِلٌ باؤادِ ضمیرِ فاعِلِ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ وَعَمِلُوا فاعِلٌ واؤِ ضمیرِ فاعِلِ الصّٰلِحٰتِ مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ باصطلاح موصول، موصول باصلہ ذوالحال خٰلِدِیْنَ اسم فاعِلٌ هُمْ ضمیرِ فاعِلِ فِیْهَا جارِ مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر حال، ذوالحال اِیْمَانٌ اُدْخِلَ کاتائبِ فاعِلٌ جَنَّٰتٍ موصوفِ اَتَجْرِیْ فاعِلٌ مین تَحِیَّتِهَا جارِ مجرور ظرفِ لغو متعلق ہوئے اَلْاَنْهٰرُ فاعِلٌ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جَنَّٰتٍ کی صفت، موصوفِ باصفت مفعول بہ، بآءِ جارِ اِذْنَ رَبِّهٖمْ مرکبِ اضافی مجرور، جارِ مجرور متعلق ہوئے اُدْخِلَ کے، فاعِلٌ مجهول کاتائبِ فاعِلٌ و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ تَحِیَّتُهُمْ مرکبِ اضافی مبتدأ، فِیْهَا ظرفِ مستقر کاؤں کے متعلق ہو کر تَحِیَّتُهُمْ کی ضمیر سے حال ہے سَلٰمٌ خبر، مبتدأ خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اَلَّذِیْنَ سے حال ہو۔

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اٰضَلُّهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي

السَّمٰوٰتِ ۝

**آیت نمبر ۲۳:** ۲) هَمْزِ حرف استفہام اَلَمْ تَرَ فاعِلٌ اَلَمْ تَرَ ظرفِ زمان کاؤں کا مفعول فیہ ہو کر مَثَلًا کاحال مقدم ضَرَبَ فاعِلٌ لَفْظًا اَللّٰهُ فاعِلٌ مَثَلًا مبدل مِنْ كَلِمَةٍ موصوفِ طَيِّبَةٍ صفت اولیٰ کافِ حرفِ جارِ شَجَرَةٍ موصوفِ طَيِّبَةٍ صفت اولیٰ اٰضَلُّهَا مرکبِ اضافی مبتدأ، کاتائبِ اسمِ فاعِلٌ مَثَلًا موصوفِ فاعِلٌ سے مل کر خبر، مبتدأ خبرِ معطوف علیہ واو عاطفہ فَوَعَرُهَا کاب مرکبِ اضافی مبتدأ فی السَّمٰوٰتِ جارِ مجرور ظرفِ مستقر کاتائبِ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبرِ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ باصطلاح شَجَرَةٍ کی صفت ثانیہ، موصوفِ باصطلاح مجرور، جارِ مجرور ظرفِ مستقر کاؤں کے متعلق ہو کر کَلِمَةٍ کی صفت ثانیہ، موصوفِ باصطلاح مبدل، مبدل مِنْ اِیْمَانٌ ضَرَبَ کا مفعول بہ، فاعِلُ بافعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ اِثْبَاتِہِ ہو کر کَلِمَةٍ کے دو مفعول کے قائم مقام، فاعِلُ بافعل و مفعولین جملہ فعلیہ اِثْبَاتِہِ ہو۔

تُوُوِيْ اَاطْهٰكَلَّ حِيْنَ یَاۤاِذْنَ رَبِّهَآ ؕ وَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۲۵:** ۱) تُوُوِيْ فاعِلٌ ہی مستتر فاعِلٌ اَاطْهٰ کاب مرکبِ اضافی مفعول بہ کُلِّ حِيْنَ مرکبِ اضافی مفعول بہ، بآءِ جارِ اِذْنَ رَبِّهَآ مرکبِ اضافی مجرور، جارِ مجرور متعلق ہوئے، فاعِلُ بافعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شَجَرَةٍ کی صفت ثانیہ ہے۔ اِنْ و اِذْنَ اِثْبَاتِہِ (تقریر) یَضْرِبُ فاعِلٌ لَفْظًا اَللّٰهُ فاعِلٌ اَلْاَمْثَالَ موصوفِ لِنَّاسٍ جارِ مجرور ظرفِ لغو متعلق ہوئے لَعَلَّ حرفِ تَرْجُمٰنِ هُمْ ضمیرِ اسمِ یَتَذَكَّرُوْنَ

فعل باء ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، لکن ایام خبریہ ایسی اللہ کی ۲۰۰ میں ہو کر لفظ اللہ کا ماضی ہے، فعل بالماضی منقول بہ متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہو۔

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

آیت نمبر ۲۲: واو استغناء ہے مَثَلُ صفت کَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ مرکب تو صیغہ صفت الیہ، صفت باسما الیہ مبتدا اسکان حرف جملہ شجرۃ موصوفہ خَبِيثَةٌ صفت اولیٰ اجْتُثَّتْ فعل مجہول ہی ضمیر جب قائل میں حرف جملہ فَوْقِ الْأَرْضِ مرکب اضافی مجرور، جملہ با مجرور متعلق ہوئے فعل مجہول بہا جب قائل و متعلق صفت ثانیہ عَلَمًا شَابَ "بہ کیس لہا عرف مستقر کَلِمَاتِکَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، میں جملہ نامہ قَرَارٍ مضاف مجرور، ماضی نوع اسم مؤنثر صاف ہے اسم خبر سے ل کر صفت ثالثہ، موصوفہ باسما ۲۰۰ مجرور، جملہ با مجرور عرف مستقر کَلِمَاتِکَ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

يُكْتَبُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۗ وَ يُفَعِّلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

آیت نمبر ۲۷: یُكْتَبُ فعل لفظاً اللہ ماضی الذلین آمنوا موصول باصل منقول بہ بناء جملہ عرف جملہ القول الثابت مرکب تو صیغہ مجرور، جملہ با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فی حرف جملہ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مرکب تو صیغہ مجرور، جملہ با مجرور مفعول علیہ، واو ماضی فی الْآخِرَةِ جملہ با مجرور مفعول علیہ، مفعول علیہ با مفعول ظرف مستقر کَلِمَاتِکَ کے متعلق ہو کر الذلین آمنوا کا حال ہے، یُفَعِّلُ فعل بالماضی و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ، واو ماضی یُضِلُّ فعل لفظاً اللہ ماضی الظالمین مفعول بہ، جنوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول اول، واو ماضی یُفَعِّلُ فعل لفظاً اللہ ماضی مَا موصول یُفَعِّلُ فعل ہو مستقر قائل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلا، موصول باصل منقول بہ، فعل بالماضی و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفعول ثانیہ مفعول علیہ با مفعولین جملہ متانفہ ہو۔

﴿ رُكُوعٌ خَمْسَةٌ ﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَ أَدْحَلُوا مِنْهُمْ دَارَ الْجَبَرِ ۗ إِنَّ جَهَنَّمَ ۝

آیت نمبر ۲۹: ۲۹: هَذِهِ حَرْفٌ مَعْتَمَدٌ لَمْ تَرَ فَعَلٌ أَتَتْ مَسْتَقْرَ قائل یعنی حرف جملہ الَّذِينَ آمَنُوا موصول بَدَّلُوا فعل بالماضی ضمیر قائل، نِعْمَتَ اللَّهِ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی مقدم، كُفْرًا مفعول بہ اول مؤنثر، جملہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ، واو ماضی أَدْحَلُوا فعل داؤ ضمیر قائل مَعْتَمَدٌ مرکب اضافی مفعول بہ اول مَعْدَارُ الْجَبَرِ مرکب اضافی مبدل منہ، جَهَنَّمَ ماضی لفظی مفعولین مَصْلُوكُونَ فعل داؤ ضمیر قائل ماضی مفعول بہ، جنوں مل کر حال، ذوالحال با حال بدل مبدل منہ بیدل آدَحَلُوا کا مفعول بہ معنی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مفعول، مفعول علیہ با مفعول صلا، موصول باصل مجرور، جملہ با مجرور لَمْ تَرَ کے متعلق ہوئے، فعل بالماضی و متعلق جملہ انشائیہ، مقبلیہ ہوا واو استغناء یُقَسِّمُ فعل لزم الْقَرَارِ قائل، فعل بالماضی جملہ انشائیہ خبریہ، مضموم بالذم مبتدا، ممدود ہے ہی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو۔

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿۳۰﴾

**آیت نمبر ۳۰:** او عاقلہ جَعَلُوْا فعل واو ضمیر فاعل اللہ جہا بجر و طرف مستقر کا تینہ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم آندا کا مفعول بہ اول لام جہ تالیف اور اس کے بعد ان مقدم ہے یُضِلُّوْا فعل واو ضمیر فاعل عن سبیلہ جہا بجر و متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق بتدوین مصدر مجرور، جہا بجر و جَعَلُوْا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بَدَلُوْا پر معطوف ہے۔ قُلْ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل سے مل کر قول، تَمَتَّعُوْا فعل امر واو ضمیر فاعل، فعل با قائل جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قاء تالیف حرف تَحْتَمِن مَصِيْرُكُمْ مرکب اضافی اسم الی النَّارِ طرف مستقر کا تینہ کے متعلق ہو کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔ قُلْ لِيَعْبَادِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَ عَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآئِيْ يَوْمَ لَا يَبِيْعُ فِيْهِ وَ لَا يَخْلُو ﴿۳۱﴾

**آیت نمبر ۳۱:** قُلْ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل لام جہ عِبَادِيَ موصوف الذّٰلِیْنَ اسم موصول اَمِنُوْا فعل واو ضمیر فاعل، فعل با فاعل صلہ، موصول با صلہ مفت، موصوف با صفت مجرور، جہا بجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق قول یُقِيْمُوا فعل امر اس سے پہلے لام مقدم ہے واو ضمیر فاعل الصَّلٰوة مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاقلہ وَ یُنْفِقُوْا فعل واو ضمیر ذوالحال سِرًّا وَ عَلٰنِيَةً معطوف علیہ، معطوف حال، ذوالحال با حال فاعل یون حرف جہ موصول رَزَقْنَا فعل تا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ سے مل کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جہا بجر و یُنْفِقُوْا کے متعلق ازل ہوئے، یون حرف جہ قبیل مضاف اَنْ مصدر یہ نائب یَأْتِيْ فعل موصوف لا یلیٰ بیع معطوف علیہ، واو عاقلہ لَا یَلِيْ خَلْلٌ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مبتدأ فیہ جہا بجر و کا تینہ ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبریہ مَوْكِنٌ مفت، موصوف با صفت یَأْتِيْ کا فاعل، فعل با قائل بتا و یل مصدر ہو کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مجرور، جہا بجر و یُنْفِقُوْا کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و متعلقین جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنْ الشَّجَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَکَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمْ الْاَنْهٰرَ ۙ وَ سَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآبِّیْنِ ۙ وَ سَخَّرَ لَكُمْ النَّیْلَ وَ النَّهَارَ ۙ وَ اَنْتُمْ مِّنْ كُلِّ مَآسَاَلٍ مُّتَمُوْعَةٌ ۙ وَ اِنْ تَعَدُّوْا اِنْعَمَ اللّٰهُ لَا تُحْصُوْهُآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمًا كَفَّارًا ﴿۳۲﴾

**آیت نمبر ۳۲:** اللّٰهُ مبتدأ الَّذِي الَّذِي اسم موصول خَلَقَ فعل هُوَ ضمیر فاعل السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاقلہ اَنْزَلَ فعل هُوَ ضمیر فاعل مِنَ السَّمَآءِ مجرور، جہا بجر و متعلق ہوئے مَآءً مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و معطوف مقولہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، قاء عاقلہ اَخْرَجَ فعل هُوَ ضمیر فاعل بِهٖ جہا



باجرور متعلق ہوئے، یوں حرف جار النعموت باجرور جار باجرور ظرف مستقر کا لٹکا کے متعلق ہو کر حال مقدم پر ذکا موصوف کا حرف جار کُفُّ باجرور جار باجرور ظرف مستقر کا لٹکا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال اَنْحَج کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، واو عاطفہ سَخَّرَ فعل ہو ضمیر قائل لکھُ جار باجرور متعلق ہوئے اَلْفُلُکَ مفعول بہ، لام جارہ تطبیق تجویر فعل ہی ضمیر ذوالحال قائل فی البیْحِ جار باجرور متعلق ہوئے، باء مزید جار باجرور مَسْکِنَیْسَہ کے متعلق ہو کر ہی ضمیر کا حال ہے، فعل بافاعل و متعلق مصدر کی تاول میں ہو کر باجرور جار باجرور سَخَّرَ کے متعلق ثانی، فعل بافاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث، واو عاطفہ سَخَّرَ فعل ہو ضمیر قائل لکھُ جار باجرور متعلق ہوئے اَلْاَنْهَارَ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف رابع، واو عاطفہ سَخَّرَ فعل ہو ضمیر قائل لکھُ جار باجرور متعلق ہوئے اَلْشَّيْءَ وَالْقَوَّ مفعول علیہ با معطوف ذوالحال اَلْاَبْتِیْنِیْنِ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف خامس، واو عاطفہ سَخَّرَ فعل ہو ضمیر قائل لکھُ جار باجرور متعلق ہوئے، اَلْاَنْیْنَ مفعول علیہ واو عاطفہ اَلْاَنْهَارَ معطوف، معطوف علیہ با معطوف سَخَّرَ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف سادس، واو عاطفہ اَنْیَیْ فعل ہو ضمیر قائل لکھُ مفعول بہ یوں حرف جار کُنْ مضاف ماصولہ سَأَلْتَهُمْ فعل ثَمَّ ضمیر قائل ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ سے ل کر صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ باجرور، جار باجرور اَنْیَیْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف سابع، معطوف علیہ با معطوفات سابعہ صلہ، موصول باصلہ اَللّٰہِ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

واو استینا فی ان حرف شرط تَعَدُّوا و افعال واو ضمیر قائل بِنِعْمَتِ اللّٰہِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط بلا تَعَدُّوا فعل واو ضمیر قائل مَصْمُومِ مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ ان حرف تحقیق اَلْاِنْسَانَ اس کا اسم لامر مطلق تَلَوُّوْہُمْ کَفَّارٌ و خبر بان اسم و خبرین جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿ رُكُوْعٌ ۶ ﴾

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ ذٰلِكَ اٰیٰتًا وَّ اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ يَّعْبُدُوْا الْاَصْنَامَ ﴿۱۳﴾

آیت نمبر ۳۵: واو استینا فی اذ ظرف زمان مضاف قَالَ اِبْرٰهٖمُ فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول و سبب یہ اصل میں یا اَبْرٰهٖمُ ہے اور یہ عداہ ہے اجْعَلْ فعل امر اَلَّتْ مستتر قائل هٰذَا الْاَلْبَدَکَ مرکب توصیفی مفعول بہ اَبْرٰهٖمُ مفعول بہ ثانی چاروں ل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَجْنُبْ فعل امر اَلَّتْ مستتر قائل نون و قایہ کا بیاء ضمیر معطوف علیہ، واو عاطفہ یَجْعَلْ بھی مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، اَنْ حرف مصدری و نصب تَعْبُدْ فعل نَحْنُ مستتر قائل الْاَصْنَامَ مفعول بہ، تینوں ل کر بتاول مصدر منصوب، بزج اَلْقَافِض ہے اور اصل میں اَنْ تَعْبُدْ ہے جار باجرور اَجْنُبْنِيْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف عداہ کا جواب، عداہ با جواب مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِذ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول یہ ہو افعال مخدوف اِذْ كُوْا اِذْ كُوْا فعل امر اَلَّتْ مستتر قائل اور مفعول نہ سے ل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَا كَثِيْرًا وَّ مِنْ النَّاسِ مَن كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَلْحٰقَّ عَلٰى رَبِّهِمْ وَّ مِنْ عَصٰىيْنَ فَاِنَّكَ

عَفُوٌّ زَّجِيْمٌ ۝

**آیت نمبر ۶:** ۱۳: ۱۳: ۱۳: اصل میں یازدہ آیتیں ہیں اور یہ ندامت ہے اور یہ پہلے زین کی تاکید ہے اِن حرف تحقیق ھُن ضمیر اس کا اسم اَسْلَمْتُ لَنْ فعل نون مفتوحہ اس کا فاعل کَرِيْمٌ موصوف ہون النَّاسِ جارِ مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اِن کی خبر اِن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔ فاء استئنافیہ ھُن ام شرط مبتدأ لیغیغ فعل ھُو مستتر فاعل نون و کایہ کا بیاد ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اِن حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم ہون حرف جار نون و کایہ کا بیاد ضمیر مجرور، جارِ مجرور کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر اِن ہا اسم و خبر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر ھُن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ھُن ام شرط مبتدأ عطفی فعل ھُو مستتر فاعل نون و کایہ کا بیاد ضمیر مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فاء جزائیہ اِن حرف تحقیق کاف ضمیر اس کا اسم عَفُوٌّ زَّجِيْمٌ دو خبر اِن ہا اسم و خبر ن، جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر ھُن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہوں

رَبَّنَا اِنَّا اَسْكَنْتُ مِنْ دُوْرِنَا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ

يَشْكُرُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۷:** ۱۳: ۱۳: ۱۳: رَبَّنَا اِنَّا اصل میں یازدہ آیتیں ہیں اور یہ ندامت ہے اِن حرف تحقیق بیاد ضمیر اس کا اسم اَسْكَنْتُ فعل تاء مضمومہ فاعل ہون جارِ دُوْرِنَا مَرْكِبِ اَسْمَانِيٍّ مجرور، جارِ مجرور طرفِ مَسْتَقَرِّ كَلِمَةً کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف دُوْرِنَا کے اَسْكَنْتُ کا مفعول بہ، بیاد جارِ وادِ موصوف غَيْرِ مضافِ ذِي زَرْعٍ مَرْكِبِ اَسْمَانِيٍّ مضاف الیہ پھر مَرْكِبِ اَسْمَانِيٍّ صفت، موصوف ہا صفت مجرور، جارِ با مجرور ظرف لفظ اَسْكَنْتُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق اِن کی خبر اِن ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء ہے ہوا۔ عِنْدَ مضافِ بَيْتِكَ مَرْكِبِ اَسْمَانِيٍّ موصوفِ الْمُحَرَّمِ صفت، موصوف ہا صفت مضاف الیہ پھر مَرْكِبِ اَسْمَانِيٍّ اَسْكَنْتُ کا مفعول ہے، و رَبَّنَا اِنَّا اصل میں یازدہ آیتیں ہیں اور یہ ندامت ہے اور یہ پہلے رَبَّنَا کی تاکید ہے لہذا جارِ تعلیلیہ اور اس کے بعد اِن مقدم ہے يُقِيْمُوا فعل واو ضمیر فاعل الصَّلٰوةَ مفعول بہ، تیوں مل کر بتلاویل مصدر مجرور، جارِ با مجرور اَسْكَنْتُ کے متعلق ہے۔

فاء نصیبہ اور اس کی شرط محذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَكْمَرُ كُنْزًا لِّكَ، یا اِن اِنْ كُنُوْا مُهْتَدًى فَاجْعَلْ لِّفَعْلِ اِسْرَاۓِلَ مَسْتَقَرًّا قَاعًا اَفْئِدَةً موصوف ہون النَّاسِ ظرفِ مَسْتَقَرِّ كَلِمَةً کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہا صفت مفعول بہ اِذِلَّ التَّهْوِيْ لِنَفْسِ ھِیَ مستتر فاعلِ التَّهْوِيْ جارِ با مجرور طرف لفظ متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفعول ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اَرْزُقْ لِنَفْسِ اِسْرَاۓِلَ مستتر فاعلِ ھُمْ ضمیر مفعول بہ ہون الثَّمَرٰتِ جارِ با مجرور ظرف لفظ متعلق ہوئے، جاروں مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں لَعَلَّ حرف ترحی ھُمْ ضمیر اس کا اسم يَشْكُرُوْنَ فاعل باوا ضمیر فاعل خبر، لَعَلَّ ہا اسم و خبر جزاء ھِیَ شُكْرٌ ھِیَ کی تالیل میں ہو کر اَرْزُقْ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

**رَبَّنَا اَنْتَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نَعْلُوْنَ ۗ وَ مَا يَخْفٰی عَلٰی اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمٰوٰتِ ۝۳۱۳**

**آیت نمبر ۳۱۳:** رَبَّنَا اَنْتَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نَعْلُوْنَ ۗ وَ مَا يَخْفٰی عَلٰی اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمٰوٰتِ ۝۳۱۳  
 موصول نُخْفِيْ فعل نُخْفُوْنَ مستتر قائل سے ل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا موصول نُخْفُوْنَ فعل نُخْفُوْنَ مستتر قائل سے ل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف تَعْلَمُ کا مفعول یہ، فعل با قائل و مفعول یہ، جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہو ل واو اعترافیہ (روح المعانی) کما تافیه يُخْفِيْ فعل نُخْفُوْنَ اللّٰهُ جاد با خبر و متعلق ہوئے ہیں جادہ لاندہ شئی ہر نظر بجز و دماغ فرغ موصوف فی الارض جاد با خبر و معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَا تَعْلَمُ فِی السَّمٰوٰتِ جاد با خبر و معطوف، معطوف علیہ با معطوف طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت يُخْفِيْ کا قائل، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مترتبہ ہو۔

**اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلى الْكِبَرِ اِسْمِعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعٌ الدُّعٰءِ ۝۳۱۴**

**آیت نمبر ۳۱۴:** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَدَل لّٰهُ موصوف الَّذِيْ اسم موصول وَهَبَ فعل هُوَ مستتر قائل لی جاد با خبر و طرف لغو متعلق ہوئے، عَلٰی الْكِبَرِ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر لی کی ضمیر سے حال ہے، اِسْمِعِيْلَ وَاِسْحٰقَ معطوف علیہ با معطوف مفعول یہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول یہ صلہ، موصول با صلہ اللّٰهُ کی صفت، موصوف با صفت بجز و جاد با خبر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر اَلْحَمْدُ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لیا ان حرف تحقیق رَبِّيْ مرکب انسانی اس کا اسم لآمرہ معلقہ سَمِيْعٌ الدُّعٰءِ مرکب انسانی خبریہ ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہو۔

**رَبِّ اَجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ سَلِيْمًا ۗ وَ تَقَبَّلْ دُعٰءِ ۝۳۱۵**

**آیت نمبر ۳۱۵:** رَبِّ اَجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ سَلِيْمًا ۗ وَ تَقَبَّلْ دُعٰءِ ۝۳۱۵  
 اَجْعَلْ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل نون و تافیه کا بیاد ضمیر مفعول یہ اول مقیّم الصلوة مرکب انسانی مفعول یہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ ہو کر جواب نداء، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہو ل واو عاطفہ ہیں جادہ ذُرِّيَّتِيْ مرکب انسانی بجز و جاد با خبر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَقَبَّلْ کے اَجْعَلْنِيْ کے مفعول اول پر معطوف ہے، رَبِّيْ اے اصل میں یہاں رَبِّيْ ہے اور یہ نداء ہے اور یہ پہلے رَبِّيْ کی تاکید ہے، واو عاطفہ تَقَبَّلْ فعل اَنْتَ مستتر قائل دُعٰءِ یہ اصل میں دُعٰءِ ہے مرکب انسانی مفعول یہ، فعل با قائل و مفعول یہ جملہ انشائیہ اَجْعَلْ پر معطوف ہے۔

**رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيّْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝۳۱۶**

**آیت نمبر ۳۱۶:** رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيّْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝۳۱۶  
 لآمرہ جادہ و والِدَيّْ مرکب انسانی بجز و جاد با خبر و معطوف اول، واو عاطفہ لِلْمُؤْمِنِيْنَ جاد با خبر و معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین طرف لغو اغْفِرْ کے متعلق ہوئے يَوْمَ مضاف يَقُوْمُ الْحِسَابُ فعل قائل ل کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہے، فعل با قائل و متعلق و مفعول فیہ جملہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہو۔





معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ ہوا یَا مَرْ مضاف کا، مضاف با مضاف الیہ معقول فیہ ہو لَآذْکُو فاعل مقدر کا، اَذْکُو فاعل با تاعل و معقول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

وَتَكْرِى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَ مَيْدِيْنَ مَقْرَزِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَعْشِنَ وَجُوْهُهُمْ النَّارِ

**آیت نمبر ۵۰:** ۵۰:۳۹؛ وَاِذَا سَمِعُوا نِدْوٰنَ تَكْرِى فاعل اَنْتَ مستتر قاعل الْمُجْرِمِيْنَ ذوالحال مَقْرَزِيْنَ اسم معقول هُمْ ضمیر نائب فاعل فی الْاَصْفَادِ جار مجرور متعلق ہونے، اسم معقول با تائب فاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر حال اولی سَرَابِيْلُهُمْ مرکب انشائی مبتدأ مین قَطْرَانٍ ظرف مستقر کَاثِمَةً کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا وَاَوْ عاطف تَعْشِنَ فاعل وَجُوْهُهُمْ مرکب انشائی معقول بہ مقدم اَلنَّارِ فاعل مؤخر، تَتِيْنَ لُ کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف الْمُجْرِمِيْنَ کا حال ثانیہ، ذوالحال با حالین تَكْرِى کا معقول بہ، یَوْمَ مَيْدِيْنَ مرکب انشائی تَكْرِى کا معقول فیہ، فاعل با تاعل و معقولین جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہو۔

لِيَجْزِيَّ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

**آیت نمبر ۵۱:** لَآءِ جَارِہ تعلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے يَجْزِي فاعل لِنظا لَلَّهِ تاعل كُلَّ نَفْسٍ مرکب انشائی معقول بہ اِنَّ مَّا اسم موصول كَسَبَتْ فاعل ہی ضمیر نائب فاعل سے ل کر صلہ موصول با صلہ معقول بہ ثانی، فاعل با تاعل و معقولین جملہ فعلیہ خبریہ بتولیل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف لَتُوْبْرُوْا کے متعلق ہونے یا فاعل مقدر فَعَلْ ذَلِكْ کے متعلق ہونے اِنَّ حرف تحقیق لِنظا لَلَّهِ اسم سَرِيْعُ الْحِسَابِ مرکب انشائی خبر اِنَّ، اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ محللہ ہو۔

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوْا بِهٖ وَيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيْمَدَّ كُرُوْا وَّلَوْ اَلَّاكْبَابُ

**آیت نمبر ۵۲:** هٰذَا اسم اشارہ مبتدأ، بَلٰغٌ موصول لِلنَّاسِ جار مجرور کَاثِمِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلقہ ہو۔ وَاَوْ عاطف اور معطوف علیہ محذوف ہے لِيُنْذِرُوْا لَآءِ جَارِہ تعلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے يَنْذِرُوْا فاعل مجہول وَاَوْ ضمیر نائب فاعل سے ل کر مبتدأ و صل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف علیہ، لَآءِ جَارِہ تعلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے يَنْذِرُوْا فاعل مجہول وَاَوْ ضمیر نائب فاعل پہ جار مجرور متعلق ہونے، تَتِيْنَ لُ کر بتولیل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف اِنَّ ہونے وَاَوْ عاطف لَآءِ جَارِہ تعلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے يَعْلَمُوْا فاعل وَاَوْ ضمیر نائب فاعل اَنْ كُفُوْا مَعًا كَاذِبًا هُوَ ضمیر مبتدأ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ يَعْلَمُوْا کے و معقول بہ کے قاضی مقام، فاعل با تاعل و معقولین بتا و صل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف ثانی ہونے وَاَوْ عاطف لَآءِ جَارِہ تعلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے يَكْفُرُوْا فاعل وَاَوْ اَلَّاكْبَابُ مرکب انشائی فاعل، دونوں لُ کر بتولیل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف ثالث، معطوف علیہ محذوف با معطوفات ثلاثہ ظرف لَتُوْبْرُوْا کے متعلق ہے۔

يَحْمَدُ اللهُ وَكَرِهَهُ سُوْرَةُ اَبْرٰهِيْمَ (کی ترکیب ۲۰۱۷ء ۱۷ بروز جمعہ بوقت صبح ۹:۳۰ بجے تکمیل کو پہنچی)

## ترکیب سُورَةُ الْحَجْرِ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّ ذَنْتَلِكْ اَيْتِ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينٍ ○

**آیت نمبر ۱:** الّٰس کے ترکیب سورۃ بقرونک ابتداء میں دیکھیں۔ تِلْکَ اسم اشارہ مبتدأ اَيْتِ مضاف الِکِتَابِ معطوف علیہ وَاوْءِ عَاطِفٌ

قُرْآنِ مُبِينٍ مرکب توصیفی معطوف، معطوف علیہ بِمَعطوف مضاف الیہ، مرکب اضافی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

رُبَمَا یَوَدُّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَوْ کَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ○

**آیت نمبر ۲:** رُبَمَا یَعْنُوں اور کَانَ ہے یَوَدُّ فعل الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَاوْءِ موصول باصلہ فاعل، لَوْ مصدر یہ کیونکہ یہ یَوَدُّ کے بعد واقع ہے

کَانُوْا فعل ناقص وَاوْءِ ضمیر اس کا اسم مُسْلِمِیْنَ اسم فاعل باخبر ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص باسْمِ وَاخْبَرِ بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل بافاعل

و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

ذَرُّهُمْ یَأْكُلُوْا وَیَتَمَتَّعُوْا وَاٰیٰتِهِمْ اَلَمْ یَسُوْفْ یَعْلَمُوْنَ ○

**آیت نمبر ۳:** ذَرُّ فعل امر اَلَمْ یَسُوْفْ مستتر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ، تَمَتُّعُوْا فعل امر یہ ہوں۔ یَأْكُلُوْا فعل مضارع وَاوْءِ ضمیر

فاعل وَاوْءِ دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ وَاوْءِ عَاطِفٌ یَتَمَتَّعُوْا فعل وَاوْءِ ضمیر فاعل، وَاوْءِ دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول وَاوْءِ عَاطِفٌ

یَأْكُلُوْا فعل مضارع جزم بخلاف اِیٰتِهِمْ هُمْ ضمیر مفعول بہ۔ اَلَمْ یَسُوْفْ فاعل، تَمَتُّعُوْا فعل امر یہ معطوف ثانی، معطوف علیہ بِمَعطوفین شرط

مخروف اِنْ تَذَرُّهُمْ کی جزم ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔ قَاءِ ضمیر اور اس کی شرط مخروف ہے اِذَا کَانَ الْاَمْرُ کَذٰلِکَ یَا اِنْ یُشْفِعُ لَهُمْ

الَّذِیْنَ یَسُوْفْ علامت فعل یَتَمَتَّعُوْنَ فعل باء وَاوْءِ ضمیر فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ جزم، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَمَا اَهْلُکُنَّا مِنْ قَرْیَةٍ اِلَّا وَاٰتٰی کِتَابٍ مَّعْلُوْمٍ ○

**آیت نمبر ۴:** وَاوْءِ استینافیہ مَا نِیْ اَهْلُکُنَّا فعل ناقص ضمیر فاعل مِنْ جملہ نامہ قَرْیَةٍ مَعْلُوْمٍ مضاف ذوالحال بالآخر حرف استثناء وَاوْءِ عالیہ

لَهَا ظرف مستقر کَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر خبر مقدم، کِتَابٍ مَّعْلُوْمٍ مرکب توصیفی مبتدأ مؤخر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باصل

اَهْلُکُنَّا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہوں۔

مَا تَسْبِیْحٌ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَا مَا یَسْتَاخِرُوْنَ ○

**آیت نمبر ۵:** مَا نِیْ تَسْبِیْحٌ فعل مِنْ جملہ نامہ اُمَّةٍ مَعْلُوْمٍ مضاف ذوالحال بالآخر حرف مرفوع فاعل اَجَلَهَا مرکب اضافی مفعول بہ، تَمَتُّعُوْا مل کر

جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ وَاوْءِ عَاطِفٌ مَا نِیْ تَسْتَاخِرُوْنَ فعل باء وَاوْءِ ضمیر فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بِمَعطوف جملہ معطوف

مبتدئ ہوں۔

وَقَالُوْا اٰیٰتِهَا الَّذِیْ نُرِیْ لَ عَلَیْهِ الَّذِیْ کُرِ اِنَّکَ لَمَجْنُوْنٌ ○

**آیت نمبر ۶:** واو استینانیہ قائلوا فعل باہا ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، بیاہ حرف ندما ڈکھوا کے قائم مقام، اذکھوا فعل انکا مستر فاعل آئی، موصوف ہا برائے تمییز، الذی اسم موصول لڑن فعل مجہول علیکہ ظرف لغو متعلق ہوئے الذی کو نائب فاعل، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ صفت، موصوف ہافت مضاف منصوب مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندما بیان حرف تحقیق کاف ضمیر اسم لاہرہ حلقہ مضمون اسم موصول آنت مستتر نائب فاعل سے مل کر خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ندما کا جواب ندما ہا جواب مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

**لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتِ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝**

**آیت نمبر ۷:** لو ما حرف تحضیض ثانی فعل آنت مستتر فاعل تا ضمیر مفعول بہ بالملکۃ جار با مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، ہا دلوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دال، ہر جازہ مخدوف ابن حرف شرط کُنْتِ فعل ناقص تاء مفتوحہ اس کا اسم من الصَّادِقِينَ طرف مستتر کا کون کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، شرط اپنے دال ہر جازہ سے مل کر جملہ شرطیہ ہوں۔

**مَا تَنْزِلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ۝**

**آیت نمبر ۸:** مانا فی لڑن فعل نَحْنُ ضمیر فاعل الْمَلِكَةَ مفعول بہ، اذ حرف استثناء بالحق جار با مجرور ممتکنا کے متعلق ہو کر صفت ہے، موصوف مخدوف تَنْزِلُ لاک، موصوف ہافت مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول بہ و مفعول مطلق سے مل کر - منظوف علیہ ہوا و عاقلہ مانا فی کاٹوا فعل ناقص ہا ضمیر اس کا اسم اذا مفعول فیہ مقدم مُنْظَرِينَ اسم مفعول ضمیر نائب فاعل، اسم مفعول ہا نائب فاعل و مفعول فیہ مقدم کاٹوا کی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ معطوف ہوں۔

**إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝**

**آیت نمبر ۹:** اننا حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم نَحْنُ ضمیر مبتدأ نَزَّلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل الذی کو مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ ہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ہوا و عاقلہ اننا حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم کہ جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے لاہرہ حلقہ حافضون اسم بافاعل اس میں نَحْنُ ضمیر فاعل، اسم بافاعل و مفعول بہ متعلق مقدم سے مل کر خبر بیان ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

**وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝**

**آیت نمبر ۱۰:** واو استینانیہ لاہرہ موطرہ اللقم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل اَرْسَلْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل مِنْ قَبْلِكَ جار با مجرور طرف مستتر کا کون کے متعلق ہو کر صفت ہوئی موصوف مخدوف و سلا کی، موصوف ہافت مفعول بہ، ہا حرف ہا شیعِ الْأَوَّلِينَ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق مل کر جواب قسم، قسم ہا جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

**وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝**

**آیت نمبر ۱۱:** واو عاقلہ مانا فی ثانی فعل هُف ضمیر مفعول بہ مِنْ جادہ نامہ رَسُولٍ لنگا مجرور ملامر نفع ذوالحال اَلرَّحْمٰنِ اَلْاَحْرَفِ استثناء کاٹوا فعل





مضاف تھیں، پھر مرکب توصیفی مستثنیٰ سے، بالآحرف استثناء، من اسم موصول یا مستثنیٰ فعل لہو مستتر، فاعل السَّمْعِ مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، معطوف علیہ معافہ، اتبع لعل، ضمیر مفعول بہ، یہاں مُبْدِنِ مرکب توصیفی فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول ہاسلہ مستثنیٰ ہو، مستثنیٰ نہ، ہا مستثنیٰ کُن کا مضاف الیہ، مرکب انشائی مجرور، جار مجرور، حَفَظْنَا کے متعلق ہوئے فعل بافاعل مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوفین قسم معذوف کا جواب، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

وَ الْأَرْضِ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَّ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝

جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ۝

**آیت نمبر ۱۹: ۲۰**، واو عطفہ، الْأَرْضِ فاعل معذوف مَدَدْنَا کا مفعول ہے، مَدَدْنَا فعل نا ضمیر فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسر مَدَدْنَهَا فعل بافاعل مفعول بہ، جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عطفہ، الْقَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل، فِيهَا جار مجرور متعلق ہوئے، رَوَاسِيَّ مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عطفہ، أَنْبَتْنَا فعل نا ضمیر فاعل، فِيهَا ظرف لغو متعلق ہوئے، مِنْ جادہ کُن مضاف فعی، مَوْزُونِ مرکب توصیفی مضاف الیہ، مرکب انشائی مجرور، جار مجرور، ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف معذوف کائنات کے مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، واو عطفہ، جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل، لَكُمْ جار مجرور، ظرف لغو متعلق ہوئے، فِيهَا ظرف لغو مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، مَعَايِشَ ذوالحال مؤخر، دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عطفہ، مَنْ اسم موصول لَسْتُمْ فعل نا، قَسَمُ ضمیر اس کا اسم لَمْ ظرف لغو، مَوْزُونِ مقدم ہوئے، بَاء جارہ، نَامِدَةٌ اَزْ قَيْنِ، اسم فاعل، أَنْتُمْ مستتر فاعل، و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل نا، قَسَمُ با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول ہاسلہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جَعَلْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاث جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ پر معطوف ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝

**آیت نمبر ۲۰، ۲۱**، واو استثنائیہ، اِنْ ناتیہ، مِنْ جارہ، نَامِدَةٌ شئی ہو، ظار مرفوع مبتدأ، اَلْأَحْرَفِ استثناء، عِنْدَنَا کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، خَزَائِنُهُ مرکب انشائی مبتدأ مؤخر، مَبْدَأُ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اول کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلق ہو، واو عطفہ، مَا ناتیہ، نُنزِّلُ فعل لُحْنِ مستتر فاعل نا ضمیر ذوالحال اَلْأَحْرَفِ استثناء، بَاء جارہ، قَدَرٍ مَعْلُومٍ مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور، ظرف مستقر مَبْدَأُ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال، نُنزِّلُ کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ ۝ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ

بِخَيْرِينَ ۝

**آیت نمبر ۲۲**، واو استثنائیہ، أَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل، الرِّيحِ ذوالحال لَوَاقِحِ حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ معافہ، أَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل، مِنَ السَّمَاءِ ظرف لغو متعلق ہوئے، مَاءً مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، فَاء عطفہ، اسْقَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل، مُمْ مضمیر مفعول بہ، اَوَّلُ نا ضمیر ذوالحال، واو عالیہ مَا جار خبریہ، أَنْتُمْ ضمیر اس کا اسم لَمْ جار مجرور

متعلق مقدم ہوں ہے بناؤ جاننا کہ خویشیوں اسم قابل الکنہ مستقر قابل و متعلق مقدم سے ل کر خبر جارحیہ بالاسم و خبر جارحیہ خبریہ حال،  
 لہذا لعل بمل اسقننا کا مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مفعول ثانی مفعول علیہ یا مفعول جملہ مفعول ہوں

وَ اِنَّا لَنَخْنُ نُحْيٰ وَ نُمِيْتُ وَ نَخْنُ الْوَارِثُوْنَ ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: واؤ عاقلر ان حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم لام مذکر نخن ضمیر مبتدہ ثانی فعل نخن مستقر قابل سے ل کر  
 مفعول علیہ مواؤ عاقلر نئیبت فعل نخن مستقر قابل سے ل کر مفعول مفعول علیہ یا مفعول خبر مبتدہ یا خبر جارحیہ خبریہ مفعول علیہ،  
 واؤ عاقلر نخن ضمیر مبتدہ الوارثون اسم قابل نخن مستقر قابل سے ل کر خبر، مبتدہ یا خبر جارحیہ خبریہ مفعول، مفعول علیہ یا مفعول  
 ان کی خبر بیان بالاسم و خبر جارحیہ خبریہ مفعول ہوں

وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: واؤ استخانیہ لام موطر القسم اور قسم مزدوف ہے قذ علامت فعل عَلِمْنَا فعل تا ضمیر قابل الْمُسْتَقْدِمِيْنَ ذوالل  
 مِنْكُمْ ظرف مستقر کافین کے متعلق ہو کر حال، دونوں ل کر مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم جارحیہ، قسم جارحیہ  
 جملہ ثانیہ یہ قسم مفعول علیہ، واؤ عاقلر لام موطر القسم اور قسم مزدوف ہے قذ علامت فعل عَلِمْنَا فعل تا ضمیر قابل الْمُسْتَاْخِرِيْنَ  
 مفعول بہ، تیوں ل کر قسم جارحیہ، قسم جارحیہ مفعول، مفعول علیہ یا مفعول جملہ مفعول ہوں

وَ اِنْ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: واؤ عاقلر ان حرف تحقیق و بک مرکب اسمانی اس کا اسم هو ضمیر مبتدہ یا محشو فعل هو مستقر قابل هُو ضمیر مفعول  
 بہ، تیوں ل کر خبر، مبتدہ یا خبر ان کی خبر، ہے بیان بالاسم و خبر جارحیہ خبریہ ہوں ان حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ دو خبر بیان  
 بالاسم و خبر ان جارحیہ خبریہ متانفہ ہوں

﴿۳۳﴾ و کوع نمبر ۳

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَ الْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ

مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿۳۵﴾

آیت نمبر ۳۴: واؤ استخانیہ لام موطر القسم اور قسم مزدوف ہے قذ علامت فعل خَلَقْنَا فعل تا ضمیر قابل الْاِنْسَانَ مفعول بہ  
 مِنْ صَلْصَالٍ موصوف مِنْ حرف جارحیہ حَمَآءٍ مَّسْنُوْنَ مرکب توسیعی مجرور، جد باجر و طرف مستقر کافین کے متعلق ہو کر صَلْصَالِ  
 کی صفت، موصوف بافت مجرور، جد باجر و طرف تو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ، واؤ عاقلر  
 الْجَانَ مفعول بہ فعل مزدوف خَلَقْنَا کا خَلَقْنَا فعل تا ضمیر قابل، تیوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول خَلَقْنَا فعل تا ضمیر قابل ہُو  
 ضمیر ذوالل مِنْ قَبْلُ حرف مستقر کافین کے متعلق ہو کر حال ذوالل باحال مفعول بہ مِنْ حرف جارحیہ الْجَانِ السَّمُوْمِ مرکب اسمانی مجرور، جد  
 باجر و طرف تو خَلَقْنَا کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفعول، مفعول علیہ یا مفعول

حکم کا جواب، قسم کا جواب جملہ انشائیہ قسمیہ متانفہ ہوں۔

**وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰصَلٍ مِّنْ حَبٍ مَّسْنُونٍ ﴿۲۸﴾**

**آیت نمبر ۲۸:** واوستیا فیہ اذ طرف نان منافع قال فعل ربك مرکب اضافی جاد باجر و متعلق ہوئے، فعل با نامل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول بان حرف تحقیق تاکہ خبر اس کا اسم خالقی اسم نامل انا مستتر قائل بَشَرًا مفعول بہ، میں حرف جاد صلصال موصوف میں حرف حاکم مسنون مرکب توصیفی جبر و جاد باجر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جاد باجر و خالقی کے متعلق ہوئے، اسم نامل با نامل و مفعول بہ و متعلق خبر بان ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقلول، قول با مقولہ اذ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ فعل محذوف اذ کذا، اذ کذا فعل امر انت مستقر قائل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

**فَاِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحٍ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿۲۹﴾**

**آیت نمبر ۲۹:** قائم عاقلہ اذ کا شرطیہ مفعول فیہ مقدم سویت فعل تاء مضمومہ قائل کا ضمیر مفعول بہ، چاروں مل کر معطوف علیہ، واو عاقلہ نَفَخْتَ فعل تاء مضمومہ ضمیر قائل فیہ جاد باجر و متعلق ہوئے میں حرف جاد رُوْحٍ مرکب اضافی جبر و جاد باجر و کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف و رُوْحًا کے مفعول بہ، فعل با نامل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف شرط، قائم جزائیہ قَعُوْا فعل امر واو ضمیر ذوال لہٰ کہ جاد باجر و متعلق مقدم سجدین اسم قائل اَلتَّكْوُنُ مستقر قائل اور متعلق مقدم سے مل کر حال، ذوال لہٰ با حال فعل امر کا نامل، فعل با نامل جملہ انشائیہ امریہ جزاء، شرط جاد جملہ شرطیہ ہوں۔

**فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ﴿۳۰﴾ اِلَّا ابْلِیْسَ ؕ اَبٰی اَنْ یَّكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ﴿۳۱﴾**

**آیت نمبر ۳۰، ۳۱:** قائم ضمیر اور اس کی شرط محذوف ہے اذ اسو اذ و خلقه سجد فعل التملک مکہ مکہ مکہ مرکب اضافی تاکید اول، اَجْمَعُوْنَ تاکید ثانی، مکہ مکہ تاکیدی بن مستثنیٰ منہ، الا حرف استثناء ابلیس مستثنیٰ ہے، دونوں مل کر قائل، فعل با نامل جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط جاد جملہ شرطیہ ہوں۔ اَبٰی فعل نامی ہو مستقر قائل اَنْ حرف مصدری و نصب یكُوْنَ فعل ناقص ہو مستقر اس کا اسم مع السجدین مرکب اضافی کائنات کا مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل با نامل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ (روح المعانی)

**قَالَ يَا بَلِیْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِيْنَ ﴿۳۲﴾**

**آیت نمبر ۳۲:** قال فعل ہو مستقر قائل سے مل کر قول، تاکہ حرف نداء اذ عوا کے قائم مقام، اذ عوا فعل انا مستقر قائل ابلیس ملامت موصوب مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء ما استفہامیہ مبتدہ لک طرف مستقر کائنات کے متعلق ہوئے، اَنْ حرف مصدری و نصب لا تکون فعل ناقص انت مستقر اس کا اسم مع السجدین مرکب اضافی کائنات کا مفعول فیہ ہو کر خبر، فعل ناقص ہا م و خبر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر منصوب، تزلزل نفس ہو کر کائنات کے دوسرے متعلق ہوئے، اسم قائل با نامل و متعلق خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ نداء کا جواب، نداء کا جواب جملہ انشائیہ تاکیدی مقلول، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔







**وَلَيْبَتْهُمُ عَنْ صَيِّفٍ اِبْرَاهِيمَ ۝**

**آیت نمبر ۵۱:** واؤ عطف لئی فعل امر آت مستتر قائل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ عن حرف جار صیغ اِبْرَاهِيمَ مرکب اضافی مجرور، جار باجبر و متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ امریہ پہلے لئی پر معطوف ہے۔

**اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۙ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ۝**

**آیت نمبر ۵۲:** اِذْ ظرف زمان مضاف دَخَلُوا فعل واؤ ضمیر قائل عَلَیْهِ جار باجبر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ عطف قائلوا فعل واؤ ضمیر قائل سے مل کر قول ہے سَلَامًا مفعول مطلق ہے فعل مہذوف سَلِمُوا کا، اِنَّا نَحْنُ مستتر قائل و مفعول مطلق سے مل کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِذْ کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول فیہ ہے فعل مہذوف اِذْ کو، فعل امر با قائل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں قَالَ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر قول، اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم و مَبْنُوْمٌ جار باجبر و ظرف لہو کو، متعلق مقدم ہوئے و جَلُونَ مینہ صفت نَحْنُ مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر بیانِ بالاسم و خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝**

**آیت نمبر ۵۳:** قَالُوا فعل باواؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَا تَوْجَلْ فعل نمی آت مستتر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم نُبَشِّرُكَ فعل نَحْنُ مستتر قائل کا ضمیر مفعول بہ بآء حرف جار عَلَیْمٍ علیہ مرکب، لوسیف باجبر و جار باجبر و ظرف لہو متعلق ہوئے، جاہوں مل کر اِنَّ کی خبر بیانِ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں۔

**قَالَ اِبْتَشِرُوْنِي عَلٰی اَنْ مَسَسَنِی الْكَبْرُ فَمِمَّ تَبَشِّرُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۵۴:** قَالَ فعل ہو مستتر قائل سے مل کر قول، اِبْتَشِرُوْنِي حرف استفہام تَبَشِّرُوْا فعل با قائل نون و قایہ کا بیاء ضمیر مفعول بہ علی حرف جار اَنْ مصدریہ مَسَّ فعل نون و قایہ کا بیاء ضمیر مفعول بہ الْكَبْرُ قائل، تینوں مل کر متغیبل مصدر مجرور، جار باجبر و رکنائتا کے متعلق ہو کر یہ حال ہے بیاء ضمیر منصوب سے، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں قایہ نصیبہ او اس کی شرط مہذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ بآء جارہ مآ استفہامیہ عَلٰی مجرور، مجرور، جار باجبر و متعلق مقدم ہوئے تَبَشِّرُوْا فعل باواؤ ضمیر قائل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**قَالُوا بَشِّرْ نٰكَ بِالْحَقِّ فَاَلَا تَكُنُّ مِنَ الْفٰنِطِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۵۵:** قَالُوا فعل باواؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، بَشِّرْ نٰكَ فعل نا ضمیر قائل کا ضمیر مفعول بہ بِالْحَقِّ جار باجبر و متعلق ہوئے، جاہوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔ قایہ نصیبہ او اس کی شرط مہذوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ، لَا تَكُنُّ فعل نا قس آت مستتر اسم مِنَ الْفٰنِطِيْنَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل نا قس بالاسم و خبر جملہ انشائیہ خبریہ جزاء، شرط مہذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔



### قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

**آیت نمبر ۵۲:** قَالَ فُلْهُوَ مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ہوا اور الظہور معطوف علیہ محذوف ہے کیفَ اَقْنَطُ (فقیر) مِنْ استغنیماہیہ مبتدأ یَقْنَطُ فُلْهُوَ مستتر مبدل من الْأَحْرَفِ اسْتَه الضَّالُّونَ بدل مبدل منہ بادل قائل من حرف جارِ رَحْمَةِ رَبِّهِ مرکب انسانی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فُلْ باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف متقول، قول با متقول جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

### قَالَ فَمَا حَبَّخَبْتُمْ أَتَيْهَا الْمُسَلُّونَ ۝

**آیت نمبر ۵۷:** قَالَ فُلْهُوَ مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، فَمَا فیسعہ اور اس کی شرط محذوف ہے (روح المعانی) اِنَّا كَحَقِّقْ هَذَا اِنَّمَا استغنیماہیہ مبتدأ حَبَّخَبْتُمْ مرکب انسانی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جواب نداء مقدر، أَتَيْهَا اصل میں يَأْتِيهَا تھا، يَاء حرف نداء اَدْعُوْكَ كَأَمْ مقام اَدْعُوْا فُلْ اِنَّا مستتر قائل اِنِّي موصوف ہا کبارے عمیہ الْمُسَلُّونَ مفت، موصوف باصفت مُلَّا منسوب مفعول بہ، فُلْ باقائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نداء مؤخر، نداء با جواب جملہ انشائیہ ندائیہ ہو کر متقول، قول با متقول جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

قَالُوا اِنَّا اَوْسَلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ اِلَّا اَل لُّؤْلُؤُا۟ ؕ اِنَّا لَمَنْجُوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا اَمْرًا اَنْتَ قَدَّرْنَا۟ لَآ اِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْبِ ۝

**آیت نمبر ۵۸، ۵۹، ۶۰:** قَالُوا فُلْ ہادئہ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم اَوْسَلْنَا فُلْ مجہول نا ضمیر تائب قائل اِلَى حرف جارِ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ مرکب توصیفی مستثنیٰ منہ بِالْأَحْرَفِ اسْتَه اَل لُّؤْلُؤُا۟ مرکب انسانی مستثنیٰ منقطع، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ مجرور، جار مجرور ظرف اَوْسَلْنَا کے متعلق ہوئے، فُلْ مجہول تائب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متقول، قول با متقول جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنَّ حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لَآ حرف حلقہ مُدَّخَّرٌ اسم قائل لَنْحُنْ مستتر اس کا قائل ہُنَّ ضمیر مؤکدا اَجْمَعِيْنَ تاکید، مؤکدا تاکید مستثنیٰ منہ بِالْأَحْرَفِ اسْتَه اَمْرًا اَنْتَ مُرَبِّ اسْم انسانی مستثنیٰ، دونوں مل کر مفعول بہ، اسم قائل باقائل و مفعول بہ و لفظ مضایف الیہ سے مل کر اِنَّ کی خبر اِنَّ ہا اسم و خبر مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قَدَّرْنَا فُلْ نا ضمیر قائل اِنَّ حرف تحقیق حَا ضمیر اس کا اسم لَآ حرف حلقہ مِنَ الْغَيْبِ اِنَّ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قَدَّرْنَا کا مفعول بہ ہو کہ فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

﴿ رُكُوعٌ ۵ ﴾

### فَلَمَّا جَاءَ اَل لُّؤْلُؤُا۟ الْمُسَلُّونَ ۝ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ۝

**آیت نمبر ۶۱، ۶۲:** قَاءَ ظہور معطوف علیہ محذوف ہے حَجْرًا مِنْ عِنْدِ اِبْرَاهِيْمَ و سَافِرًا اِلَى قَوْمٍ لُّؤْلُؤُا۟ اِنَّمَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فُلْ اَل لُّؤْلُؤُا۟ مرکب انسانی مفعول بہ الْمُسَلُّونَ قائل مؤخر، جہاں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط و قائل فُلْ مستتر قائل سے مل کر قول اِنَّ حرف تحقیق لَكُمْ ضمیر اس کا اسم قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ مرکب توصیفی خبر اِنَّ ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متقول،

قول باعتبار جزاء، شرطاً باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ مخدوف بہ معطوف جملہ معطوف ہو کر

**قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۶۳﴾**

**آیت نمبر ۶۳:** قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۶۳﴾ فعل باوا ضمیر فاعل قول، بَلْ حرف عطف واضرب اور معطوف علیہ مخدوف ہے مَا جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ لِأَجْلِهَا، جِئْنَاكَ فعل نا ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ باء جارہ حرف جار ما موصولہ کَانُوا فاعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم فیہ جار باجر و طرف لغو ہو کر متعلق مقدم ہوئے يَمْتَرُونَ فعل باوا ضمیر فاعل و متعلق مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصولہ اصلہ مجرور، جار باجر و جِئْنَاكَ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ مخدوف بہ معطوف جملہ معطوف ہو کر مقولہ، قول باعتبار جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر

**وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۶۴﴾**

**آیت نمبر ۶۴:** وَاٰتَيْنَاكَ اٰتَيْنَا فاعل نا ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول بہ بِالْحَقِّ جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ وَاٰتَيْنَاكَ حرف تحقیق نا ضمیر اسم لآء مذ حلقہ صَادِقُونَ اسم فاعل اٰتَيْنَا مستتر فاعل سے مل کر خبر اِنَّا با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ بہ معطوف جِئْنَاكَ پھر معطوف ہے

**فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَمِعُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَآمُضُوا**

**حَيْثُ تَكُونُونَ ﴿۶۵﴾**

**آیت نمبر ۶۵:** فَأَسْرِ فاعل اسمیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ يَا إِذَا أَرَدْتَ الْخَلَاصَ مِنْ قَوْمِكَ، اَسْرِ فعل امر آتت مستتر فاعل، باء جارہ اَهْلِكَ مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف مستتر کَانُوا کے متعلق ہو کر اَسْرِ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، باء جارہ قِطْعٍ موصوف مِنَ اللَّيْلِ ظرف مستتر کَالَيْتِ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مجرور، جار باجر و اَسْرِ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ وَاٰتَيْنَاكَ اَتَّبِعْ فعل امر آتت مستتر فاعل اَدْبَارَهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، وَاٰتَيْنَاكَ لَا يَلْتَمِعُ فاعل نبي منكم ظرف مستتر کَانُوا کے متعلق ہو کر حال مقدم اَحَدٌ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال فاعل، فعل با فاعل جملہ انشائیہ معطوف ثانی، وَاٰتَيْنَاكَ آمُضُوا فاعل امر واو ضمیر فاعل حَيْثُ ظرف مکان منضاف تَكُونُونَ فعل مجہول واو ضمیر جب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حَيْثُ کا منصف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف ثالث، معطوف علیہ بہ معطوفات ثلاثہ شرط مخدوف کی جزاء ہے، شرطاً باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر

**وَقَصَيْنَا لِيَاكُودٍ ذِي الْأَمْرِ أَنْ دَابِرَهُ هُوَ الْأَعْمَقُ مَضِيحِينَ ﴿۶۶﴾**

**آیت نمبر ۶۶:** وَاوَايْتَيْنَا فِي قَصَيْنَا فاعل نا ضمیر فاعل اَلِيَّهِ جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے ذٰلِكَ الْأَمْرُ مرکب توصیفی مجہول منہ، اَنْ حرف تحقیق دَابِرَهُ هُوَ الْأَعْمَقُ مرکب اضافی اس کا اسم مَقْطُوعٌ عام مفعول هُوَ مستتر ذوالحال مُضِيحِينَ حال، ذوالحال باحال خبر بیان با اسم

و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ذلک الامر کا بدل ہے، مبدل منہ بدل مفعول بہ، فعل ناقص و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**سوال:** مُضْبِحُونَ حال صحیح ہے اور ذوالحال ہو ضمیر واحد ہے یہ کیسے جائز ہے؟

**جواب:** ذَا بَدْوٍ هُوَ لَاءٌ "مذبوئوں کی ہولوں میں ہے لہذا مَقْطُوعٌ "مَقْطُوعُونَ کے معنی میں ہے اور اس میں هُوَ ضمیر ذوالحال ہے فلا اشکال!!!

**وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝**

**آیت نمبر ۶۷:** واؤ استیما فیہ جَاءَ فعل ناقص الی الْمَدِيْنَةِ مرکب انسانی ذوالحال یَسْتَبْشِرُونَ فعل ناقص باواؤ ضمیر ناقص جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال ناقص، فعل ناقص جملہ فعلیہ خبریہ متصرف ہے۔

**قَالَ إِنَّ هُوَ لَأَكْبَرُ ضَمِيْفِي فَلَا تَقْضُحُونَ ۝ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُخْزَوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۶۸، ۶۹:** قَالَ فعل ناقص ہُوَ مستتر ناقص سے مل کر قول، اِنَّ حرف تحقیق ہُوَ لَأَكْبَرُ اس کا اسم ضَمِيْفِي مرکب انسانی خبر اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فَاقْضُحُوا ضَمِيْفِي اور شرط محذوف ہے اِنَّكَ اَنْ تَقْضُحُوا اَنَّكَ اَنْ تَقْضُحُوا الضمیر ناقص اَنْ تَقْضُحُوا نون و قایہ کا ہیاء ضمیر مفعول بہ، تبتیوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ ہوا و عطف اَللّٰهُ اَمْرًا و ضمیر ناقص اَللّٰهُ اَمْرًا الجملہ مفعول بہ، تبتیوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف اول ہوا و عطف اَللّٰهُ اَمْرًا و الضمیر ناقص اَنْ تَقْضُحُوا ضَمِيْفِي مفعول بہ، تبتیوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**قَالُوا اَوْ لَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۷۰:** قَالُوا الضمیر ناقص باواؤ ضمیر ناقص جملہ فعلیہ خبریہ قول ہے، هَمْزٌ اَوْ حرف استتہام اَوْ عطف اور معطوف علیہ محذوف ہے اَللّٰهُ تَعَالٰی اَللّٰهُ (روح المعانی) لَمْ نُنْهَكَ فعل ناقص نُنْهَكَ مستتر ناقص کا ف ضمیر مفعول بہ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ جہاں با جزاء طرف لغو متعلق ہوئے، پہاںوں مل کر جملہ استتہامیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**قَالَ هُوَ لَأَكْبَرُ بِنْتِي اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۷۱:** قَالَ فعل ناقص ہُوَ مستتر ناقص سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، هُوَ لَأَكْبَرُ اس کا اسم مبتدا بِنْتِي مرکب انسانی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں اِنْ حرف شرط كُنْتُمْ فعل ناقص نُنْهَكَ ضمیر اس کا اسم فَعٰلِيْنَ اس کا فاعل اَللّٰهُ مستتر ناقص سے مل کر خبر، فعل ناقص باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور جزاء محذوف ہے فَالِكَيْ هُنَّ شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**لَعَنَرِك اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝**

**آیت نمبر ۷۲:** لَعَنَرِك لامر ابتداء عَمَهُونَ مرکب انسانی مبتدا، اور خبر محذوف ہے فَسَعَوْا، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر حکم اِنَّ حرف تحقیق هُوَ ضمیر اس کا اسم لَعَنَرِك معلقہ فی حرف جار سَكْرَتِهِمْ مرکب انسانی مجرور، جہاں با جزاء متعلق مقدم ہوئے يَعْمَهُونَ فعل ناقص

ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیانِ کلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قسم کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ تسمیہ مقررہ ہو۔

**فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۱۵﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا**

**مَنْ سَجِيلٍ ﴿۱۶﴾**

**آیت نمبر ۱۳، ۱۴، ۱۵:** فاء عاطفہ اخذت فعل ہم ضمیر زوال حال، مشرقین حال، دونوں مل کر مفعول بہ مقدم الصیحة فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فاء عاطفہ جعلنا فعل نا ضمیر فاعل عالیہ مرکب انسانی مفعول بہ اول سافلہا مرکب انسانی مفعول بہ ثانی، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ امطرنا فعل نا ضمیر فاعل عالیہ جاد باجر و متعلق ہوئے حجاباً و موصوف یمن سَجِيلٍ جاد باجر و ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہفت مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین چاء اهل المدينة پر معطوف ہے (تسمیہ)

**إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ تَبَيَّنَ ﴿۱۶﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿۱۷﴾**

**آیت نمبر ۱۶، ۱۷:** ان حرف تحقیق فی ذلک ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم لاکر نہ حلقہ آیت موصوف لِمَنْ تَبَيَّنَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہفت اسم مؤخر ان بآسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف تحقیق ہا ضمیر اس کا لاکر نہ حلقہ بآء جارہ سَبِيلٍ مُّقِيمٍ مرکب توصیلی مجرور، جار باجر و کائنات کے متعلق ہو کر ان کی خبر بیانِ کلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ ہو۔

**إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾**

**آیت نمبر ۱۸:** ان حرف تحقیق فی ذلک جار باجر و ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم لاکر نہ حلقہ آیت موصوف لِمُؤْمِنِينَ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہفت اسم مؤخر ان بآسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿۱۹﴾**

**آیت نمبر ۱۸، ۱۹:** واو استیذان ان مخفف من ائمتلہ ضمیر شان مخدوف اس کا اسم بکن فعل ناقص اصحاب الایکة مرکب انسانی اس کا لاکر نہ حلقہ ظالمین اسم فاعل ہمہ مستقر فاعل سے مل کر خبر، فعل ناقص باس و خبر ان کی خبر بیانِ کلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴿۲۰﴾ وَإِنَّهُمْ لِبِأْسَامٍ مُّبِينٍ ﴿۲۱﴾**

**آیت نمبر ۱۹، ۲۰:** فاء معطوف علیہ اور شرط مخدوف ہے إذا انتقمنا فی الایمہ، انتقمنا فعل نا ضمیر فاعل یمن حرف جار ہمہ ضمیر مجرور، دونوں مل کر متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ ان حرف تحقیق ہما ضمیر اس کا لاکر نہ حلقہ بآء حرف جار تأمیر مبینین مرکب توصیلی مجرور، جار باجر و کائنات کے متعلق ہو کر خبر بیانِ کلام و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط

مخروف ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

﴿۱﴾ رُكُوعٌ ۶ ﴿۲﴾

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱﴾

آیت نمبر ۸۰: واوستانہ لیکر موطر لقم اور قسم مخروف ہے قَدْ علامت فعل کَذَّبَ فعل أَصْحَابُ مضاف الْحَجْرِ مضاف الیه، مضاف با مضاف الیه قائل الْمُرْسَلِينَ مفعول بہ، تینوں مل کر قسم کا جواب ہے، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

وَ اتَّيْنَهُمْ اَيِّنَّا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۲﴾ وَ كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

اَمْنِينَ ﴿۳﴾ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿۴﴾

آیت نمبر ۸۱، ۸۲، ۸۳: واواعطف اَتَيْنَا فعل تَاَمِيرُ قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ اِنَّ اَيِّنَّا مَرْكَبِ اَشَانِي مفعول بہ ثانی، چاروں مل کر معطوف علیہ فقاء عاطفہ کا کوا فعل تا قص واو ضمیر اس کا اسم عنہا جملہ باجزاء طرف لغو متعلق مقدم ہوں، مُعْرِضِينَ اسم قائل هُمْ مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل تا قص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول واو عاطفہ کا کوا فعل تا قص واو ضمیر اس کا اسم عنہا تَنْحِتُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال اَمْنِينَ حال ذوالحال باحال قائل مِنَ الْجِبَالِ طرف لغو متعلق ہوں، بُيُوتًا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل تا قص با اسم و خبر معطوف ثانی فقاء عاطفہ آخَذَتْ فعل هُمْ ضمیر ذوالحال مُصْبِحِينَ حال ذوالحال باحال مفعول بہ مقدم، الصَّيْحَةُ قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثانیہ جملہ اولیہ پر معطوف ہے۔

فَمَا آغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۵﴾ وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا

بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلِ ﴿۶﴾

آیت نمبر ۸۴، ۸۵، ۸۶: فقاء عاطفہ مآتا فی آغْنَى فعل عَنْهُمْ جملہ باجزاء متعلق ہوں، مآتا موصول کا کوا فعل تا قص واو ضمیر اس کا اسم یَكْسِبُونَ فعل واو ضمیر قائل سے مل کر خبر، فعل تا قص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ آغْنَى قائل، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ مآتا فی خَلَقْنَا فعل تَاَمِيرُ قائل السَّمَوَاتِ مفعول علیہ واو عاطفہ الْأَرْضِ مفعول اول، واو عاطفہ مآتا موصول لَآتِيَةٌ اَشَانِي فعل مخروف تَبَيَّنَتْ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین، خَلَقْنَا کا مفعول بہ اَلْاَ حَرْفِ اسْتِهْمَا بِالْحَقِّ طرف مستقر مُتَكَلِّبِينَ کے متعلق ہو کر خَلَقْنَا کی ضمیر قائل سے حال ہے فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول واو عاطفہ اِنَّ حَرْفِ تَحْقِيقِ السَّاعَةِ اس کا اسم لآء مذ حلقہ آتِيَةٌ خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسبیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین آخَذَتْ پر معطوف ہے۔ فقاء نصیر اور شرط مخروف ہے اِذْ اَكَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ يَلَانْ اُوْذِيَتْ، اِصْفَحِ فعل امر اَنْتَ مستتر قائل اَصْفَحِ الْجَبِيلِ مَرْكَبِ قَوْسِ تَوْسِي مفعول مطلق، فعل با قائل و مفعول مطلق جملہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط مخروف ہا جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

**إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَظِيمُ ﴿۱۵﴾**

آیت نمبر ۸۶: اِن حرف تحقیق رَبَّكَ مرکب اضافی اس کا اسم ہو ضمیر برائے فصل الْخَلْقُ الْعَظِيمُ دو خبر، اِن با اسم و خبر، جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

**وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۱۶﴾**

آیت نمبر ۸۷: واو استیفاء لاکر موطن القسم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل آتَيْنَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ اول، سَبْعًا موصوف و مِنَ الْمَتَانِي ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت، معطوف علیہ واو عاطفہ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ مرکب توسیعی معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

**لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ**

**جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ وَ قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾**

آیت نمبر ۸۸، ۸۹: لا تَمُدَّنَّ فعل نہی اَنْتَ مستتر فاعل عَيْنَيْكَ مرکب اضافی مفعول بہ، اِن حرف جادما اسم موصول ممتنعاً فعل نا ضمیر فاعل بہ جاد با مجرور متعلق ہوئے، اَزْوَاجًا موصوف و مِنْهُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف باصفت ممتنعاً کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد با مجرور لا تَمُدَّنَّ کے متعلق ہوئے، فعل نہی با فاعل و مفعول بہ، و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو عاطفہ لَا تَحْزَنْ فعل نہی اَنْتَ مستتر فاعل عَلَيْهِمْ جاد با مجرور متعلق ہوئے، تَمُدَّنَّ ل کر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ اخْفِضْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل جَنَاحَكَ مرکب اضافی مفعول بہ لِلْمُؤْمِنِينَ جاد با مجرور متعلق ہوئے، چادوں ل کر جملہ انشائیہ معطوف ثانی، واو عاطفہ قُلْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل سے ل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، اِن حرف تحقیق نَأْمُ ضمیر اس کا اسم اَنَا ضمیر مبتدأ النَّذِيرُ الْمُبِينُ مرکب توسیعی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِن کی خبر، اِن با اسم دو خبر، جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفات ثلاث جملہ متنافیہ ہو۔

**كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ ﴿۱۹﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿۲۰﴾**

آیت نمبر ۹۰، ۹۱: کا حرف جادما مصدریہ اَنْزَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل عَلى جاد الْمُقْتَسِبِينَ موصوف اَلَّذِينَ اسم موصول جَعَلُوا فعل و ضمیر فاعل الْقُرْآنَ مفعول بہ اول، عِضِينَ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الْمُقْتَسِبِينَ کی صفت، موصوف باصفت مجرور، جاد با مجرور طرف لِنَا اَنْزَلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتلاویں مصدر مجرور، جاد با مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف اِنْتَاء کے اَنْزَلْنَا کا مفعول مطلق ہے۔

**فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهٗمْ أَجْمَعِينَ ﴿۲۱﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾**

**آیت نمبر ۹۳:** فَاهْ تَلِيهِ (مع اعلیٰ) واو قسمیہ جملہ رتبتک مرکب اضافی مجرور، جہاں مجرور متعلق ہوئے فعل منصرف اُقْسِمُ کے اُقْسِمُ فعل اتکا مستقر فاعل، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قسم، لاہر جوابیہ نَسْتَكْنُ فعل نَحْنُ مستقر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مؤکد اَجْعَلِيْنَ تائیکہ، مؤکد تاکیدیہ مفعول بہ عن حرف جہاں موصول کاٹوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم کے مَعْلُوْنَ فعل باہاؤ ضمیر فاعل خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہاں مجرور نَسْتَكْنُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ معللہ ہوں

**فَاَصْدَغَ بِمَا تُؤْمَرُوْا وَاَعْرَضَ عَنِ الْمُنْشِرِ كَيْفِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۹۴:** فَاهْ نصیر اور شرط منصرف ہے ان عَرَفْتُ هَذَا اِصْدَغَ فعل امر آت مستقر فاعل باہاؤ جہاں موصول کاٹوا مؤکد فعل مجہول آت مستقر تہا فاعل ہے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہاں مجرور متعلق ہوئے، فعل امر با فاعل و متعلق جملہ انشائیہ امریہ معطوف علیہ، ہواؤ عاطفہ اَعْرَضَ فعل امر آت مستقر فاعل عَنِ الْمُنْشِرِ كَيْفِيْنَ جہاں مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزا، شرط منصرف با جزا جملہ شرطیہ ہوں

**اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۹۵:** اِنَّا حرف تحقیق تَا ضمیر اس کا اسم کَفَيْنَا فعل ناقص تَا ضمیر فاعل کا ف ضمیر منصوب مفعول بہ اَوَّلِ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ موصوف الَّذِيْنَ اسم موصول يَجْعَلُوْنَ فعل ناقص تَا ضمیر فاعل مَعَ اللّٰهِ مرکب اضافی کاٹوا مفعول فیہ ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم اِخْرَجَ مرکب توسیعی مفعول بہ اَوَّلِ مَوْجَزٍ، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ كَيْفِيْنَ كَيْفِيْنَ مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ خبریہ اِنَّا ضمیر فاعل اِخْرَجَ مفعول بہ ثانی سَوْفَ علامت فعل يَعْلَمُوْنَ فعل ناقص تَا ضمیر فاعل اور مفعول بہ مَعْرِفَةُ اَمْرِهِمْ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متنافیہ ہوں

**وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يٰضِيْقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۹۶:** واو استیغریہ لاہر مؤکد قسم اور قسم منصرف ہے قَدْ علامت فعل نَعْلَمُ فعل ناقص تَا ضمیر فاعل اَنَّ حرف تحقیق کا ف ضمیر منصوب اس کا اسم يَضِيْقُ فعل ناقص صَدْرَكَ مرکب اضافی فاعل تَاہا جہاں موصول یاقولون فعل ناقص واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جہاں مجرور ظرف تَقْوِيْقُ يَضِيْقُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبریہ اِنَّا ضمیر فاعل جملہ خبریہ اسے خبریہ نَعْلَمُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ معطوف ہوں

**فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ ۝ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۹۷:** فَاهْ نصیر اور شرط منصرف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ سَبِّحْ فعل ناقص امر آت مستقر ذال لہاں تَاہا جہاں خبریہ رتبتک مرکب اضافی مجرور، جہاں مجرور ظرف مستقر مَتَّكِنًا سَا کے متعلق ہو کر حال، ذوال لہاں با حال فاعل، فعل با فاعل جملہ انشائیہ معطوف علیہ ہواؤ

عاطفہ کُنْ فعل ناقص آتت مستتر اس کا اسم من الشَّجَرَاتِ جاد باجورد حرف متعلق کُنْ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ انشائیہ معطوف اول، واو عاطفہ اُعْبُدْ فعل امر آتت مستتر فاعل رَبِّكَ مرکب اضافی مفعول بہ حقیقی حرف جاد اول اس کے بعد ان مقدر ہے یا تائی فعل کاف ضمیر مفعول بہ مقدم الیَیْقِیْنَ فاعل مؤخر، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتولید مصدر مجرور، جاد باجورد اُعْبُدْ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین شرط محذوف کی جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

## بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ

(۱۷۳۰۱۷ء بمطابق ۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۸ھ بروز جمعۃ المبارک بوقت صبح ۹ بجے سُورَةُ الْحَجْرِ کی ترکیب مکمل ہوئی)





## ترکیب سُورَةِ النَّحْلِ

● رکن نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَنْي أَمْرًا اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ وَ تَعْلٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ①

**آیت نمبر ۱:** اُنّی فعل ماضی امر اللہ مرکب انسانی فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو، فاء تیسیر (فتیر) یا فصیحہ ہے اور شرطانِ طابِئُکُمْ الْاَمْرُ مخدوف ہے، لَا تَسْتَعْجِلُوْا فعل نہی واؤ ضمیر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو۔ سُبْحٰنَهُ مرکب انسانی مفعول مطلق ہے فعل مخدوف سُبْحٰنًا کاسُبْحٰنًا فعل ناکا ضمیر فاعل، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عطفہ تَعْلٰی فعل ہُوَ مستتر فاعل عَنْ جہادہ مآصولہ یُشْرِكُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوفہ متانفہ ہو۔

يُزَيِّرُ الْمَلِئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ②

**آیت نمبر ۲:** يُزَيِّرُ فعل ہُوَ مستتر فاعل الْمَلِئِكَةَ مفعول بہ، یاء حرف جار الرُّوحِ ذوالحال میں جارہ امرہ مرکب انسانی مجرور، جار با مجرور کا کائنات کے متعلق ہو، کہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور متعلق اول ہوئے علی حرف جار مِنْ اس موصول یَشَاءُ فعل ہُوَ مستتر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال میں عِبَادِهِ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کہ حال، ذوالحال باحال مجرور، جار با مجرور متعلق ثانی ہوئے اَنْ حرف مصدری اَنْذِرُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل اَنْ حرف تحقیق ضمیر شان اس کا اسم لاقنی جنس الہ اس کا اسم معنوی جُوذُ خبر مخدوف ہے، معنوی جُوذُ اسم مفعول ہُوَ مستتر مبدل منرا لا حرف استثناء کا ضمیر بدل، مبدل منہ بادل تہب فاعل، اسم مفعول تہب فاعل خبریہ، لاقنی جنس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کہ اَنْ کی خبر اَنْ با اسم و خبر بتا ویل مفرد منصوب بنزع الخافض ہے، جار با مجرور اَنْذِرُوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق بتا ویل مصدر منصوب بنزع الخافض مجرور اصل میں بیان ہے، جار با مجرور يُزَيِّرُ کے متعلق ثالث ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ، و متعلقات ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ (روح) فاء فصیحہ اور شرط مخدوف ہے اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ يٰۤاَنۡذِرُوْهُمُ النَّجَاةَ فِي الْاٰخِرَةِ ۗ اِنۡتَقُوا فعل امر واؤ ضمیر فاعل نون و تالیہ کا بیانا ضمیر شکلم مخدوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کہ جزاء، شرط مخدوف با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ ۗ تَعْلٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ③

**آیت نمبر ۳:** خَلَقَ فعل ہُوَ مستتر فاعل بِالْحَقِّ ظرف مستقر مَثَلِیَسَا کے متعلق ہو کہ حال، ذوالحال باحال خَلَقَ کانا فاعل ہے السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔ تَعْلٰی فعل ہُوَ مستتر فاعل عَنْ حرف جارہ مآصولہ

موصول ضمیر مکنون فعل باوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جملہ باجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ

فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝

آیت نمبر ۱۶، ۱۷، ۱۸: خَلَقَ: فعل ہو مستتر قائل الإنسان مفعول بہ، مِنْ نُطْفَةٍ جار باجرور متعلق ہوئے، چاروں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بقاہ عاطفہ اذاً منافیہ خَصِيمٌ مفعول فیہ مقدم ہے، هُوَ ضمیر مبتدا، خَصِيمٌ مُّبِينٌ مرکب توسیفی خبر، مبتدا باخر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ازل، وَاوْءِ عَاطِفَةُ الْاَنْعَامِ مفعول بہ ہے فعل مخدوف خَلَقَ اللّٰهُ کا، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منقشر، خَلَقَ: فعل ہو مستتر قائل هَا ضمیر مفعول بہ، تَمِيْنٌ ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منقشر، مُنْقَشِرٌ یا مُنْقَشِرٌ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہوں۔

لَكُمْ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، فِيهَا ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، دِفْءٌ وَمَنَافِعُ معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا باخر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، وَاوْءِ عَاطِفَةُ مِنْهَا جار باجرور متعلق مقدم، تَأْكُلُونَ فعل داؤ ضمیر قائل و متعلق مقدم سے ل کر معطوف ازل، وَاوْءِ عَاطِفَةُ لَكُمْ جار باجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، فِيهَا جار باجرور کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم، جَمَالٌ موصوف حِينَ مضاف تُرِيحُونَ فعل داؤ ضمیر قائل، فعل باقائل مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف علیہ، وَاوْءِ عَاطِفَةُ حِينَ مضاف تَسْرَحُونَ فعل باوا قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف معطوف علیہ با معطوف کائنات کا مفعول فیہ ہو کر جَمَالٌ کی صفت، موصوف با صفت ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ متانفہ ہوا یا خَلَقَهَا کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے۔

وَتَحْوِيلٌ اُنْقَالِكُمْ اِلَىٰ بَدَلٍ لَّمْ تَكُونُوْا اَبْلَغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ اِلْاِنْفِسِ ط اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْوْفٌ

رَّحِيْمٌ ۝

آیت نمبر ۱۹: وَاوْءِ عَاطِفَةُ تَحْوِيلٌ فعل (ج) ضمیر مستتر قائل اُنْقَالِكُمْ مرکب انسانی مفعول بہ، اِلَىٰ حرف جار بَدَلٍ موصوف لَمْ تَكُونُوْا فعل ناقص داؤ ضمیر اس کا اسم، اَبْلَغِيْهِ اسم قائل مضاف هُوَ ضمیر مستتر ذوالحال اَلْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً جَاءَ شِقِّ اِلْاِنْفِسِ مرکب انسانی مجرور، جار باجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال اَبْلَغِيْهِ کا قائل، هُوَ ضمیر مضاف الیہ معنی مفعول بہ، اسم قائل مضاف با مضاف الیہ خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بَدَلٍ کی صفت، موصوف با صفت مجرور، جار باجرور طرف لغو تَحْوِيلٌ کے متعلق ہوئے، فعل باقائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خَلَقَهَا پر معطوف ہے۔ اِنَّ حرف تحقيق رَبَّكُمْ مرکب انسانی اس کا اسم لاہرہ عَاطِفَةُ رَوْوْفٌ رَّحِيْمٌ ذہ خبر اِنَّ با اسم خبرین جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَالْحَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرَ لَيَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً دَاوِيْخُلِقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۸:** **وَ اِذْ عَلَّفْنَا الْخَيْلَ لِمَعْنِىٍّ عَلَيْهِ وَ اَلْبِقَاعَ وَ الْخَيْدِیُّوْرَ مَعْفُوْفٍ** ہے، معطوف علیہ بمعطوفین عطف کے واسطے سے **خَلَقَ** کا مفعول ہے، لاکر جاہ تطلیع اور اس کے بعد ان قدر ہے **تَوَكَّلُوْا** فعل واو ضمیر قائل ہا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بنا و مل مصدر مجرور، جہاں مجرور و متعلق ہوئے **خَلَقَ** کے بزینۃ عطف کے واسطے سے **خَلَقَ** کا مفعول لہ ہے، واو استیذانہ **يَخْلُقُ** فعل موصول مستتر قائل **مَا اَسْمَ مَوْصُوْلٌ** **تَعْلَمُوْنَ** فعل باوا ضمیر قائل صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ یا **خَلَقَ** کے معطوف ہو۔

**وَ عَلٰى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَ مِنْهَا جَابُوْا وَ لَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ**

**آیت نمبر ۹:** **وَ اِذْ اسْتِثْنٰى عَلٰى اللّٰهِ** طرف مستقر کاٹنے کے متعلق ہو کر خبر مقدم **قَصْدُ السَّبِيْلِ** مرکب اضافی مبتدا مؤخر، مبتدا خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ **وَ اِذْ عَلَّفْنَا** و **مِنْهَا** طرف مستقر کاٹنے کے متعلق ہو کر خبر مقدم **جَابُوْا** مبتدا مؤخر، مبتدا خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ متانفہ ہو۔ **وَ اِذْ عَلَّفْنَا** شرطیہ **شَاءَ** فعل مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لاکر جوابیہ **هٰذٰى** فعل مستتر قائل **لَكُمْ** ضمیر منسوب مؤکد **اَجْمَعِيْنَ** تاکید، مؤکد تاکید مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط لاکر جملہ شرطیہ ہو۔

﴿ رکوع نمبر ۲ ﴾

**هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِیْهِ تَسْمِيْمٌ ۙ**

**آیت نمبر ۱۰:** **هُوَ** ضمیر مفصل مبتدا **الَّذِیْ** اسم موصول **اَنْزَلَ** فعل مستتر قائل **مِنَ السَّمَآءِ** جہاں مجرور طرف لغو متعلق ہوئے **مَآءً** موصوف **لَّكُمْ** طرف مستقر کاٹنے کے متعلق ہو کر خبر مقدم **مِنْهُ** جہاں مجرور کاٹنے کے متعلق ہو کر حال مقدم **شَرَابٌ** ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدا مؤخر، مبتدا خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ **وَ اِذْ عَلَّفْنَا** و **مِنْهُ** طرف مستقر کاٹنے کے متعلق ہو کر خبر مقدم **شَجَرٌ** موصوف **فِیْهِ** جہاں مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے **تَسْمِيْمٌ** فعل واو ضمیر قائل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر **شَجَرٌ** کی صفت، موصوف با صفت مبتدا مؤخر، مبتدا خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف جملہ ہو کر **مَآءً** کی صفت، موصوف با صفت **اَنْزَلَ** کا مفعول بہ، فعل باقائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ہو کر خبر، مبتدا خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**يُنْبِتُ لَكُمْ بِهٖ الزَّرْعَ وَ الرِّیْتُوْنَ وَ النَّخِيْلَ وَ الْاَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ اِنَّ فِی**

**ذٰلِكَ لَاٰیٰةٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۙ**

**آیت نمبر ۱۱:** **يُنْبِتُ** فعل مستتر قائل **لَّكُمْ** جہاں مجرور متعلق اول ہوئے **بِهٖ** جہاں مجرور متعلق ثانی ہوئے **الزَّرْعَ** معطوف علیہ، **وَ اِذْ عَلَّفْنَا** **الرِّیْتُوْنَ** معطوف اول **وَ اِذْ عَلَّفْنَا** **النَّخِيْلَ** معطوف ثانی **وَ اِذْ عَلَّفْنَا** **الْاَعْنَابَ** معطوف ثالث، **وَ اِذْ عَلَّفْنَا** **مِنَ الثَّمَرٰتِ** متبعضہ مضاف لہ کیونکہ یہ اسم ہوتا ہے **كُلِّ الثَّمَرٰتِ** مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ معطوف رابع، معطوف علیہ بمعطوفات **اِنَّ** **یُنْبِتُ** کا مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ دو متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر **مَآءً** کی صفت ثانیہ ہے، یا جملہ متانفہ ہے **اِنَّ** حرف تحقیق **فِی** **ذٰلِكَ** جہاں مجرور طرف

مستتر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم لاہر مذہقہ آیت موصوف لاہر جارہ قَوْمِ موصوف يَتَفَكَّرُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قَوْمِ کی صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جارہ مجرور ظرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کر آیت کی صفت، موصوف بہ صفت اسم مؤخر بیانِ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستافہ ہوا

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهٖ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷﴾

**آیت نمبر ۱۷:** واوا عاقلہ مستخّر فعل ہو مستتر قائل لکم جارہ مجرور متعلق ہوئے الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ معطوف علیہ با معطوفات ثلاثہ مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر آنکڑ ل پر یا یُنْبِتُ پر معطوف ہے۔ واوا عاقلہ النُّجُومُ مبتدأ، مَسْخَرَاتٍ اسم مفعول ہُنَّ مستتر بہ صفت فاعل بآء جارہ اُمّوہ مرکب اضافی مجرور، جارہ مجرور متعلق ہوئے، اسم مفعول باناب فاعل و متعلق شہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ جارہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ہوا۔ اِنَّ حرف تحقیق فی ذلک ظرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم لاہر مذہقہ آیت موصوف لاہر جارہ قَوْمِ موصوف يَتَفَكَّرُونَ فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف بہ صفت مجرور، جارہ مجرور ظرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت اسم مؤخر بیانِ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَدَّبَّرُوْنَ ﴿۱۸﴾

**آیت نمبر ۱۸:** واوا عاقلہ ما موصول ذرأ فعل ہو مستتر قائل لکم جارہ مجرور متعلق اول ہوں ہے فی الارض جارہ مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین صلہ، موصول باصلہ ذوالحال مُخْتَلِفًا اسم فاعل اَلْوَانُهُ مرکب اضافی فاعل، اسم فاعل بافاعل شہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال باحال الَّيْلِ پر معطوف ہے۔ اِنَّ فِي ذلک لآیة لقوم یدبّرُوْن کی ترکیب اِنَّ فِي ذلک لآیة لقوم یتفکروْن کی مثل ہے جو ابھی گزری ہے۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مِّنْ حَبْلِ الْجَنَّةِ الَّتِي تَلْبَسُونَ نَهَاۗءً وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۹﴾

**آیت نمبر ۱۹:** واوا استینافیہ فہو ضمیر مبتدأ الَّذِي اسم موصول سَخَّرَ فعل ہو مستتر قائل الْبَحْرَ مفعول بہ، لاہر جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے، تَأْكُلُوا فعل واو ضمیر قائل جملہ جارہ مجرور متعلق ہوئے لَحْمًا طَرِيًّا موصوف بہ صفت مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واوا عاقلہ تَسْتَخْرِجُوا جملہ جارہ مجرور ظرف لہو متعلق ہوئے حَبْلًا مِّنْ حَبْلِ الْجَنَّةِ موصوف تَلْبَسُونَ فعل واو ضمیر فاعل حَافِظِ مفعول بہ، تَبْتَغُوا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف بہ صفت تَسْتَخْرِجُوا موصوف بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر مجرور، جارہ مجرور سَخَّرَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ ہو کر خبر، مبتدأ جارہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستافہ ہوا

واوا اعتراضیہ تَرَى فعل اَنْتَ مستتر قائل الْفُلْكَ ذوالحال مَوَآخِرَ اسم فاعل ہج مستتر قائل فِيْهِ جارہ مجرور ظرف لہو ہو کر متعلق ہوئے،

اسما نائل بالاعل و متعلق ہے جملہ ہو کر حال، وذا انما لہ اعمال بخیر کا مفعول ہے، فعل یا نائل و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہے اور واو عاطفہ لاحقہ جملہ فعلیہ اور اس کے بعد ان مقدّم ہے کہ یکتون فعل واو ضمیر نائل من فضلیہ جملہ باجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتول مصدر مجرور، جملہ باجر و لیثا کتوز پر متعلق ہے، سو واو عاطفہ لکھ کر حرف ترقی کتوز ضمیر اس کا اسم تکتوزون فعل واو ضمیر نائل سے مل کر خبر لکھ کر اسم خبر لکتوز اور متعلق ہے۔

**وَ اَلْقَىٰ فِي الْاَرْضِ رَواسیٰ اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ اَنْهَرُوا وَ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵﴾**

**آیت نمبر ۱۵:** واو عاطفہ القى فعل ہو مستتر القى فی الارض جملہ باجر و متعلق ہوئے و رواسیٰ متعلق علیہ، سو واو عاطفہ اَنْهَرُوا وَ سُبُلًا دو متعلق، متعلق علیہ باحقوق مفعول یہ ان حرف مصدری و نصب تَمِيدَ فعل ہی مستتر نائل بِكُمْ جملہ باجر و متعلق ہوئے، تینوں مل کر بتول مصدر کو اَهْرَہْ مَدْرُوف کا صنف لہ مجریم مفعول لہ ہے، فعل یا نائل و متعلق و مفعول من جملہ فعلیہ خبریہ مستتر ہے، متعلق ہے۔ لکھ کر حرف ترقی کتوز ضمیر اس کا اسم تکتوزون فعل باوا ضمیر نائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر لکھ کر اسم خبر لکتوز اور متعلق ہے۔ القى کی ضمیر نائل سے حال ہے جملہ مستند ہے۔

**وَ عَلَّمْتِہُمْ بِاَلنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ ﴿۱۶﴾**

**آیت نمبر ۱۶:** واو عاطفہ عَلَّمْتِہُمْ بِاَلنَّجْمِ پر متعلق ہے، سو واو استیعاب یا لَنْجْمِ جملہ باجر و متعلق مقدم ہڈ ضمیر مبتدہ یَهْتَدُونَ فعل واو ضمیر نائل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدہ باجر جملہ اسمیہ خبریہ مستند ہو۔

**اَفَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لَا یَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَکَّرُونَ ﴿۱۷﴾**

**آیت نمبر ۱۷:** خبر لہ حرف استہمام قاء استہمامیہ اور یہ اصل میں خبر ہے سے مقدم ہے من اسم موصول یَخْلُقُ فعل ہو مستتر نائل سے مل کر صلہ موصول باصلہ مبتدہ کا کاف حرف بدل من اسم موصول لَا یَخْلُقُ فعل ہو مستتر نائل سے مل کر صلہ موصول باصلہ مجرور، جملہ باجر و کا تین کے متعلق ہو کر خبر مبتدہ باجر جملہ اسمیہ خبریہ مستند ہو۔ خبر لہ حرف استہمام قاء عاطفہ اور متعلق علیہ مَدْرُوف ہے لَکَلَّا جَطَّوْنَ ؕ اَفَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لَا یَخْلُقُ عَنْ هٰذَا اَفَلَا تَذَکَّرُونَ فعل باوا ضمیر نائل جملہ فعلیہ خبریہ متعلق، متعلق علیہ باحقوق جملہ متعلق ہو۔

**وَ اِنْ تُعَذِّبُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْہَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوْزٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۸﴾**

**آیت نمبر ۱۸:** واو استہمامیہ اِنْ حرف شرط و تَعَذِّبُوْا فعل واو ضمیر نائل نِعْمَةَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول ہے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، و تَحْصُوْا فعل واو ضمیر نائل ہَا ضمیر مفعول ہے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، ہَا ضمیر جملہ شرطیہ مستند ہو۔ اِنْ حرف تحقیق اَللّٰہُ اسم الجلال اسم لہ حرف ملکہ عَفُوْزٌ رَّحِیْمٌ لہ خبر اِنْ باسم خبر من جملہ اسمیہ خبریہ مستند ہو۔

**وَ اللّٰہُ یَعْلَمُ مَا تُسَوُّوْنَ وَ مَا تُخْلَعُوْنَ ﴿۱۹﴾**

**آیت نمبر ۱۹:** واو عاطفہ اللہ مبتدہ یَعْلَمُ فعل ہو ضمیر نائل ہَا موصول تُسَوُّوْنَ فعل واو ضمیر نائل، فعل یا نائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول باصلہ متعلق علیہ، سو واو عاطفہ ہَا موصول تُخْلَعُوْنَ فعل باوا ضمیر نائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول باصلہ متعلق ہے۔

معطوف علیہ بمعطوف یَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

وَالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَ هُمْ یُخْلَقُوْنَ ﴿۲۰﴾

**آیت نمبر ۲۰:** واؤ عطف الذین اسم موصول یدعون فعل واؤ ضمیر قائل ھم ضمیر منصوب مخدوف ذوالحال جن حرف جار دُونَ اللہ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور کا یقین کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا، لَا یَخْلُقُوْنَ فعل واؤ ضمیر قائل شئیًا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عطف ھم ضمیر مبتدا، یَخْلُقُوْنَ فعل واؤ ضمیر تابع قائل، فعل مجہول با تابع قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف الذین کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اللہ یَعْلَمُ پر معطوف ہے۔

اَمْوَاتٌ غَیْرُ اَحْیَاءٍ ۚ وَ مَا یَشْعُرُوْنَ ۚ اَیَّٰنَ یُبْعَثُوْنَ ﴿۲۱﴾

**آیت نمبر ۲۱:** اَمْوَاتٌ موصوف غَیْرُ اَحْیَاءٍ مرکب اضافی صفت، موصوف اَلَّذِیْنَ کی خبر ثانی، واؤ عطف مَا یَشْعُرُوْنَ فعل واؤ ضمیر قائل اَیَّٰنَ مفعول فیہ مقدم یُبْعَثُوْنَ فعل مجہول واؤ ضمیر تابع قائل، فعل مجہول با تابع قائل و مفعول فیہ محلا منصوب مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یَخْلُقُوْنَ کا معطوف ہے۔

﴿رُكُوْعٌ ۳﴾

اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ وَاٰحِدٍ ۙ قَالِ الذِّیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكَرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۲۲﴾

**آیت نمبر ۲۲:** اَللّٰهُمَّ مرکب اضافی مبتدا، اِلٰهَ وَاٰحِدٍ مرکب توصیفی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو لہ قاء فیصہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِذَا کَانَ الْاَمْرُ کَذٰلِکَ، اَلَّذِیْنَ اسم موصول لَا یُؤْمِنُوْنَ فعل واؤ ضمیر قائل بِالْاٰخِرَةِ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ مبتدا، قُلُوْبُهُمْ مرکب اضافی مبتدا، مُنْكَرَةٌ اسم قائل ہی مستتر قائل سے ل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عطف ھم ضمیر مبتدا، مُسْتَكْبِرُوْنَ اسم قائل ھم مستتر قائل سے ل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ بمعطوف اَلَّذِیْنَ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

لَا جَرَ مَرَّ اَنْ اللّٰهُ یَعْلَمَ مَا یُسِرُّوْنَ وَ مَا یُعْلِنُوْنَ ۗ اِنَّہٗ لَایُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِیْنَ ﴿۲۳﴾

**آیت نمبر ۲۳:** لَا جَرَ مَرَّ یہاں بَیِّنَت کے معنی میں ہے اَنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم یَعْلَمُ فعل ھو مستتر قائل، مَا موصول یُسِرُّوْنَ فعل واؤ ضمیر قائل صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واؤ عطف مَا موصول یُعْلِنُوْنَ فعل واؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ بمعطوف یَعْلَمُ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَنْ کی خبر، اَنْ ہاں اسم و خبر بتاویل مصدر لَا جَرَ مَرَّ بمعنی بَیِّنَت کا قائل ہے، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو لہ اِنْ حرف تحقیق ضمیر اس کا اسم لَا یُحِبُّ فعل ھو مستتر قائل الْمُسْتَكْبِرِیْنَ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنْ کی خبر بیان ہاں اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

وَ اِذَا قِیْلَ لَہُمْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّکُمْ ۙ قَالُوْا اَسْاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۲۴﴾

آیت نمبر ۳: اتواوا استنایر اذاکثر طبع مفعول فی مقدمہ قیل لعل محمول ہو مستتر راجع موسیٰ قول مصدر تاجب عامل لکھتہ جدا بجز در متعلق ہونے پہلے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول تھا کا اسم استفہام مفعول بہ مقدم ہا تزل لعل ہیئتکہ مرکب انشائی قابل تینوں مل کر جملہ انشائی ہو کر متعلق، قول با مقول شرط کا قائل اصل با واہ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول با مقول لیل اولیٰ و الا ولین مرکب انشائی خبریہ سے مبتدا اضافی ہے کی، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلق، قول با مقول جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستفاد ہو۔

لِيَحْيِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوْهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَاءَ مَا يَزِيْرُوْنَ ﴿۳﴾

آیت نمبر ۲۵: لاہر جدا تعلیلہ اس کے بعد ان مقدمہ ہے یہ تخیلہ اصل واہ ضمیر قائل اوزارہم مرکب انشائی ذوالفعل کامیلہ اسم قائل ہے مستتر قائل سے مل کر حال ذوالفعل با حال مفعول بہ یومہ القیامہ مرکب انشائی مفعول فی، لعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتدریج مصدر مجرور، جدا بجز در و حرف لغو ہو کر متعلق ہے قائلہ کے، واو عائد اکی حرف جدا اوزارہم معنی الذین اسم موصول لیل لعل واہ ضمیر قائل ہفت ضمیر ذوالفعل تاہہ ہاہ ضمیر موصول مرکب انشائی مجرور، جدا بجز در متعلقین کے متعلق ہو کر حال ذوالفعل با حال مفعول بہ، لعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ملے، موصول باصله معنی الی، معنی با اضافی الی مجرور، جدا بجز در و حرف کے واسطے یہ تخیل لعل کے متعلق ہے الا حرف عیبیہ ساء فعل ذم ماسم موصول یزیرون لعل با واہ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ملے، موصول باصله قائل، لعل با قائل جملہ فعلیہ انشائی ہو کر خبر، مخصوص بالذم مبتدا معذوف ہے یزیرون لکھتہ، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ مستفاد ہو۔

﴿۳﴾ رُكُوْعٌ نُّمْبَرٌ ۳ ﴿۳﴾

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنَّ اللّٰهَ بُنِيَ اَنْهَمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفْعُ مِنْ قَوْقِهِمْ وَاَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۴﴾

آیت نمبر ۲۶: قد علامت لعل مکر لعل الذین اسم موصول من قبلہم طرف مستتر قبیلہ کے متعلق ہو کر ملے موصول با صلہ قائل، لعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ معذوف طبع، واو عائد اکی لعل لفظ اللہ قائل بُنِيَ اَنْهَمْ مرکب انشائی مفعول بہ من القواعد جدا بجز در متعلق ہونے پہلے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معذوف اول، قاء عاقلہ نحو لعل علیہم جدا بجز در و حرف لغو متعلق ہونے، السّفْعُ قائل من قوقہم جدا بجز در متعلق ہونے، لعل با قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معذوف علیی واو عائد اکی لعل ہفت ضمیر موصول بہ العذاب قائل من حرف جد حیث معنی لا یَشْعُرُوْنَ لعل با واہ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معنی الی، مرکب انشائی مجرور، جدا بجز در اکی کے متعلق ہونے، لعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ تیسرا معذوف، معذوف علیہ با معذوفت علامہ جملہ مستفاد ہو۔

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْرِجُهُمْ وَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقِقُونَ فِيْهِمْ قَالِ الَّذِيْنَ اَوْثَرُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْجِزْئِ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۵﴾ الَّذِيْنَ تَتَّوَفٰهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْنَ اَنْفُسِهِمْ ؕ قَالُوا السَّلٰمُ ؕ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ؕ اَبٰلٍ اِنْ







هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۳﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۴﴾

**آیت نمبر ۳۳، ۳۴:** ہل حرف استفہام یَنْظُرُونَ فعل واو ضمیر فاعل إِلَّا حرف استثناء آن حرف مصدری و نصب تائی فعل ہُم ضمیر منصوب مفعول بہ الْمَلَائِكَةُ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ او عطف تائی فعل اَمْرٌ رَبِّكَ مرکب اضافی فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف تاویل مصدر مشتق مفرغ ہو کر یَنْظُرُونَ کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کَذَلِكَ جادہ باجبر و کائینا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف منصرف فِعْلًا کے مفعول مطلق مقدم فَعَلَ فعل الَّذِينَ اسم موصول من قبلہم جادہ باجبر و طرف مستقر فعل منصرف فِعْلًا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہو کر او ایتینا تینے یا ما تینے کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ فاعل، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ متعلقہ ہو کر اسم اَنْفُسُهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم یَظْلِمُونَ فعل واو ضمیر فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال کلکہ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، معاقبہ عطف اَصَابَ فعل ہُم ضمیر مفعول بہ سَيِّئَاتٌ مضاف مآہم موصول عَمِلُوا فعل واو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ مگر مرکب اضافی اَصَابَ کا فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ازل و او عطف حَاقَ فعل بیہم جادہ باجبر و متعلق ہوئے مآہم موصول کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یہ جادہ باجبر و متعلق مقدم ہوئے یَسْتَهْزِءُونَ فعل واو ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ حَاقَ کا فاعل، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ یا معطوفین جملہ متعلقہ یا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سے جملہ عالیہ ہو کر

﴿۳۳﴾ ﴿۳۴﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۳۵﴾

**آیت نمبر ۳۵:** او ایتینا تینے نے کہا کہ فعل الَّذِينَ اسم موصول اَشْرَكُوا فعل واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ قَالَ کا فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول لَوْ حرف شرط و شَاءَ اللَّهُ فعل ناقص بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، مآہم تینے نے کہا کہ فعل ناقص نَحْنُ ضمیر تاکیدیہ مؤکدا تاکیدیہ معطوف علیہ او عطف لا نأبدنا باآبائنا تاکیدیہ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ یا معطوف اَشْرَكُوا کا فاعل، میں حرف جادہ ذولہ مرکب اضافی مجرور، جادہ باجبر و طرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر حال مقدم میں جادہ ناکدہ تھی ہو کر عطف مجرور عطف منصوب ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال عَبَدْنَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ او عطف لا نأبدنا کائینا مآہم تینے نے کہا کہ فعل ناقص نَحْنُ ضمیر فاعل میں ذولہ طرف



وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتٍ بَدَلًا وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

**آیت نمبر ۳۸**، او استیثنا فی اقسامو فعل واو ضمیر قائل باللہ جادبا مجرور متعلق ہوئے جہد اکیانہم مرکب اضافی مفعول مطلق من غیر تفسیر چاروں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم لایبعت فعل اللہ اسم الجلالہ قائل من اسم موصول یئوت فعل ہو مستتر قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم کا جواب، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ مستانفہ ہوا۔ بلی حرف ایجاب غیر عامل وعدا موصول علیہ ظرف مستقر کا کثا کے متعلق ہو کر مفت اول، حکفا مفت ثانیہ، موصوف با متعین مفعول مطلق ہے فعل محذوف وَعَدَّ اللَّهُ کا، فعل با قائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ او اعترافیہ یا عطف لیکن حرف استدراک اکثرو الناس مرکب اضافی لیکن کا اسم لایعلمون فعل واو ضمیر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر لیکن با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

لِيَسْتَبِينَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَيَلْعَلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۳۹﴾

**آیت نمبر ۳۹**، لام جارہ تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے یستبین فعل ہو مستتر قائل لہم جار مجرور متعلق ہوئے الی الذی اسم موصول یخْتَلِفُونَ فعل واو ضمیر قائل فیہ جار مجرور متعلق ہوئے، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ یستبین کا مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف علیہ، او عاطفہ لام جارہ تعلیہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے، یَعْلَمَ فعل الی الذین کفروا موصول باصلہ قائل ان حرف تحقیق ہم ضمیر اس کا اسم کا کثا فعل تا قص واو ضمیر اس کا اسم، کذیبین اسم قائل ہم مستتر قائل سے مل کر خبر، فعل تا قص با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ یَعْلَمَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتا ویل مصدر مجرور، جار مجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف فعل محذوف یبعت اللہ کے متعلق ہے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۰﴾

**آیت نمبر ۴۰**، بیان حرف تحقیق کفوف ما کا قَوْل مصدر مضاف تا ضمیر مضاف الیہ معنی قائل لشیء جار مجرور متعلق ہوئے اذاکا ظرف زمان مضاف اَرَدْنَا فعل تا ضمیر قائل فا ضمیر مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اذاکا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ قَوْل مصدر کا مفعول بہ، مصدر مضاف با مضاف الیہ و متعلق و مفعول فیہ شہ جملہ ہو کر مبتدأ ان حرف مصدری و نسب نَقُول فعل تَحْن مستتر قائل لہ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، کُن فعل ہم امر آت مستتر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول یا مقولہ بتا ویل مصدر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔ قاء فصیحہ اور شرط محذوف ہے قَاكَا فُلْنَا ذَلِكْ یَكُونُ فعل ہم ہو مستتر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ قاء استیثنا فیہ ہو اور یكُون مبتدأ محذوف ہو کی خبر ہو۔

﴿۳۲﴾

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنْبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ

**الْاٰخِرَةَ اَكْبَرُ رَلُوْكَ اٰنُوْا يَعْكُمُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۱:** واؤ استیثانیہ اَلَّذِيْنَ اسم موصول صَاحِبُوْا اَصْل وَاذْ صَمِيْر قَاعِل فِي اَللّٰهُ جَد بَجْر و ر طرف لغو متعلق ہوئے صِنْ جَدہ بَعْدِ مَضْفٍ مَّاصِدْرِيْهِ لَمْ يَلْمُوْا اَصْل وَاذْ صَمِيْر تَجِبَ قَاعِل مَضْفٍ عَلَيْهِ، مرکب اضافی بَجْر و ر، جَد بَا بَجْر و ر طرف لغو متعلق مانی ہوئے، اَصْل بَا قَاعِل و متعلقین، جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصولہ باصلہ مبتدہ لاکر موطن القسم اور قسم محذوف ہے اَكْبَرُ كُنْ فِعْل نَحْوِ مَسْتَقْرَقِ اَصْل هُوَ صَمِيْر مَفْعُوْل بِفِي الدُّنْيَا جَد بَا بَجْر و ر طرف لغو متعلق ہوئے حَسْبَتْهُ بِوَاسِطَةِ مَوْصُوْفٍ مَحْذُوْفٍ كَيْفِيَّةً كَيْ مَفْعُوْلٍ مَطْلُقٍ، چاروں مل کر قسم کا جواب، قسم کا جواب خبر، مبتدہ بَا بَجْر و ر اسمیہ خبریہ متانفہ ہوئی واؤ عاطفہ لاکر ابتدائی اَجْرُ الْاٰخِرَةِ قَاعِلِ مَرْكَبِ اِضْاٰنِيْهِ مَبْتَدَہ اَكْبَرُ اسم تفضیلِ هُوَ مَسْتَقْرَقِ اَصْل سے مل کر خبر، مبتدہ بَا بَجْر و ر اسمیہ خبریہ جملہ ساتھ پر معطوف ہے لَوْ حرف شرط کا اَصْل بَا قَاعِل وَاذْ صَمِيْر اس کا اسم مَعْلُوْمُوْنَ فِعْل وَاذْ صَمِيْر قَاعِل جملہ فعلیہ خبریہ خبر، اَصْل بَا قَاعِل وَاذْ صَمِيْر اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور جزاء محذوف ہے اگر اَتَعْلَمُوْنَ كُنْ صَمِيْر كَا مَرْجِعِ كَلَامِ هُوْنَ تُوْجِرُ اَلْمَنَّا كَلَمُوْا اَللّٰهَ اَجْرِيْنَ مَحْذُوْفٍ هُوَ كُنْ، اگر اَتَعْلَمُوْنَ كُنْ صَمِيْر كَا مَرْجِعِ مَہْمَلِيْنَ هُوْنَ تُوْجِرُ اَلْمَنَّا لَوْ اَذُوْا فِيْ صَبْرٍ هُوَ مَحْذُوْفٍ هُوَ كُنْ، شرط بَا جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰی رِبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۲:** اَلَّذِيْنَ اسم موصول صَبَرُوْا اَصْل وَاذْ صَمِيْر قَاعِل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واؤ عاطفہ عَلٰی رِبِّهِمْ عَلٰی بَجْر و ر متعلق مقدم ہوئے يَتَوَكَّلُوْنَ فِعْل وَاذْ صَمِيْر قَاعِل و متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بِمَعْطُوْفٍ صِلَہ موصولہ بَا صِلَہ مَعْرُوفٌ هُوَ مَحْذُوْفٍ كُنْ خَبْرٌ، مبتدہ بَا بَجْر و ر اسمیہ خبریہ متانفہ مَطْلُوعٌ اور اِيْظَا مَعْصُوْبٍ فِعْل مَحْذُوْفٍ اَمْدَحٌ كَا مَفْعُوْلٍ بِهِ ہے۔

**وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَسَلُوْا اَهْلَ الدِّيْكْرِ اِنْ كُنْتُمْ**

**لَا تَعْلَمُوْنَ ۝**

**آیت نمبر ۳۳:** واؤ استیثانیہ مَا فِيْہِ اَرْسَلْنَا فِعْل بَا صَمِيْر قَاعِل مِنْ جَدہ قَبْلِكَ مَرْكَبِ اِضْاٰنِيْهِ بَجْر و ر، جَد بَا بَجْر و ر طرف مستقر کا کِنَائًا سے متعلق ہو کر حال مقدم اِلَّا حَرْفِ اسْتِثْنَاءٍ جَمَلًا مَوْصُوْفٌ تُوْحِيْ فِعْل نَحْوِ مَسْتَقْرَقِ اَصْل اِلَيْهِمْ جَد بَا بَجْر و ر طرف لغو متعلق ہوئے، تَمِيْنٌ مِلْ كَر جملہ فعلیہ خبریہ رِجَالًا كِي مَفْعُوْلٍ، مَوْصُوْفٍ بِمَفْعُوْلٍ ذَوَالْحَالِ مَوْضُوْعٌ ذَوَالْحَالِ بِحَالِ مَسْتَقْبَلِ مَسْتَقْبَلِ مَوْضُوْعٍ هُوَ كُرْ اَوْ سَلَمْنَا كَا مَفْعُوْلٍ بِهِ، اَصْل بَا قَاعِل و مَفْعُوْلٍ بِهِ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوئی قَاءٌ فِعْمِيَّةٌ اور شرط محذوف ہے اِنْ هُنَّ كُنْتُمْ فَيَسْأَلُوْكُمْ اَنْ تَشْتَرُوْا اَصْل امر وَاذْ صَمِيْر قَاعِل اَهْلَ الدِّيْكْرِ مَرْكَبِ اِضْاٰنِيْهِ مَفْعُوْلٍ بِهِ، تَمِيْنٌ مِلْ كَر جملہ اضافیہ ہو کر جزاء، شرط محذوف با جزاء جملہ شرطیہ ہوئی اِنْ حَرْفِ اَوْ كُنْتُمْ فِعْل بَا قَاعِل وَاذْ صَمِيْر اس کا اسم لَا تَعْلَمُوْنَ فِعْل وَاذْ صَمِيْر قَاعِل خَبْرٌ، اَصْل بَا قَاعِل وَاذْ صَمِيْر اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اور جزاء محذوف ہے اِنْ اَهْلَ الدِّيْكْرِ، شرط بَا جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۝ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الدِّيْكِرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝**



مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ خَلَقَ لِقَوْلِ اللَّهِ اسْمُ الْجَلَارِقِ قائل دونوں مل کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال، جن حرف جار تھی جو موصوف بِنَفْسِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ مرکب اضافی ذوالحال عن جہد الیہاں، وَالشَّمَاكِلِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال اولیٰ، سَجَّدًا اسْمٌ قائل ہُوَ مستقر ذوالحال واو عالیہ ہُوَ ضمیر مبتدہ اذخرون اسم قائل ہُوَ مستقر قائل سے مل کر خبر، مبتدہ جار مجرور اسیم خبریہ حال، ذوالحال باحال سَجَّدًا کا قائل فَتَوَجَّهَ جَارٌ مَجْرُورٌ متعلق ہوئے، اسم قائل بِأَقْبَالٍ و متعلق ظِلْمًا کا حال دوم، ذوالحال باحالیں قائل، لِقَوْلِ اللَّهِ بِأَقْبَالٍ جملہ فعلیہ خبریہ تھی جو کی مفت، موصوف ہفت مجرور، جار مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور طرف لِقَوْلِ اللَّهِ قَوْلًا کے متعلق ہوئے، لِقَوْلِ اللَّهِ بِأَقْبَالٍ و متعلق جملہ انشائیہ معطوف ہے، معطوف علیہ محذوف با معطوف جملہ معطوف ہوا۔

**وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَابِيَةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ**

**آیت نمبر ۳۹:** واوستیمانہ فی اللہ جہا جار مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے یسجد فعل ما اسم موصول فی السموات طرف مستقر فعل محذوف ثبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ واو عاطفہ ما فی الارض کی ترکیب ما فی السموات کی مثل ہے اور یہ موصول باصلہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف ذوالحال، جن ذابئہ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال معطوف علیہ واو عاطفہ الْمَلَائِكَةُ ذوالحال واو عالیہ ہُوَ ضمیر مبتدہ لَا يَسْتَكْبِرُونَ فعل باواؤ ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ، خبر، مبتدہ جار مجرور اسیم خبریہ حال، ذوالحال باحال معطوف، معطوف علیہ با معطوف یسجد کا قائل، لِقَوْلِ اللَّهِ بِأَقْبَالٍ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مستفاد ہوا۔

**يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ**

**آیت نمبر ۵۰:** یخافون فعل واو ضمیر قائل رَبَّهُمْ مرکب اضافی ذوالحال جن جہد فَوْقِهِمْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال یخافون کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ يَفْعَلُونَ فعل واو ضمیر قائل مَا اسم موصول یؤمرُونَ فعل مجہول باواؤ ضمیر تہب قائل صلہ، موصول باصلہ يَفْعَلُونَ کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف لَا يَسْتَكْبِرُونَ کی ضمیر قائل سے حال ہے یا لَا يَسْتَكْبِرُونَ کا عطف، بیان ہے۔

﴿ رُكُوعٌ ثَمَرِيٌّ ﴾

**وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْإِنْسَانَ إِلَّا نَمَةً هُوَ الْإِنْسَانُ أَجِدٌ فَاتِي أَيُّ قَارِ هَهُونٍ**

**آیت نمبر ۱۷:** واوستیمانہ فی اللہ اسْمُ الْجَلَارِقِ قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، لَا تَتَّخِذُوا الْإِنْسَانَ قائل لِقَوْلِ اللَّهِ الْإِنْسَانَ موكد یا موصوف الْإِنْسَانَ مفت یا تاکید، موصوف ہفت مفعول بہ، تینوں مل کر مقولہ، قول، باقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اِن حرف تمہین ما کا فہو ضمیر مبتدہ الْإِنْسَانُ وَاجِدٌ مرکب توصیفی خبر، مبتدہ جار مجرور اسیم خبریہ ہو۔ اِن فہو فصیح اور شرط محذوف ہے۔ اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، بیان نَاكِلْمُ الْحَقِّ بِإِيَّائِي ضمیر منصوب مفعول بہ ہے فعل مقدراؤ هَهُونًا کا، لِقَوْلِ اللَّهِ بِأَقْبَالٍ و مفعول بہ جملہ انشائیہ مفسرہ فہو ناکدہ اڑھبوا لِقَوْلِ اللَّهِ ضمیر قائل نون و قایہ کا تاکید ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر مفسرہ مفسرہ ہا ضمیر جزمہ ہے، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

**وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْبَاءُ أَفْعَايَ اللَّهُ تَتَّقُونَ**

**آیت نصیب ۵۲:** واؤ استیانیہ لکہ جار باجر و طرف مستقر کلون کے متعلق ہو کر خبر مقدم مآس موصول فی حرف جار السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار باجر و طرف مستقر فعل محذوف تَمَّتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مبتدأ مؤخر، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاقلہ لکہ جار باجر و طرف مستقر کلون کے متعلق ہوئے، کلون اسم فاعل ہو مستتر قائل واوصیبا اسم فاعل ہو مستقر قائل سے ل کر حال، ذوالحال باحال فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر مقدمہ الذین مبتدأ مؤخر، مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو، ہمزہ حرف استفہام قاء عاقلہ اور معطوف علیہ محذوف ہے لَا تَعْقِلُونَ عَقِبَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ مقدم تَعْقِلُونَ فعل واؤ ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم سے ل کر جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

**وَ مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَالِيْهِ تَجَسَّرُوْنَ ﴿۵۳﴾**

**آیت نصیب ۵۳:** واؤ استیانیہ مآس موصول بکم طرف مستقر فعل محذوف اِسْتَقْرَّوْا کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ ذوالحال، مین جار و نعتیہ مجرور، دو لوں ل کر کلون کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال مبتدأ عاقلہ جزائیہ کیونکہ موصول متضمن معنی شرط مبتدأ ہے مین اللہ جار باجر و طرف مستقر کلون کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ محذوف ہو کی مبتدأ باجر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ کی خبر تمام مقام جزاء، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو، تَمَّ حرف عطف اِذَا شرطیہ مفعول بہ مقدم مَسَّ فعل کُم ضمیر مفعول بہ الضَّرُّ فاعل، تینوں ل کر شرط عاقلہ جزائیہ اَلَّذِيْہ جار باجر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے تَجَسَّرُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرِيْهِمْ يُنْشِرُ كُوْنَ ﴿۵۴﴾**

**آیت نصیب ۵۴:** تَمَّ حرف عطف اِذَا شرطیہ مفعول بہ مقدم كَشَفَ فعل ہو مستقر قائل الضَّرُّ مفعول بہ عَنْكُمْ جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط اِذَا مَآجِیَہ فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ موصوف مینکُم طرف مستقر کلون کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بصفت مبتدأ بآء جار و تَمَّ مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف لغو متعلق مقدم ہوئے يُنْشِرُ كُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**لِيَكْفُرُوا بِمَا آٰتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعْتُوْا بِهِنَّ فَاَسُوْا فَتَعْلَمُوْنَ ﴿۵۵﴾**

**آیت نصیب ۵۵:** لامہ جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد ان مقدم سے یَكْفُرُوا فعل واؤ ضمیر فاعل بآء جارہ مآس موصول اَتَيْنَا فعل تاسمیر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں ل کر تینوں موصوف مصدر مجرور، جار باجر و طرف لغو يُنْشِرُ كُوْنَ کے متعلق ہوئے۔ قاء نصیر اور شرط محذوف ہے مَتْنِي كَفَرُوْا (فقریہ) یا قاء استیانیہ فَتَمْتَعْتُوْا فعل باواؤ ضمیر فاعل جملہ انشائیہ جزاء ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو، قاء تعلیلیہ تَمْتَعْتُوْا علامت فعل تَعْلَمُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہو۔

**وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْجَلُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَكَنَّ عَلِيْمًا ﴿۵۶﴾ كُنْتُمْ تَقْتَرُوْنَ ﴿۵۷﴾**

**آیت نصیب ۵۶:** واؤ استیانیہ فی جَعَلُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل لامہ جارہ مآس موصول لَا يَعْجَلُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل سے ل کر صلہ،





الآحرف تحمیه سائل اللزم مما اسم موصول یَحْكُمُونَ فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر صلہ موصول باصلہ فاعل، فعل بافائل خبر اور مخصوص بالذم مبتدا معذوف سے حکم لہم، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ انشائیہ مستانفہ ہوں۔

**لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْدِ ۚ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾**

**آیت نمبر ۶۰:** لآمر جہاد الذلین اسم موصول لَا يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر فاعل بِالْآخِرَةِ جہاد با خبر و طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر صلہ موصول باصلہ خبر اور، جہاد با خبر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، مَثَلُ السَّوْدِ مرکب انشائیہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو لو واو عاقلہ بِاللَّهِ جہاد با خبر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ مرکب توصیلیہ مبتدا مؤخر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لو واو عاقلہ ہو ضمیر مبتدا الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دو خبر، مبتدا با خبر مل جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿٦٠﴾ رکوع نمبر ۸ ﴿٦٠﴾

**وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَابِقَةٍ ۚ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ**

**مُسْتَقَرٍّ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَ لَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿٦١﴾**

**آیت نمبر ۶۱:** واو استیفاء لَوْ حرف شرطیو أَخِذُ فعل اللہ فاعل النَّاسِ مفعول بہ، بناء عاقلہ ظلمہم مرکب انشائیہ خبر اور، جہاد با خبر و طرف متعلق ہوئے، جہادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، مَا تَرَكَ فعل ماضی مستقر فاعل عَلَیْهَا جہاد با خبر و طرف متعلق ہوئے، جہاد نامکد ذَابِقَةٍ لفظ با خبر و مضاف مفعول بہ، جہادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو لو واو استیفاء (فیسر) لیکن مختلفہ من الشکلیہ ضمیر معذوف اس کا اسم یُؤَخِّرُهُمْ فعل مستقر فاعل ہُوَ مستقر فاعل، اِلٰی حرف جہاد اَجَلٍ مُسْتَقَرٍّ مرکب توصیلی خبر اور، جہاد با خبر و طرف لغو متعلق ہوئے، جہادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر لیکن باسم واو خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فاء استیفاء اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل اَجَلُهُمْ مرکب انشائیہ فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ لَا يَسْتَأْخِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل سَاعَةً مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطیہ واو عاقلہ لَا يَسْتَقْدِرُونَ فعل واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہو لو مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**وَيَجْعَلُونَ لِنَبِيِّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ ۚ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۚ لَا جَرَمَ**

**أَنَّ لَهُمُ النَّارَ ۚ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾**

**آیت نمبر ۶۲:** واو استیفاء يَجْعَلُونَ فعل واو ضمیر فاعل لِلنَّبِيِّ جہاد با خبر و طرف لغو متعلق ہوئے، مما اسم موصول يَكْرَهُونَ فعل واو ضمیر فاعل صلہ موصول باصلہ مفعول بہ، جہادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاقلہ تَصِفُ فعل اَلْسِنَتُهُمُ مرکب انشائیہ فاعل الْكُذِبَ مبدل من اَنَّ حرف تحقیق لَهْمُ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْحُسْنَىٰ مفعول تقدیر اسم مؤخر، اَنَّ باسم واو خبر جملہ اسمیہ خبریہ بدل، مبدل منہ بادل تَصِفُ کا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو لو لَا جَرَمَ اسم فعل بمعنی حَقٌّ اَنَّ حرف تحقیق لَهْمُ ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم النَّارَ اسم مؤخر، اَنَّ باسم واو خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاقلہ اَنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم مفعول هُمْ مستقر تہاب فاعل سے مل کر خبر اَنَّ باسم واو خبر جملہ

اسیے خبریہ معلوف، دونوں مل کر نال، فعل با نال، معلوف علیہ خبریہ مستند ہو۔

تَأْتِيهِمْ لَقْدَأرَسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ  
الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

آیت فصیحہ ٦٣: تَأْتِيهِمْ لَقْدَأرَسَلْنَا جملہ خبریہ معلوف کے متعلق ہوئے ناقصہ فعل آنا استمرغاقی مل کر جملہ  
بنا ہے ہو کر قسم، لاکہ جوابیہ قد علامت فعل آرسَلْنَا فعل ناقصہ نال یعنی حرف جہ اُتبعہ موصوف من قَبْلِكَ حرف مستقر کائنۃ کے  
متعلق ہو کر مفت، موصوف بافت مجرور، جہ باجرور حرف لغوا رَسَلْنَا کے متعلق ہوئے، جنوں مل کر جملہ علیہ خبریہ جواب قسم، قسم  
بجواب جملہ تَأْتِيهِمْ۔ اے کہ ماخذ زَيَّنَ فعل ناقصہ جہ باجرور حرف لغو متعلق ہوئے الشَّيْطَانُ نال اَعْمَالَهُمْ مرکب اضافی معلوف یہ،  
پہلوں مل کر جملہ علیہ خبریہ معلوف علیہ مقادہ مَوَازِنُ ضمیر متصل بہتہ مؤنثی اُتبعہ مفت، متلاف حُفْ متلاف الیہ حسی معلوف یہ اَلْيَوْمَ  
موصول فیہ، جنوں مل کر خبر جہ باجرور جملہ اسیے خبریہ معلوف الال، واو ماخذ لَقْدَأرَسَلْنَا حرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم  
عَذَابٌ أَلِيمٌ مرکب تلمیحی بہتہ مؤنثی خبر مقدم جہ باجرور جملہ اسیے خبریہ معلوف نال، معلوف علیہ باطلوں میں آرسَلْنَا ہر معلوف ہے۔

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

آیت فصیحہ ٦٤: واو ماخذ مَا فَرِ اُنزَلْنَا فعل ناقصہ نال علیہ خبریہ معلوف ہر حرف لغو متعلق ہوئے الِکِتَابَ موصول بہ الازرف  
استناد لاکہ جہ تخلیہ احوال کے بعد اُن قدر ہے یُبَيِّنَ فعل اَنْت استمرغاقی لَقْدَأرَسَلْنَا جملہ خبریہ معلوف ہوئے الَّذِي اسم موصول  
اِخْتَلَفُوا فعل ناقصہ نال علیہ خبریہ معلوف ہر حرف لغو متعلق ہوئے، جنوں مل کر صلہ، موصول ہند یُبَيِّنَ کا موصول ہے، فعل با نال، متعلق  
موصول ہے جملہ علیہ خبریہ بتاویں مصدر مجرور جہ باجرور حرف لغو مستثنی مفرغ ہو کر اُنزَلْنَا کے متعلق مانی ہوئے، فعل با نال، موصول ہے  
وَحُفَّتِمْ جملہ علیہ خبریہ آرسَلْنَا ہر معلوف ہے، واو ماخذ هُدًى معلوف علیہ، واو ماخذ وَرَحْمَةً موصوف لاکہ جہ قَوِّم موصوف یُؤْمِنُونَ  
فعل با نال، موصول نال، جملہ علیہ خبریہ مفت، موصوف بافت مجرور، جہ باجرور حرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر وَرَحْمَةً کی مفت،  
موصوف بہت معلوف، معلوف علیہ باطلوں پر اسطہ عطف کے اُنزَلْنَا کا موصول ہے۔

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَبَ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ وَرَوَّهَا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ  
يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

آیت فصیحہ ٦٥: واو استنادیہ اِنَّ اللّٰهَ سببہ اَنْزَلَ فعل ناقصہ نال من السَّمَاءِ جہ باجرور متعلق ہوئے مَاءً معلوف ہے، پہلوں مل کر  
جملہ علیہ خبریہ معلوف علیہ مقادہ اَخْيَبَ فعل ناقصہ نال ہر حرف لغو متعلق ہوئے الْاَرْضَ موصول بہ بَعْدَ وَرَوَّهَا مرکب  
اضافی موصول فیہ، فعل با نال، متعلق ہوئے جملہ علیہ خبریہ معلوف، معلوف علیہ باطلوں خبر مقدم جہ باجرور جملہ اسیے خبریہ مستند ہو کر اِنَّ  
حرف تلمیحی فی ذَٰلِكَ حرف مستقر کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر مقدم لاکہ جہ قَوِّم موصوف لَآيَةً موصوف یَسْمَعُونَ فعل با نال

جملہ فعلیہ خبریہ قومیہ کی صفت، موصوفہ باصفت مجرور، جارہا مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر آیۃ کی صفت، موصوفہ باصفت اسم مؤخر، بان اسم مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿ رکوع نمبر ۹ ﴾

**وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّذُنُسُوبِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَزَبٍ وَ دَمْرٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۲۶:** او استیفاء یہ ان حرف تحقیق لکنہ جارہا مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہوئے فی الأنعام جارہا مجرور متعلق ثانی ہوئے، اسم فاعل باجی مستقر فاعل و متعلقین خبر مقدم لاکہ مذعلقہ حیوۃ قاسم مؤخر، بان اسم مؤخر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ شُشِقِ فعل لُحْنِ مستقر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ ازل میں حرف جارہما اسم موصول فی حرف جارہا بظنونہ مرکب اضافی مجرور، جارہا مجرور طرف مستقر فعل مخدوف تَبَّتْ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہا مجرور متعلق ازل ہے۔ من حرف جارہا بَيْنَ قَزَبٍ مرکب اضافی مجرور، جارہا مجرور متعلق ثانی ہوئے لَبَنًا موصوفہ خالصا صفت اولی سائغًا اسم فاعل ہو مستقر فاعل لِلشَّرْبِ بَيْنَ جارہا مجرور متعلق ہوئے دو نوسل کر صفت ثانیہ، موصوفہ باصفتیں شُشِقِ کا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

**وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝**

**آیت نمبر ۶۷:** او استیفاء یہ من حرف جارہا ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ مفعول علیہ با مفعول مضارع الیہ مجرور مرکب اضافی مجرور، جارہا مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم تَتَّخِذُونَ فعل واو ضمیر فاعل مِنْهُ جارہا مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم سَكَرًا موصوفہ علیہ، واو عاطفہ رِزْقًا حَسَنًا مرکب توصیفی مفعول، مفعول علیہ با مفعول مفعول بہ ازل، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ موصوفہ مخدوف تَمَّوْا کی صفت، موصوفہ باصفت مبتدأ مؤخر، مبتدأ جارہا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں۔ ان فی ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کی ترکیب ان فی ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ کی مثل ہے دیکھئے آیت نمبر ۶۵ میں۔

**وَ أَوْسَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعرِشُونَ ۝**

**آیت نمبر ۶۸:** او استیفاء یہ اَوْسَىٰ رَبُّكَ مرکب اضافی فاعل اِلَى النَّحْلِ جارہا مجرور طرف لغو متعلق ہوئے اَنْ حرف مصدر اتَّخِذِي فعل امر بآء ضمیر متصل فاعل مِنَ الْجِبَالِ جارہا مجرور موصوفہ علیہ، واو عاطفہ مِنَ الشَّجَرِ جارہا مجرور موصوفہ ازل، واو عاطفہ مِنَ حرف جارہما اسم موصول يَعْرِشُونَ فعل باواو ضمیر فاعل صلہ، موصول باصلہ مجرور، جارہا مجرور موصوفہ ثانی، مفعول علیہ با مفعولین کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم مِمَّا بُيُوتًا مفعول بہ ازل، فعل با فاعل و مفعولین جملہ اضافیہ بتاولیہ مصدر مجرور اس لئے کہ یہ اصل میں بِيَان ہے، جارہا مجرور اَوْسَىٰ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔



کاسم بآء حرف جر زائد آؤی، اسم فاعل مضارع فَعَلَ مَرَكِبَ اِنْسَانِي مَضْفٍ اِلَيْهِ عَمَلِ حَرْفِ جَرِّ مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ مَلَكَتْ فِعْلٌ اِيْمَانُهُمْ مَرَكِبِ اِنْسَانِي فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو آؤی کے متعلق ہوئے، اسم فاعل مضارع اپنے مضارع الیہ معنی مفعول بہ و متعلق سے مل کر خبر، جار بآء الیہ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اولیٰ پر معطوف ہے، فقاء عاطفہ هُمْ ضمیر مبتدا سُوْرَةُ بِمَعْنَى مُسْتَوْتُوْنَ اسْم فاعل خبر، مبتدا با خبر مَعْلَا مَضْبُوْب لَمِي كے جواب میں واقع ہے۔ ہمزة حرف استفہام فقاء عاطفہ اور معطوف علیہ مَضْرُوْب ہے يَشْفِي كُوْنٌ يَلَا يَفْقَهُوْنَ (روح المعانی) بآء حرف جر زعمية اللہ مَرَكِبِ اِنْسَانِي مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے يَجْحَدُوْنَ فعل باواؤ ضمیر فاعل و متعلق مقدم جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ مَضْرُوْب با معطوف جملہ معطوف ہو۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَقَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبِ اَقْبَابًا لِطَبْلِ يُوْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۷۲:** واوا استثنایہ یا عاطفہ اللہ اسم الجلالہ مبتدا، جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل لکم جار با مجرور ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، میں حرف جار اَنْفُسِكُمْ مَرَكِبِ اِنْسَانِي مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم، اَزْوَاجًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ اول، فعل با فاعل و مفعولین، جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واوا عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل لکم جار با مجرور کائنتین کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، میں حرف جار اَزْوَاجِكُمْ مَرَكِبِ اِنْسَانِي مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنتین کے متعلق ہو کر حال مقدم، بَنِيْنَ وَ حَقَدَةً معطوف علیہ با معطوف ذوالحال مؤخر، دونوں مل کر مفعول بہ اول، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واوا عاطفہ رَزَقَى فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ میں الطَّيْبِ جار با مجرور و متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین اللہ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا یا جملہ اولیٰ پر معطوف ہے۔ ہمزة حرف استفہام فقاء ناکہ ہوا یا جملہ اسمیہ خبریہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا یا جملہ اولیٰ پر معطوف ہے، واوا عاطفہ بآء حرف جر زعمية اللہ مَرَكِبِ اِنْسَانِي مجرور، جار با مجرور متعلق مقدم ہوئے هُمْ ضمیر مبتدا، يَكْفُرُوْنَ فعل واؤ ضمیر اپنے فاعل و متعلق مقدم سے مل کر کھڈ کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَلِيْعُوْنَ ۝

**آیت نمبر ۷۳:** واوا استثنایہ (روح المعانی) يَعْبُدُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل میں حرف جر دُوْنِ اللّٰهِ مَرَكِبِ اِنْسَانِي مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم، مَا اسْمٌ مَوْصُولٌ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ فِعْلٌ هُوَ مُسْتَرْتَفِعٌ اَعْلٰهُ جَارٌ مَجْرُوْرٌ ظَرْفٌ لَمَوْصُوْلٍ هُوَ رِزْقًا مَوْصُوْفٌ مِنْ حَرْفِ جَرِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مَعْطُوْفٌ عَلِيْهِ بِمَعْطُوْفٍ مَجْرُوْرٍ، جار با مجرور ظرف مستقر کائنتہ کے متعلق ہو کر رِزْقًا كَيْ مَصْفٍ، موصوف ہفت مبدل منہ ہدیہ مقابله، مبدل منہ بابدل (مظہری) مفعول بہ، لَا يَمْلِكُ لَهُمْ فِعْلٌ با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واوا عاطفہ لَا يَسْتَلِيْعُوْنَ فعل واؤ ضمیر فاعل، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف باصلہ ذوالحال مؤخر، ذوالحال



مقدم ہو چکا فعل ہو ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، چاروں مل کر شرط، لایات فعل ہو مستتر فاعل یعنی جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط جزاء جملہ شرطیہ آنگہ کی صفت ثانیہ، موصوف با صفتین اکتل ہما کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ وجعلین کی صفت، موصوف با صفت بدل، مبدل منہ بادل مفعول بہ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ پہلے مفعول بہ اللہ پر موقوف ہے۔  
 ہاں حرف استہمالاتی استہمالاتی فعل ہو ضمیر مستتر مؤکد ہو ضمیر منضعل تاکیدی، مؤکد تاکیدی موقوف علیہ، واو عاطفہ من اسم موصول یا مؤمل فعل ہو مستتر ضمیر ذوالحال واو حال ہو ضمیر مبتدأ، علی حرف جار صراط مستقیم مرکب توسیلی مجرور، جار مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال یا مؤکد کا قائل یا تعدیل جار با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ موقوف، موقوف علیہ با موقوف یتستوی کا قائل، فعل با قائل جملہ انشائیہ متانفہ ہوں۔

﴿رکوع نمبر ۱۱﴾

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ  
 اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۷: ۷: واو استہمالاتی فی لیلہ جار مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم غیب السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ موقوف علیہ با موقوف مضاف الیہ پھر مرکب انشائی مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ موقوف علیہ، واو عاطفہ مآنایہ أَمْرُ السَّاعَةِ مرکب انشائی مبتدأ، الإحرف استہمالاتی کاف حرف جر لَمْحِ الْبَصَرِ مرکب انشائی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر مستطی مفرغ ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں، او عاطفہ، یعنی بکن ہو ضمیر مبتدأ اقرب اسم تفضیل ہو مستتر فاعل، دو دونوں مل کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ اولیٰ پر موقوف ہے، اِن حرف تھمیل اللہ اسم الجلال اس کا اسم علی حرف جر کئی ہو مرکب انشائی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم قَدِيرٌ مینہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۸: ۸: واو استہمالاتی فی اللہ اسم الجلال مبتدأ، أَخْرَجَ فعل ہو مستتر فاعل کُم ضمیر مفعول بہ، مین حرف جر بُطُونِ مضاف اُمَّهَاتِكُمْ مرکب انشائی مضاف الیہ پھر مرکب انشائی مجرور، جار مجرور أَخْرَجَ کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق موقوف علیہ لَعَلَّكُمْ فعل ہو ضمیر فاعل شَيْئًا مفعول بہ، تینوں مل کر أَخْرَجَ کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل لَكُم جار مجرور متعلق ہوئے اسلئے کہ جَعَلَ، یعنی حَلَقَ ہے السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ موقوف علیہ با موقوفین مفعول بہ، فعل با قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ موقوف، موقوف علیہ موقوف اللہ کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ و اللہ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلْسِ كُم پر موقوف ہے یا جملہ متانفہ ہے لَعَلَّ حرف تری کُم ضمیر اس کا اسم تَشْكُرُونَ فعل ہو ضمیر فاعل سے مل کر خبر، لَعَلَّ با اسم و خبر جملہ انشائیہ معللہ ہوں۔



اَلَمْ يَكُوْنُوْا اِلَى الظَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِى جَوِّ السَّمَآءِ مَا يَنْسِكُوْنَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۶۹﴾

**آیت نمبر ۶۹:** ھمزہ حرف استفہام لَمْ یَکُوْنُوْا فعل واو ضمیر قائل الی حرف جر الظَّيْرِ ذوالحال مُسَخَّرَاتٍ اسم مفعول ھُنَّ ضمیر مستتر نائب قائل فی حرف جر جَوِّ السَّمَآءِ مرکب اضافی مجرور، جدا بجزر متعلق ہوئے، اسم مفعول نائب قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کر حال اولیٰ معنا ثانیہ یَنْسِکُ فعل ھُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ الیٰ حرف استفہام اللّٰہ اسم الجلالہ مستثنیٰ مفرغ قائل، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ثانیہ ذوالحال ہا ملین مجرور، جدا بجزر و طرف لَمْ یَکُوْنُوْا کے متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ ثانیہ استفہامیہ ہوں اِنِّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ کی آیت آیت نمبر ۶۸ میں دیکھیں صرف اتنا فرق ہے کہ یہاں فِیْ ذٰلِكَ کَافِئَاتُ کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے۔

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بَیْوتِکُمْ سَکَنًا وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُیُوْتًا تَنْسَخَفُوْنَهَا یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ اِقَامَتِکُمْ اَوْ مِنْ اَصْوَابِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَا اَتَاکُمْ وَ مَتَاعًا اِلٰی حَیْنٍ ﴿۷۰﴾

**آیت نمبر ۷۰:** واو عاطفہ اللّٰہ اسم الجلالہ مبتدأ جَعَلَ فعل ھُوْ مستتر قائل لَکُمْ ظرف مستقر کَافِئَاتُ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم ہوں حرف جر بُیُوْتِکُمْ مرکب اضافی مجرور، جدا بجزر و طرف جَعَلَ کے متعلق ہو کر حال مقدم مستکن ذوالحال مؤخر، دونوں مل کر مفعول بہ اول مؤخر، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہواو عاطفہ جَعَلَ فعل ھُوْ مستتر قائل لَکُمْ جدا بجزر و کَافِئَاتُ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم ہوں حرف جر جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ مرکب اضافی مجرور، جدا بجزر و کَافِئَاتُ کے متعلق ہو کر حال مقدم بُیُوْتًا موصوفہ تَنْسَخَفُوْنَ فعل واو ضمیر قائل ھَا ضمیر منصوب مفعول بہ یَوْمَ ظَعْنِکُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ ہواو عاطفہ یَوْمَ اِقَامَتِکُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف تَنْسَخَفُوْنَ کا مفعول فیہ، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بُیُوْتًا کی صفت، موصوفہ ہفت ذوالحال مؤخر، ذوالحال ہا مل جَعَلَ کا مفعول بہ اول ہواو عاطفہ مِنْ حرف جر اَصْوَابِهَا مرکب اضافی معطوف علیہ ہواو عاطفہ اَوْبَارِهَا مرکب اضافی معطوف اول ہواو عاطفہ اَشْعَارِهَا مرکب اضافی معطوف ثانی، معطوف علیہ ہا معطوفین مجرور، جدا بجزر و مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ پر معطوف ہے اَتَاکُمْ معطوف علیہ ہواو عاطفہ مَتَاعًا مصدر الیٰ حَیْنٍ جدا بجزر و متعلق ہوئے، مصدر ہا متعلق معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف جَعَلَ کا مفعول لہ، جَعَلَ فعل ہا قائل و مفاعیل ھَا ہا پہلے جَعَلَ پر معطوف ہے، معطوف علیہ ہا معطوف اللّٰہ کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ پہلے اللّٰہ جَعَلَ پر معطوف ہے۔

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَنْتَانًا وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرَآیِیْلَ تَقِیْمُکُمْ الْحَرَ وَ سَرَآیِیْلَ تَقِیْمُکُمْ بِاَسْکُمْ اَ کَذٰلِکَ یَتَمُّ نِعْمَتُہٗ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَسْلِمُوْنَ ﴿۷۱﴾

**آیت نمبر ۷۱:** واو عاطفہ اللّٰہ مبتدأ جَعَلَ فعل ھُوْ ضمیر قائل لَکُمْ جدا بجزر و طرف مستقر کَافِئَاتُ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی

مقدم میں حرف جرہما اسم موصول حَتَّكَیْ فعل ہُوَ مستتر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَاذِبَةٌ کے متعلق ہو کر حال مقدم، اذلالاً اذلال مؤخر، واذلال باحال جَعَلَ کا مفعول بہ اذلال مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہُوَ ضمیر فاعل لَکُمْ جار مجرور ظرف مستقر کَاذِبَةٌ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، میں حرف جر الیچیتال مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَاذِبَةٌ کے متعلق ہو کر حال مقدم، اذلالاً اذلال مؤخر، واذلال باحال مفعول بہ اذلال مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اذلال، واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہُوَ ضمیر فاعل لَکُمْ جار مجرور ظرف مستقر کَاذِبَةٌ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم، سَوَّأَ اَیْنِلْ موصوف تَقَىْ فعل ہی ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ اذلال، الحَوَّ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سَوَّأَ اَیْنِلْ کی صفت، و دونوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ سَوَّأَ اَیْنِلْ موصوف تَقَىْ فعل ہی ضمیر فاعل کُمْ ضمیر مفعول بہ اذلال پائستگم مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ سَوَّأَ اَیْنِلْ کی صفت، موصوف باصفت معطوف، معطوف علیہ با معطوف جَعَلَ کا مفعول بہ اذلال مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با مفعولین جملہ معطوف ہو کر اللہ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پہلے والا جَعَلَ لَکُمْ بہ معطوف ہے۔

کَذَلِکَ جار مجرور ظرف مستقر کَاذِبَةٌ کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اِنَّمَا مَا کے مفعول مطلق مقدم تَمِکُمْ فعل ہُوَ ضمیر فاعل یَعْتَبَهُ مرکب اضافی مفعول بہ عَلَیْکُمْ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو کر لَعَلَّ حرف ترجیح کُمْ ضمیر اس کا اسم تَسْلِیْمُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ خبریہ ہو کر خبر لَعَلَّ، اسم و خبر جملہ انشائیہ متانفہ ہو۔

**فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْکَ الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۰﴾**

**آیت نمبر ۱۰:** فَاہ استیثناء یہ ماظن ان حرف شرط تَوَلَّوْا فعل واو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور جزاء محذوف ہے فَلَا کُمْ عَلَیْکَ، فَاہ تلیہ ان حرف تحقیق کون، مَّا کَاذِبٌ عَلَیْکَ جار مجرور ظرف مستقر کَاذِبُونَ کے متعلق ہو کر خبر مقدم الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ مرکب توصلی مبتدأ مؤخر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوا۔

**یَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ یُنکِرُوْنَهَا وَاکْثَرُهُمُ الْکٰفِرُوْنَ ﴿۱۱﴾**

**آیت نمبر ۱۱:** یَعْرِفُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل نِعْمَتَ اللّٰهِ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ یُنکِرُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اذلال، واو عاطفہ اکْثَرُهُمُ مرکب اضافی مبتدأ الْکٰفِرُوْنَ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با مفعولین جملہ معطوف ہو کر (روح المعانی)

﴿۱۱﴾ رکوع نمبر ۱۳

**و یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ اُمَّةٍ شَهِیْدًا ثُمَّ لَا یُؤَدِّنْ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَا لَہُمْ یُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿۱۲﴾**

**آیت نمبر ۱۲:** وَاو استیثناء یَوْمَ مضاف نَبْعَثُ فعل نَحْنُ مستتر فاعل میں حرف جر کُلِّ اُمَّةٍ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَاذِبَةٌ کے متعلق ہو کر حال مقدم شَهِیْدًا اذلال مؤخر، واذلال باحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ معطوف علیہ، ثُمَّ عاطفہ لَا یُؤَدِّنْ فعل مجهول مستتر بہ فاعل لامہ حرف جر الذِّیْنَ کَفَرُوْا موصول باصلہ مجرور، جار مجرور لَا یُؤَدِّنْ کے متعلق ہوئے، تینوں مل کر معطوف







کَمْ ضمیر مفعول بہ اذل اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مَرْکَبٌ تو صیغی مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جزاء، شرطاً باجزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہو لو او استیغایہ لیکن حرف استدراک مہمل مُضِدٌّ فعل ہو مستتر نازل مِّنْ یَشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، او اوعاطف یَقْدِرُ مئی فعل ہو مستتر نازل مِّنْ یَشَاءُ موصول باصلہ مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف ہے۔ او او استیغایہ لاکر موصولہ لِقَسْمٍ تَسْلُکُنَّ فعل مجہول او اوعضوفہ تہب نازل عَنّ حرف جارہا م موصول مَلْتَمِذٌ فعل ناقص بافاعل خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر صلہ موصول باصلہ مجرور، جار با مجرور متعلق، فعل مجہول تہب نازل و متعلق قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ قسمیہ ہو۔

وَلَا تَتَّخِذُوا اٰیٰتِنَا کُمْ دَخْلًا بَيْنَکُمْ فَتَزُولَ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَ تَذُوْا السُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ و لَکُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۹۳﴾

آیت نمبر ۹۳: او او استیغایہ لَا تَتَّخِذُوا فعل ناقص بافاعل و ضمیر نازل اٰیٰتِنَا کُمْ مَرْکَبٌ اضافی مفعول بہ اذل دَخْلًا موصولہ مَصُوْفٌ بَيْنَکُمْ مَرْکَبٌ اضافی کا کَیْنَمَا کا مفعول فیہ ہو کہ مفت، موصوف باصفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ مستانفہ ہو لقاہ سببیہ عاطفہ تَزُولَ فعل قَدَمٌ نازل بَعْدَ ثُبُوْتِهَا مَرْکَبٌ اضافی مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاطفہ تَذُوْا فعل ناقص بافاعل ضمیر نازل السُّوْءَ مفعول بہ تہب حرف جارہا حرف مصدری صَدَدْتُمْ فعل مَعْمُوْرٌ مفعول فیہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ اولی سے مستند مصدریہ جار مجرور تَذُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ اولی سے مستند مصدریہ معطوف ہے کیونکہ یہ آیت لَا یَکُنْ اِتِّخَاذُکُمْ اٰیٰتِنَا کُمْ دَخْلًا بَيْنَکُمْ فَوَلَّهَ الْقَدَرُ وَ ذُوْقَکُمُ السُّوْءَ کی تاویل میں ہے۔ اس لقاہ و او عاطفہ لَکُمْ جارہا مجرور کا کَیْنَمَا کے متعلق ہو کہ خبر مقدم عَذَابٌ عَظِيْمٌ مَرْکَبٌ تو صیغی مبتدا و خبر، مبتدا با خبر تَذُوْا پر معطوف ہے۔

وَلَا تَتَّخِذُوْا بِعٰہِدِ اللّٰهِ تِمٰنًا قٰلِيْلًا ؕ اِنَّمَآ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خٰبِرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۹۴﴾

آیت نمبر ۹۴: او او عاطفہ لَا تَتَّخِذُوْا فعل ناقص بافاعل و ضمیر نازل بِعٰہِدِ اللّٰهِ مَرْکَبٌ اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہوئے تِمٰنًا قٰلِيْلًا مَرْکَبٌ تو صیغی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ لَا تَتَّخِذُوْا پر معطوف ہے۔ اِنْ حرف تحقیق مآ م موصول عِنْدَ اللّٰهِ مَرْکَبٌ اضافی فعل محذوف کَیْبَتٌ کا مفعول فیہ ہو کہ صلہ، موصول باصلہ، اسم ہو ضمیر مبتدا، حَیْثُوْا اسم تفضیل ہو مستتر نازل لَکُمْ جار با مجرور متعلق، تینوں مل کر خبر، مبتدا با خبر اِنْ کی خبر اِنْ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو لاین حرف شرط کُنْتُمْ فعل ناقص بافاعل خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط ہو، اور جزاء محذوف ہے مآ حَیْثُوْکُمْ اَلَا کُنْیَ عَلٰی الَاخْلِ (مظہری)

مَا عِنْدَکُمْ یَنْقَدُ و مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ و لَکُنْجِزِيْنَ الذّٰیْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۹۵﴾

آیت نمبر ۹۵: مآ م موصول عِنْدَکُمْ مَرْکَبٌ اضافی فعل محذوف کَیْبَتٌ کا مفعول فیہ ہو کہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا، یَنْقَدُ فعل ہو مستتر نازل، دو دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، او او عاطفہ مآ م موصول عِنْدَ اللّٰهِ مَرْکَبٌ اضافی فعل محذوف کَیْبَتٌ کا مفعول فیہ ہو کہ صلہ، موصول باصلہ مبتدا، بَاقٍ اسم نازل ہو مستتر نازل، دو دونوں مل کر خبر، مبتدا با خبر معطوف، دو دونوں مل کر جملہ معللہ ہو لقاہ

استنباطیہ لاکر موطن القوم اور قسم مخدوف ہے تَجْزِيْنَ فَعِلٌ نَحْنُ مستتر قائل الذَّيْنِ صَبَّوْا و اموصول باصله مفعول بہ اقل اَجْوَهْ هُـ مرکب انسانی مفعول بہ ثانی ہجاء حرف جر اَحْسَنِ مضاف مآ اسم موصول کائُوا فَعِلٌ نَأْتِسُ وَاوِ ضمیر اس کا اسم یَعْمَلُوْنَ فَعِلٌ باقاع ضمیر قائل خبر، فَعِلٌ نَأْتِسُ بالاسم خبر صلہ، موصول باصلہ اَحْسَنِ کا مضاف الیہ پھر مرکب انسانی مجرور، جار باجر و صَبَّوْا کے متعلق ہونے، فَعِلٌ باقاع و متعلق و مفعول بہ الذَّيْنِ کاسلہ، موصول باصلہ تَجْزِيْنَ کا مفعول بہ، فَعِلٌ باقاع و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب ہے، قسم کا جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۷﴾

**آیت نمبر ۹۷:** مَنْ اِسْمُ شَرْطِ اِسْتِثْنَاءِ اَعْمَلٌ فَعِلٌ هُوَ مُسْتَرِدٌّ اِلْهَالِ مِنْ حَرْفِ جَزْءٍ كِرٍ اَوْ اُنْثَىٰ مَعْلُومٌ عَلَيْهِ بِمَعْلُوفِ مَجْرُورٍ، جار باجر و کائُوا کے متعلق ہو کر حال اولیٰ و او حال علیہ هُوَ ضمیر مبتدأ، مؤنث، اسم قائل هُوَ مستتر قائل سے ل کر خبر، مبتدأ خبر حال ثانیہ، ہذا اِلْهَالِ باحالیین قائل صَالِحًا بواو صلہ موصوف مخدوف عَلَا کے مفعول مطلق، فَعِلٌ باقاع و مفعول مطلق شَرْطِ اِسْتِثْنَاءِ لاکر موطن القوم تَجْزِيْنَ فَعِلٌ نَحْنُ مستتر قائل ہ ضمیر مفعول بہ حَيٰوةً طَيِّبَةً مرکب تو سنی مفعول مطلق، فَعِلٌ باقاع و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم کا جواب مفعول علیہ، وَاوِ عطف لاکر موطن القوم تَجْزِيْنَ فَعِلٌ نَحْنُ ضمیر قائل هُـ ضمیر مفعول بہ اَجْوَهْ مرکب انسانی مفعول بہ ثانی ہجاء حرف جر اَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ کی ترکیب الیٰ گزری ہے اور یہ متعلق ہے، فَعِلٌ باقاع و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم کا جواب جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ بِمَعْلُوفِ جَزَاءِ، شَرْطِ اِسْتِثْنَاءِ جملہ شرطیہ ہو کر مَعْنٰی کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿۹۸﴾

**آیت نمبر ۹۸:** فَاِذَا اسْتِثْنَاءِ اِذَا شَرْطِ مَعْلُومٌ فِيْ مَقْدَمِ قَوَا تِ فَعِلٌ تَاءٌ مَتَوَدَّ قَاعِلُ الْقُرْآنِ مَعْلُومٌ بِ، جاروں مل کر شرط، فَاِذَا جَزَاءِ اسْتِثْنَاءِ فَعِلٌ اِسْمُ اَلْتِ ضَمِيْرُ مُسْتَرِدِّ قَاعِلِ بِاللّٰهِ جَارُ اَجْرٍ مَتَعَلِّقٌ هُوَ مِنْ حَرْفِ جَرِ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ مَرْكَبٌ تَوْصِيْفِيٌّ مَجْرُورٌ، جار باجر و متعلق ثانی، فَعِلٌ باقاع و متعلقین جملہ انشائیہ جَزَاءِ، شَرْطِ اِسْتِثْنَاءِ جملہ شرطیہ مستانفہ ہوں۔

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهٖمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۹۹﴾

**آیت نمبر ۹۹:** اِنَّ حَرْفِ تَحْقِيْقِ هُوَ ضَمِيْرُ اسْمِ اَلَيْسَ فَعِلٌ نَأْتِسُ لَهٗ جار باجر و طرف مستتر کائُوا کے متعلق ہونے، سُلْطٰنٌ اِسْمٌ مُؤَخَّرٌ عَلٰی حَرْفِ جَرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا موصول باصلہ مَعْلُوفِ عَلَيِ، وَاوِ عطف عَلٰی رَبِّهٖض جار باجر و متعلق مقدم يَتَوَكَّلُوْنَ فَعِلٌ وَاوِ ضمیر قائل و متعلق مقدم سے مل کر معطوف، معطوف علیہ بِمَعْلُوفِ مَجْرُورٍ، جار باجر و کائُوا کے متعلق ثانی ہونے کائُوا اِسْمٌ قَاعِلٌ هُوَ مُسْتَرِدُّ قَاعِلٌ و متعلقین سے مل کر لیکس کی خبر مقدم، فَعِلٌ نَأْتِسُ بِالاسْمِ و خبریٰ اِنْ کی خبریٰ اِنْ بِالاسْمِ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلٰى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

**آیت نمبر ۱۰۰:** اِنَّ حَرْفِ تَحْقِيْقِ كَقَوَا تِ صَا كَا فَ سُلْطٰنُهٗ مَرْكَبٌ اِنْسَانِيٌّ مَبْتَدَأٌ عَلٰی حَرْفِ جَرِ الَّذِيْنَ اِسْمٌ موصول يَتَوَكَّلُوْنَ فَعِلٌ وَاوِ ضمیر

فاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الذین اسم موصول ہُم ضمیر مبتدأ بہ، جہا بجز اور متعلق مقدم ہوئے مشعر کون اسم فاعل ہُم ضمیر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدأ بجز صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ معطوف بجز اور، جہا بجز اور ظرف مستقر کلین کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ بجز جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

﴿رُكُوْعٌ ۱۳﴾

وَ إِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بِدَلٍ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: ۱۰: واو استینافیہ، اذاکا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ہَدَلْنَا فعل نا ضمیر ذوالحال واو حالیہ اللہ مبتدأ بہ، اَعْلَمُ اسم تفضیل ہو مستتر فاعل بہا کہ حرف جر موصولہ یُنزِلُ فعل ہو مستقر فاعل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ جہا بجز اور، جہا بجز اور متعلق ہونے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق خبر، مبتدأ بجز جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال باحال فاعل آيَةُ مفعول بہ، مَعَكَانَ آيَةٍ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل بافاعل و مقابیل ہا وہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط کا فاعل ہوا ذوالحال فعل نا ضمیر فاعل قول، اِنَّمَا کفو نہ، کاندہ اَنْتَ ضمیر مبتدأ بہ، مُفْتَرٍ اسم فاعل اَنْتَ مستقر فاعل، دونوں مل کر خبر، مبتدأ بجز مفعولہ، دونوں مل کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ بکن حرف اضراب اَنْتَ ہُم مرکب اضافی مبتدأ بہ لَا يَعْلَمُونَ فعل ہوا ذوالحال ضمیر فاعل خبر، مبتدأ بجز جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوا

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَ بَشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: ۱۱: قُلْ فعل امر اَنْتَ مستقر فاعل، دونوں مل کر قول، نَزَّلَ فعل نا ضمیر مفعول بہ، رُوحُ الْقُدُسِ مرکب اضافی ذوالحال بِالْحَقِّ ظرف مستقر مَثَلًا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل مِنْ رَبِّكَ جہا بجز اور متعلق اذال ہونے، لاکہم حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد اَنْتَ مقدم بہ یُثَبِّتُ فعل ہو مستقر فاعل الذین آمَنُوا موصول باصلہ مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویں مصدر بجز اور، جہا بجز اور نَزَّلَ کے متعلق ہائی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ، و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مفعولہ، قول باقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ واو عاطفہ هُدًى معطوف علیہ، واو عاطفہ بَشْرًا مصدر لِلْمُسْلِمِينَ متعلق، دونوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف لِيُثَبِّتَ کے عمل پر معطوف ہے۔

وَ لَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّلسَّانِ الَّذِي يُوحِىٰ وَنَ إِلَيْهِ أَعْجِبُونَ وَ هَذَا السَّانُ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۲﴾

آیت نمبر ۱۲: ۱۲: واو استینافیہ لاکہم موطنہ التسم اور قسم مذروف ہے۔ قَدْ علامت فعل نَعَلِمُ فعل ناخبر مستقر فاعل اَنْتَ حرف تہقین ہُم ضمیر اس کا اسم یَقُولُونَ فعل ہوا ذوالحال ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اِنَّمَا کفو نہ، کاندہ يُعَلِّمُهُ فعل نا ضمیر مفعول بہ، بَشْرًا فاعل، تینوں مل کر مفعولہ، قول باقولہ، بجز اور، اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ نَعَلِمُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل بافاعل و مفعولین قسم کا جواب لیسان مضاف الذی اسم موصول یُوحِىٰ وَنَ فعل ہوا ذوالحال ضمیر فاعل اَلَّذِي جہا بجز اور متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ



مضاف الیہ پھر مرکب انسانی مبتدأ محذوف خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ ہذا اسم اشارہ مبتدأ لیسان موصوف عزیٰ قیومین و صفت، موصوف با مستقیم خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ یا تعلک کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہوں۔

**إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝**

**آیت نمبر ۱۰۳:** إِنَّ حرف تحقیق الَّذِينَ اسم موصول لَا يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر قائل بناء حرف جر آیتِ اللہ مرکب انسانی مجرور، جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ ان کا لام لا یہدی فعل ہفہ مفعول بہ اللہ اسم الجلالہ قائل، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لہم جاد با مجرور ظرف مستقر کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم، عذاب الیم مرکب تو سنی مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ان کی خبر، ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلق ہوں۔

**إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ۝**

**آیت نمبر ۱۰۵:** إِنَّمَا حرف و کاذب یفتري فعل الکذیب مفعول بہ مقدم الَّذِينَ اسم موصول لَا يُؤْمِنُونَ فعل واو ضمیر قائل بِآیَاتِ اللہ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق صلہ، موصول با صلہ قائل، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اُولَئِكَ مبتدأ محذوف ضمیر الکذیبون خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوا۔

**مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرِهٍ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝**

**آیت نمبر ۱۰۶:** مَنْ اسم موصول كَفَرَ فعل ہو مستتر قائل بِاللَّهِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، مِنْ حرف جر بَعْدِ إِيمَانِهِ مرکب انسانی مجرور، جاد با مجرور متعلق جانی ہوئے، فعل با قائل و متعلق صلہ، موصول با صلہ مستثنیٰ منہ اَلْا حرف استثناء مِنْ اسم موصول اَكْرِهٍ فعل لعل مجهول ہو مستتر ذوالحال واو حال قَلْبُهُ مرکب انسانی مبتدأ مُطْمَئِنٌّ اسم قائل ہو مستتر قائل بِالْإِيمَانِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر، مبتدأ خبر حال ذوالحال با حال اَكْرِهٍ کا نائب قائل، فعل مجهول باجب قائل صلہ، موصول با صلہ مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ يفتري کے قائل سے بدل ہے۔ واو عاطفہ لَكِنْ حرف استناد کا مہمل مِنْ شرطیہ مبتدأ، شَرَحَ فعل ہو مستتر قائل بِالْكَفْرِ جاد با مجرور متعلق ہوئے صَدْرًا مفعول بہ، چاروں مل کر شرط، قائم جزائیہ علیہم جاد با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم مَعْتَبَةٌ موصوف مِنْ اللہ کائن کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت معطوف علیہ، واو عاطفہ لَهِمْ جاد با مجرور کائن کے متعلق ہو کر خبر مقدم عَذَابٌ عَظِيمٌ مرکب تو سنی مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مِنْ کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

**ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآخِرَةِ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝**

**آیت نمبر ۱۰۷:** ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدأ، بناء حرف جر اَنَّ حرف تحقیق هُمْ ضمیر اس کا اسم استحضروا فعل واو ضمیر قائل الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مرکب تو سنی مفعول بہ، عَلٰى الْآخِرَةِ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ

اَنْ حرف تحقیق اللہ اس کا اسم لایہدی فعل ہو مستتر قائل الْقَوْمُ الْكَافِرِيْنَ مرکب تو صغی مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ خبر اَنْ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتوازل مصدر مجرور، جاد باجر و کالین کے متعلق ہو کہ ذلک کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ

خبریہ ہو۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۰۸﴾

آیت نمبر ۱۰۸: اُولَئِكَ اسم شدہ مبتدا اَلَّذِيْنَ اسم موصول کَتَبَ فعل اللہ قائل علی حرف جر قُلُوبِهِمْ مرکب انسانی معطوف علیہ، واو عاطفہ سَمِعَهُمْ مرکب انسانی معطوف اذال، واو عاطفہ أَبْصَارَهُمْ مرکب انسانی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مجرور، جاد باجر و کَتَبَ کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق صلہ، موصول باصلہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اُولَئِكَ مبتدا، هُمْ ضمیر فعل الْغَافِلُونَ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، دونوں مل کر جملہ متعلقہ ہو۔

لَا جَزَمَ أَنَّهُمْ فِي الْأَجْرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۰۹﴾

آیت نمبر ۱۰۹: لَا جَزَمَ أَنَّهُمْ فِي الْأَجْرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ کی ترکیب لَا جَزَمَ أَنَّهُمْ فِي الْأَجْرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ کی طرح ہے دیکھئے پارہ نمبر ۱۲ کے رکوع نمبر ۱۴۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فِتْنْتُمْ جَاهِدُوا وَاصْبِرُوا وَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ

بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۰﴾

آیت نمبر ۱۱۰: ثُمَّ عاقلان حرف تحقیق رَبَّكَ مرکب انسانی اس کا اسم اور اس کی خبر مخدوف ہے مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، مِنْ حرف جر بَعْدِهَا مرکب انسانی مجرور، جاد باجر و غَفُورٌ رَحِيمٌ کے متعلق مقدم کلام نہ ملتا غَفُورٌ صیغہ مبالغہ ہو مستتر قائل سے مل کر خبر اذال رَحِيمٌ صیغہ صفت ہو مستتر قائل، کلام حرف جاد اَلَّذِيْنَ اسم موصول هَاجَرُوا فعل داؤ ضمیر قائل مِنْ بَعْدِ مضاف مَآ مصدر ہے فِتْنْتُمْ فعل مجہول داؤ ضمیر نائب قائل سے مل کر بتا دیل مصدر مضاف الیہ پھر مرکب انسانی مجرور، جاد باجر و متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق معطوف علیہ ثُمَّ عاقلہ جَاهِدُوا فعل داؤ ضمیر قائل، دونوں مل کر معطوف اذال، واو عاطفہ صَبِرُوا فعل داؤ ضمیر قائل، دونوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ مجرور، جاد باجر و طرف مستقر کالین کے متعلق ہو کہ خبر اَنْ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو لَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اس کی ترکیب ابھی گزری ہے اور یہ پہلے جملہ کی تاکید ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۱۵ ﴾

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱۱: يَوْمَ مضاف تَأْتِي فعل كُلُّ نَفْسٍ مرکب انسانی ذوالحال اَلَّتِي تُجَادِلُ فعل حجج مستتر قائل عَنْ نَفْسِهَا جاد باجر و متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق حال، ذوالحال باحال قائل، فعل باقاعل معطوف علیہ، واو عاطفہ تُوْفَىٰ فعل مجہول كُلُّ نَفْسٍ مرکب انسانی نائب قائل مَاعَمِلَتْ موصول باصلہ مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ هُمْ مبتدا، لَا يُظْلَمُونَ فعل مجہول داؤ ضمیر نائب قائل خبر، مبتدا

خبر معطوف، یا کُلُّ نَفْسٍ كَامِلٌ، اور تُوْفِي كَاتِبًا بِرِغْفِيفٍ ہے، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ پھر مرکب اضافی اذْكَوْا كَمَا مَعْمُوْلٌ فِيهِ۔

**وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝**

**آیت نمبر ۱۱۳:** واؤ استیثنا فی ضَرْبَ فعل اللّٰهُ ناعلاً مَثَلًا معطوف بہ اَوَّلِ کیونکہ ضَرْبَ بمعنی جَعَلَ کے ہے، قَرْيَةً موصوفہ کلث فعل ناقص ہے اس کا اسم اَمِنَةً خبر اَوَّلِ مُطْمَئِنَةً خبر ثانی، فعل ناقص با اسم و خبرین جملہ فعلیہ خبریہ قَرْيَةً کی صفت اَوَّلِ، یَأْتِي فعل حاضریہ معطوف بہ رِزْقُهَا مرکب اضافی ناعلاً رَغَدًا ضمیر معقول کَامِلٌ ہے مِنْ كُلِّ مَكَانٍ جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل ناقص با فعل و متعلق قَرْيَةً کی صفت ثانیہ، موصوفہ با صفتین ضَرْبَ کا معقول بہ ثانی، فعل ناقص و مضمولین جملہ مستانفہ ہوا۔ فَاء عاطفہ كَفَرَتْ فعل ہے مستتر ناعلاً بِأَنْعُمِ اللّٰهِ جہد با مجرور متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ اَذَاقَ فعل ناقص حاضریہ اَوَّلِ اللّٰهِ ناعلاً لِبَاسِ مضاف الْجُوعِ وَالْخَوْفِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، دونوں مل کر اَذَاقَ کا معقول بہ ثانی بہاء حرف جر ما مصدریہ کَاوُا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم یَضَعُونَ فعل ناقص با واو ضمیر ناعلاً خبر، فعل ناقص با اسم و خبرتاویل مصدر مجرور، جہد با مجرور اَذَاقَ کے متعلق ہوئے، فعل ناقص و مضمولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف کلث اَمِنَةً پُر معطوف ہے۔

**وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝**

**آیت نمبر ۱۱۴:** واؤ استیثنا فی لَاحِرٍ مَوْضِعٍ الْقِسْمِ اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل جَاءَ فعل ہُنَّ معقول بہ رَسُوْلٌ موصوفہ جنہم جہد با مجرور ظرف مستقر کَاتِبِينَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ با صفت ناعلاً، فعل ناقص و مضمول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فَاء عاطفہ كَذَّبُوْا فعل ناقص واو ضمیر ناعلاً ضمیر معقول ہے، تینوں مل کر معطوف اَوَّلِ، فَاء عاطفہ اَخَذَ فعل ہُنَّ ضمیر معقول بہ الْعَذَابِ ناعلاً، تینوں مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین قسم کا جواب ہے، جسم با جواب جملہ قسمیہ مستانفہ ہوا۔ واو عالیہ ہُنَّ ظَلِمُوْنَ مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اَخَذَ کی ضمیر معقول بہ سے حال ہے۔

**فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا تَدْوِ الشُّكْرِ وَانِعْمَتِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝**

**آیت نمبر ۱۱۵:** فَاء تقریبیہ یا فَاء نصیحہ اور شرط مخدوف ہے إِنْ اَنكَرْتُمْ رِزْقِي اللّٰهِ كَلْمًا فعل امر واو ضمیر ناعلاً مِنْ حرف جر ما موصولہ رِزْقِي فعل ضمیر معقول بہ اللّٰهُ ناعلاً، تینوں مل کر صلہ، موصول با صلہ ذوالحال، حَلَالًا طَيِّبًا مرکب توہمیں حال، دونوں مل کر مجرور، جہد با مجرور متعلق ہوئے، فعل امر با ناعلاً و متعلق جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ الشُّكْرِ وَاوُا ضمیر ناعلاً اَمْرًا واو ضمیر ناعلاً لِنِعْمَتِ اللّٰهِ مرکب اضافی معقول بہ، تینوں مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف شرط مخدوف کی جڑا ہے، اِنْ حرف شرط اَنكَرْتُمْ فعل ناقص ضمیر اس کا اسم اِيَّاهُ ضمیر منصوب معقول بہ تَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر ناعلاً و مضمول بہ مقدم ہے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جڑا مخدوف ہے فَاشْكُرُوا لِنِعْمَتِ اللّٰهِ، شرط با جڑا جملہ شرطیہ ہوا۔

**إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ**



انسانی مفعول ہے مقدم بظنی فعل واو ضمیر فاعل و مفعول بہ مقدم ہے ل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم خبر کلکتہ کی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے  
**ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۹﴾**

**آیت نمبر ۱۱۹:** ثُمَّ عاظرن حرف تحقیق و تک مرکب انسانی اسم اس کی خبر مرفوع ہے و مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ اور اس کی ترکیب ابھی گزر چکی ہے اِنْ ہا اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لآء حرف جہا لَئِنَّ اسم موصول عَمِلُوا فعل واو ضمیر ذوالحال بِجَهَالَةٍ ظرف مستقر مُتَكَلِّمِينَ کے متعلق ہو کر حال، دونوں ل کر فاعل السُّوءِ مفعول بہ، تینوں ل کر معطوف علیہ، ثُمَّ عاظفہ تَابُوا فعل واو ضمیر فاعل مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ متعلق، تینوں ل کر معطوف اول و او عاظفہ أَصْلَحُوا فعل ابداً و ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول با صلہ مجرور، جار مجرور عَفُورٌ رَحِيمٌ کے متعلق ہوئے اِنْ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ اس کی ترکیب ابھی گزری ہے اور یہ پہلے اِنْ رَبَّكَ سے۔ اِنْ کی تاکید ہے۔

﴿ رکوع نمبر ۱۹ ﴾

**إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۰﴾**

**آیت نمبر ۱۲۰:** اِنْ حرف تحقیق اِبْرَاهِيمَ اس کا اسم کان ناقصہ ہو اس کا اسم اُمَّة موصوف قَانِتًا اسم فاعل ہو مستتر علی اللہ جار مجرور متعلق ہوئے، تینوں ل کر صفت اولیٰ، حَنِيفًا صفت ثانیہ، و او عاظفہ لَمْ يَكُ فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم مِنَ الْمُشْرِكِينَ کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص ہا اسم خبر حَنِيفًا کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

**شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۖ اجْتَبَاهُ وَ هَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۱﴾ وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَ آتَاهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۲۲﴾**

**آیت نمبر ۱۲۱:** شَاكِرًا اسم فاعل ہو مستتر فاعل لآء جار جار مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے اسم فاعل و فاعل و متعلق اُمَّة کی صفت ثانیہ، موصوف باصفات ثلاثہ کان کی خبر اول، اجْتَبَاهُ فعل ہو مستتر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر معطوف علیہ، و او عاظفہ هَدَى فعل ہو مستتر فاعل ہ ضمیر مفعول بہ اِلَى جارہ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مرکب توصیفی مجرور، جار جار مجرور، هَدَى کے متعلق ہوئے، فعل ناقص و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول و او عاظفہ اَتَيْنَاهُ فعل ناقص مفعول فاعل ہ ضمیر ذوالحال فِي الدُّنْيَا جار جار مجرور کائنات کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ اول، حَسَنَةً مفعول بہ ثانی، فعل ناقص و مفعولین معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین کان کی خبر ثانی، فعل ناقص ہا اسم خبر بَرِيْرَان کی خبر اِنْ ہا اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ و او عاظفہ اِنْ حرف تحقیق ہ ضمیر ذوالحال فِي الْآخِرَةِ کائنات کے متعلق ہو کر حال، دونوں ل کر اسم لآء مطلقہ مِنْ الصَّالِحِينَ جار جار مجرور کائنات کے متعلق ہو کر خبر اِنْ ہا اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ اِبْرَاهِيمَ سے۔ اِنْ پر معطوف ہے۔

**ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۳﴾**



**آیت نمبر ۱۷:** **وَإِذَا عَاطَفَ اضْطَبُّوا فَعَلِ امْرَأَتٌ ضَمِيرٌ نَاعِلٌ سَلٌّ كَرَجَلُهُ انشائية** ہوں۔ **وَإِذَا عَاطَفَ** عاٹنا یہ صَبُوْرٌ مرکب انشائی اس کا اسم **إِلَّا حَرَفٌ اسْتِثْنَاءٌ** بِأَنَّه جَدُّ بَاجِرٌ مَسْتَشْنِیٌّ مَفْرُغٌ مَلَايَسًا کے متعلق ہو کر خبر مَعًا بِاسْمٍ و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جملہ حالیہ ہے۔ **وَإِذَا عَاطَفَ لَا تَحْوِزُونَ عَلَيْهِمْ** فعل نعی یا ناعل و متعلق جملہ انشائیہ یہی معطوف ہے، **وَإِذَا عَاطَفَ لَا تَكَلِّفُ** فعل ناقص **أَنْتَ** مستتر اسم فی جملہ **صَبِيْحِي** موصوف میں جملہ **مَا يَنْكُرُونَ** موصول باصلہ **بَجْرٌ** و **جَدُّ** بَاجِرٌ و **رَكْلَانِ** کے متعلق ہو کر صَبِيْحِي کی صفت، **موصوف** بَصْفَتٌ **بَجْرٌ** و **جَدُّ** بَاجِرٌ و **رَكْلَانِ** کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص **بِاسْمٍ** و خبر **اضْطَبُّوا** پر معطوف ہے۔

**إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۷﴾**

**آیت نمبر ۱۸:** **إِنَّ حَرَفٌ تَحْمِيْنٌ** اللَّهُ اس کا اسم **مَعَ** مضاف **الَّذِينَ اتَّقَوْا** موصول باصلہ معطوف علیہ۔ **وَإِذَا عَاطَفَ** **الَّذِينَ** اسم موصول **هُمُ** مُحْسِنُونَ مبتدأ **بِاجِرٍ** صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ **بِاسْمٍ** و خبر **مَعًا** علیہ، پھر مرکب انشائی کا مفعول فیہ ہو کر خبر **إِنَّ** **بِاسْمٍ** و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

**تَمَّتْ بِالْخَيْرِ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى**



## ترکیب سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

رکوع نمبر ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بُرِکْنَا حَوْلَهٗ لِئُرْیَهُ مِنْ اٰیَاتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝

**آیت نمبر ۱:** سُبْحٰنَ مضاف الَّذِیْ اسم موصول اَسْرٰی فعل ہو مستتر قائل بتاکہ حرف جار عینہ مرکب انسانی مجرور، جار مجرور طرف لغو اَسْرٰی کے متعلق ہونے لَیْلًا مفعول فیہ میں حرف جار الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مرکب تو صلی مجرور، جار مجرور طرف لغو اَسْرٰی کے متعلق ثانی ہونے لیلی حرف جار الْمَسْجِدِ موصوف الاقصا صفت اولی الَّذِیْ اسم موصول بُرِکْنَا فعل نا ضمیر قائل حَوْلَهٗ مرکب انسانی مفعول فیہ، فعل اپنے اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الْمَسْجِدِ کی صفت ثانیہ، موصوف باصطین مجرور، جار مجرور طرف لغو اَسْرٰی کے متعلق ثبات ہونے لاکہ جار مجرور رائے تعلیل اور اس کے بعد اَن مقدر ہے اَسْرٰی فعل نَحْنُ مستتر قائل نا ضمیر مفعول فیہ میں حرف جار اِلَیْکُم مرکب انسانی مجرور، جار مجرور رائے تعلیل اور اس کے بعد اَن مقدر ہے اَسْرٰی فعل نا ضمیر قائل حَوْلَهٗ مرکب انسانی کے متعلق ثالث ہونے اَسْرٰی فعل اپنے قائل و متعلقات اور یہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول باصلہ سُبْحٰنَ کا مضاف الیہ، پھر مرکب انسانی مفعول مطلق ہے فعل مَعْرِضٌ سَبَّحْنَا ک کا، فعل باقائل و مفعول مطلق جملہ مستأنفہ ہوا۔ اَن حرف تحقیق نا ضمیر منصوب اس کا اسم ہو ضمیر مبتدأ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ اس کی دو خبر، مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ اِن کی خبر اَن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ ہوا۔

وَ اَتَيْنَا مَوْسٰی الْکِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْ اِسْرٰءِیْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَ کِیْلًا ۝ ذُرِّیَّةَ مَن  
حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَکُوْرًا ۝

**آیت نمبر ۲، ۳:** واوتینا فیہ یا مطلقاً اَتَيْنَا فعل نا ضمیر قائل مَوْسٰی منصوب تقدیراً مفعول بہ اول، الْکِتٰبَ مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر قائل نا ضمیر مفعول بہ اول، هُدًى مفعول بہ ثانی، لاکہ حرف جار بَنِيْ اِسْرٰءِیْلَ مرکب انسانی مجرور، جار مجرور طرف لغو جَعَلْنَا کے متعلق اول ہونے اَن حرف مصدری و نصب اَلَّا تَتَّخِذُوْا فعل واو ضمیر قائل میں حرف جار ذُرِّیَّةَ مرکب انسانی مجرور، جار مجرور لاکہ تَتَّخِذُوْا کے متعلق ہونے وَ کِیْلًا مفعول بہ اول مقدم، ذُرِّیَّةَ مضاف مِّنَ اسم موصول حَمَلْنَا فعل نا ضمیر قائل مَعَ نُوْحٍ مرکب انسانی مفعول فیہ، تینوں مل کر صلہ، موصول باصلہ ذُرِّیَّةَ کا مضاف الیہ پھر مرکب انسانی تَتَّخِذُوْا کا مفعول اول مؤخر، فعل باقائل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، کیونکہ یہ اصل میں بیان لاکہ اِن ہے پھر جار مجرور جَعَلْنَا کے متعلق ثانی ہونے، فعل باقائل و مفعولین و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوا۔ اَن حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم عینہ اموصوف شَکُوْرًا و امیضہ مبالغہ ہو مستتر قائل سے مل کر صفت، موصوف باصفت کان کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اَن کی خبر اَن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ ہوا۔



وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَاتِينَ وَتَعْلُنَّ عُلُوًّا

كَبِيرًا ۝۴

**آیت نمبر ۴:** واؤءاعطفہ قَضَيْنَا فاعل تا ضمیر فاعل الی حرف جار بکنی اسرآءیل مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق اول ہونے کی لکتب جار مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہونے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ جَعَلْنَا پر معطوف ہے۔ لآءء موطن القسم اور قسم مخدوف ہے تَفْسِدُنَّ فعل واؤء مخدوف لالقاء الساکین فاعل فی الارض جار مجرور متعلق ہونے مَرَاتین بواسطہ موصوف مخدوف افساداً مفعول مطلق، جاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ اضافیہ تسمیہ معطوف علیہ، واؤءاعطفہ لآءء موطن القسم اور قسم مخدوف ہے تَعْلُنَّ فعل واؤء مخدوف لالقاء الساکین فاعل عُلُوًّا کبیراً مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ اضافیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ  
الدِّيَارِ ط وَعَدَا مَفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَ  
بَنِينَ وَجَعَلْنَاكُم أَكْثَرًا نَفِيرًا ۝۵

**آیت نمبر ۵:** فآءء اعطفہ اذآء شرطیہ مفعول فیہ مقدم جآءء فعل وَعَدُ مضاف اُولَاهُمَا مرکب اضافی مضاف الیہ پھر مرکب اضافی فاعل، فعل بافاعل و مفعول فیہ مقدم مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، بَعَثْنَا فاعل تا ضمیر فاعل عَلَيْكُمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہونے عِبَادًا اوموصوف لَنَا جار مجرور ظرف مستقر کَابِنین کے متعلق ہو کر صفت اولیٰ، اُولیٰ مضاف باس شَدید مرکب توصیفی مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ عِبَادًا کی صفت ثانیہ، موصوف با مستغنی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فآءء اعطفہ جَاسُوا فاعل واؤء ضمیر فاعل خِلَلِ الدِّيَارِ مرکب اضافی ذوالحال، واؤء حالہ کان فعل ناقص هُوَ ضمیر اس کا اسم وَعَدَا مَفْعُولًا مرکب توصیفی ہو کر اس کی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال باحال جَاسُوا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، فَتَمَّ حرف عطف رَدَدْنَا فاعل تا ضمیر فاعل لَكُم جار مجرور متعلق اول ہونے الْكَرَّةَ مفعول بہ عَلَیْهِمْ جار مجرور متعلق ثانی ہونے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، واؤءاعطفہ اَمَدَدْنَا فاعل تا ضمیر فاعل لَكُم مفعول بہ بآءء حرف جار اَمْوَالٍ وَبَنِينَ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جار مجرور اَمَدَدْنَا کے متعلق ہونے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، واؤءاعطفہ جَعَلْنَا فاعل تا ضمیر فاعل لَكُم ضمیر مفعول بہ اول اَكْثَرًا موصوف تفضیل اَلْشُّعْرُ مستقر فاعل نَفِيرًا تسمیہ اسم تفضیل بافاعل و تیز شبہ جملہ ہو کر مفعول بہ ثانی، جاروں مل کر معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات اربعہ شرط کی جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ معطوف ہو۔

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذَرْنَا أَنْفُسَكُمْ فَذَرَكُنَّ وَلَئِنْ أَحْسَنْتُمْ فَلَهُنَّ، فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْأَخْرَجَ لَيْسُوا

وَجُوهَكُمْ وَلَيْدٌ خُلُوًّا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لَيْدٌ بِرُؤُوسِهِمْ وَأَمَّا عُلُوًّا اتَّخَبُوا ۝۶



الْاَعْتَمَالَ کے مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باسناد التَّوْبِينِ کی صفت، موصوف بہ صفت وَيُشِيرُوْا کا مفعول بہ، اِنْ حرف تحقیق لُكْهُ جاد باجر و طرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر اَنْ کی خبر مقدمہ اَجْوَدًا كَيْدًا مَرَكِبٌ تَوَسَّلِيْا اِسْمٌ مَوْخِرًا اَنْ بِاِسْمٍ وَخِرْ جملہ اسیم خبریہ موصوف علیہ، وَاَوْعَافَلْنَ اَنْ حرف تحقیق اَلَّذِيْنَ اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ لَا يُؤْمِنُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل بِالْاَجْوَدِ جاد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باسناد اَنْ كَلَامٌ، اَعْتَدْنَا فعل نا ضمیر فاعل لُكْهُ جاد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے عَدًا بِاَنْ كَيْدًا مَرَكِبٌ تَوَسَّلِيْا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اَنْ کی خبر اِسْمٌ مَوْخِرًا بِاِسْمٍ وَخِرْ جملہ اسیم خبریہ ہو کر مفعول، مفعول علیہ با مفعول مفرد کے معنی میں ہو کر مجرور، کیونکہ یہ اصل میں اَنْ ہے، جاد باجر و وَيُشِيرُوْا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ یقینی پر مفعول ہے، مفعول علیہ با مفعول اِنْ کی خبر اِسْمٌ مَوْخِرًا بِاِسْمٍ وَخِرْ جملہ اسیم خبریہ متانفہ ہوں۔

﴿ رُكُوْعٌ ۲ ﴾

وَيَذَعُ الْاِنْسَانَ بِالَشَّرِّ دُعَاةً بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿۱۰﴾

آیت نمبر ۱۰: وَاَوْسْتَانِيْ يَذَعُ (یہ اصل میں یَذَعُوْا ہے) فعل الْاِنْسَانَ فاعل بِالْشَّرِّ جاد باجر و طرف لغو متعلق ہوئے دُعَاةً مصدر مضارع ضمیر مضاعف الیہ بِالْخَيْرِ جاد باجر و متعلق ہوئے، مصدر مضاعف اپنے مضاعف الیہ و متعلق سے ل کر مضروب بجزع لفظ نفس اصل میں کُدَّ عَاوِدٌ ہے، اور کُدَّ عَاوِدٌ طرف مستقر کائینا کے متعلق ہوئے، پھر یہ بواسطہ موصوف محذوف دُعَاةً کے مفعول مطلق ہے، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں وَاَوْسْتَانِيْ یگان فعل ناقص الْاِنْسَانَ اس کا اِسْمٌ عَجُوْلًا خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَجَعَلْنَا الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ اَيَّتَيْنِ فَمَحَوْنَا اَيَّةَ الْاَيْلِ وَجَعَلْنَا اَيَّةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا اَعْدَادَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيْلًا ﴿۱۱﴾

آیت نمبر ۱۱: وَاَوْسْتَانِيْ یہ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل الْاَيْلِ وَالنَّهَارِ مفعول علیہ با مفعول مفعول بہ اول اَيَّتَيْنِ مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ معاقہ مَحَوْنَا فعل نا ضمیر فاعل اَيَّةَ الْاَيْلِ مرکب انسانی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفعول اول وَاَوْعَافَلْنَ جَعَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل اَيَّةَ النَّهَارِ مرکب انسانی مفعول بہ اول مُبْصِرَةً مفعول بہ ثانی، لاکر حرف جار رائے لتعلیل اور اس کے بعد اَنْ مقدمہ سے تَبْتَغُوْا فعل واو ضمیر فاعل فَضْلًا موصوف وِنْ حرف جار رَبِّكُمْ مرکب انسانی مجرور، جاد باجر و طرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف بہ صفت مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتولیل مصدر مجرور، جاد باجر و مفعول علیہ، وَاَوْعَافَلْنَ لاکر حرف جار رائے لتعلیل اور اس کے بعد اَنْ مقدمہ سے تَعْلَمُوْا فعل واو ضمیر فاعل عَدَدَ السِّنِيْنَ مرکب انسانی مفعول علیہ، وَاَوْعَافَلْنَ الْحِسَابَ مفعول، دونوں مل کر تَعْلَمُوْا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ بتاویل مصدر مجرور، جاد باجر و مفعول، مفعول علیہ با مفعول طرف لغو جَعَلْنَا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفعول ثانی وَاَوْعَافَلْنَ كُلَّ شَيْءٍ

مفعول ہے۔ فعل مخذوف فَصَّلْنَا کاجس کی تفسیر کر رہا ہے فعل مذکور، فَصَّلْنَا فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، فَصَّلْنَا فعل تاکا ضمیر فاعل، ضمیر مفعول بہ تَفْصِيْلًا مفعول مطلق، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، پھر مفسر بالمفسر معطوف ثالث، واو عاطفہ مَعْلَمُ الْاِنْسَانِ مرکب اضافی مفعول بہ ہے فعل مخذوف اَلْوَمْنَا کا فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مفسر اَلْوَمْنَا فعل تاکا ضمیر فاعل، ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ تَعْلَاوِنِ مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فی حرف جار عَنقَبِہِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور اَلْوَمْنَا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعولین ومعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفسر، پھر مفسر بالمفسر معطوف رابع، معطوف علیہ بالمعطوفات اربعہ جملہ متانفہ ہوں واو عاطفہ تُخْرِجُ فعل لَنْحُنْ مستتر فاعل کہ جار مجرور ومعلق ہوئے یَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مفعول فیہ کی کتابتا موصوف کیلئے فعل ہو ضمیر فاعل، ضمیر ذوالحال مَشْهُوْرًا حال، ذوالحال افعال مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت تُخْرِجُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعولین ومعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوں۔

اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۚ كَفَىٰ بِتَفْسِيكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿٥﴾

آیت نمبر ۱۳: اِقْرَأْ فعل امر اَنْتَ مستتر فاعل كِتَابَكَ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر فاعل الْيَوْمَ مقرر کا مفعول ہو کر تُخْرِجُ کی ضمیر فاعل ہے حال ہو کر كَفَىٰ فعل بقاء جارہ نامکہ تَفْسِيكَ مرکب اضافی تفسیر اور تَعْلَاوِنِ مرفوع فاعل الْيَوْمَ مفعول فیہ عَلَيْكَ جار مجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے حَسِيبًا صیغہ صفت ہو ضمیر فاعل، صیغہ صفت بافاعل ومعلق تیز ہے كَفَىٰ کی نسبت سے، فعل بافاعل ومفعول فیہ تیز جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

وَزِرًا أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴿٦﴾

آیت نمبر ۱۵: مَنْ اسم شرط مبتدأ، اهْتَدَىٰ فعل ہو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزائریہ اَنْ حرف تخبثت کثوفہ مَا کافِ يَهْتَدِي فعل ہو ضمیر فاعل لآہ حرف جار تَفْسِيهِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ومعلق ہوئے، فعل بافاعل ومعلق جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مَنْ کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَنْ اسم شرط مبتدأ، ضَلَّٰ فعل ہو ضمیر فاعل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقاء جزائریہ اَنْ حرف تخبثت کثوفہ مَا کافِ يَضِلُّ فعل ہو ضمیر فاعل عَلَيْهَا جار مجرور ومعلق ہوئے، فعل بافاعل ومعلق جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مَنْ کی خبر، مبتدأ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ متانفہ ہوں واو عاطفہ لَا تَزِرُ فعل وَاِزَّةٌ فاعل وَاِزَّةٌ أُخْرَىٰ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ مَا تَابِيْرٌ كُنَّا فعل تاکا ضمیر اس کا اسم معذِّبِيْنَ اسم فاعل اس میں لَنْحُنْ ضمیر فاعل، حَتَّىٰ حرف غایت، وَجَرَّتْ بَعَثَ فعل لَنْحُنْ ضمیر فاعل رَسُولًا مفعول بہ، فعل بافاعل ومفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدر مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، اسم فاعل بافاعل ومعلق خبر ہے كُنَّا فعل تاکا ضمیر اس کا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ بالمعطوف جملہ معطوفہ ہوں۔

وَ اِذَا ارَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مَثُرًا فِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ



جاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مفعول کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مین اسم شرط مبتدا آزاد فعل ہو مستتر ناقص الآخرۃ مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ سبھی فعل ہو مستتر ذوالحال واو عالیہ ہو مکیوں مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال ہے، ذوالحال باحال سبھی کا قائل ہے، لکھا جا رہا ہے اور طرف لغو متعلق ہوئے سبھیہما مرکب انشائی مفعول مطلق ہے، فعل با قائل و مفعول و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو کر شرط عقابہ جڑا ہے اولئک مبتدا ہے کان فعل ناقص سبھیہم مرکب انشائی اس کا اسم مشتق کوزا اسم مفعول ہو مستتر باقائل سے مل کر خبر ہے، فعل ناقص با اسم با خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جڑا ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر مفعول کی خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مین کان پر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

كَلَّا لِيَمْدُ هُوَ اَوْلَا و هُوَ اَوْلَا و مِنْ عَطَاءٍ رَبِّكَ و مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝

آیت نمبر ۲۰: کلا مبدل منہ ہوا اولاً و ہوا اولاً یہ معطوف علیہ با معطوف بدل ہے، مبدل منہ بدل مفعول بہ مقدم ہے کلا فعل لکن مستتر قائل مین حرف جار عطاء و مضاف ربک مرکب انشائی مضاف الیہ پھر مرکب انشائی ذوالحال، واو عالیہ مانائیہ کان فعل ناقص عطاء و ربک مرکب انشائی اس کا اسم مَحْظُورًا اسم مفعول ہو مستتر باقائل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم با خبر جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے، ذوالحال باحال مجرور، جار مجرور کلا کے متعلق ہے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بِبَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ و لَلْآخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاكْبَرُ تَقْضِيًّا ۝

آیت نمبر ۲۱: اَنْظُرْ فعل امر آت مستتر قائل کفیف کا کفینین کا مفعول فیہ ہو کر بواسطہ موصوف محذوف تَقْضِيًّا کے مفعول مطلق مقدم فَضَلْنَا فعل ناقصیر قائل بَعْضِهِمْ مرکب انشائی مفعول بہ علی بعض جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و مفعولین و متعلق جملہ انشائیہ استنبہا ہے ہو کر فلا منصوب اَنْظُرْ کا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو اور واو استنافیہ لاکر ابتداء ایہ الآخرۃ مبتدا اکبر اسم تفضیل ہی مستتر قائل درجت تیز اسم تفضیل با قائل و تیز شہ جملہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اکبر اسم تفضیل ہی مستتر قائل تَقْضِيًّا تیز، تینوں مل کر شہ جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ۝

آیت نمبر ۲۲: تَجْعَلْ فعل نمی آت مستتر قائل مَعَ اللہ مرکب انشائی کا کثرتا کا مفعول فیہ ہو کر مفعول ثانی مقدم مَعَ إِلَهًا آخَرَ مرکب توسیفی مفعول بہ اذل مؤخر، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر لاکین وینک جَعَلْ إِلَهًا مَعَ اللہ کی تاویل میں ہے پھر اس میں جَعَلْ إِلَهًا معطوف علیہ ہے عقابہ سببہ عاقلہ اور اس کے بعد آن مقدر ہے، اور یہ نمی کے جواب میں ہے فَتَقْعُدْ فعل آت مستتر ذوالحال مَذْمُومًا اسم مفعول آت مستتر باقائل سے مل کر حال اولیٰ ہے، مَخْذُومًا اسم مفعول آت مستتر باقائل سے مل کر حال ثانیہ ہے، ذوالحال باحالین قائل ہے، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قَعُودٌ فِي حَالِ الذَّمِّ وَالْحُذْرَانِ کی تاویل میں ہو کر معطوف ہے، باقی داغ ہے۔



**آیت نمبر ۲۵:** رُكِّعَ مُرْكَبٌ اِنشائي مبتداء، اَعْلَمَهُ اسم تفضیل، هُوَ مستتر ضمیر قائل بناءً حرف جار ما اسم موصول فی نَفْوسٍ سَكُمُ جاد باجرو طرف مستتر فعل مخدوف بِحَيْثُ کے متعلق ہو کر صلہ موصول باصلہ مجرور، جاد باجرو و متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتداء خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ اولین حرف شرط لُكِّنُوْا افعال ناقصہ واو ضمیر اس کا اسم صلیب جن اسم قائل اَنْكُدْ ضمیر مستتر قائل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عاقدہ جزائے اِنْ حرف تحقیق ہا ضمیر منسوب اس کا اسم کان فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا اسم لاہر حرف جار الاوایین مجرور، جاد باجرو و متعلق مقدم ہوئے، عَطْفُوْا صیغہ مبالغہ هُوَ مستتر قائل، صیغہ مبالغہ اپنے قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ اِنْ کی خبر بان با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء مخدوف فَهَوُ يَغْفِرُوْا لَكُمْ کی تعلیل ہے، محل مخدوف با تعلیل جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔

**وَاْتِذَا الْقُرْبٰى حَقَّةً وَ الْمَسْكِيْنَ وَ الْبَن السَّبِيْلِ وَ لَا تَبْدِيْ وَ تَبْدِيْۙ ﴿۲۵﴾**

**آیت نمبر ۲۶:** واوایینا فی اْتِ فعل امر (اور یہ اصل میں اْتِي ہے) آتت مستتر قائل ذَا الْقُرْبٰى مرکب انشائی معطوف علیہ واوای عاقدہ الْمَسْكِيْنَ معطوف اول، واوای عاقدہ الْبَن السَّبِيْلِ مرکب انشائی معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مفعول بہ اول، حَقَّةً مرکب انشائی مفعول بہ ثانی، فعل امر بافاعل و مفعولین مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واوای عاقدہ لَا تَبْدِيْ فعل نہی آتت مستتر قائل تَبْدِيْ و مفعول مطلق تینوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوا۔

**اِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِيْنَ ۙ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۙ ﴿۲۶﴾**

**آیت نمبر ۲۷:** اِنْ حرف تحقیق الْمُبَدِّرِيْنَ اس کا اسم کاووا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِيْنَ مرکب انشائی خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنْ کی خبر بان با اسم خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واوای عاقدہ كَانَ فعل ناقص الشَّيْطٰنُ اس کا اسم لاہر حرف جار رَبِّهٖ مرکب انشائی مجرور، جاد باجرو و طرف لغو متعلق مقدم، كَفُوْرًا صیغہ مبالغہ هُوَ مستتر قائل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلق ہوا۔

**وَ اِمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ اٰبِتَاعًا رَّحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ تَوْجُوْهَا فَعَلَّ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۙ ﴿۲۷﴾**

**آیت نمبر ۲۸:** واوایینا فی اِنْ حرف شرط ما كانا نمدہ تُعْرِضْنَ فعل نون برائے ثقیلہ ہے آتت مستتر قائل عَنْهُمْ جاد باجرو و طرف لغو متعلق ہوئے اٰبِتَاعًا مصدر مضاف رَّحْمَةً موصوفہ، مِّنْ جاد رَبِّكَ مرکب انشائی مجرور، جاد باجرو و طرف مستتر کائتہ کے متعلق ہو کر صفت، تَوْجُوْا فعل آتت مستتر قائل هَا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صفت ثانیہ، موصوفہ با صفتین اٰبِتَاعًا کا مضاف الیہ، پھر مرکب انشائی تُعْرِضْنَ کا مفعول لہے، فعل بافاعل و متعلق لہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط ہے عاقدہ جزائے اِنْ حرف امر آتت مستتر قائل اَلَهُمْ جاد باجرو و طرف لغو متعلق ہوئے، قَوْلًا مَّيْسُوْرًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق مفعول مطلق جملہ انشائیہ امریہ ہو کر جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ مستانفہ ہوا۔

**وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ ۙ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۙ ﴿۲۸﴾**





**آیت نمبر ۳۲:** **وَ اَوْعَاظُهُ لَا تَنْفَعُوْا فِعْلٌ نِّمِيْ** وادّ ضمیر اس کا قائل الزّیّ منصوب تقدیراً مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ معطوف ہولاً۔ **اِنْ حَرَفٌ حَقِيْقَةٌ** ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم حقیقۃً خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ **اِنْ** کی خبر **اِنْ** بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہولاً و اَوْعَاظُهُ سائنہ فعل ذم ہو مستتر مینر سبباً لا تمیز، مینر با تمیز قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کہ خبر، اور خصوص بالذم مبتدا مضاف ہے ہو ضمیر جس کا مرجع زمانہ ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ انشائیہ اِنْفَہ پر معطوف ہے۔

**وَ لَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ طَوْ مِنْ قِتْلٍ مَّظْلُوْمًا فَاقْتُلُوْا جَعَلْنَا لِيُوْلِيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنصُوْرًا ﴿۳۲﴾**

**آیت نمبر ۳۳:** **وَ اَوْعَاظُهُ لَا تَنْفَعُوْا فِعْلٌ نِّمِيْ** وادّ ضمیر ذوالحال اِلَّا حرف استثناء بِالْحَقِّ ظرف مستقر مَنصُوْرِيْنَ کے متعلق ہو کہ حال ہے، ذوالحال باحال قائل ہے النَّفْسُ موصوف الّٰتِیْ اسم موصول حَرَّمَ فعل اللّٰہ اسم الجلال قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ النَّفْسُ کی صفت، موصول ہافت مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ہولاً و اعترافیہ مَن اسم شرط مبتدا، قِتْلٍ فعل مجہول ہو مستر ذوالحال مَّظْلُوْمًا اسم مفعول ہو مستتر تاجب قائل سے مل کر حال، ذوالحال باحال تاجب قائل، فعل مجہول تاجب قائل جملہ فعلیہ: یہ ہو کہ شرط معاقبہ جزائیہ قتل کی صلاست فعل جَعَلْنَا فعل ناقص قائل لآہ حرف جار یُوْلِيْہِ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور طرف مستقر کاؤنے کے متعلق ہو کہ مفعول بہ ثانی مقدم سُلْطٰنًا مفعول بہ اول مؤخر، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کہ سنن کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہولاً قائم جزائیہ اور اس کی شرط مضاف ہے اِنْ اَوْ اَدَّ الْقَضٰی ص، لَا يُسْرِفُ فعل نیمی ہو مستتر قائل فی الْقَتْلِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تنیوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کہ جزاء ہے، شرط مضافہ باجزاء جملہ شرطیہ ہولاً اِنَّہٗ کان مَنصُوْرًا کی ترکیب اِنَّہٗ کان عَفُوْرًا کی طرح ہے دیکھئے آیت نمبر ۲۵۔

**وَ لَا تَنْفَعُوْا اِمَالِ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالْقِيّٰمِ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰی يَبْلُغَ اَشَدَّ نَاسٍ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنْ اَلْعَهْدُ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿۳۳﴾**

**آیت نمبر ۳۳:** **وَ اَوْعَاظُهُ لَا تَنْفَعُوْا فِعْلٌ نِّمِيْ** وادّ ضمیر قائل مَالِ الْيَتِيْمِ مرکب اضافی مفعول بہ اِلَّا حرف استثناء تاجہ حرف جار الّٰتِیْ اسم موصول، ضمیر مبتدا اَحْسَنُ اسم تفصیل ہے مستر قائل سے مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور و لَا تَنْفَعُوْا کے متعلق اول، حَتّٰی حرف نغایت ہے جزا اور اس کے بعد اَنْ مقدر ہے يَبْلُغَ فعل ہو مستر قائل اَشَدَّ نَاسٍ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتیوں مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل نیمی اپنے قائل و مفعول بہ و متعلقین سے مل کر جملہ انشائیہ لَا تَنْفَعُوْا پر معطوف ہے، و اَوْعَاظُهُ اَوْفُوا فعل امر وادّ ضمیر قائل بِالْعَهْدِ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، تنیوں مل کر جملہ انشائیہ لَا تَنْفَعُوْا پر معطوف ہے اِنْ حَرَفٌ حَقِيْقَةٌ اَلْعَهْدِ اس کا اسم کان فعل ناقص ہو ضمیر مستر اس کا اسم مَسْئُوْلًا اسم مفعول ہو مستر تاجب قائل سے مل کر کان کی خبر، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنْ کی خبر اِنْ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

**وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَاَوْفُوا بِالْقِسْطِ اِنَّ الْمُسْتَقِيْمَ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿۳۴﴾**

**آیت نمبر ۳۵:** **وَإِذَا عَلِمْنَا مِنْ تَوَلَّى أَعْمَارِهِمْ أَنَّ مُرْتَفَعًا كَانُوا لِلْحَلِّ لَمْ يُهَيِّئُوا لِنُفُسِهِمْ حَتْمًا مِمَّا كَانُوا لِيَوْمِئِذٍ لَعَنُوا**۔  
 اس کے معنی یہ ہے کہ جب ہم نے ان کے اعمار سے یہ معلوم کیا کہ وہ اپنے لیے کسی اور چیز کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، لہذا ہم نے ان کے لیے عذاب کا حکم دیا۔  
**حرف جہاد:** جہاد کا معنی ہے جدوجہد۔ جہاد کا معنی ہے جدوجہد۔ جہاد کا معنی ہے جدوجہد۔ جہاد کا معنی ہے جدوجہد۔

**وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنَّا مَشْفُورًا** ﴿۳۶﴾

**آیت نمبر ۳۶:** **وَأِذَا عَلِمْنَا مِنْ تَوَلَّى أَعْمَارِهِمْ أَنَّ مُرْتَفَعًا كَانُوا لِلْحَلِّ لَمْ يُهَيِّئُوا لِنُفُسِهِمْ حَتْمًا مِمَّا كَانُوا لِيَوْمِئِذٍ لَعَنُوا**۔  
 اس کے معنی یہ ہے کہ جب ہم نے ان کے اعمار سے یہ معلوم کیا کہ وہ اپنے لیے کسی اور چیز کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، لہذا ہم نے ان کے لیے عذاب کا حکم دیا۔

**وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَكَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا** ﴿۳۷﴾

**آیت نمبر ۳۷:** **وَأِذَا عَلِمْنَا مِنْ تَوَلَّى أَعْمَارِهِمْ أَنَّ مُرْتَفَعًا كَانُوا لِلْحَلِّ لَمْ يُهَيِّئُوا لِنُفُسِهِمْ حَتْمًا مِمَّا كَانُوا لِيَوْمِئِذٍ لَعَنُوا**۔  
 اس کے معنی یہ ہے کہ جب ہم نے ان کے اعمار سے یہ معلوم کیا کہ وہ اپنے لیے کسی اور چیز کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، لہذا ہم نے ان کے لیے عذاب کا حکم دیا۔

**كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرًا** ﴿۳۸﴾

**آیت نمبر ۳۸:** **كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرًا**۔  
 اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے تمام اعمال ان کے لیے برا ہیں۔

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿۳۹﴾

**آیت نمبر ۳۹:** ذلک اسم انشاء مبتدہ من حرف جار ما اسم موصول اولیٰ فعل الیٰک جاد باجر و طرف لئو متعلق ہوئے ربک مرکب اضافی نازل من الحکمۃ جار باجر و طرف مستقر کلثما کے متعلق ہو کر اُوْحِیٰ کی ضمیر مقدر مفعول بہ سے حال ہے پھر اُوْحِیٰ فعل اپنے فاعل و مفعول بہ و متعلق سے کل جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول بصلہ مجرور جار باجر و طرف مستقر کلثون کے متعلق ہو کر خبر مبتدہ جار مجرور جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا و او عطفہ لاکتجعل فعل نہی اَنْت مستقر فاعل مع اللہ مرکب اضافی کلثما کا مفعول فیہ ہو کر مفعول ثانی مقدم الہا اَحْوٰ مرکب توصیفی مفعول بہ اول مؤخر، فعل با فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ نہیہ ہوا اور یہ لا یکن و منک جعل الہ اَحْوٰ مع اللہ کی تاویل میں ہے فہا سببیہ عطفہ اور اس کے بعد ان مقدر ہے کیونکہ یہ فہا جواب نہی میں ہے تُلْقٰی فعل مجہول اَنْت ضمیر مستتر تہب فاعل فی جہنم جار باجر و طرف لئو متعلق ہوئے مَلُومًا مَدْحُورًا تُلْقٰی کی ضمیر تہب فاعل سے دو حال ہیں، فعل مجہول تہب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر الفاعل کی تاویل میں ہو کر لاکتجعل سے نکلے ہوئے مصدر مفعول بہ ہے۔

اَفَا صَفِيكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۗ إِنَّكُمْ لَتَعْقِلُونَ قَوْلًا

عَظِيمًا ﴿۴۰﴾

**آیت نمبر ۴۰:** ہمزہ حرف استفہام فہا استینافہ اَصْفٰی فعل کُف ضمیر منصوب مفعول بہ رَبُّكُمْ مرکب اضافی فاعل بِالْبَيْنِينَ جار باجر و طرف لئو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف علیہ ہوا و عطفہ اِتَّخَذَ فعل ہو مستقر فاعل من الْمَلَائِكَةِ ظرف مستقر کلثون کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم اِنَاثًا مفعول بہ اول مؤخر، فعل با فاعل و مفعولین کل جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوا ان حرف تحقیق کُف ضمیر اس کا اسم لاکر مذ حلقہ برائے تاکید تَعْقِلُونَ فعل واو ضمیر فاعل قَوْلًا عَظِيمًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، فعل با فاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر ان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہوا۔

﴿۴۰﴾ رکوع نمبر ۵

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ۗ وَ مَا يَذِّكُرُهُمْ إِلَّا نَقُورًا ﴿۴۱﴾

**آیت نمبر ۴۱:** واو استینافہ لاکر موطن القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل صَرَّفْنَا فعل تا ضمیر فاعل فی حرف جار ہذا الْقُرْآنِ مرکب توصیفی مجرور جار باجر و طرف لئو متعلق اول ہوئے لاکر حرف جار برائے تعلیل اور اس کے بعد ان ناصب مقدر ہے یَذِّكُرُهُمْ فعل واو ضمیر فاعل سے کل کہتاویل مصدر مجرور جار باجر و طرف لئو دوسرا متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم قسم محذوف ہوا جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا و او استینافہ فیہا علیہ ہے مَّا نَا يَذِّكُرُهُمْ فعل ہو مستقر فاعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ اول بِالْآحْرَفِ استثناء نَقُورًا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوا یا هَذَا الْقُرْآنِ سے حال ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَآبْتَغُوا إِلِي ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿۴۲﴾



**آیت نمبر ۳۵:** واِذَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُخْبِرَ أَهْلَ عِلْمِكَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْهُمُ يُعَذِّبُهُمْ أَيَّامًا كَثِيرًا ۝۳۵

آیت نمبر ۳۵: واِذَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُخْبِرَ أَهْلَ عِلْمِكَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْهُمُ يُعَذِّبُهُمْ أَيَّامًا كَثِيرًا ۝۳۵

آیت نمبر ۳۵: واِذَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُخْبِرَ أَهْلَ عِلْمِكَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْهُمُ يُعَذِّبُهُمْ أَيَّامًا كَثِيرًا ۝۳۵

آیت نمبر ۳۵: واِذَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُخْبِرَ أَهْلَ عِلْمِكَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْهُمُ يُعَذِّبُهُمْ أَيَّامًا كَثِيرًا ۝۳۵

واِذَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُخْبِرَ أَهْلَ عِلْمِكَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْهُمُ يُعَذِّبُهُمْ أَيَّامًا كَثِيرًا ۝۳۵

واِذَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُخْبِرَ أَهْلَ عِلْمِكَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْهُمُ يُعَذِّبُهُمْ أَيَّامًا كَثِيرًا ۝۳۵

واِذَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُخْبِرَ أَهْلَ عِلْمِكَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْهُمُ يُعَذِّبُهُمْ أَيَّامًا كَثِيرًا ۝۳۵

واِذَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُخْبِرَ أَهْلَ عِلْمِكَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقَّ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْهُمُ يُعَذِّبُهُمْ أَيَّامًا كَثِيرًا ۝۳۵

لَحْنٌ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝۳۶

**آیت نمبر ۳۶:** لَحْنٌ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝۳۶

آیت نمبر ۳۶: لَحْنٌ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝۳۶

آیت نمبر ۳۶: لَحْنٌ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝۳۶

آیت نمبر ۳۶: لَحْنٌ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝۳۶



مبتدا بالخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر فعل امر آنت مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قول، والذی اسم موصول فَعَلُوْا فعل ہو مستتر فاعل کُمھ مستقر فاعل بہ اولن صَوْرَةً مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصلہ مبتدا اور خبر محذوف ہے یُعینن کُمھ، مبتدا بالخبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

فآء جزائیہ اور شرط محذوف ہے ان قُلْتُمْ لَکُمھ ذَلِکَ، مبین علامت فعل یُحْفَظُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل رُءُوسَھم مرکب اضافی مفعول بہ الیقلق جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، جار مجرور مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاطفہ یَقُوْلُوْنَ فعل باواو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول، معنی ظرف زمان کاؤن کا مفعول فیہ ہو کر خبر مقدم ہو ضمیر منفصل مبتدا اسوخر، مبتدا بالخبر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف شرط محذوف کی جزاء ہے، شرط محذوف باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر فعل امر آنت مستتر فاعل سے مل کر قول، عسلی فعل تام ان مصدر یہ یَقُوْن فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم قدر یبماجر، فعل ناقص با اسم و خبر بتاول مصدر عسلی کا فاعل، فعل باقاعل مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

يَوْمَ رَدَّ عَوْكُمْ فَكُنْتُمْ جِبْيُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ اِنْ لَبِئْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

آیت نمبر ۵۲: يَوْمَ مضاف يَدَّ عَوْكُمْ فعل ہو مستتر فاعل کُمھ ضمیر منصوب مفعول بہ، تپون مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فآء عاطفہ تَسْتَجِيبُوْنَ فعل واو ضمیر فاعل باء حرف جار کُتِبَہ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متکسبین کے متعلق ہو کر تَسْتَجِيبُوْنَ کے فاعل کا حال ہے کیونکہ تَسْتَجِيبُوْنَ "تَسْتَجُوْنَ کے معنی کو مختصر ہے، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول واو عاطفہ تَظُنُّوْنَ فعل واو ضمیر فاعل ان نایہ لَبِئْتُمْ فعل ثَم ضمیر فاعل اِلَّا حرف استثناء قَلِيْلًا بواسطہ موصوف محذوف زَمَانًا کے مستثنیٰ مفرغ ہو کر مفعول فیہ، فعل باقاعل و مفعول فیہ تَظُنُّوْنَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقاعل و مفعولین معطوف ثانی، معطوف علیہ یا مفعولین يَوْمَ کا مضاف الیہ پھر مرکب اضافی مفعول بہ ہے فعل محذوف اَذْکُرْ اَذْکُرْ فعل امر آنت مستتر فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

﴿ رُكُوْعٌ ۶ ﴾

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ طَرَانَ الشَّيْطَانِ  
كَانَ لِلرَّاسِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝

آیت نمبر ۵۳: واو استینافی فَعَلْ فعل امر آنت مستتر فاعل لآء حرف جار عِبَادِيْ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قول، يَقُولُوا فعل واو ضمیر فاعل الَّتِي اسم موصول ہی ضمیر مبتدا اَحْسَنُ اسم تفضیل ہی ضمیر فاعل، اسم تفضیل باقاعل شبہ جملہ خبر، مبتدا بالخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول باصلہ يَقُولُوا کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

اِنَّ حرف تحقیق الشَّيْطَانِ اس کا اسم تَنْزِعُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل بَيْنَهُمْ مرکب اضافی مفعول فیہ، فعل باقاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ منظر ہو ان حرف تحقیق الشَّيْطَانِ اس کا اسم کان فعل ناقص لآء حرف





کشف مصدر مضاف الضمير مضاف اليه عَنكَ جاد باجرود ظرف لغو مصدر کے متعلق ہوئے مصدر مضاف بمضاف اليه و متعلق معطوف عليه و او عاطفہ لکن لا تَكُونُ يَلَا معطوف معطوف عليه بمعطوف مفعول به فعل ناقص و مفعول به جملہ خبریہ ہُوْهُ مبتدأ محذوف کی خبر ہے، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزم ہے، شرط محذوف باجرود جملہ شرطیہ ہوں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٤﴾

آیت نمبر ۵۴: أُولَئِكَ اسم اشارة موصوف الَّذِينَ اسم موصول يَدْعُونَ فعل واو ضمير قائل سے مل کر صلہ موصول باصلہ مفت، موصوف باصفت مبتدأ يَبْتَغُونَ فعل واو ضمير قائل الی حرف جار یَبْتَغُوهُمْ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرود ظرف لغو متعلق ہوئے الْوَسِيلَةَ مفعول به أَيُّهُمْ اسم موصول اقْرَبُ خبر ہے مبتدأ محذوف ہو کہ، مبتدأ خبر صلہ موصول باصلہ يَبْتَغُونَ کی ضمیر قائل سے بدل ہے يَبْتَغُونَ فعل ناقص و متعلق مفعول به جملہ خبریہ معطوف عليه و او عاطفہ يَرْجُونَ فعل واو ضمير قائل رَحْمَتَهُ مرکب اضافی مفعول به، تینوں مل کر جملہ خبریہ معطوف اول و او عاطفہ يَخَافُونَ فعل واو ضمير قائل عَذَابَ رَبِّكَ مرکب اضافی مفعول به، تینوں مل کر جملہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف عليه بمعطوفین خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں، اِنْ حرف تحقیق عَذَابَ رَبِّكَ مرکب اضافی اس کا اسم کان فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اسم مَحْذُورًا اسم مفعول ہو ضمیر مستتر تاب قائل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَأَنَّ مِنَ قَرْيَةٍ إِلَّا لَأَنحُنُّهُمُ لَكُنْهُمُ أَقْبَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنْ كَانُوا فِي الذِّكْرِ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٥﴾

آیت نمبر ۵۵: وَاوَّاسْتِغْنِي عَنْهَا مِنَ الْقَرْيَةِ شَاكِرًا لِّمَا أُوتِيَ فَقَدْ حَقَّرَ مَا أُوتِيَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنْ كَانُوا فِي الذِّكْرِ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا اسم موصول مفعول به قَبْلُ مضاف يَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب اضافی مضاف اليه پھر مرکب اضافی مُعَذِّبُهُمْ اَلَا مفعول فیہ ہے، اسم قائل مضاف اپنے مضاف اليه و مفعول فیہ سے مل کر معطوف عليه، أَوْ عاطفہ مُعَذِّبُهُمْ اسم قائل مضاف ہا ضمیر مضاف اليه معنی مفعول به عَذَابًا شَدِيدًا مرکب توصیفی مفعول مطلق، اسم قائل اپنے مضاف اليه و مفعول مطلق سے مل کر معطوف معطوف عليه بمعطوف لَعْنَةُ کی خبر ہے، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ قَرْيَةٍ کی خبر ہے، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہوں کان فعل ناقص ذَلِكُ اسم اشارة اس کا اسم فی الْكِتَابِ جاد باجرود ظرف لغو متعلق مقدم مَسْطُورًا اسم مفعول ہو ضمیر مستتر تاب قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا عَمَّا يُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوْفَافًا ﴿٥٦﴾

آیت نمبر ۵۶: وَاوَّاطَفَ مَا نَأْيَ مَنَعَ لَعْنًا ضمیر منصوب مفعول به اَنْ حرف مصدری و نصب نُرْسِلُ فعل لَعْنَةُ ضمیر مستتر



**آیت نمبر ۱۷:** واوستیع فی اذ طرف زمان مضارع فعل ناقص ضمیر قائل الیٰلہم لعلکم ترحمونا و متعلق ہوئے، فعل ناقص بال فعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول بانسجدوا و فعل امر واوستیع قائل لا اذہم جار مجرور متعلق ہوئے، فعل امر اپنے قائل و متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ مقولہ، قول بانسجدوا مضارع الیہ محرم رب انسانی فعل مضارع اذکوا کا مفعول یہ ہے، فعل امر اپنے قائل و مفعول یہ سے مل کر جملہ انشائیہ مستانفہ ہوا فقاء عطفہ سجدوا و فعل امر واوستیع قائل الا حرف استثناء الیٰلہم مستثنیٰ منقطع ہے، فعل ناقص بال فعل جملہ فعلیہ خبریہ قلنا پر معطوف ہے۔ قال فعل ہو ضمیر مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزہ حرف استفہام انسجدوا فعل ناقص ضمیر مستتر قائل لاہم حرف جر من اسم موصول حکاکت فعل تاء مفتوحہ ضمیر قائل یطیننا یہ منسوب بنزع الفاعل سے اصل میں یطین ہے، جار مجرور حکاکت کے متعلق ہوئے، فعل ناقص بال فعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور و طرف لئو انسجدوا کے متعلق ہوئے، فعل ناقص بال فعل و متعلق جملہ انشائیہ مقولہ، قول بانسجدوا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

قَالَ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتِ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْ اٰخَرَتِنِ اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَّا خَتَنَكَ لِاَخْتِكَ وَلَا لِقَيْتِكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۷﴾

**آیت نمبر ۱۸:** قال فعل ہو ضمیر مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ہے ہمزہ حرف استفہام و اے تبتک یعنی اخیڑتی، اخیڑ فعل امر آنت ضمیر مستتر قائل نون برائے و قایہ تیاہ ضمیر منسوب مفعول بہ اول ہذا اسم اشارہ موصوف الٰذی اسم موصول کرکرتت فعل تاء مفتوحہ ضمیر قائل علیٰ جار مجرور طرف لئو متعلق ہوئے، اور کرکرتت کا مفعول ضمیر محذوف ہے، فعل ناقص بال فعل یہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ ہذا کی صفت، موصوف باصفت اخیڑ کا مفعول بہ ثانی، فعل ناقص بال فعل و مفعولین مقولہ، قول بانسجدوا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

لاہم موصولہ لہم اور قسم محذوف ہے ان حرف شرط اذتت فعل تاء مفتوحہ ضمیر قائل نون برائے و قایہ اور تخفیف کی وجہ سے تیاہ محذوفہ ضمیر مفعول بہ ہالی حرف جار یوہم القیۃ مرکب انسانی مجرور، جار مجرور طرف لئو متعلق ہوئے، فعل اپنے قائل و مفعول یہ و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لاہم جوابیہ اخیڑتک فعل ناقص ضمیر مستتر قائل ذیۃتک مرکب انسانی مستثنیٰ منہ الا حرف استثناء قلیلا مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ مفعول بہ، فعل ناقص بال فعل و مفعول بہ قسم محذوف کا جواب ہے، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ ہوا اور شرط کی جڑاہ محذوف ہے جس پر جواب قسم ہاں ہے۔

قَالَ اَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا ﴿۱۸﴾

**آیت نمبر ۱۹:** قال فعل ہو ضمیر مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول بانذہب فعل ناقص ضمیر قائل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول بانسجدوا جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ عطفہ من اسم شرط مبتدأ اتبع فعل ہو ضمیر مستتر قائل کان ضمیر منسوب مفعول بہ ومنہم جار مجرور طرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر تتبع کی ضمیر قائل سے حال ہے، تتبع فعل اپنے قائل و مفعول یہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط فاقہ جزائیر ان حرف تحقیق جہنم اس کا اسم جزاؤ مصدر مضارع ضمیر مضارع الیہ جزاؤ موصوف و امرکب توسیعی یا تو جزاؤ و کمد کی تہیز ہے یا اس کا مفعول مطلق ہے یا فعل محذوف ججزون کا مفعول مطلق ہے جزاؤ و کمد مرکب انسانی خبر بیان با اسم و خبر

جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر من کی خبر ہے، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قال پر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

**وَاسْتَفْزَزَ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلَبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ ذَا مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝**

**آیت نمبر ۶۳:** واو اعطف یا استیفاء استفزز فعل امر آت ضمیر مستتر قائل من اسم موصول استطعت فعل تاء مفتوحہ ضمیر قائل تاء ضمیر مفعول بہ مقدر ہے وٹھم ظرف مستقر کونٹا کے متعلق ہو کر اسی ضمیر مفعول بہ سے حال ہے، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ استفزز کا مفعول بہ ہے، بہاء حرف جار صوتک مرکب انسانی مجرور، جدا یا مجرور استفزز کے متعلق ہونے، فعل امر اپنے قائل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ واو اعطف اَجَلِبَ فعل امر آت ضمیر مستتر قائل عَلَيْهِمْ جدا یا مجرور ظرف لغو متعلق ہونے، بہاء حرف جار خَيْلِكَ مرکب انسانی مفعول علیہ واو اعطف رَجِلِكَ مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مجرور، جدا یا مجرور ظرف لغو متعلق ہونے، فعل امر اپنے قائل و متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف اَوَالِ وَاوَالِدِ شَارِكُهُمْ ضمیر مستتر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ یعنی حرف جر الاموال وَالْأَوْلَادِ معطوف علیہ با معطوف مجرور ہے، جدا یا مجرور ظرف لغو متعلق ہونے، فعل قائل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ معطوف ثانی ہے، واو اعطف جَدَلِ فعل امر آت ضمیر مستتر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ و احوالہ مَتَا فَيَعِدُهُمْ ضمیر مفعول بہ الشَّيْطَانُ قائل لَآ حَرْفِ اسْتِعْذَارٍ غُرُورًا بواسطہ موصوف محذوف وَعِدَّهُمْ کے مفعول مطلق ہے، فعل با قائل و مفعول مطلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے، ذوالحال با حال جَدَلِ فعل امر کا مفعول بہ ہے، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ثالث ہے، استفزز مفعول علیہ اپنے معطوقات ثانی سے مل کر جملہ متانفہ ہے یا اَلْهَبِ فعل پر معطوف ہے۔

**إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ذَا كُنْفِي يَوْرَتِكَ وَكَيٰلَا ۝**

**آیت نمبر ۶۵:** اِنَّ حرف تَحْقِيْقِ عِبَادِي مرکب انسانی اس کا اسم لَيْسَ فعل ناقص لَكَ جدا یا مجرور ظرف مستقر كَيْلَا کے متعلق ہو، كَيْلَا اسم قائل هُوَ ضمیر مستتر قائل عَلَيْهِمْ جدا یا مجرور ظرف لغو كَيْلَا کے متعلق ہونے، اسم قائل با قائل و متعلقین شبہ جملہ خبر مقدم سُلْطٰنٌ اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اِنَّ کی خبر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ واو اعطف كُنْفِي فعل بہاء حرف جر ذَا و يَوْرَتِكَ مرکب انسانی نفاذ مجرور عِلْمًا مرفوع قائل ہے وَ كَيْلَا یا قر قائل سے حال ہے، یا كُنْفِي کی نسبت سے تیز ہے، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

**رَبِّكُمْ الَّذِي يُرِيحِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝**

**آیت نمبر ۶۶:** رَبِّكُمْ مرکب انسانی مبتدأ الَّذِي اسم موصول يُرِيحِي فعل هُوَ ضمیر مستتر قائل لَكُمْ جدا یا مجرور ظرف لغو متعلق ہونے الْفُلْكَ مفعول بہ فی الْبَحْرِ جدا یا مجرور ظرف لغو متعلق ہونے، لآ حَرْفِ جَدَلِ رائے تَعْلِيلِ اور اس کے بعد اِنَّ مقدر ہے لَتَبْتَغُوا

فعل واو ضمیر قائل حرف جنس جملہ فعلیہ مرکب اضافی مجرور، جملہ باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتولی مصدر مجرور، جملہ باجرور یُؤْتِی کے متعلق ثابت ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقات ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ یُؤْتِی کے خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظلہ بولین حرف تحقیق یا ضمیر اس کا اسم کان فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم یکم جملہ باجرور متعلق مقدم و حیثیہ ماضیہ صفت ہو مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص ہاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بولین ہاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مظلہ ہوں۔

وَ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاتُهُ فَلَمَّا نَجَّكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَوَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿۶۷﴾

آیت نمبر ۶۷: ۱۷۱۔ استثنائیہ اگر شرطیہ مفعول فیہ مقدم مَسَّ فعل کُم ضمیر مفعول بہ مقدم الضَّرُّ قائل فی الْبَحْرِ طرف مستقر کا لٹکا کے متعلق ہو کر قائل سے حال ہے، یا کا لٹکین کے متعلق ہو کر ضمیر مفعول بہ سے حال ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط ہے صَلَّ فعل من ام موصول تَدْعُونَ فعل واو ضمیر قائل، فعل اپنے قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مستثنیٰ منہ، الا حرف استثنائیہ استثنائیہ مستثنیٰ منہ یا مستثنیٰ صَلَّ کا قائل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، قاء عاطفہ لٹکا شرطیہ مفعول فیہ مقدم پہنچائی ہوئی ضمیر قائل کُم ضمیر مفعول بہ الی الْبَحْرِ جملہ باجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق شرط باعترضتُمْ فعل بافاعل جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ متانفہ ہوں واو استثنائیہ کان فعل ناقص الْإِنْسَانِ اس کا اسم کَفُورًا خبر، فعل ناقص ہاسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَاكِيلًا ﴿۶۸﴾

آیت نمبر ۶۸: ۶۸۔ حرف استقہام قاء استثنائیہ اور عندا لبعض قاء عاطفہ ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے اور تقدیر عبارت ہے لَکُمْ وَاكِيلًا مِنَ الْعُوقِ، فعل اپنے قائل و متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، قاء عاطفہ أَمِنْتُمْ فعل کُم ضمیر قائل ان حرف مصدری و نصب یَخْسِفُ فعل ہو مستقر قائل یکم جملہ باجرور طرف لغو متعلق ہوئے جانب الْبَرِّ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ یُرْسِلُ فعل ہو مستقر قائل عَلَیْکُمْ جملہ باجرور طرف لغو متعلق ہوئے حَاصِبًا مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اَوَّلُ کُم حرف عطف لَا تَجِدُوا فعل واو ضمیر قائل لَکُمْ طرف مستقر کا لٹکا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم ہو کر یُورْسِلُ مفعول بہ اَوَّلُ مؤخر، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ یا معطوف بتولی مصدر أَمِنْتُمْ کا مفعول بہ ہے، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ معطوف ہے، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف یا متانفہ ہوں۔

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغَرِّقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ لَئِمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿۶۹﴾



**آیت نمبر ۷۱، ۷۲:** يَوْمَ مَضَىٰ كَذٰهُوا لَعْلٰ نَحْنُ ضَمِيرٌ مُّشْتَرَقٌ عَلٰى كُلِّ اَنْفُسٍ مُّرَكَّبٌ اِنشائي مفعول به، بناء حرف جہاد افعالہم۔  
 مرکب انشائی مجرور، جہاد باجرور طرف لغو کذوا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق مضارع الیہ، مضارع با مضارع الیہ مفعول فیہ  
 ہو فعل محذوف اذ کذا کذا کذا فعل امر آت مستتر قائل، فعل امر بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ بناء حرف جہاد افعالہم۔ اسم شرط  
 مبتدأ اُوْجِیٰ فعل مجہول ضمیر مستتر تاجب قائل کیتبہ مرکب انشائی مفعول بہ، بناء حرف جہاد توجیہ مرکب انشائی مجرور، جہاد باجرور طرف لغو  
 اُوْجِیٰ کے متعلق ہوئے، فعل مجہول با تاجب قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ شرط عقابہ جزائیہ اُوْلَئِکَ اسم اشارہ مبتدأ، یَقْرَءُوْنَ  
 فعل واو ضمیر قائل کیتبہ مرکب انشائی مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، و او عطفہ لَا یَظْلَمُوْنَ فعل مجہول واو  
 ضمیر تاجب قائل قتیلاً بواسطہ موصوف محذوف فاعلاً کے مفعول مطلق، فعل مجہول با تاجب قائل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، پھر  
 معطوف علیہ با معطوف اُوْلَئِکَ کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ، جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کہ مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ  
 معطوف علیہ، و او عطفہ مَن اسم شرط مبتدأ لکن فعل ناقص ہو مستتر اس کا اسم فی ہذیہ جہاد باجرور طرف لغو متعلق مقدم اَعْلٰی اسم  
 تفضیل ہو مستتر قائل و متعلق مقدم سے مل کر شبہ ہل ہو کہ خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ شرط عقابہ جزائیہ ہو ضمیر مبتدأ فی  
 الْاُخْرٰی جہاد باجرور طرف لغو متعلق مقدم ہوئے اَعْلٰی اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر قائل، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شبہ جملہ معطوف علیہ، و او  
 عطفہ اَعْلٰی اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر قائل سبباً تیز، اسم تفضیل بافاعل و تیز شبہ جملہ ہو کہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف ہو کہ خبر، مبتدأ  
 با خبر جملہ اسمیہ خبریہ، جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کہ مَن کی خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔  
 اور اگر قَمِنْ مَن فاء عطفہ ہو تو پھر یہ کَذٰهُوا پر معطوف ہو گا۔ اُنَّ

وَ اِنْ كَاذُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً مِّمَّنْ وَاِذَا  
 لَاتَخَذُوْكَ حٰلِيْلًا ۝۷۱

**آیت نمبر ۷۳:** وَاِذَا اسْتَأْذَنَّا فِیْ رَءْسِ الْاَمْرِ مِمَّنْ لَمَّ يَتَسَوَّلُ مِنْكُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ اِنَّكَ لَءَاۤیٰتِنَا لَخَبِيْرٌ  
 يُّفْتِنُوْنَ فعل واو ضمیر قائل کا ضمیر منصوب مفعول بہ، مَن حرف جہاد الیہ اسم موصول اُوْحَيْنَا فعل ناقص ضمیر قائل اِلَيْكَ جہاد باجرور  
 طرف لغو اُوْحَيْنَا کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جہاد باجرور طرف لغو يَفْتِنُوْنَ کے متعلق  
 اُوْلٰٓئِکَ ہوئے بنا کہ حرف جہاد برائے تعلیل اور اس کے بعد اُن مقدر سے تَفْتَرِيَ فعل آت مستتر قائل عَلَيْنَا جہاد باجرور طرف لغو متعلق ہوئے  
 غَيْرَةً مرکب انشائی مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ بتویل مصدر مجرور، جہاد باجرور طرف لغو يَفْتِنُوْنَ کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با  
 قائل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ خبر، فعل مقارب با اسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کہ اِن کی خبر اِن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ  
 ہو۔ و او عطفہ اِذَا حرف جواب و جزاء اسمیہ بنا کہ جہاد باجرور اور شرط مقدر سے لَوْ فَعَلْتَ ذٰلِکَ، اَتَّخَذُوْا فعل واو ضمیر قائل کا ضمیر مفعول بہ  
 اَوَّلٌ حٰلِيْلًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کہ اِن کا ذوا پر معطوف ہے۔

وَلَوْ لَا اَنَّ بَيِّنٰتِنَا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ۝۷۲

**آیت نمبر ۷۴:** وَاِذَا عَاظَمْتَ لُوْلَا اِنْتَا عَمِيْهِ حَرْفٌ شَرْطِيٌّ اَنْ مَّصْدَرِيَّةٌ يَبَيِّنُنَا فعل ناقص ضمیر قائل کا ضمیر مفعول بہ، بتینوں مل کر بتویل



مصدر ہو کر مبتدا اور خبر محذوف ہے **مَوْجُوْدٌ** مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط لاکر جوابیہ قَدْ عَلِمْتَ فعل کیذکر فعل مقابہ تاکہ متوجہ اس کا اسم تاکو کن فعل آتے ضمیر مستتر فاعل اَللّٰھُمَّ جہا بجز و متعلق ہوئے، **حَبِيْثًا اَقْبَلًا** مرکب توصیفی بواسطہ موصوف محذوف و کونکے تاکو کن کا مفعول مطلق، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل مقابہ بالاسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر کاڈوا پر معطوف ہے۔

**اِذَا اَدَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝**

**آیت نمبر ۵۵:** اِذَا حرف جواب وجزاء حملہ لاکر جوابیہ اور اس کی شرط محذوف ہے لَوْ وَ كُنْتَ اَدَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل کان ضمیر مفعول بہ اَوَّلِ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ مرکب انسانی معطوف علیہ ہوا و عاقلہ ضِعْفَ الْمَمَاتِ مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ جانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر لَوْ ثُمَّ حرف عطف لَا تَجِدُ فعل آتے ضمیر مستتر فاعل لَكَ جہا بجز و طرف مستقر کاڈینا کے متعلق ہو کر مفعول بہ جانی مقدم عَلَيْنَا جہا بجز و طرف لغو متعلق مقدم نَصِيْرًا ۝ اے نصییر! تیرا سینہ صفت ہو مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر مفعول بہ اَوَّلِ مَوْخِر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ اَدَقْنَا پر معطوف ہے۔

**وَ اِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفْرِزُوْا وَّلٰكِنْ مِّنَ الْاَرْضِ لَيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذَا لَا يَلْبَثُوْنَ خِلْفَكَ اِلَّا**

**قَلِيْلًا ۝**

**آیت نمبر ۷۶:** وَاو عاقلہ اِنْ مخفف من الاستفہ ضمیر شان مقدر اس کا اسم کاڈوا فعل مقابہ وَاو ضمیر اس کا اسم، لاکر قدتہ يَسْتَفْرِزُوْنَ فعل وَاو ضمیر فاعل کان ضمیر مفعول بہ مِّنَ الْاَرْضِ جہا بجز و طرف لغو متعلق اَوَّلِ ہوئے لاکر حرف جار رائے تعلیل اور اس کے بعد اِنْ مقدر ہے يَخْرُجُوْنَ فعل وَاو ضمیر فاعل کان ضمیر مفعول بہ وِنَهَا جہا بجز و طرف لغو متعلق ہوئے، جہا دل کر بتاویل مصدر بجز و جہا بجز و متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلقین خبر، فعل مقابہ بالاسم و خبر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر بان و بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ پہلے اِنْ کاڈوا پر معطوف ہے۔ وَاو عاقلہ اِذَا حرف جواب وجزاء حملہ لاکر جوابیہ اور اس کی شرط محذوف ہے لَوْ اَخْرَجُوْكَ، لَا يَلْبَثُوْنَ فعل وَاو ضمیر فاعل خِلْفَكَ مرکب انسانی مفعول بہ، اِلَّا حرف استثناء قَلِيْلًا بواسطہ موصوف محذوف و مَا اَتَاكَ کے مفعول یہ جانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر اِنْ کاڈوا پر معطوف ہے۔

**سُنَّةً مِّنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَا لَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا اَتْخُوْا يَلًا ۝**

**آیت نمبر ۷۷:** سُنَّةً مَّضَاهٍ مِّنْ اِسْم موصول قَدْ عَلِمْتَ فعل اَرْسَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل قَبْلَكَ مرکب انسانی مفعول بہ، مِّنْ حرف جار و رُسُلِنَا مرکب انسانی بجز و جہا بجز و طرف مستقر کاڈینا کے متعلق ہو کر اَرْسَلْنَا کے مفعول محذوف اے ضمیر سے حال ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول بصلہ مَضَاهٍ اے پھر مرکب انسانی مفعول مطلق ہے فعل محذوف سَلَّتْنَا کا، فعل بافاعل و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عاقلہ لَا تَجِدُ فعل آتے مستتر فاعل لَاهُ حرف جار سُنَّتِنَا مرکب انسانی بجز و جہا بجز و طرف مستقر کاڈینا کے متعلق ہو کر مفعول بہ جانی مقدم اَتْخُوْا يَلًا مفعول بہ اَوَّلِ مَوْخِر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف

جملہ مستأنفہ ہو۔

● رُكُوعُ نَمْبِرٍ ۹ ●

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُنُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۱۵

آیت نمبر ۷۸: اَقِمِ فعل امر آت مستتر قائل الصَّلَاةَ معطوف علیہ، وَاوُعاظفہ قُرْآنَ الْفَجْرِ مرکب انشائی معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ، بلاء حرف جاد لُؤكِ الشَّمْسِ مرکب انشائی مجرور، جاد با مجرور ظرف لغو متعلق اذل ہوئے، اِن حرف جاد غَسَقِ اللَّيْلِ مرکب انشائی مجرور، جاد با مجرور ظرف لغو متعلق ثانی ہوئے، فعل امر اِن حرف جاد مَشْهُودًا مفعول بہ، و متعلقین جملہ انشائیہ امر یہ ہو۔ اِن حرف متعلق قُرْآنَ الْفَجْرِ مرکب انشائی اس کا اسم کان فعل ناقص هُوَ مستتر اس کا اسم مَشْهُودًا اسم مفعول هُوَ ضمیر مستتر واجب قائل سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ مِمَّا عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۱۶

آیت نمبر ۷۹: وَاوُعاظفہ مِنَ اللَّيْلِ جاد با مجرور متعلق ہوئے فعل محذوف اِنشائی ہذا فعل محذوف قَمَرٌ کے معنی فعل امر اپنے قائل و متعلق سے مل کر معطوف علیہ مقام فَتَهَجَّدْ فعل امر آت ضمیر مستتر قائل یہ جاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَقِمِ ہر معطوف ہے، نَافِلَةً مصدر لک جاد با مجرور اس کے متعلق ہوئے، مصدر با متعلق مفعول مطلق ہے فعل محذوف تَتَّقَنَّ كَا، عَسَىٰ فعل تام اِن حرف مصدری و نصب يَبْعَثُ فعل کل ضمیر منصوب مفعول بہ رَبُّكَ مرکب انشائی قائل مَقَامًا مَّحْمُودًا مرکب توصیفی مفعول فیہ، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتوکل مصدر عَسَىٰ کا قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ معللہ ہو۔

وَقُلْ رَبِّ اذْخُلْنِيْ مِنْ دَخْلِ صِدْقٍ وَّاٰخِرِ حَيٰتِيْ مُخْرَجِ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۱۷

آیت نمبر ۸۰: وَاوُعاظفہ قُلْ فعل امر آت مستتر قائل سے مل کر قول رَبِّ یہ اصل میں یَا رَبِّ ہے، یہاں حرف ندا اذْخُوع کے قائم مقام اذْخُوع فعل اَنَّا ضمیر قائل و بقی مرکب انشائی، مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، اذْخُلْ فعل امر آت مستتر قائل لون و قایہ کا یہاں ضمیر مفعول بہ مُدْخَلِ صِدْقٍ مرکب انشائی مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ امر یہ ہو کر معطوف علیہ، وَاوُعاظفہ اَخْرَجْ فعل امر آت مستتر قائل لون و قایہ کا یہاں ضمیر مفعول بہ مُخْرَجِ صِدْقٍ مرکب انشائی مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ امر یہ ہو کر معطوف اذل وَاوُعاظفہ اَجْعَلْ فعل امر آت مستتر قائل بی جاد با مجرور طرف مستتر کائِنَا کے متعلق اذل ہوئے، وین حرف جاد لَدُنْكَ مرکب انشائی مجرور، جاد با مجرور پہلے والے کائِنَا کے متعلق ثانی ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا امر مرکب توصیفی مفعول بہ اذل مَوْجَر، فعل با قائل و مفعولین جملہ انشائیہ امر یہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوفہ ہو کر جواب ندا، ندا با جواب جملہ انشائیہ ندا یہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امر یہ ہو کر اَقِمِ ہر معطوف ہے،

**وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝**

**آیت نمبر ۸۱:** او او عطف کا فعل امر آتے مستتر قائل سے ل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول جَاءَ الْحَقُّ فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو او او عطف زَهَقَ الْبَاطِلُ فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ معطوف ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو اور ان حرف تحقیق الْبَاطِلُ اس کا اسم گان فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم زَهُوقًا خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ امریہ خبریہ معلومہ ہو۔

**وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝**

**آیت نمبر ۸۲:** او او استغنیہ نَزَّلُ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر قائل مِنَ الْقُرْآنِ جدا یا مجرور متعلق ہوئے ماسو موصول ہو ضمیر مبتدہ، شِفَاءٌ معطوف علیہ، او او عطف رَحْمَةٌ موصوف لہ حرف جدا الْمُؤْمِنِيْنَ مجرور، جدا یا مجرور طرف مستتر کائنات کے متعلق ہو کر مفت، موصوف بہ صفت معطوف، معطوف علیہ یا معطوف خبر، مبتدہ یا خبر جملہ امریہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول یا صلہ موصول، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او او عطف لَا يَزِيْدُ فعل ہو ضمیر قائل الظَّالِمِيْنَ مفعول بہ اِذَا لہ حرف استثناء خَسَارًا اسٹیشن مفرغ ہو کر مفعول بہ جانی فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جملہ متعلقہ ہو۔

**وَ اِذَا اَنعَمْنَا عَلٰی الْاِنسَانِ اَعْرَضَ وَ تَابَ بِنَانِيْهِ ۝ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝**

**آیت نمبر ۸۳:** او او عطف اِذَا اَشْرَطِيْہ مفعول فیہ مقدم اَنعَمْنَا فعل تَا ضمیر قائل عَلٰی الْاِنسَانِ جدا یا مجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اَعْرَضَ فعل ہو ضمیر قائل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ او او عطف تَابَ فعل ہو ضمیر قائل بہ حرف جدا جَانِيْہ مرکب اضافی مجرور، جدا یا مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ او او عطف اِذَا اَشْرَطِيْہ مفعول فیہ مقدم مَسَّ فعل تَا ضمیر مفعول بہ الشَّرُّ قائل، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اَنَّكَان فعل ناقص ہو ضمیر اس کا اسم يَئُوسًا خبر، فعل ناقص یا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف نَزَّلُ پر معطوف ہے۔

**قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰی شَاكِرَتِيْهِ ۝ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَن هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۝**

**آیت نمبر ۸۴:** قُلْ فعل امر آتے مستتر قائل سے ل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر قول، کُلٌّ مبتدہ اَيَّ شَيْءٍ فعل ہو ضمیر قائل عَلٰی حرف جدا شَاكِرَتِيْہ مرکب اضافی مجرور، جدا یا مجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدہ یا خبر جملہ امریہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مقادہ عطف رَبُّكُمْ مرکب اضافی مبتدہ اَعْلَمُ اسم تفضیل ہو ضمیر قائل، بہ حرف جدا مَن موصول ہو ضمیر مبتدہ اَهْدٰى اسم تفضیل ہو ضمیر قائل سَبِيْلًا خبر، اسم تفضیل باقاعل و تیز شدہ جملہ ہو کر خبر، مبتدہ یا خبر جملہ امریہ خبریہ صلہ، موصول یا صلہ مجرور، جدا یا مجرور متعلق ہوئے اَعْلَمُ اسم تفضیل باقاعل و متعلق شدہ جملہ ہو کر رَبُّكُمْ کی خبر، مبتدہ یا خبر جملہ امریہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ متعلقہ ہو۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

**آیت نمبر ۸۵:** او! استیجا نہ کیسے تُوْن فعل داؤ ضمیر فاعل کاف ضمیر منصوب مفعول بہ عن الرُّوح جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوئے قُل فعل امر اکت ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، الرُّوح مبتدأ، من حرف جار افعیٰ منصوب، رُبّی مرکب اضافی مضاف الیہ، بجر مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستتر کا کائن کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ موقولہ، قول با موقولہ جملہ انشائیہ متانفہ ہوئے او! استیجا نہ یا عاطفہ مانا فی اُوْتِيتُمْ فعل مجہول تُم ضمیر متبوع فاعل من العلم جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَلْا حرف استیثنا، قَلِيْلًا مفعول بہ، فعل مجہول بہا با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہے یا الرُّوح پر موقوف ہے۔

وَلَمَّا سَأَلْنَا كَذٰهَبَيْنَ اِلٰى اَيِّ دِيْنٍ اٰتٰوْا حِيْنَئِذَا اَلَيْكَ تَمَّةٌ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلِيْمًا وَّ كَيْلًا ۝

**آیت نمبر ۸۶:** او! استیجا نہ لاکھ موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے ان حرف شرطیہ تَمَّةٌ فعل تا ضمیر فاعل، دو نون مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لاکھ جوابیہ کَذٰهَبَيْنَ فعل تَخُنْ مستتر فاعل بناء حرف جار اَلَّذِيْن اسم موصول فاعل تا ضمیر فاعل اَلَيْكَ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق صلہ موصولہ باصلہ مجرور، جار مجرور کَذٰهَبَيْنَ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب جملہ انشائیہ تسمیہ ہوئے اور شرط کی جزاء محذوف ہے، جس پر جواب قسم دال ہے، تَمَّةٌ حرف عطف لا تَجِدُ فعل اکت ضمیر مستتر فاعل لَكَ جار مجرور کا کائنات کے متعلق ہوئے یہ جار مجرور کا کائنات کے متعلق ہوئے پھر وہ لا تَجِدُ کا مفعول بہ جانی مقدم ہے عَلَيْنَا جار مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم و کَيْلًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مفعول بہ اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین جملہ تسمیہ پر موقوف ہے۔

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۝

**آیت نمبر ۸۷:** اَلْا حرف استیثنا رَحْمَةً موصوفہ من حرف جار رَبِّكَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر مفت، موصوفہ بافت و کَيْلًا کا مستطی منقطع ہے، اور عندا بعض فعل محذوف و حِيْنَئِذَا کا مفعول مطلق ہے، یا فعل محذوف حِيْنَئِذَا کا مفعول لہ ہے، اِنَّ حرف تحقیق فَضْلُهُ مرکب اضافی اس کا اسم کان فعل ناقص هُو ضمیر اس کا اسم عَلَيكَ جار مجرور ظرف لغو متعلق مقدم ہوئے کَبِيْرًا صیغہ مفت هُو ضمیر مستتر فاعل و متعلق مقدم سے مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے، پھر اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاتُوْا بِبَيِّنٰتٍ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لَا يَأْتُوْنَ بِبَيِّنٰتٍ

وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرِيْنَ ۝

**آیت نمبر ۸۸:** قُلْ اِنَّ اَمْرًا اَكْت ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، لاکھ موطنہ القسم اور قسم محذوف ہے اِنَّ حرف

شرطا جتعت لعل الإنس والجن معطوف علیہ با معطوف قائل علی حرف جلد ان حرف مصدری و نصب یا تاء اول واو ضمیر قائل بآء حرف جلد و مثل مضاف لهذا القرآن مرکب تو صبی مضاف الیہ پھر مرکب انسانی مجرور، جلد با مجرور ظرف لغوی تاکوا کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق بتعلیل مصدر علی کا مجرور، جلد با مجرور ظرف لغوی جتعت کے متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لایا تاکون فعل واو ضمیر قائل بآء حرف جلد و مثلہ مرکب انسانی مجرور، جلد با مجرور ظرف لغوی متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ جو اب قسم ہے، اور شرط کی جزاء مخدوف ہے، جس پر جواب قسم ال ہے، پھر قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوا و او علیہ لؤ حرف شرط کا کن فعل ناقص بضعہ ہمز مرکب انسانی اس کا لام یبغض جلد با مجرور ظرف لغوی متعلق مقدم کلھیذا مینہ صفت ہو ضمیر مستتر قائل، مینہ صفت با قائل و متعلق مقدم شبہ جملہ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط و جزاء مخدوف ہے لایا تاکون و مثلہ، شرط با جزاء مخدوف ہو کر لایا تاکون کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿۱۰۹﴾

**آیت نمبر ۱۰۹:** واوستایا فی لآء اور قسم مخدوف ہے قذ علامت فعل صرّفنا قائل تا ضمیر قائل للناس جلد با مجرور ظرف لغوی متعلق اول ہوئے فی حرف جملہ هذا القرآن مرکب تو صبی یا سیدل منہ پنے بدل سے ل کر مجرور، جلد با مجرور ظرف لغوی متعلق تاکوا کے متعلق ہو کر متکلم موصوف مخدوف کی صفت ہے، پھر مرکب تو صبی صرّفنا کا مفعول ہے، فعل با قائل و متعلقین و مفعول بہ ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ بقاء عاطفہ الی فعل انکرو الناس مرکب انسانی قائل لآء حرف استثناء کفؤوا مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا۔

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُؤًا ﴿۱۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۱۰:** واوستایا فی قائلوا فعل واو ضمیر قائل، دونوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ان تؤمن فعل تفعّل مستتر قائل لک جلد با مجرور ظرف لغوی متعلق اول ہوئے، حتّٰی حرف غایت و جزا اس کے بعد ان مقدر ہے ففجور فعل آت ضمیر مستتر قائل لکنا جلد با مجرور ظرف لغوی متعلق اول ہوئے، من الأرض جلد با مجرور ظرف لغوی متعلق ثانی ہوئے ینبؤا مفعول بہ ہے، فعل با قائل و مفعول بہ و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ بنا و ل مصدر مجرور، جلد با مجرور ظرف لغوی متعلق ثانی کے متعلق ثانی ہوئے، فعل با قائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متلافہ ہوا۔

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعَيْنٌ فَتَفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿۱۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱۱:** واو حرف عطف تکتون فعل ناقص لک جلد با مجرور ظرف لغوی متعلق تاکون ہو کر خبر مقدم جنة موصوف موصوف موصوف حرف جلد نجیل و عین با معطوف علیہ با معطوف مجرور، جلد با مجرور ظرف لغوی متعلق تاکون کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت اسم مؤنر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بقاء عاطفہ ففجور فعل آت ضمیر مستتر قائل الأنهار مفعول بہ خیلها مرکب انسانی مفعول فیہ، ففجیرا مفعول مطلق، فعل با قائل و مفاعیل ثلاث معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف ففجور پر معطوف ہے۔

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِنَالِهِ وَالْمَلِكَةِ قَبِيلًا ﴿۹۲﴾

**آیت نمبر ۹۲:** او حرف عطف تسقیط فعل آت ضمیر مستتر فاعل السماء مفعول بہ کان حرف جار مصدریہ زعمت فعل ثانیہ مفتوح ضمیر فاعل، دونوں مل کر بتا ویں مصدر مجرد، جار باجر و طرف مستقر کاؤٹا کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف محذوف اشفاقا کے مفعول مطلق ہے علیکنا جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے کسفا یہ اصل میں ذات کسفیہ ہے اور یہ السماء کا حال ہے، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ اَوْتُكُونُ لَكَ پر معطوف ہے۔ او حرف عطف تاتی فعل آت ضمیر مستتر فاعل بآء حرف جار اللہ وَالْمَلِكَةِ معطوف علیہ با معطوف ذوالحال قبیلًا حال، ذوالحال باحال مجرد، جار باجر و طرف لغو تاتی کے متعلق ہوئے، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تسقیط پر معطوف ہے۔

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُرْحٍ أَوْ تَرْفِي فِي السَّمَاءِ طَوْ كُنْ تُؤْمِنُ لِيُوقِيكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ

عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُكَ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿۹۳﴾

**آیت نمبر ۹۳:** او حرف عطف یكون فعل ناقص لکے جار باجر و طرف مستقر کاؤٹا کے متعلق ہو کر خبر مقدم بیتیٹ موصوف من زورجی جار باجر و طرف مستقر کاؤٹوں کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تاتی پر معطوف ہے۔ او حرف عطف ترفی فعل آت ضمیر مستتر فاعل فی السماء جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یكون لکے پر معطوف ہے، او حرف عطف ان تؤمن فعل کھن مستتر فاعل لآء حرف جار یوقیک مرکب اضافی مجرد، جار باجر و طرف لغو متعلق اول ہوئے حقیقی حرف نایب و جز اول اس کے بعد ان مقدم ہے تَنْزِلَ فعل آت ضمیر مستتر فاعل عَلَيْنَا جار باجر و طرف لغو متعلق ہوئے کِتَابًا موصوف نَقْرُؤُكَ فعل کھن مستتر فاعل یا ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل اپنے فاعل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتا ویں مصدر مجرد، جار باجر و طرف لغو مؤمن کے متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ترفی پر معطوف ہے۔

قُلْ فعل امر آت مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول سُبْحَانَ مضاف ترفی مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ ہے فعل محذوف اسْتَبِیحَ کا اسْتَبِیحَ فعل ناقص ضمیر مستتر فاعل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ معترضہ دعائیہ ہو لکن حرف استفہام کُنْتُ فعل ناقص تاکہ مضمومہ ضمیر مرفوع اس کا اسم الا حرف استثناء بَشَرًا رَسُولًا مرکب توصیفی مستثنیٰ مفرغ ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ انشائیہ استفہامیہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

﴿۹۳﴾ رُكُوْعٌ نُّمْرًا ۱۱

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا آتَيْتَ اللَّهُ بِشَرًّا ﴿۹۴﴾

**آیت نمبر ۹۴:** وَاوَاتَيْنَاهُ مَا نَفِي مَنَعَ فعل الناس مفعول بہ اول، ان حرف مصدری و نصب يُؤْمِنُوا فعل اول ضمیر فاعل اذ

طرف زمان منصف چہاں فعل ہُمّ ضمیر منسوب مفعول بہ الہدای مرفوع تقدیراً قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منصف علیہ، بحر مرکب اضافی یُؤْتُوْا اَکَامِفْعُولِ فِیہ ہے، فعل ہا با قائل و مفعول فیہ بتولید مصدر مَنَعَ کَا مَفْعُولِ بِہ ثانی ہے لِآ حَرْفِ اسْتِمْنَانِ حَرْفِ مَعْدَرِ قَالُوْا فِعْلٌ بَدَاوِہ ضَمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ہمدردی حَرْفِ اسْتِقْبَامِ بَعَثَ فِعْلٌ اَللّٰہِ اِسْمُ الْجَلَالِ قائل بَقَرًا حَالِ مَقْدَمِ رَسُوْلًا ذَوَالِ اِلْحَالِ مَوْخَرٌ ذَوَالِ اِلْحَالِ مَفْعُولِ بِہ، فعل ہا با قائل و مفعول بہ جملہ انشائیہ استنبہامیہ مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتولید مصدر سَطَّحَ مَفْرَعٌ ہو کر مَفْرَعًا مَرْفُوعٌ مَنَعَ کَا قائل مَوْخَرٌ ہے، فعل ہا با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْسُوْنَ مُظْهِمَاتَيْنِ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِنَّ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا

رَسُوْلًا ﴿۹۵﴾

آیت نمبر ۹۵: قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْسُوْنَ مُظْهِمَاتَيْنِ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِنَّ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا مَفْرَعًا مَوْخَرًا مَلَكًا مَقْدَمِ مَوْصُوفٍ يَّمْسُوْنَ فِعْلٌ ذَاؤٌ ضَمِيرٌ ذَوَالِ اِلْحَالِ مُظْهِمَاتَيْنِ اِسْمٌ قَائِلٌ هُمُّ ضَمِيرٌ مَسْتَرٌ قَائِلٌ، دُولُوں مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذَوَالِ اِلْحَالِ بِحَالِ يَّمْسُوْنَ كَا قَائِلٌ، فعل ہا با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، مَوْصُوفٍ بِصِفْتِ كَانِ كَا اِسْمٌ مَوْخَرٌ، فعل ہا با قائل و خبر جملہ خبریہ ہو کر شرط بلاکہ جوابیہ لَنَزَلْنَا فِعْلٌ كَا ضَمِيرٌ قَائِلٌ عَلَيْهِمْ جَدِ بِحَرْفِ لَوْ حَرْفِ لَوْ حَرْفِ اَلْوَقْتِ اَدَلِ ہوئے، مِنَ السَّمَاءِ جَدِ بِحَرْفِ لَوْ حَرْفِ لَوْ حَرْفِ اَلْوَقْتِ ثانی ہوئے، مَلَكًا حَالِ مَقْدَمِ رَسُوْلًا ذَوَالِ اِلْحَالِ مَوْخَرٌ، ذَوَالِ اِلْحَالِ بِحَالِ لَنَزَلْنَا كَا مَفْعُولِ بِہ، فعل اپنے قائل و متعلقین و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، جَزَاءٌ بِحَرْفِ اِلْحَالِ جَدِ بِحَرْفِ لَوْ حَرْفِ لَوْ حَرْفِ اَلْوَقْتِ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿۹۶﴾

آیت نمبر ۹۶: قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْسُوْنَ مُظْهِمَاتَيْنِ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِنَّ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا مَفْرَعًا مَوْخَرًا مَلَكًا مَقْدَمِ مَوْصُوفٍ يَّمْسُوْنَ فِعْلٌ ذَاؤٌ ضَمِيرٌ ذَوَالِ اِلْحَالِ مُظْهِمَاتَيْنِ اِسْمٌ قَائِلٌ هُمُّ ضَمِيرٌ مَسْتَرٌ قَائِلٌ، دُولُوں مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذَوَالِ اِلْحَالِ بِحَالِ يَّمْسُوْنَ كَا قَائِلٌ، فعل ہا با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔ اِنَّ حَرْفِ تَحْقِيْقِ ؕ ضَمِيرٌ اِسْمٌ كَانِ كَا قَائِلٌ هُمُّ مَسْتَرٌ اِسْمٌ كَامٌ بِحَالِ حَرْفِ رَجْعِيَّةٍ بِحَالِ حَرْفِ رَجْعِيَّةٍ مَرْكَبٌ اِسْمَانِيٌّ جَرُورٌ، جَدِ بِحَرْفِ لَوْ حَرْفِ لَوْ حَرْفِ اَلْوَقْتِ يَمْسُوْنَ قَائِلٌ و متعلق مقدم سے مل کر خبر ذوال بصیرتو خبر ثانی، فعل ہا با قائل و خبر جملہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیان ہاسم خبر جملہ اسامیہ خبریہ معللہ ہوں۔

وَمَنْ يَّقِدِ اللّٰهُ فَهٗوَ الْهٖتَدٰى ۚ وَ مَنْ يُّضَلِّ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ ۗ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عُلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا ۚ وَ بَكْمًا ۚ وَ صَمًا ۚ وَ مَا لُوْهُمُ مِنْ جَهَنَّمَ ۙ اَكْثَمًا

حَبَّتْ زِدْنَهُمْ سَعِيْرًا ﴿۹۷﴾

آیت نمبر ۹۷: وَاُوْتِيَ اِيْنِ فِی مَن اِسْمٌ شَرْطِ مَفْعُولِ بِہ مَقْدَمِ يَقِدِی فِعْلٌ اَللّٰہِ اِسْمُ الْجَلَالِ قائل، فعل ہا با قائل و مفعول بہ مقدم جملہ فعلیہ خبریہ شرط مقامہ جزائیہ ہو ضمیر مبتدأ اَلْهٖتَدٰى ہا صل میں اَلْهٖتَدٰى ہی ہے تخفیف کیلئے کتابت سے یہاں حذف کی گئی ہے، اور یہ اسم قائل

ہے، ضمیر مستتر فاعل دونوں مل کر خبر ہے، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاہ، شرط با جزاء معطوف علیہ، واو عاطفہ من اسم شرط مفعول بہ مقدم مضمین لعل، ضمیر مستتر فاعل، فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عقابہ جزیاتیہ کن تکید لعل اکت ضمیر مستتر فاعل لہذا جار مجرور ظرف مستقر کا کتنا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم اولیاً ساء موصوف من حرف جار و اولیہ مرکب انشائی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کا کتنا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ اول مؤخر، فعل اپنے فاعل و مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہو۔

واو استثنیہ بخشہ فعل نَحْنُ ضمیر مستتر فاعل هُمْ ضمیر منسوب ذوالحال علی حرف جار و جُوْهُ هُمُ مرکب انشائی مجرور، جار مجرور طرف مستقر متاخرین کے متعلق ہو کر حال اول، مضمیناً یُکْمَلُ مَا صُنِّمًا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر حال ثانیہ ہے، ذوالحال ہمالین بخشہ کا مفعول بہ ہے، یَوْمَ الْقِيَمَةِ مرکب انشائی مفعول فیہ ہے، فعل با فاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو لعل مَا و هُمْ مرکب انشائی مبتدا، جھنڈہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہے یا بخشہ هُمْ کی ضمیر مفعول سے حال ثالثہ ہے۔ کَمَا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم حَبِثَ فعل ہی مستتر فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط و ذکا فعل تا ضمیر فاعل هُمْ ضمیر مفعول بہ اول مفعول مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ خبریہ جزاہ، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر جھنڈہ کا حال ہے۔

ذٰلِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ بِآنَهُمْ كَفَرُوا بِالْاٰیٰتِنَا وَاٰلِآءِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّوَفَا تَاءِ اِنَّا لَمَبْعُوْتُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝۹۸

آیت نمبر ۹۸: ذٰلِكَ اسم اشارہ بدل منہ جَزَاءُ وَّهُمْ مرکب انشائی بدل، بدل منہ بادل مبتدا، پتاکہ حرف جر ان حرف تحقیق هُمْ ضمیر منسوب اس کا اسم کَفَرُوا فعل واو ضمیر فاعل، پتاکہ حرف جر اٰیٰتِنَا مرکب انشائی مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ قَالُوْا فعل واو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ہمزہ حرف استفہام اِذَا ظرف زمان منفک کُنَّا فعل تا ضمیر اس کا اسم عِظَامًا وَّوَفَا تَاءِ معطوف علیہ با معطوف خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ منفک ایہ پھر مرکب انشائی مفعول فیہ ہے فعل منصرف ثَبَّتْ کا ثَبَّتْ فعل مجہول نَحْنُ ضمیر مستتر باب فاعل، فعل مجہول باب فاعل و مفعول فیہ جملہ انشائی ہو کر مؤخر ہمزہ حرف استفہام اِن حرف تحقیق تا ضمیر اس کا اسم لامر مہملہ مَبْعُوْتُوْنَ اسم مفعول نَحْنُ مستتر باب فاعل خَلْقًا جَدِيْدًا مرکب وصفی مفعول مطلق من ضمیر لفظ، اسم مفعول باب فاعل و مفعول مطلق شہ جملہ ہو کر خبر بان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مؤخر، مؤخر با ضمیر مقولہ، قول با مقولہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اَن کی خبر اَن با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتلاوی مفرد مجرور، جار مجرور طرف مستقر کا کتن کے متعلق ہو کر ذٰلِكَ کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

اَوْ لَمْ يَزِدْوا اِنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَّجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ ۝۹۹ فَاَبٰى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفْرًا ۝

آیت نمبر ۹۹: ہمزہ حرف استفہام واو استثنائی اور اگر واو عاطفہ ہو پھر معطوف علیہ منصرف ہو گا لَمْ يَتَّفَكَوْا اَلَمْ يَزِدْوا فعل



داؤمیر قائل ہے کہ حرف تحقیق اللہ کا اسم الجلالہ موصوفہ الیٰذی اسم موصول خَلَقَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف معقول ہے، فعل با قائل و معقول ہے جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصولہ باملا اللہ کی صفت، موصوفہ باصفت اَنَّ کلام قَائِدِ اسم قائل ہو ضمیر مستتر قائل علی حرف جہا اَنَّ حرف مصدری و نصب یَخْلُقُ فعل ہو مستتر قائل یَسْئَلُهُمْ رَبُّكَ عَنْ اَسْمَانِ معقول ہے، فعل با قائل و معقول ہے جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدری مجرور، جہا با مجرور در ظرف لَوْ قَائِدِ کے متعلق ہے، اسم قائل با قائل و متعلق ہے جملہ ہو کہ اَنَّ کی خبر، اَنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کہ تاویل مفرد لَمْ یَكُنْ وَاكْ کے دو معقول کے قائم مقام، فعل با قائل و معقولین جملہ انشائیہ متانفہ ہے، با معطوف علیہ مخدوف پر معطوف ہے۔

واو عاطفہ جَعَلَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل اَلْجَبَدِ با مجرور در ظرف مستقر کَائِنِ کے متعلق ہو کہ معقول ہے جانی مقدم اَجَلًا موصوفہ لا لثنی جنس زینب اس کلام فِیْہِ جہا با مجرور در ظرف مستقر کَائِنِ کے متعلق ہو کہ خبر بلا لثنی جس با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کہ اَجَلًا کی صفت، موصوفہ باصفت معقول ہے اَوَّلِ مَوْثِرٍ، جَعَلَ فعل اپنے قائل و معقولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ معطوف علیہ مَعَادٍ معطوف آتی فعل الظُّلْمُونَ قائل بِالْاَحْرَفِ اسْتِثَاءً كَقَوْلِ اسْتِثْنَاءِ مَفْرُغٌ ہو کہ معقول ہے، فعل با قائل و معقول ہے جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف خَلَقَ پر معطوف ہے۔

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَنْبَلُكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اِذَا لَمْ يَسْئَلْكُمْ خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ لَوْ كَانَ الْاِنْسَانُ قَنْتُوْرًا ﴿ ۱۰ ﴾

آیت نمبر ۱۰: قُلْ فعل امر اَلْكَتَمِ ضمیر مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کہ قول، لَوْ حرف شرط اَلْكَتَمِ اسم ہے فعل مخدوف گان کا، تَنْبَلُكُونَ فعل داؤمیر قائل خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ مرکب انشائی و رَحْمَةِ كَمَا مَصْنَعِ اَلِیْہِ پھر مرکب انشائی خَزَايِنَ كَمَا مَصْنَعِ اَلِیْہِ، پھر مرکب انشائی تَنْبَلُكُونَ کا معقول ہے، فعل با قائل و معقول ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ گان مخدوف کی خبر ہے، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ شرط باء اَحْرَفِ جواب و جزاء مہملہ بلاہر جوابیہ اَمْسَكْتُمْ فعل كُنْ ضمیر قائل خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ مرکب انشائی معقول ہے، فعل با قائل و معقول ہے جملہ فعلیہ خبریہ جزاء ہے، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔ واو استیجابی گان فعل ناقص الْاِنْسَانِ اس کلام قَنْتُوْرًا صفت مشبہ ہو ضمیر مستتر قائل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہو۔

﴿ ۱۲ ﴾ رکوع نمبر ۱۲

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُؤَسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسَلْنَا بَنِيَّ اِسْرَآءِيْلَ اِذَا جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَأَكْبَرُكَ اَيُّوَسَىٰ مَسْحُوْرًا ﴿ ۱۰ ﴾

آیت نمبر ۱۰: واو استیجابی لَمْ يَكُنْ مَوْثِرٍ لِقَمِ اور قسم مقدر ہے قَدْ علامت فعل اَتَيْنَا فعل ناقص مؤسٰی قائل مؤسٰی منصوب تقریر معقول ہے اَوَّلِ، تِسْعَ مَصْنَعِ اَيُّوَسَىٰ بَيِّنَاتٍ مرکب لامعنی مَصْنَعِ اَلِیْہِ، پھر مرکب انشائی معقول ہے جانی، فعل با قائل و معقولین جملہ فعلیہ

خبر یہ ہو کر جواب قسم، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہو لہذا یہ آیتیں اور اس کی شرط محذوف ہے۔ اِذَا جَاءَكَ بِنُورٍ اِسْرَآءٍ اِسْتَنْسَلْ  
فصل امر آت کر ضمیر مستتر قائل یعنی اِسْرَآءٍ اِسْرَآءٍ مرکب اضافی مفعول بہ، فعل امر با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر جزاء، شرط محذوف  
لہذا جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو۔

اِذْ عَرَفَ نَارًا مَضَىٰ جَاءَ فَاعِلٌ هُوَ ضمیر مستتر قائل هُمُ ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فہما  
عاطفہ قَالَ فعل اَلْجَدْبَا بِمَجْرُورٍ طرف لغو متعلق ہوئے فِرْعَوْنُ فاعل، فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اِنْ حرف تحقیق یَاہ ضمیر  
اس کا اسم لاہر مذمقہ برائے تاکیدی اَلْكُنُّ فاعل اَنَا ضمیر مستتر قائل کاف ضمیر مفعول بہ اَوَّلُ مَسْجُوْرًا مفعول بہ ثانی، فعل اپنے فاعل و مفعولین  
سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جواب نداء مقدم، یَاہ حرف نداء اَذْعُوْا کے قائم مقام اَذْعُوْا فعل اَنَا ضمیر مستتر قائل مَوْسٰی عَلَا مفعول مفعول بہ،  
فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نداء مؤخر، نداء باجواب خبر ہے اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ  
جَاءَ پر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف اِذَا کا مضامین ہے، پھر مرکب اضافی اَتَيْنَا کا مفعول فیہ ہے۔

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا اَنْزَلْنَا هُوَ اِلَّا رُبَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بِصَآءِرٍ ۚ وَ اِنِّيْ لَآكٰثِرٌ

آیت نمبر ۱۰۲: قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا اَنْزَلْنَا هُوَ اِلَّا رُبَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ بِصَآءِرٍ ۚ وَ اِنِّيْ لَآكٰثِرٌ  
متنوع ضمیر قائل مَا نَا اَنْزَلْنَا فعل هُوَ اِلَّا رُبَّ عَلَا مفعول بہ مقدم اِلَّا حرف استثناء رُبَّ مضاف السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مفعول علیہ با  
معطوف مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر اَنْزَلْنَا کا فاعل ہے، بِصَآءِرٍ ۚ هُوَ اِلَّا سے حال ہے، اَنْزَلْنَا فعل با فاعل و مفعول  
بہ تکیلت کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم باجواب جملہ انشائیہ قسمیہ معطوف علیہ، وَاُوَا مَعْلٰقِنَا حرف  
تحقیق یَاہ ضمیر اس کا اسم لاہر مذمقہ اَلْكُنُّ فاعل اَنَا ضمیر مستتر قائل کاف ضمیر مفعول بہ اَوَّلُ مَسْجُوْرًا مفعول بہ ثانی، فعل با فاعل و مفعولین جملہ  
فعلیہ خبریہ جواب نداء مقدم یُفِرُّ عَوْنٌ کی ترکیب مَوْسٰی کی طرح ہے، اور یہ نداء ہے، پھر دونوں مل کر خبر ہے اِنْ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ  
ہو کر معطوف ہے، پھر معطوف علیہ با معطوف مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ یا مستأنف ہے۔

فَاَرَادٰنِ يَسْتَفِيْرُهُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَاَعْرَقْنٰهُ وَ مِنْ مَّعٰهٖ جَبِيْعًا ۝

آیت نمبر ۱۰۳: فَاَرَادٰنِ يَسْتَفِيْرُهُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَاَعْرَقْنٰهُ وَ مِنْ مَّعٰهٖ جَبِيْعًا ۝  
اَلْاَرْضِ جَدْبَا بِمَجْرُورٍ طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر اَرَادَ کا مفعول بہ، فعل با فاعل  
و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فہما اَعْرَقْنَا عَلَا مفعول علیہ اَعْرَقْنَا فعل اَنَا ضمیر قائل ضمیر مفعول بہ اَوَّلُ مَسْجُوْرًا مفعول بہ ثانی، فعل اپنے فاعل و مفعولین  
مرکب اضافی فعل محذوف تَكْتَبُ کا مفعول فیہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ ذوات اِلٰل جَبِيْعًا اِلٰل جَبِيْعًا اِلٰل با حال معطوف، معطوف علیہ با معطوف  
اَعْرَقْنَا کا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَرَادَ پر معطوف ہے، پھر معطوف علیہ با معطوف قَالَ پر معطوف ہے۔

وَ قُلْنَا مَنْ بَعْدِهٖ لِيَتَّبِعْ اِسْرَآءِيْلَ اَسْكُنُوْا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا



واو ضمیر نائب قائل الْعَلَمُ مفعول بہ، یعنی حرف جار قبیلہ مرکب انسانی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجهول نائب قائل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول یا صلہ ان کا اسم یا کا شرطیہ مفعول فیہ مقدم یعنی فعل مجهول ہو ضمیر نائب قائل عَلَیْهِمْ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجهول نائب قائل و مفعول فیہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطیہ یَخْرُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال سَجْدًا حال، ذوالحال با حال قائل، لاہر حرف جار اَلذَّقَانِ مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر ان کی خبر بیانِ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ ہوں

وَيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: ۱۰۸: واو عاقلہ یا عالیہ يَقُولُونَ فعل واو ضمیر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول بیانِ مضاف من الشكلیہ ضمیر شان مقدم اس کا اسم کان فعل ناقص وَعْدٌ مضاف و ربتنا مرکب انسانی مضاف الیہ، پھر مرکب انسانی کان کا اسم، لاہر قدرہ مَفْعُوْلًا اسم مفعول ہو ضمیر مستتر نائب قائل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیانِ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مطلقہ، قول با مقولہ یَخْرُوْنَ پر معطوف ہے یا یَخْرُوْنَ کی ضمیر قائل سے حال ہے سُبْحٰنَ رَبِّنَا مرکب انسانی فعل محذوف سَبَّحْنَا کا مفعول مطلق ہے، سَبَّحْنَا فعل ناقص ضمیر قائل، فعل با قائل و مفعول مطلق جملہ مترشحہ ہوں

وَيَخْرُوْنَ لِاَلذَّقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ حُشُوْعًا ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: ۱۰۹: واو عاقلہ یَخْرُوْنَ فعل واو ضمیر ذوالحال يَبْكُوْنَ فعل واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاقلہ یَزِيْدُ فعل ناقص ہو ضمیر قائل هُمْ ضمیر مفعول بہ اذل حُشُوْعًا مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال ہے، ذوالحال با حال یَخْرُوْنَ کا قائل ہے، بل اَلذَّقَانِ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ پہلے یَخْرُوْنَ پر معطوف ہے

قُلِ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَا تَدْعُوْا فَكُلُّ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰى ؕ وَلَا تَجْهَرُوْا بِصَلٰتِكُمْ وَلَا تَخٰفَتْ بِهَا وَاَبْتَغْ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿۳۳﴾

آیت نمبر ۳۳: ۱۱۰: قُلْ فعل امر آتت ضمیر مستتر قائل، دونوں مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول اَدْعُوا فعل امر واو ضمیر قائل اللّٰه اسم الجلال مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف اَدْعُوا فعل امر واو ضمیر قائل الرَّحْمٰن مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ معطوف، پھر معطوف علیہ با معطوف مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں اَيًّا اسم شرط مفعول بہ مقدم، محارف تاکد تکن عُوَا فعل واو ضمیر قائل، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ شرطیہ فکاء جزائیہ کہ جار با مجرور ظرف مستقر کَاتِبَةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم، الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی مرکب توحسینی مبتدأ مؤخر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہوا، واو عاقلہ لَا تَجْهَرُوْا فعل نمی آتت ضمیر مستتر قائل بتاء حرف جدصلارتک مرکب انسانی مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل نمی با قائل و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر معطوف علیہ واو عاقلہ لَا تَخٰفَتْ فعل نمی آتت مستتر قائل بتاء حرف جار ضمیر مجرور، جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل نمی با قائل و متعلق



## ترکیب سُورَةُ الْكَهْفِ

● رکوع نمبر ۱ ●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَكَمْ یَجْعَلُ لَهٗ عِوَجًا ۙ

**آیت نمبر ۱:** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لآءِ حرف جا را اللہ موصوف الذی اسم موصول اَلَّذِی اَنْزَلَ فعل ہو مستقر قائل علی حرف جر عَبْدِهِ مرکب انسانی مجرور، جا با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے الْكِتَابِ مفعول بہ، فعل اپنے قائل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَمْ یَجْعَلُ فعل ہو مستقر قائل لَمْ جا با مجرور و ظرف مستقر کَیْفًا کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم عِوَجًا مفعول بہ اول مؤخر، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول باصلہ اَلَّذِی صفت، موصوف با صفت مجرور، جا با مجرور و ظرف مستقر کَیْفًا کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستأنفہ ہوں۔

قَیْمًا یُنۢزِلُ بِاَسَاسٍ شَدِیۡدًا مِّنۡ لَّدُنْہٗ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیۡنَ الَّذِیۡنَ یَعْمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ

اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ مَا کِیۡفِیۡنَ فِیۡہِۗۤ اَبۡدًا ۙ

**آیت نمبر ۲:** قَیْمًا فعل مخدوف جَعَلَهُ کا مفعول بہ ہے بِالْكِتَابِ سے حال ہے، لآءِ جارہ تعلیلیہ اور اس کے بعد اَنْ مقدم رہے یُنۢزِلُ فعل ہو مستقر قائل اور اس کا مفعول بہ اول مخدوف ہے اَلْکَافِرِیۡنَ، بِاَسَاسٍ موصوف شَدِیۡدًا صفت اولیٰ صیغہ حرف جا لَدُنْہٗ مرکب انسانی مجرور، جا با مجرور و ظرف مستقر کَیْفًا کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مفعول بہ ثانی، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یُبَشِّرُ فعل ہو ضمیر مستقر قائل الْمُؤْمِنِیۡنَ موصوف اَلَّذِیۡنَ اسم موصول یَعْمَلُوۡنَ فعل واو ضمیر قائل الصّٰلِحٰتِ بواسطہ موصوف مخدوف اَلْعَمَالِ کے مفعول بہ، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ الْمُؤْمِنِیۡنَ کی صفت، موصوف با صفت یُبَشِّرُ کا مفعول بہ، اِنَّ حرف تحقیق لآءِ حرف جرھ ضمیر ذوالحال مَا کِیۡفِیۡنَ اسم قائل هُمْ ضمیر مستقر قائل فِیۡہِۗۤ جا با مجرور و ظرف لغو متعلق ہوئے اَبۡدًا مفعول فیہ، اسم قائل با قائل و متعلق مفعول فیہ شہ جملہ ہو کر ضمیر کا حال، ذوالحال با حال مجرور، جا با مجرور و ظرف مستقر کَیْفًا کے متعلق ہو کر اَنَّ کی خبر مقدم اَجْرًا حَسَنًا مرکب توصیلی اسم مؤخر، اَنَّ اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ بتاول مفرد منصوب بزعم اللہ فیض ہے کیونکہ یہ اصل میں یَأَن ہے، جا با مجرور و یُبَشِّرُ کے متعلق ہوئے، یُبَشِّرُ فعل اپنے قائل و مفعول بہ و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یُنۢزِلُ پر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف بتاول مصدر لآءِ حرف مجرور ہے، جا با مجرور و ظرف لغو اَنْزَلَ فعل کے متعلق ہے۔

و یُنۢزِلُ الَّذِیۡنَ قَالُوۡا اَتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ

**آیت نمبر ۳:** واو عاطفہ یُنۢزِلُ فعل ہو ضمیر مستقر قائل اَلَّذِیۡنَ اسم موصول قَالُوۡا فعل باوا ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، اَتَّخَذَ فعل اللہ اسم الجلالہ قائل وَلَدًا مفعول بہ ثانی، اور مفعول بہ اول مخدوف ہے عِدَسٰی یَاخُوۡرُ، فعل اپنے قائل و مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ صلہ، موصول باصلہ یُنۢزِلُ کا مفعول بہ ہے، فعل با قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پہلے یُنۢزِلُ پر معطوف ہے۔

**مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝**

**آیت نمبر ۵:** معنای یہ لکھو جاہل و مجرور طرف مستقر کلموں کے متعلق ہو کر خبر مقدم بہ جہاں ہجر و طرف مستقر کلموں کے متعلق ہو کر حال مقدم میں حرف جہاں کے علیہ لکھا ہوا ہے۔ حرف مفعول ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال مبتدا، مؤخر، مبتدا باخبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلق ہوں۔ واو عاطفہ لڑائی، لاکہ، لاکہ حرف جر، ابائے ہجر مرکب اضافی مجرور، جہاں ہجر و طرف مستقر لکھو پر مفعول ہے، کبروت فعل ہے، ضمیر مستقر میز، کلمہ موصوفہ تخرج فعل ہے، ضمیر مستقر قائل میں حرف جہاں کے علیہ لکھا ہوا ہے، جہاں ہجر و طرف مستقر تخرج کے متعلق ہوں، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کلمہ کی صفت، موصوفہ باصفت تیز، تمیز، تمیز با تمیز قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہوں۔ ان حرف نفی یقولون فعل واو ضمیر قائل لڑائی حرف استثناء کذباً مستثنیٰ مفرغ ہو کر مفعول ہے، یا واسطہ موصوفہ مخدوف کو لاکہ مفعول مطلق ہے، فعل باقائل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ متعلق ہوں۔

**فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝**

**آیت نمبر ۶:** فاء استثنایہ لعل حرف ترمی کا ف ضمیر منصوب اس کا اسم باخیع اسم قائل کی صفت مستقر قائل نفسک مرکب اضافی مفعول ہے، فعلی حرف جہاں کے علیہ لکھا ہوا ہے، مرکب اضافی مجرور، جہاں ہجر و طرف مستقر ہوں، اسم قائل اپنے قائل و مفعول ہے و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر لعل ہے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ اشاریہ متعلق ہوں۔ ان حرف ترمی لَمْ یؤمنوا قائل تہا حرف جہاں کے علیہ لکھا ہوا ہے، تہا حرف جہاں کے علیہ لکھا ہوا ہے، خبر لعل کے مفعول ہے، یا واسطہ موصوفہ مخدوف ہے لعلک باخیع جس پر جملہ اولیٰ دل ہے اسکا باخیع کا مفعول ہے یا اسم قائل کے معنی میں ہو کر باخیع کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

**إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِيَبْهَرُوا هُمْ أَجْمَلُونَ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝**

**آیت نمبر ۷:** ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم جعلنا فعل نا ضمیر قائل ما اسم موصول علیٰ الأرض جہاں ہجر و طرف مستقر فعل مخدوف کسبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول ہے، اول زینة موصوفہ لہا جہاں ہجر و طرف مستقر کسبت کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ باصفت مفعول ہے، ثانی لاکہ حرف جر برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدمہ سے قبلوں فعل نا نحن ضمیر مستقر قائل، ہم ضمیر مفعول ہے، فعل باقائل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جہاں ہجر و طرف مستقر جعلنا کے متعلق ہوں، فعل باقائل و مفعول ہیں و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر بیان ہوا ہے، خبریہ ہو کر لکھا ہوا ہے، اسم موصول احسن اسم تفضیل ہو مستقر قائل عملاً تیز، اسم تفضیل اپنے قائل و تیز سے مل کر صلہ، موصول باصلہ مفعول ہم ضمیر کا بدل ہے۔

**وَأِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُودًا ۝**

**آیت نمبر ۸:** واو عاطفہ ان حرف تحقیق نا ضمیر اس کا اسم لاکہ مخدوف برائے تاکید لجعلون اسم قائل نحن ضمیر مستقر قائل ما اسم موصول علیہا جہاں ہجر و طرف مستقر فعل مخدوف کسبت کے متعلق ہو کر صلہ، موصول باصلہ مفعول ہے، اول صعيداً جرداً مرکب توسیعی مفعول ہے، ثانی اسم قائل اپنے قائل و مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر بیان ہوا ہے، خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انکا جعلنا پر مفعول ہے،

**أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابُ الْكَافِرِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝**

**آیت نمبر ۹:** اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابُ الْكَافِرِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝  
 معطف الؤقیبہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، مضاف بمضاف الیہ اَنْ کلمہ مشبہ بالمثل اَصْحَابُ مضاف الی الْكَافِرِ وَالرَّقِيمِ معطوف علیہ ہواؤ  
 اَلَيْتَنَامُ کرب انسانی مجرور، جہد با مجرور کاؤنٹا کے متعلق ہو کر حال مقدم عَجَبًا ذوالحال مؤخر ذوالحال ہماصل خبر کاؤنٹا کی، فعل ناقص بالاسم و خبر جملہ  
 فعلیہ خبریہ ہو کر اَنْ کی خبر اَنْ بالاسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حَسِبْتُمْ کے دو مفعول کے قائم مقام، حَسِبْتُمْ فعل ناقص و مفعولین جملہ  
 انشائیہ استفہامیہ ہوں۔

**إِذَا أَوْسَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرٍ نَارِشِدًا ۝**

**آیت نمبر ۱۰:** إِذَا أَوْسَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرٍ نَارِشِدًا ۝  
 جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، مقام عطفہ قَالُوا فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل ناقص جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول رَبَّنَا یہ اصل میں یَا رَبَّنَا تھامتا  
 حرف نداء قَالُوا کے قائم مقام، اَدْخُوا فعل انکا ضمیر فاعل یُوْتِنَا کرب انسانی مفعول بہ، فعل ناقص و مفعول بہ جملہ انشائیہ ہو کر نداء اول فعل  
 امر آت متستر فاعل تا ضمیر مفعول بہ، فعل ناقص و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر جواب نداء ہما جواب جملہ انشائیہ نداء یہ ہو کر مفعول بہ  
 اَوْل میں حرف جہد لَدُنْكَ مرکب انسانی مجرور، جہد با مجرور و ظرف مستقر کَانِتَا کے متعلق ہو کر حال مقدم رَحْمَةً ذوالحال مؤخر ذوالحال ہماصل  
 مفعول بہ ثانی، فعل ناقص و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اَوْل ہواؤ عطفہ هِيَ فعل امر  
 آت متستر فاعل لِنَا جہد با مجرور متعلق اَوْل ہونے میں حرف جہد اَمْرٍ نَارِشِدًا کرب انسانی مجرور، جہد با مجرور و ظرف لغو متعلق ثانی ہونے سے رَشِدًا  
 مفعول بہ، فعل ناقص و متعلقین و مفعول بہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مضاف الیہ، مضاف بمضاف الیہ  
 مفعول نہ ہوں، فعل محذوف اَدْخُوا کَاؤنٹا کوز فعل امر آت متستر فاعل، فعل ناقص و مفعول نہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں۔

**فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَافِرِ سِنِينَ عَدَدًا ۝**

**آیت نمبر ۱۱:** فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَافِرِ سِنِينَ عَدَدًا ۝  
 کاؤنٹین کے متعلق ہو کر حال ذوالحال ہماصل مضاف الیہ، مضاف بمضاف الیہ مجرور، جہد با مجرور متعلق ہونے سے سِنِينَ عَدَدًا مرکب توسیعی  
 مفعول نہ، فعل ناقص و مفعول نہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے قَالُوا یہ۔

**ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنُعَلِّمَهُمُ الْقُرْآنَ لِيُبَيِّنُوا الْحَتَمَ لِمَا لَبِثُوا أَصْدًا ۝**

**آیت نمبر ۱۲:** ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنُعَلِّمَهُمُ الْقُرْآنَ لِيُبَيِّنُوا الْحَتَمَ لِمَا لَبِثُوا أَصْدًا ۝  
 ضمیر متستر فاعل اَنْی الْحَزْبِ بَیِّن مرکب انسانی مبتدأ محضی فعل هو ضمیر فاعل لاہ جارحہ مصدر یہ لَبِثُوا فعل واؤ ضمیر فاعل، فعل ناقص جملہ  
 فعلیہ خبریہ بتا و بل مصدر مجرور، جار با مجرور متعلق ہونے سے اَصْدًا مفعول بہ، فعل ناقص و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدأ  
 خبر اسمیہ انشائیہ ہو کر تَعَلَّمَهُ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل ناقص و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور، جہد با مجرور و بَعَثْنَاهُمْ کے متعلق  
 ہونے، فعل ناقص و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر فَضَرَبْنَا پُر معطوف ہے۔



## ﴿رُكُوعٌ ۲﴾

لُحْنٌ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿۱۸﴾

آیت نمبر ۱۸: لُحْنٌ ضمیر مرفوع مشتمل مبتدا نَقُصُّ فعل مضارع ضمیر مستتر حال عَلَيَّکَ جلد باجرور متعلق ہوئے نَبَأَهُمْ مرکب انسانی مفعول بہ بِالْحَقِّ جلد باجرور حرف متعلق ہو کر نَقُصُّ کی ضمیر مفعول سے حال ہے یَسْتَلِیْکَ مَا کے متعلق ہو کر عَلَیْکَ کی ضمیر سے حال ہے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو لیکن حرف تَمَتُّنْ هُمْ ضمیر اس کا اسم فاعلیہ موصوف آمَنُوا فعل داؤ ضمیر قائل باہم حرف جلد بقیہ مرکب انسانی مجرور، جلد باجرور متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول علیہ ہوا و عاقلہ زِدْنَا فعل ناقص ضمیر قائل ہُمْ ضمیر مفعول بہ اہل ہُدًى مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول مفعول علیہ مفعول بہ فِتْیَةٌ کی صفت، موصوف با صفت ان کی خبر بیان باسم خبر جملہ اسیہ خبریہ ہو۔

وَرَبَّنَا عَلٰی كُلِّۢ شَيْءٍ حَافِظٌ ﴿۱۹﴾ اَوْ اَوْ عَاقِلٌ ﴿۲۰﴾ لُحْنٌ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿۲۱﴾

آیت نمبر ۱۹، ۲۰، ۲۱: اَوْ اَوْ عَاقِلٌ و رَبَّنَا عَلٰی كُلِّۢ شَيْءٍ حَافِظٌ لُحْنٌ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿۲۱﴾ ان مضاف قائلوں لُحْنٌ داؤ ضمیر قائل ہے لُحْنٌ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول علیہ حاکم عاقلہ قائلوں لُحْنٌ داؤ ضمیر قائل، دو دونوں لُحْنٌ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہو کر انسانی مبتدا ہر سُبْحَانَ السَّمَوَاتِ مفعول علیہ اَوْ اَوْ عَاقِلٌ اَرْضِ مفعول، مفعول علیہ با مفعول مضاف علیہ، مضاف با مضاف الیہ رَبَّنَا کی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسیہ خبریہ ہو کر مفعول، قول با متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول، مفعول علیہ با مفعول اِذَا کا مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول یہ رَبَّنَا کے، فعل باقاعل و مفعول فرید و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول ہے زِدْنَا کہ ان نَدَعُوا فعل ناقص ضمیر قائل ہون حرف جلد ذویہ مرکب انسانی مجرور، جلد باجرور مکتبہ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم بالہا مفعول بہ اہل سوغہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول لیسم اور قسم مقدم ہے قَدْ علامت فعل قُلْنَا فعل ناقص ضمیر قائل شَطَكَا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب قسم جملہ ہے شرط مقدمہ ان دَعَوْا لَکَ کی شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا لیکن حرف جواب جزاء مکمل ہے۔

هُؤُلَاءِ قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ مَّا قَمِنَ اَظْلَمُ مِنْ اَفْطٰرِي عَلَىٰ اللّٰهِ كَذِبًا ﴿۲۲﴾

آیت نمبر ۲۲: هُؤُلَاءِ قَوْمًا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ مَّا قَمِنَ اَظْلَمُ مِنْ اَفْطٰرِي عَلَىٰ اللّٰهِ كَذِبًا ﴿۲۲﴾ ذویہ مرکب انسانی مجرور، جلد باجرور مکتبہ کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم الیہ مفعول بہ اہل سوغہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا با خبر جملہ اسیہ خبریہ ہو کر لَوْ لَا تَحْفِيزِيَّةٌ يَأْتُونَ فعل داؤ ضمیر قائل مکتبہ جلد باجرور حرف متعلق ہو کر مفعول مفعول بہ ثانی مقدم ہوا کہ ہا سُلْطٰنٍ موصوف بَيِّنٍ صفت، موصوف با صفت ذل اہل سوغہ، اہل باصل مجرور، جلد باجرور متعلق ہوئے يَأْتُونَ

کے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ فائدہ استثناء یہ من استنہایہ مبتدأ لاکلمہ اسم تفضیل ہو ضمیر قائل، چون حرف جار من موصولہ افتری فعل ہو ضمیر قائل علی اللہ جار مجرور متعلق ہوئے، کذباً مفعول بہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ صلہ، موصول باصلہ مجرور، جار مجرور لاکلمہ کے متعلق ہوئے، اسم تفضیل بافاعل و متعلق شدہ جملہ ہو کہ خبر، مبتدأ خبر جملہ انشائیہ استنہایہ متانفہ ہو۔

**وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لَافِكِينَ إِذْ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ وَ لَنْ نَعْبُدَكَ إِنَّ مِنَّا لَكَاذِبِينَ ۚ**

**آیت نمبر ۲۶:** تاوان استثناء یہ لافکین استنہایہ مبتدأ لافکین اسم تفضیل ہو ضمیر قائل ہُو ضمیر مطلق علیہ، واو عاطفہ موصولہ موصولہ یَعْبُدُونَ فعل واو ضمیر قائل، فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ صلہ، موصول باصلہ مستثنیٰ منہ، بالآ حرف استثناء اللہ مستثنیٰ منہ، مستثنیٰ منہ با مستثنیٰ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ مضایف الیہ، مضایف با مضایف الیہ مفعول فیہ ہو فعل محذوف اذ کذا کا اذ کذا فعل امر آت مستتر قائل، فعل بافاعل و مفعول فیہ جملہ انشائیہ امریہ ہو کہ موقولہ ہے قول محذوف کَالِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ کَا، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ فائدہ جزائیہ اور شرط محذوف ہے ان اخذنا لکم الکافرین و ما یعبدون، اذ قالوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ وَ لَنْ نَعْبُدَكَ اِلَى الْكَافِرِيْنَ جار مجرور متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔ یَنْشُرُوْا فعل لکم جار مجرور متعلق ہوئے رَبِّکُمْ مرکب انسانی قائل چون حرف جار حسیبہ مرکب انسانی مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے، فعل بافاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَفْقَهُنَّ فعل ہو ضمیر قائل لکم جار مجرور متعلق اول ہوئے، چون حرف جار اَمْرُوْکُمْ مرکب انسانی مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہوئے یَوْمَ فَقَامَ مَکَّةَ مَعْلُومًا، فعل بافاعل و متعلقین و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف جزاء شرط محذوف ان تاووا اِلَى الْكَافِرِيْنَ ک، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو۔

**وَ تَرَى السَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُورًا عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِي فُجُوءٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ الْهَادِثِينَ ۗ**

**آیت نمبر ۷:** واو استثناء یہ تَرَى فعل آت مستتر قائل السَّمْسُ مفعول بہ لاکا ظرف زمان مضایف طلعت فعل ہی ضمیر قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ مضایف الیہ، مضایف با مضایف الیہ تَرَى کا مفعول فیہ ہو، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ تَزْوُورًا فعل ہی مستتر قائل عن حرف جار کہفہم مرکب انسانی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، ذَاتُ الْيَمِيْنِ مرکب انسانی مفعول فیہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ السَّمْسُ کا حال ہے، واو عاطفہ لاکا ظرف زمان مضایف غَرَبَتْ فعل ہی ضمیر قائل، فعل بافاعل مضایف الیہ، مضایف با مضایف الیہ بواسطہ عطف کے مفعول فیہ ہے تَرَى کا مَقْدَرٌ فعل ہی ضمیر قائل ہُو ضمیر مطلق علیہ، ذَاتُ الشِّمَالِ مرکب انسانی مفعول فیہ ہے تَقَرَّبُ شُكْ، فعل بافاعل و مفعولین بواسطہ عطف حال ہے السَّمْسُ کا واو عالیہ ہُو ضمیر مبتدأ فی حرف جار فُجُوءٍ موصولہ

یعنی جملہ باجر و روکائی کے متعلق ہو کر مفت، موصوف بہفت و جبر و جملہ باجر و روکائیوں کے متعلق ہو کر خبر مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر  
تکثر قہم کی ضمیر مفعول سے حال ہے، ذلک اسم اثناء مبتدأ معین حرف جدائی اللہ مرکب انسانی جبر و جملہ باجر و روکائیوں کے متعلق ہو کر  
خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

مَنْ شَرِيه مفعول یہ مقدم تہی فعل اللہ اسم الجلالہ قائل، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط عقابہ جزائیہ ہو کر ضمیر  
مبتدأ الیہ تہی اسم قائل اس میں ہو کر ضمیر قائل، اسم قائل بافاعل خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر  
معطوف علیہ ہوا و عاقلہ مَن شَرِيه مفعول بہ مقدم یُضِلُّنَّ فعل ہو ضمیر قائل، فعل فاعل و مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر  
شرط عقابہ جزائیہ لَنْ یَجِدَّ فعل اکت ضمیر قائل لَنْ جملہ باجر و روکائیوں کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم یُؤَيِّنَا فَرْدًا مرکب توصیفی مفعول بہ  
اول مؤخر، فعل بافاعل و مفعولین و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مطلقہ ہو۔

﴿ رکوع نمبر ۳ ﴾

وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُمْ رُفُودٌ سِوَا نَفْلِهِمْ ذَاتَ الِیَمِیْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ سِوَا كَلْبِهِمْ بَاسِطٍ  
ذِرَاعِيهِ بِالْأَوْصِيْدِ اَلْوِ اَطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوْنَيْتٌ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَاتٌ مِنْهُمْ رُغْبًا ۝

آیت نمبر ۱۸، واو عاقلہ تَحْسَبُ فعل اکت ضمیر مستتر قائل ہُنَّ ضمیر منصوب مفعول بہ اول آيَاتًا ذوات اول ہوا و عالیہ ہُنَّ ضمیر  
مبتدأ، رُفُودٌ اسم فاعل ہُنَّ ضمیر مستتر قائل، دونوں مل کر خبر، مبتدأ با خبر حال، ذوات اول باحال تَحْسَبُ کا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین  
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاقلہ نَقَلْبُ فعل تَخَنُّنٌ مستتر قائل ہُنَّ ضمیر مفعول بہ ذَاتَ الِیَمِیْنِ مرکب انسانی معطوف علیہ ہوا و  
عاقلہ ذَاتَ الشِّمَالِ مرکب انسانی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول لہ، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واو  
عاقلہ كَلْبُهُمْ مرکب انسانی مبتدأ، بَاسِطٌ اسم قائل اس میں ہو کر ضمیر قائل یُذَاعِثُهُ مرکب انسانی مفعول بہ بالْأَوْصِيْدِ جملہ باجر و متعلق ہونے  
اسم قائل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین جملہ معطوف ہوں۔ لَوْ شَرِيه اَطَّلَعَتْ فعل قائم  
مفتوحہ ضمیر قائل عَلَیْهِمْ جملہ باجر و متعلق ہونے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لَوْ جوابیہ و آئینت فعل قائم مفتوحہ قائل  
میں ہُنَّ جملہ باجر و متعلق ہونے فِرَارًا مفعول لہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول لہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا و عاقلہ لَآءِ جِوَابِیہ  
مُؤَلِّتٌ فعل مجہول تاء ضمیر نائب قائل میں ہُنَّ جملہ باجر و متعلق ہونے رُغْبًا تیز، فعل مجہول نائب قائل و متعلق تیز جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر  
معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ متانفہ ہو۔

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِیَسْتَأْذِنُوْا اَیْنَهُمْ ؕ اَقَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ؕ اَقَالُوْا لَیْسَ اَیْنًا یَوْمَآ اَوْ بَعْضَ  
یَوْمٍ ؕ اَقَالُوْا رَبُّكُمْ ؕ اَعْلَمَ بِمَا لَبِئْتُمْ ؕ اَفَابَعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ اِلَى الْمَدِیْنَةِ فَلَیَنْظُرَ اَیْهَا  
اَزٰی طَعَامًا فَا یَأْتِیْكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَا لَیْسَ اَتَكْفِفُ وَلَا یَشْعُرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ۝

آیت نمبر ۱۹، واو استیثانیہ كَذٰلِكَ جملہ باجر و طرف مستتر روکائیوں کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف بقعقاکے مفعول مطلق



وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ فِيهَا سُلَيْمٌ  
يَكْتَازِعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ  
الَّذِينَ عَلِمُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۖ

**آیت نمبر ۲۱:** ہوا وابتدا یہ کذلک جہا بجز در طرف مستقر کا گنا کے متعلق ہو کہ بواسطہ موصوفہ مخدوفہ اغتارنا کے مفعول مطلق مقدم آغترنا فعل نا ضمیر قائل علیہم جہا بجز در طرف لغو متعلق اول ہوئے، لام حرف جر رائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے یعلموا فعل واو ضمیر قائل ان حرف تحقیق و وعدہ اللہ مرکب انسانی اسم حقی خیر ان، باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عطف ان حرف تحقیق الساعۃ اسم الکلام لفظی جس میں تائب اس کلام میں تھا جہا بجز در طرف مستقر کا گنا کے متعلق ہو کہ خبر لایسے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ان کی خبر ان، باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتاویل مصدر یتکلموا کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جہا بجز در طرف لغو آغترنا کے متعلق ثانی ہوئے، اذ طرف زمان مضاف یتکازعون فعل واو ضمیر قائل یتکلموا مرکب انسانی کا گنا کا مفعول فیہ ہو کہ حال مقدم امر و خبر مرکب انسانی ذوالحال مؤخر ذوالحال با حال مفعول ہے، فعل با قائل و مفعول ہے جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب انسانی آغترنا کا مفعول فیہ ہے، فعل با قائل و متعلقین و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

فأما عطف قالوا، فعل واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول بانبتوا فعل امر واو ضمیر قائل علیہم جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، یبنيان کا مفعول ہے، فعل با قائل و مفعول ہے و متعلق جملہ انشائیہ ہو کہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ یتکازعون پر معطوف ہے، و رتبتہم مرکب انسانی مبتدا اعلم اسم تفضیل ہو ضمیر مستقر قائل بیہم جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، اسم تفضیل با قائل و متعلق شبہ جملہ ہو کہ خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ یا جملہ مطلقہ ہوں اور اگر یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ہوتو یہ جملہ مترضہ ہو گا۔ قال فعل الالذین اسم موصول علیکوا فعل واو ضمیر قائل علی حرف جہا امر و خبر مرکب انسانی مجرور، جہا بجز در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل با قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ صلہ، موصول با صلہ قال کا قائل، فعل با قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول، لام مؤخرہ لقم اور اسم مخدوف ہے لنتخذن فعل لحن ضمیر مستقر قائل علیہم جہا بجز در طرف مستقر کا گنا کے متعلق ہو کہ مفعول ہے ثانی مقدم مسجدا مفعول ہے اول مؤخر، فعل با قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم ہے، قسم با جواب قسم مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا  
بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ  
إِلَّا الْقَلِيلُ ۚ فَذَلِكُمْ آيَاتُنَا لِيَكْتَسِفَ فِيهَا مَن يَكْفُرُ ۚ

**آیت نمبر ۲۲:** یہیں تلاوت فعل یقولون فعل واو ضمیر قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کہ قول ثلثتہ موصوفہ رابعہم مرکب انسانی مبتدا کلہم مرکب انسانی خبر، مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کہ صفت، موصوفہ با صفت خبر سے مبتدا مخدوف ہونے کی، مبتدا با خبر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عطف یقولون فعل واو ضمیر قائل جملہ فعلیہ خبریہ قول خمسۃ موصوفہ

سَاوِدُهُمْ مَرْكِبٍ اِنشائی مبتدا مکتبہم مَرْكِبٍ اِنشائی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ صفت، موصوف باصفت مبتدا محذوف هُمْ کی خبر ہے، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلق، قول یا مقول محذوف ہے، پھر محذوف علیہ یا محذوف جملہ مستأنف ہو۔ وجمعا مصدر ہے بالغیب جاد یا جبر و مصدر کے متعلق ہوئے، مصدر یا متعلق اسم فاعل کے معنی میں ہو کر یَقْوُلُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے، یا بواسطہ موصوف محذوف قولہ کی یَقْوُلُونَ کا مفعول مطلق ہے، ہوا و عاقلہ یَقْوُلُونَ فعل واو ضمیر فاعل، دووں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول مستأنف خبر ہے مبتدا محذوف هُمْ کی، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ محذوف علیہ ہوا و عاقلہ تاکہ یَقْوُلُونَ مَرْكِبٍ اِنشائی مبتدا مکتبہم مَرْكِبٍ اِنشائی خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ محذوف ہے، محذوف علیہ یا محذوف متعلق، قول یا مقول ہے یَقْوُلُونَ پر محذوف ہے۔ قُلْنَ فعل امر آت مستقر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، یعنی مَرْكِبٍ اِنشائی مبتدا مکتبہم اسم تفصیل ہو ضمیر مستقر فاعل بہا کہ حرف جاد جملہم مَرْكِبٍ اِنشائی خبر، جاد یا جبر و طرف لغو متعلق ہوئے، اسم تفصیل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ متعلق، قول یا مقول جملہ انشائیہ امریہ ہوئے تاکہ یَقْوُلُونَ فعل هُمْ ضمیر منصوب مفعول بہ، بِالْاَحْرَفِ اسْتَمِعْتُمْ قَلِيلًا مستثنیٰ مفعول فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستأنف ہو۔

فَا هِزَاءِ اِشْرَاطٌ محذوف ہے اِنْ حُدِّثْتُمْ عَنْهُمْ لَأَنْتُمْ اَنْتُمْ ضمیر مستقر فاعل فیہم جاد یا جبر و طرف لغو متعلق ہوئے، بِالْاَحْرَفِ اسْتَمِعْتُمْ ویراء کَلَاهِمَا مَرْكِبٍ موصوف مطلق، فعل یا فاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ انشائیہ نہیہ محذوف علیہ ہوا و عاقلہ لَأَنْتُمْ تَصَدَّقْتُمْ فعل نئی اَنْتُمْ ضمیر مستقر فاعل فیہم جاد یا جبر و طرف لغو متعلق ہوئے، یعنی جاد یا جبر و طرف مستقر کَلَاهِمَا کے متعلق ہو کر حال مقدم اَحَدًا اَدْوَانًا مَوْجِرًا، ذوالحال باحال مفعول بہ، فعل یا فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر محذوف، محذوف علیہ یا محذوف جاد یا جبر و طرف لغو محذوف بہ جاد یا جبر و طرف لغو ہے۔

❁ رکوع نمبر ۳ ❁

وَلَا تَقْوُلْنَ لِشَاۤءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ عَدَاۤءٌ ۙ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ وَ اِذْ کُرُرَبَّکَ اِذَا نَسِیْتَ وَ قُلْ عَسٰی اَنْ یَّهْدِیَیْنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبٍ مِنْ هٰذَا رَشْدًا ۙ

آیت نمبر ۲۳، ۲۴: وَاوَعَاظَهُ لَأَقْوُلْنَ فعل نئی اَنْتُمْ ضمیر مستقر فاعل، لاکہ حرف جر تھی یو جبر و جاد یا جبر و طرف لغو متعلق ہوئے، فعل نئی یا فاعل و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر قول بیان حرف مشبہ بالفعل بہا کہ ضمیر اس کا اسم مفاعیل اسم فاعل، اَنْتُمْ ضمیر فاعل ذٰلِكَ اسم اشارہ مفعول بہ عَدَاۤءٌ مفعول نہیہ بِالْاَحْرَفِ اسْتَمِعْتُمْ حرف مصدری و نصب یَشَآءُ فعل اَللّٰهُ اسم الجلال فاعل، فعل یا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر متعین مصدر مضاف الیہ ہوا وقت مضاف محذوف کا، مضاف مضاف الیہ فَاعِلٌ کا مفعول نہیہ مثنیٰ، اسم فاعل یا فاعل و مفاعیل مضاف الیہ کی خبر بیان ہوا و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقول، قول یا مقول جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر وَاوَعَاظَهُ اِذْ کُرُرَبَّکَ فعل امر آت مستقر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ مفعول بہ، اِذَا ظرف زمان مضاف نَسِیْتَ فعل نئی اَنْتُمْ ضمیر مستقر فاعل، فعل یا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ اِذْ کُرُرَبَّکَ کا مفعول نہیہ، فعل امر یا فاعل و مفعولین جملہ انشائیہ امریہ ہو کر محذوف علیہ ہوا و عاقلہ قُلْنَ فعل امر آت مستقر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، عَسٰی فعل تام، اَنْتُمْ موصوف یَقْدِرْنَ فعل نون و قایہ بیاد محذوف مفعول بہ یعنی مَرْكِبٍ اِنشائی فاعل، لاکہ جاد یا جبر و طرف لغو ضمیر فاعل ہیں لٰہذا جاد یا جبر و متعلق ہوئے و رَشْدًا تیز یا نام تفصیل یا فاعل و متعلق و تیز جبر و جاد یا جبر و طرف لغو یَقْدِرْنَ کے متعلق ہوئے، فعل یا فاعل و مفعول بہ و متعلق یا فاعل و مفعول بہ مضاف مضاف الیہ مَعٰی فعل مقاب کا، عَسٰی فعل یا فاعل جملہ انشائیہ ہو کر مقول، قول یا مقول جملہ انشائیہ امریہ ہو کر



مؤخر، فعل بافاعل ومفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف حال، وذلك الحال باحال مجرور، جاد باجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر اوج کی ضمیر نائب فاعل سے حال ہے

**وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَفْشِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تَطْعُجْ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هُودَهُ وَكَانَ امْرُؤًا فُرْسًا ۝**

**آیت نمبر ۲۸:** واو استینا فی اصْبِرْ فعل امر آت مستتر فاعل نَفْسُكَ مرکب اضافی مفعول بہ مَعَ مضاف الِّذِينَ اسم موصول یَدْعُونَ فعل واو ضمیر ذوالحال یُرِيدُونَ فعل واو ضمیر فاعل وَجْهَهُ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے، وذلك الحال باحال یَدْعُونَ کا فاعل ہے، رَبَّهُمْ مرکب اضافی مفعول بہ، بیاہ جادہ الْغَدْوَةِ وَالْعَفْشِ معطوف علیہ با معطوف مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی اصْبِرْ کا مفعول فیہ ہے، فعل بافاعل ومفعولین جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تَعْدُ فعل نئی عَيْنُكَ مرکب اضافی فاعل عَنْهُمْ جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ انشائیہ اصْبِرْ پر معطوف ہے، تُرِيدُ فعل آت مستتر فاعل زِينَةَ الدُّنْيَا مضاف الِّذِينَ مرکب تو سبھی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ، تُرِيدُ فعل بافاعل ومفعول بہ، جملہ فعلیہ خبریہ عَيْنُكَ کی ضمیر مضاف الیہ سے حال ہے۔

واو عاطفہ لَا تَطْعُجْ فعل نئی آت مستتر فاعل، مَن اسم موصول اغْفَلْنَا فعل نا ضمیر فاعل قَلْبَهُ مرکب اضافی مفعول بہ، عَنْ حرف جاد ذِکْرِنَا مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل ومفعول بہ، و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اتَّبِعْ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ہُوَ نہ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واو عاطفہ كَانَ فعل ناقص امْرُؤًا مرکب اضافی اس کا اسم فُورْسًا خبر، فعل ناقص با اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین صلہ، موصول باصلہ لَا تَطْعُجْ کا مفعول بہ ہے، فعل بافاعل ومفعول بہ، جملہ انشائیہ اصْبِرْ پر معطوف ہے

**وَقُلِ الْحَقُّ نَارًا ۗ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ وَاِنْ يَسْتَعْجِبُوْا يَغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۗ يَأْتِسُّ الشَّرَابُ ۗ وَاَوْ سَاءَتْ مَرُتَفَقًا ۝**

**آیت نمبر ۲۹:** واو عاطفہ قُلْ فعل امر آت ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ قول ہے الْحَقُّ مبتدأ، مین حرف جاد رَبُّكُمْ مرکب اضافی مجرور، جاد باجرور ظرف مستقر کا کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ انشائیہ اصْبِرْ پر معطوف ہے، فَاہ استینا فیہ مَن اسم شرط مبتدأ مشاء فعل ہو ضمیر مستتر فاعل، و دونوں مل کر شرط ہے، عَقَاء جزائیہ لِيُوْثِقْنَ فعل امر ہو ضمیر مستتر فاعل، و دونوں مل کر جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ مَن شَاءَ قَلْبُكَ فُورْسًا ترکیب مَن شَاءَ قَلْبُكَ مین کی مثل ہے یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں



إِنَّ حَرْفَ تَحْقِيقِ تَأْمِيرِ اسْمِ كَامٍ أَعْتَدْنَا لِمَنْ تَأْمِيرًا فَاعِلٌ لِلْمُظَلِّمِينَ جَدِ بِاَجْرٍ وَرُفْرَفٌ لِنَفْسٍ مُتَعَلِّقَةٍ هُوَ تَأْمِيرٌ مَوْصُوفٌ بِأَحْكَاطِ فِعْلِ  
 بِهَمْزٍ جَدِ بِاَجْرٍ وَرُفْرَفٌ لِنَفْسٍ مُتَعَلِّقَةٍ هُوَ تَأْمِيرٌ مَوْصُوفٌ بِأَحْكَاطِ فِعْلِ مَوْصُوفٌ بِصِفَتِ مَفْعُولٍ بِهِ،  
 فِعْلٌ بِأَنَّ فاعِلٌ وَمُتَعَلِّقٌ وَ مَفْعُولٌ بِهِ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِحَرْفِ بِنَاءٍ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ بِمِثْلِهَا هُوَ لَوْ وَافِقٌ لِمَنْ حَرْفٌ شَرْطٌ لَا يَسْتَقْبَلُ  
 فِعْلٌ وَادْوَمِيرًا فَاعِلٌ، وَدَوْنُ مَلِكٍ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ بِسَبَبِ يُعَاذُوا فِعْلٌ مَجْهُولٌ وَادْوَمِيرًا نَجَبٌ فَاعِلٌ بِأَمَامِ جَمَلَةٍ مَعْنَاهُ مَوْصُوفٌ بِأَحْكَاطِ فِعْلِ جَدِ بِاَجْرٍ وَرُفْرَفٌ  
 ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالَّذِينَ كَيْفَ مَعْتَلِقٌ هُوَ كَرَمَفْتِ اَلْوَيْلِ بِشَيْءٍ فِعْلٌ هُوَ خَبْرٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ اَلْوَيْلُ مَوْصُوفٌ بِهِ، تَبَيَّنَ مَلِكٍ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِفَتٌ جَمَانِيَّةٌ،  
 مَوْصُوفٌ بِمُتَعَلِّقِينَ جَدِ بِاَجْرٍ وَرُفْرَفٌ لِنَفْسٍ مُتَعَلِّقَةٍ هُوَ، فِعْلٌ بِأَنَّ فاعِلٌ وَ مَتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ أَحْكَاطِ  
 مَعْفُوفٌ هُوَ

يُنَسِّسُ فِعْلٌ ذِمَّ الشَّرْطِ فَاعِلٌ، وَدَوْنُ مَلِكٍ جَمَلَةٌ اِنشَائِيَّةٌ خَبْرٌ مُقَدِّمٌ اَو مَخْصُومٌ بِالذَّمِّ مَبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ هُوَ مَعْفُوفٌ هُوَ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ  
 اِنشَائِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ وَ اَو اعْلَافٌ سَمَّاتٌ فِعْلٌ اَلذَّمُّ هُوَ خَبْرٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ مُؤَكِّفًا تَبِيْرٌ، فِعْلٌ بِأَنَّ فاعِلٌ وَ تَبِيْرٌ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنشَائِيَّةٌ خَبْرٌ مُقَدِّمٌ اَو مَخْصُومٌ  
 بِالذَّمِّ مَبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ مَعْفُوفٌ هُوَ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ اِنشَائِيَّةٌ مَعْفُوفٌ هُوَ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جَمَلَةٌ مِثْلَانِ هُوَ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

آيَةُ نَصْبٍ ۳۰: إِنَّ حَرْفَ تَحْقِيقِ الَّذِينَ اسْمٌ مَوْصُولٌ آمَنُوا فاعِلٌ بِادْوَمِيرًا فَاعِلٌ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ، وَ اَو اعْلَافٌ عَمِلُوا فِعْلٌ  
 وَادْوَمِيرًا فَاعِلٌ الصَّالِحَاتِ بِوَاسِطَةِ مَوْصُوفٍ مَعْفُوفٍ اَلْأَعْمَالُ كَيْفَ مَعْفُوفٌ بِهِ، تَبَيَّنَ مَلِكٍ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ مَلِكٍ، مَوْصُولٌ  
 بِاسْمِ اَلَّذِينَ كَامٍ بِأَنَّ حَرْفَ تَحْقِيقِ تَأْمِيرِ اسْمِ كَامٍ لَا نُضِيعُ فِعْلٌ نَجَبٌ خَبْرٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ أَجْرٌ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ مَوْصُولٌ أَحْسَنَ فِعْلٌ هُوَ خَبْرٌ  
 مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ عَمِلُوا مَعْفُوفٌ بِهِ، تَبَيَّنَ مَلِكٍ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ بِحَرْفِ بِنَاءٍ بِاسْمٍ وَخَبْرٌ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ مَطْلَبَةٌ بِمِثْلِهَا هُوَ لَوْ وَافِقٌ لِمَنْ حَرْفٌ شَرْطٌ لَا يَسْتَقْبَلُ  
 فِعْلٌ وَادْوَمِيرًا فَاعِلٌ، وَدَوْنُ مَلِكٍ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ شَرْطٌ بِسَبَبِ يُعَاذُوا فِعْلٌ مَجْهُولٌ وَادْوَمِيرًا نَجَبٌ فَاعِلٌ بِأَمَامِ جَمَلَةٍ مَعْنَاهُ مَوْصُوفٌ بِأَحْكَاطِ فِعْلِ جَدِ بِاَجْرٍ وَرُفْرَفٌ  
 ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ كَالَّذِينَ كَيْفَ مَعْتَلِقٌ هُوَ كَرَمَفْتِ اَلْوَيْلِ بِشَيْءٍ فِعْلٌ هُوَ خَبْرٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ اَلْوَيْلُ مَوْصُوفٌ بِهِ، تَبَيَّنَ مَلِكٍ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِفَتٌ جَمَانِيَّةٌ،  
 مَوْصُوفٌ بِمُتَعَلِّقِينَ جَدِ بِاَجْرٍ وَرُفْرَفٌ لِنَفْسٍ مُتَعَلِّقَةٍ هُوَ، فِعْلٌ بِأَنَّ فاعِلٌ وَ مَتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ أَحْكَاطِ  
 مَعْفُوفٌ هُوَ

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ  
 ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۗ

نِعْمَ الثَّوَابُ ۗ وَ حَسَنَتْ مَرْ تَفَقَّأ ﴿٣١﴾

آيَةُ نَصْبٍ ۳۱: أُولَئِكَ اسْمٌ اِشْرَافِيٌّ مَبْتَدَأٌ لَهُمْ جَدِ بِاَجْرٍ وَرُفْرَفٌ لِنَفْسٍ مُتَعَلِّقَةٍ هُوَ كَرَمَفْتِ اَلْوَيْلِ بِشَيْءٍ فِعْلٌ هُوَ خَبْرٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ اَلْوَيْلُ مَوْصُوفٌ بِهِ، تَبَيَّنَ مَلِكٍ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ صِفَتٌ جَمَانِيَّةٌ،  
 مَوْصُوفٌ بِمُتَعَلِّقِينَ جَدِ بِاَجْرٍ وَرُفْرَفٌ لِنَفْسٍ مُتَعَلِّقَةٍ هُوَ، فِعْلٌ بِأَنَّ فاعِلٌ وَ مَتَعَلِّقٌ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ خَبْرِيَّةٌ جَزَاءٌ شَرْطٌ بِأَجْزَاءِ جَمَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ أَحْكَاطِ  
 مَعْفُوفٌ هُوَ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ اِنشَائِيَّةٌ خَبْرٌ مُقَدِّمٌ اَو مَخْصُومٌ بِالذَّمِّ مَبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ هُوَ مَعْفُوفٌ هُوَ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جَمَلَةٌ مِثْلَانِ هُوَ  
 اِنشَائِيَّةٌ مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ وَ اَو اعْلَافٌ سَمَّاتٌ فِعْلٌ اَلذَّمُّ هُوَ خَبْرٌ مُسْتَقَرٌّ فَاعِلٌ مُؤَكِّفًا تَبِيْرٌ، فِعْلٌ بِأَنَّ فاعِلٌ وَ تَبِيْرٌ جَمَلَةٌ فِعْلِيَّةٌ اِنشَائِيَّةٌ خَبْرٌ مُقَدِّمٌ اَو مَخْصُومٌ  
 بِالذَّمِّ مَبْتَدَأٌ مَوْخَرٌ مَعْفُوفٌ هُوَ، مَبْتَدَأٌ بِخَبْرٍ جَمَلَةٌ اسْمِيَّةٌ اِنشَائِيَّةٌ مَعْفُوفٌ هُوَ، مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ بِمَعْفُوفٍ جَمَلَةٌ مِثْلَانِ هُوَ

یٰۤاَیُّهَا مَوْصُوفٌ خُصُّوْا مَفْعُ اَوَّلِ مَوْصُوفٍ حَرْفٌ جَدُّ سُنْدُسٍ وَ اِسْتَنْبَقِي مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ مَعْطُوفٌ جَزْرٌ، جَدُّ بَاجِرٌ وَ عَرَفٌ مَسْتَقَرٌّ كَاثِبَةٌ كَيْفَ كَيْفَ مَتَّعٌ، هُوَ كَرَمَتٌ جَائِیَةٌ، مَوْصُوفٌ بِمَوْصُوفٍ مَعْلُومٌ، فِعْلٌ بِاِقْتِالٍ وَ مَعْلُومٌ بِہِ جَمْلَةٌ فَعْلِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ مَعْطُوفٌ خَبْرٌ عِلْمٌ، مَبْتَدَاً بِاِخْبَارٍ عِلْمٌ جَمْلَةٌ اَسْمِیَّةٌ خَبْرِیَّةٌ هُوَ مُتَكَلِّمٌ اِسْمٌ قَائِلٌ هُنْدٌ خَبْرٌ مَسْتَقَرٌّ قَائِلٌ فِعْلٌ جَدُّ بَاجِرٌ وَ عَرَفٌ لَفْظٌ مَتَّعٌ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ a

﴿۴۳۳﴾

وَ اَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاحْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَ حَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرَّاعًا ﴿۴۳۳﴾

آیت نمبر ۲۳۱ سوواو استیما فی اضرِبْ لعل امر آتت ضمیر مستتر قائل لہم جاد باجر و عرف لفظ متعلق ہوئے مثلاً مبدل مندرجہ جلیکین موصوف جَعَلْنَا لعل تا صراف لآمر حرف جاد اَحَدِہِمَا مرکب انسانی جزر، جاد باجر و عرف مستقر کائناتین کے متعلق ہو کر مفعول یہ مانی مقدم جَنَّتَيْنِ موصوف ہون اَعْنَابِ جاد باجر و عرف مستقر کائناتین کے متعلق ہو کر مفعول، موصوف ہا مفعول یہ اذل مؤخر، لعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جَعَلْکَیْنِ کی مفعول، موصوف ہا مفعول بدل، مبدل مندرجہ اَضْرِبْ کا مفعول یہ، لعل باقائل و متعلق و مفعول یہ جملہ انشائیہ مستافہ ہوا و احوالیہ حَفَفْنَا لعل تا ضمیر قائل لہم اَحَدِہِمَا ضمیر مفعول بہ پَنَجْلٍ جاد باجر و عرف لفظ متعلق ہوئے، لعل باقائل و مفعول یہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مَعطُوف عَلَیْہِ ہوا و احوالیہ جَعَلْنَا لعل تا ضمیر قائل لہم اَحَدِہِمَا مرکب انسانی کائنات کا مفعول یہ ہو کر مفعول یہ مانی مقدم زُرَّاعًا مفعول یہ اذل مؤخر، لعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مَعطُوف ہے، مَعطُوف عَلَیْہِ ہا مَعطُوف پہلے جَعَلْنَا کی ضمیر قائل سے حال ہے یا پتھر رکنا جَنَّتَيْنِ سے حال ہے۔

کَلِمَاتٍ الْجَنَّتَيْنِ اَتْت اَکْثَہَا وَ لَمْ تَظَلِمْ مِنْہُ شَیْئًا ۚ وَ فَجَّرْنَا خِلَّہُمَا نَهْرًا ﴿۴۳۴﴾

آیت نمبر ۲۳۲ سیکلتا الجنتین مرکب انسانی مبتدہ اَتْت لعل ہی ضمیر مستتر قائل اَکْثَہَا مرکب انسانی مفعول یہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مَعطُوف عَلَیْہِ ہوا و احوالیہ لَمْ تَظَلِمْ لعل ہی ضمیر مستتر قائل مِنْہُ جاد باجر و عرف لفظ متعلق ہوئے شَیْئًا کا مفعول یہ، لعل باقائل و متعلق و مفعول یہ جملہ فعلیہ خبریہ مَعطُوف اذل ہوا و احوالیہ فَجَّرْنَا لعل تا ضمیر قائل خِلَّہُمَا مرکب انسانی مفعول یہ لہم اَحَدِہِمَا مفعول یہ، لعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ مَعطُوف مانی، مَعطُوف عَلَیْہِ ہا مَعطُوفین خبر، مبتدہ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر

وَ کَانَ لَہُ نَمْرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِہِ وَ هُوَ یُحَاوِرُہَا اَنَا اَکْثَرُ مِنْکَ مَالًا ۚ وَ اَعَزُّ نَفَرًا ﴿۴۳۵﴾

آیت نمبر ۲۳۳ سوواو استیما فی کان لعل تا نفس لہ جاد باجر و عرف مستقر کائنات کا متعلق ہو کر خبر مقدم لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ اِذْ لَمْ یُحْمَلْ a

ضمیر قائل سے حال ہے، متکال فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول آکا ضمیر مبتدہ، اکثر و ام تضلیل آکا ضمیر مستتر قائل یعنی جملہ باجرور متعلق ہوئے، معاویہ خبر، ام تضلیل باقاعل و متعلق و نیز شہ جملہ ہو کر معطوف علیہ ہوا و عطف آکا ضمیر مستتر قائل تکراراً نیز، تینوں لک معطوف، معطوف علیہ با معطوف آکا خبر ہے، مبتدہ با خبر جملہ اس یہ خبریہ متولہ، قول با متولہ کان کہہ پر معطوف ہے۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ كَالْمِ لِنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۖ وَ مَا أَظُنُّ

السَّاعَةَ قَابِلَةً ۚ وَ لَئِنْ رُودْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۖ

آیت نمبر ۳۱، ۳۲: ہوا و عطف دَخَلَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل جَنَّتَهُ مرکب انسانی مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ کان کہہ پر معطوف ہے، ہوا و عالیہ ہو ضمیر مبتدہ، تکراراً ام قائل ہو ضمیر مستتر قائل لآہر حرف جملہ فعلیہ مرکب انسانی باجرور، جملہ باجرور متعلق ہوئے، ام قائل باقاعل و متعلق شہ جملہ ہو کر خبر، مبتدہ با خبر جملہ اس یہ خبریہ دَخَلَ کی مفعول قائل سے حال ہے، متکال فعل ہو ضمیر مستتر قائل، دو لوں لک قول ہے، معانی فی اظنُّ فعل آکا مستتر قائل اَنْ حرف مصدری و نصب تَبِيدَ فعل ہذا عطف لآہر حرف قائل آکا مفعول فیہ، تینوں لک کہ بتول مصدر و مفعول بہ کے قائم مقام ہے، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا و عطف مآنا فی اظنُّ فعل آکا ضمیر مستتر قائل السَّاعَةَ مفعول بہ، ازل قَابِلَةً مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف متولہ، قول با متولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو

ہوا و عطف لآہر موطن القسم اور قسم محذوف ہے اِنْ حرف شرط و دَخَلَ فعل مجہول تاکہ معنومہ ضمیر جب قائل اِن حرف جملہ خبریہ مرکب انسانی باجرور، جملہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول ہائےب قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط لآہر جوابی آجَدَنَّ فعل آکا ضمیر مستتر قائل خَيْرًا ام تضلیل ہو ضمیر مستتر قائل و ہذا جملہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مُنْقَلَبًا نیز، ام تضلیل باقاعل و متعلق و نیز بواسطہ موصوف محذوف جَنَّتَهُ کے مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم ہے، اور شرط کی جڑ محذوف ہے جس پر جواب قسم ہاں ہے، قسم با جواب قسم اظنُّ پر معطوف ہے۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ هُوَ يُحَاوِرُهُ أَ أَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ

سَوَّلَكَ رِجْلًا ۖ

آیت نمبر ۳۳: قَالَ فعل کہہ جملہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے صَاحِبُهُ مرکب انسانی ذوالنہاں ہوا و عالیہ ہو ضمیر مبتدہ، يُحَاوِرُهُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل ہو ضمیر مفعول بہ، تینوں لک کہ جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالنہاں باصل قائل کا قائل ہے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول ہے، عہدہ حرف استفہام أَ أَكْفَرْتَ فعل تاکہ حرف جملہ اَلَّذِي ام موصول خَلَقَ فعل ہو ضمیر مستتر قائل کہ ضمیر مفعول بہ و اِنْ تُرَابٍ جملہ باجرور معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف مِنْ نُطْفَةٍ جملہ باجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف ظرف لغو خَلَقَ کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، ثُمَّ حرف عطف مِنْ نُطْفَةٍ جملہ باجرور معطوف، معطوف علیہ با معطوف مصلہ، موصول ہاں جملہ باجرور معطوف بہ، ازل رِجْلًا مفعول بہ ثانی پادوں لک کہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف مصلہ، موصول ہاں جملہ باجرور

حرف لئو كَفَرَتْ کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ استقہامیہ مقولہ ہے، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں۔

**لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝**

**آیت نمبر ۳۸:** لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ لَكِنَّا کمال میں لکِن اُکا ہے، لکِن حرف استدراک ہے اُکا ضمیر مبتدأ اور خبر مخدوف ہے لَا كُفْرُو بِالَّذِينَ حَقَّ قَوْلُهُ، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں ہو ضمیر مبتدأ اللهُ مبتدأ ثانی رَبِّي مرکب اضافی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ مبتدأ اولی کی خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا أُشْرِكُ فعل اُکا ضمیر مستتر قائل بہاء جارہ رَبِّي مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لئو متعلق ہوئے اُحَدًا مفعول بہ، پہلوں میں کہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہوں۔

**وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝ فَعَلَىٰ رَبِّي أَن يُوَيِّبَ لِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۝ أَوْ يُصْبِحُ مَاؤها غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝**

**آیت نمبر ۳۹، ۴۰، ۴۱:** وَاوِ عَاطِفٌ لَّوْ لَا حَرْفٌ تَحْضِيضٌ إِذْ مَنَافٌ دَخَلْتَ فعل تاء مفتوح ضمیر قائل جَنَّتَكَ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں میں کہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، مرکب اضافی مفعول فیہ مقدم قُلْتَ فعل تاء مفتوح ضمیر قائل، فعل باقاعل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ قول معاصم شرط مفعول بہ مقدم شَاءَ فعل اُلَّه اسم الجلالہ قائل، تینوں میں کہ جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء مخدوف ہے وَقَعَ شرط با جزاء مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوں لَا لئو جنس قُوَّة اس کا اسم اِلَّا حرف استثناء بِاللَّهِ جار مجرور ظرف مستقر کَائِنَةُ کے متعلق ہو کر خبر لَا لئو جنس ہا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

إِنْ حرف شرط لئو فعل اَلَّت ضمیر مستتر قائل لئو، رائے وقایہ یاء مخدوفہ ضمیر منصوب مفعول بہ اول اُکا ضمیر فعل اَقَلَّ اسم تفضیل اُکا ضمیر مستتر قائل مِنْكَ جار مجرور ظرف لئو متعلق ہوئے مَا لًا وَوَلَدًا معطوف علیہ با معطوف تمیز، اسم تفضیل باقاعل و متعلق و تمیز شہ جملہ ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط، فقہ جزائیہ عَلَی فعل متدرب رَبِّي مرکب اضافی اس کا اسم اَنْ حرف مصدری و نصب یُؤَيِّبُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل لئو، رائے وقایہ ہے، یاء مخدوفہ ضمیر مفعول بہ اول، خَيْرًا اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر قائل و مِّن حرف جارہ جَنَّتَكَ مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف لئو متعلق ہوئے، اسم تفضیل باقاعل و متعلق شہ جملہ ہو کر مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہوں مصدر خبر، فعل متدرب ہا اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ اضافیہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوں۔

وَاوِ عَاطِفٌ يُرْسِلُ فعل ہو ضمیر مستتر قائل عَلَیَّ جار مجرور ظرف لئو متعلق ہوئے حُسْبَانًا موصوف من السَّمَاء جار مجرور ظرف مستقر کَائِنَةُ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت یُرْسِلُ کا مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ یُؤَيِّبُ پر معطوف ہے فقہ عاطفہ يُصْبِحُ فعل ناقص ہی ضمیر مستتر اس کا اسم صَعِيدًا اِزْ لَقَا مَرْکب توصیفی خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ يُصْبِحُ فعل ناقص مَا وُحَا مَرْکب اضافی اس کا اسم غُورًا خبر، فعل ناقص ہا اسم و خبر معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف یُرْسِلُ پر معطوف ہے فقہ حرف عطف اَنْ تَسْتَطِيعَ فعل اَلَّت ضمیر مستتر قائل لئو جار مجرور ظرف لئو متعلق مقدم تَطَلَبًا مصدر با متعلق مقدم مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ یُصْبِحُ پر معطوف ہے۔

وَأُحِيطَ بِشَمْرِهَا فَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِيهِ عَلَى مَا أَلْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَ  
يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

آیت نمبر ۳۲: واوستہا نے اُحِيطَ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر تاجر فاعل بناء حرف جر ضمیر ہر کرب انسانی مجرور، جہاں با مجرور ظرف  
لغو متعلق ہوئے، فعل مجہول بابت فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ معقاة عاطفہ اصْبَحَ فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم  
يُقَلِّبُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل كَفِيهِ ہر کرب انسانی مفعول بہ علی حرف جہاں ما اسم موصول اَلْفَقَ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل فی حرف جہاں  
ضمیر ذوالحال واوستہا علی ضمیر مبتدأ خَاوِيَةٌ اسم فاعل ہی ضمیر مستتر فاعل علی جہاں عُرُوشِهَا ہر کرب انسانی مجرور، جہاں با مجرور ظرف لغو متعلق  
ہوئے، اسم فاعل بنا فاعل و متعلق شبہ جملہ جو خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ حال، ذوالحال با حال مجرور، جہاں با مجرور اَلْفَقَ کے متعلق ہوئے،  
فعل با فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ مجرور، جہاں با مجرور يُقَلِّبُ کے متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ  
خبریہ معطوف علیہ ہوا، عاطفہ اَوْ یَقُولُ فعل مجہول ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر قول ہے، بیادہ حرف نداء اَدْعُوْا کے قائم مقام اور مفعول بہ قَوْلِي  
مخروف ہے، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ انشائیہ نداء ہے اَلَيْتَنِي حرف تمنیٰ نون برائے دکائیہ تاکہ ضمیر اس کا اسم لَمْ اَطْرُقَ فعل  
آکا ضمیر مستتر فاعل بناء جہاں رَبِّي ہر کرب انسانی مجرور، جہاں با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَحَدًا مفعول بہ، فعل با فاعل و متعلق و مفعول بہ جملہ  
فعلیہ خبریہ خبر ہے، حرف تمنیٰ لَمْ اَسْأَلُ خبر ہے مل کر نداء کا جواب، نداء با جواب جملہ انشائیہ نداء ہے مقولہ، قول با مقولہ يُقَلِّبُ پر معطوف ہے،  
معطوف علیہ با معطوف اصْبَحَ کی خبر، فعل ناقص ہا اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ اُحِيطَ پر معطوف ہے۔

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةً يَنْتَصِرُ وَنَهَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝

آیت نمبر ۳۳: واوستہا نے لَمْ تَكُنْ فعل ناقص لَمْ تَكُنْ جہاں با مجرور ظرف مستقر كَاتِبَةً کے متعلق ہو کر خبر مقدم فِئَةً موصوف  
يَنْتَصِرُ فعل ناقص واوستہا نے ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر صفت اولیٰ جہاں دُونَ اللَّهِ ہر کرب انسانی مجرور، جہاں با مجرور ظرف مستقر كَاتِبَةً  
کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین اسم مؤنر، فعل ناقص ہا اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہوا، عاطفہ مَا حرف لنی کا کن فعل  
ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم مُنتَصِرًا اسم فاعل ہو ضمیر مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص ہا اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف،  
معطوف علیہ با معطوف جملہ متعلقہ ہو۔

هَذَاكَ الْوَلَايَةَ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝

آیت نمبر ۳۴: هَذَاكَ ظرف مکان كَاتِبَةً کا مفعول نہ ہو کر خبر مقدم الْوَلَايَةَ ذوالحال ہر کرب جہاں اللہ اسم الجلال موصوف  
الْحَقِّ صفت، دونوں مل کر مجرور، جہاں با مجرور ظرف مستقر كَاتِبَةً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مبتدأ مؤنر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ  
ہو لَمْ ہو ضمیر مبتدأ خَيْرٌ اسم تعظیم ہو متعلق ثَوَابًا تیز، تینوں مل کر شبہ جملہ معطوف علیہ ہوا، عاطفہ خَيْرٌ عُقْبًا کی ترکیب خَيْرٌ  
ثَوَابًا کی مثل ہے اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدأ خبر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہو۔

﴿۶﴾

وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتٌ  
الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَلَدُّ رُوْهُ الرِّيْحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۶﴾

آیت نمبر ۳۵: او استیما یا طرب لعل امر آت ضمیر مستتر فاعل لہم جہا بجر و طرف لعل متعلق ہوئے مَثَلًا مضارع الخلیوة الدنیاء مرکب توصیفی مضارع علیہ، مرکب انسانی مفعول بہ پہاوں ل کر جملہ انشائیہ مستانفہ ہوں۔ کل حرف جہا مآء موصوف آؤ لکنا لعل نا ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ یمن السَّمَاء جہا بجر و طرف لعل متعلق ہوئے لعل بافاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مآء ماعطف اختلاط لعل بہ جہا بجر و طرف لعل متعلق ہوئے نباتات الأرض مرکب انسانی فاعل، لعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف الال مآء ماعطف اصبح لعل ناقص ہُو مستتر اس کا اسم ہشیمتا موصوف تَلَدُّ رُوهُ لعل ضمیر مفعول بہ الرِّیح فاعل، تینوں ل کر مفعول موصوف ہافت خبر، لعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، معطوف علیہ با معطوفین مآء کی مفعول، موصوف ہافت بجر و جہا بجر و طرف مستقر کلون کے متعلق ہو کر مبتدا محذوف ہو کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔ او استیما یہیہ کان لعل ناقص اللہ اسم الجلال اس کا اسم علی حرف جار لعل ہیہ مرکب انسانی بجر و جہا بجر و طرف متعلق مقدم مقتدرا و اسم فاعل ہُو ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل بافاعل و متعلق شہ جملہ ہو کر خبر، لعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہوں۔

الْمَآءِ وَ الْبُنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَ الْبَقِيْثُ الصُّلْحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ  
خَيْرٌ اَمَلًا ﴿۷﴾

آیت نمبر ۳۶: الْمَآءِ وَ الْبُنُوْنَ معطوف علیہ با معطوف مبتدا زينة الخلیوة الدنیاء مرکب توصیفی مضارع علیہ، مرکب انسانی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او ماعطف البقیث الصلحات مرکب توصیفی مبتدا خیر و اسم تفضیلی ہیہ ضمیر مستتر فاعل عِنْدَ رَبِّكَ مرکب انسانی مفعول فیہ ثوابا تیز پہاوں ل کر شہ جملہ ہو کر معطوف علیہ، او ماعطف خیر و اسم تفضیلی ہیہ ضمیر مستتر فاعل اَمَلًا تیز، تینوں ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ مستانفہ ہوں۔

وَ يَوْمَ نَسْفُذُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۗ لَآ وَ حَشَرْنَا مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿۸﴾

آیت نمبر ۳۷: او استیما فیہ یومہ مضاف نَسْفُذُ لعل نَسْفُذُ مستتر فاعل الجبال مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، او ماعطف کوی لعل آت ضمیر مستتر فاعل الأرض ذوال لیل بارزۃ اسم فاعل ہیہ ضمیر مستتر فاعل سے ل کر حال، ذوال لیل باحال مفعول بہ، تینوں ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف یومہ کا مضاف علیہ، پھر مرکب انسانی لعل محذوف اذکر کا مفعول بہ ہے ناؤ کوز لعل امر آت مستتر فاعل و مفعول بہ سے ل کر جملہ انشائیہ مستانفہ ہوں۔ او ماعطف حشرونا لعل نا ضمیر فاعل لہم ضمیر مفعول بہ، تینوں ل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مآء ماعطف لَمَّا نَسْفُذُ لعل نَسْفُذُ مستتر فاعل و مفعول بہ جہا بجر و طرف مستقر کلون کے متعلق ہو کر حال مقدم احدا ذوال لیل موصوف، دونوں ل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف نَسْفُذُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

وَعَرِّضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا ۚ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ  
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝

آیت نمبر ۱۸: نو اؤ عارضہ عَرِّضُوا فعل مجہول واؤ ضمیر نائب فاعل علی حرف جار ربّک مرکب انسانی مجرور، جملہ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے صَفًّا بمعنی اسم فاعل عَرِّضُوا کے نائب فاعل سے حال ہے، فعل مجہول بہتیب فاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مُسْتَعْرِضٌ پر معطوف ہے۔ کلام موصولہ القسم اور قسم مخدوف ہے۔ قَدْ علامت فعل جِئْتُمُونَا فعل ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ تکاف حرف جار ما حرف مصدری خَلَقْنَا فعل نا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بہ، اَوَّلَ مَرَّةٍ حرف انسانی مفعول فیہ، فعل باقاعل و مفعولین بتاویل مصدر مجرور، جملہ جار مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر بواسطہ موصوف مخدوف مَجِئْتُمُونَا کے مفعول مطلق، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم باجواب قسم جملہ انشائیہ قسمیہ ہوں۔

بَلْ حرف عطف و اضرب زَعَمْتُمْ فعل نا ضمیر فاعل اَنْ مخدوف من الشكلة اور ضمیر شان مقدر اس کا اسم اَنْ نَجْعَلَ فعل نَحْوَنْ مستقر فاعل لَكُمْ جار مجرور طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ ثانی مقدم مَوْعِدًا مفعول بہ اول مؤخر، فعل باقاعل و مفعولین خبریہ ان ہاں خبر ہاں اسمیہ خبریہ زَعَمْتُمْ کے دو مفعول بہ کے قائم مقام ہے، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوزِعُنَا صَالِ هَذَا  
الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا  
يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

آیت نمبر ۱۹: نو اؤ عارضہ و وضع الْكِتَابَ فعل مجہول الْكِتَابُ نائب فاعل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مقام عارضہ فتوسی فعل اَنْتَ ضمیر مستقر فاعل الْمُجْرِمِينَ ذوالحال مُشْفِقِينَ اسم فاعل هُنَّ ضمیر مستقر فاعل مِنْ حرف جار ما موصولہ فیہ جملہ جار مجرور طرف مستقر فعل مخدوف کِتَابَ کے متعلق ہو کر صلہ، موصول ہاں صلہ جار مجرور متعلق ہوئے، اسم فاعل باقاعل و متعلق شہ جملہ معطوف علیہ، واؤ عارضہ يَقُولُونَ فعل ہاواؤ ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ قول ہے، بتیادہ حرف عدم اَدْعُوا کے قائم مقام اَدْعُوا فعل اَنَا مستقر فاعل و یَلْتَكِنَّا مرکب انسانی مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ عدم ہے، ما اسم استنہام کلام حرف جار هَذَا الْكِتَابِ مرکب توسی ذوالحال لَا يُغَادِرُ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل صَغِيرَةً معطوف علیہ، واؤ عارضہ لَا زائدہ کَبِيرَةً معطوف، دونوں مل کر مفعول بہ اول یا لا حرف استنہام اَحْصَى فعل ہو مستقر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ هَذَا الْكِتَابِ سے حال ہے، ذوالحال ہاں صلہ جار مجرور جار طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، مبتدہ جار جملہ اسمیہ انشائیہ عدم کا جواب عدم اجواب مقولہ، قول ہا مقولہ معطوف، معطوف علیہ ہا معطوف اَلْمُجْرِمِينَ کا حال ہے، ذوالحال ہاں تکوسی کا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، معطوف علیہ ہا معطوف مُسْتَعْرِضٌ پر معطوف ہے۔ واؤ عالیہ وَوَجَدُوا فعل واؤ ضمیر فاعل مَا عَمِلُوا موصول ہاں صلہ مفعول بہ اول حَاضِرًا مفعول بہ ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ يَقُولُونَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ واؤ استنہائیہ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ مرکب انسانی فاعل اَحْصَى مفعول بہ،

تینوں میں کہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

● رکوع نمبر ۷ ●

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا اِبْلِیْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ  
عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۚ اَفَتَتَّخِذُوْنَہٗ وَ ذُرِّیَّتَہٗ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِیْ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۗ اَبٰیۤسُ  
لِلظٰلِمِیْنَۙ بَدٰلًا ۙ

آیت نمبر ۵۰: و اذ امتینا فی اذ طرف زمان مضاف قلنا فعل نا ضمیر قائل لِلْمَلٰٓئِكَةِ جہا باجر و طرف لغو متعلق ہوئے فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، اسْجُدُوْا فعل امر و اذ ضمیر قائل لِاٰدَمَ جہا باجر و متعلق ہوئے، تینوں میں کہ جملہ انشائیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ معطوف علیہ مقام عاقلہ سَجَدُوْا فعل و اذ ضمیر قائل اِلَّا حرف استثناء اِبْلِیْسُ مستثنیٰ ہے، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف اِذْ کا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مفعول بہ ہے فعل مخدوف اِذْ کُوْا کا اِذْ کُوْ فعل امر اَنْتَ ضمیر مستقر قائل تینوں میں کہ جملہ انشائیہ امریہ ہوں گا کہ فعل ناقص ہُوْ ضمیر مشترک اس کا اسم مِنَ الْجِنِّ طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مقام عاقلہ فَفَسَقَ فعل ہُوْ ضمیر مشترک قائل عَنْ حرف جار اَمْرٍ مضاف بہ کہ مرکب اضافی مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں۔

ہمدہ حرف استفہام قیام عاقلہ اور معطوف علیہ مخدوف ہے تَتَّخِذُوْنَ فعل و اذ ضمیر قائل اَوْلِیَآءَ ضمیر معطوف علیہ، و اذ عاقلہ ذُرِّیَّتَہٗ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ اِذْ اَوْلِیَآءَ موصوف ہیں حرف جار دُوْنِیْ مرکب اضافی مجرور، جار باجر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف با صفت مفعول بہ جانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ انشائیہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ متانفہ ہوں و اذ حال ہُوْ ضمیر مبتدا، لَکُمْ جار باجر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم عَدُوٌّ ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال خبر، مبتدا با خبر جملہ امریہ خبریہ ہو کر تَتَّخِذُوْنَ کے دوسرے مفعول سے حال ہے، اَبٰیۤسُ فعل ذم لِلظٰلِمِیْنَ جہا باجر و طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم بَدٰلًا ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال تمیز ہے اَبٰیۤسُ کی ضمیر مشترک سے، تمیز یا تمیز اَبٰیۤسُ کا قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم اور مبتدا مخصوص بالذم مخدوف ہے، ہو، مبتدا با خبر جملہ امریہ انشائیہ متانفہ ہوں۔

مَاۤ اَشْهَدُوْۤا تَهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَخَلَقَ اَنْفُسِہُمْ ۙ وَ مَا كُنْتُمْ مُّتَخِدِّۙ  
اَلْمُضِلِّیْنَۙ عَصٰۤداً ۙ

آیت نمبر ۵۱: مَاۤ اَشْهَدُوْۤا تَهُمْ فعل تام معنومہ ضمیر قائل ہُوْ ضمیر منصوب مفعول بہ اِذْ خَلَقَ مضاف اَلسَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ معطوف علیہ با معطوف مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی مضاف علیہ ہو اذ عاقلہ لَا تَاۤمِدُہ خَلَقَ اَنْفُسِہُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول بہ جانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ ہو اذ عاقلہ مَاۤ اَشْهَدُوْۤا تَهُمْ کُنْتُمْ فعل ناقص تہم معنومہ ضمیر اس کا اسم مُتَخِدِّۙ اسم قائل مضاف اَلْمُضِلِّیْنَ مضاف الیہ معنی مفعول بہ اِذْ عَصٰۤداً مفعول بہ جانی اور اسم قائل کا قائل اَنَا ضمیر مشترک ہے، اسم قائل





وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ  
سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝

آیت نمبر ۵۵: واو استیثاء فی مآخرف لئی مَنَعَ فعل التَّكْسِ مفعول بہ اذَلْ اَنْ حرف مصدری و نصب یُؤْمِنُوا فعل واو ضمیر قائل، دونوں مل کر بتا ویں مصدر مفعول بہ، یعنی باؤ طرف نان مضاف جَاءَ فعل هُجْر مفعول بہ الْهُدَى قائل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مضاف الیہ، پھر مرکب انشائی مَنَعَ کا مفعول فیہ ہے، فعل باقائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ یَسْتَغْفِرُوا وَا فاعل واو ضمیر قائل یُؤْمِنُوا مرکب انشائی مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف، پھر معطوف علیہ یا معطوف بتا ویں مصدر مَعَا منصوب مَنَعَ کا مفعول بہ، یعنی ہے بِالْاَحْرَفِ اسْتِثْنَاءً اَنْ حرف مصدری و نصب تَأْتِیَ فعل هُجْر مفعول بہ سُنَّةُ الْأَوَّلِیْنَ مرکب انشائی قائل، تینوں مل کر معطوف علیہ یا وَا عاطفہ تَأْتِیَ فعل هُجْر مفعول بہ، الْعَذَابُ ذُو الْعَالَمِ قُبُلًا حال، ذُو الْعَالَمِ باحال، یَأْتِیَ کا قائل، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، معطوف علیہ یا معطوف بتا ویں مصدر مَنَعَ کا قائل مؤخر ہے، فعل باقائل و مقادیر مل جملہ جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں۔

وَمَا نُزِیْلُ الْمُسْلِیْنَ إِلَّا مُبَشِّرِیْنَ وَ مُنذِرِیْنَ ۚ وَ یُجَادِلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا  
بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوا الْبِیْعَ وَ مَا أَنْذَرُوا هُزُوًا ۝

آیت نمبر ۵۶: واو عاطفہ مآخرف لئی نُزِیْلُ فعل تَخْنِ ضمیر مستتر قائل الْمُسْلِیْنَ ذُو الْعَالَمِ اِلْحْرَفِ اسْتِثْنَاءً مُبَشِّرِیْنَ اِسْم قائل هُجْر ضمیر مستتر قائل سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ مُنذِرِیْنَ اِسْم قائل هُجْر ضمیر مستتر قائل سے مل کر معطوف، دونوں مل کر حال، ذُو الْعَالَمِ باحال مفعول بہ، فعل باقائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہوں، واو استیثاء فیہ یُجَادِلُ فعل الَّذِیْنَ اِسْم موصول كَفَرُوا وَا فاعل واو ضمیر قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ قائل بِالْبَاطِلِ جار باجور و طرف لئو متعلق ہونے، لاہر جارہ برائے تعلیل اور اس کے بعد ان مقدر ہے لِيُدْحِضُوا فاعل واو ضمیر قائل یہ جار باجور و طرف لئو متعلق ہونے الْحَقَّ مفعول بہ، چاروں مل کر بتا ویں مصدر جُور، جار باجور و متعلق جانی ہونے، فعل باقائل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں، واو استیثاء فیہ یا حالیہ اتَّخَذُوا فاعل الَّذِیْنَ اِسْم موصول مَعطوف علیہ، واو عاطفہ مَا اِسْم موصول اَنْذَرُوا فعل مجہول واو ضمیر تابع قائل سے مل کر صلہ، موصول باصلہ معطوف، معطوف علیہ یا معطوف مفعول بہ اذَلْ هُزُوًا وَا مفعول بہ، یعنی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہے یُجَادِلُ لئی ضمیر قائل سے حال ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَ لَوِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا ۗ اِنَّا جَعَلْنَا  
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْا وَ فِيْ اَآذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَ اِنْ كَذَّبُوْهُمُ اِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ  
يَهْتَدُوْا ۗ اِذَا اَبَدًا ۝

آیت نمبر ۵۷: واو استیثاء فی مَنْ اِسْتِثْنَاءً مِمَّنْ اِسْم تفضیل هُو ضمیر مستتر قائل مِّنْ حرف جار مَن موصول ذُكِّرَ فعل مجہول هُو ضمیر تابع قائل، بِنَاءً جارہ اِلَیْ اِسْم مفعول بہ، جار باجور و طرف لئو متعلق ہونے، فعل مجہول بِتَابِ قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مَعَا عاطفہ اَعْرَضَ فاعل هُو ضمیر مستتر قائل عَنْهَا جار باجور و طرف لئو متعلق ہونے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ

محذوف اول ہوا واو عاقلہ لُیْءِ فُلٍ هُوَ خَمِيرٌ مَشْتَرَا فاعل موصولہ قَدَّمَتْ فاعلہ انسانی فاعل اور قَدَّمَتْ کا موصول ہے۔ خَمِيرٌ محذوف ہے، جنس لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول بہ لُیْءِ کا موصول ہے، فُلٍ بالناقل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ محذوف ثانی، محذوف علیہ یا محذوفین مَعْنِ کا صلہ موصول بہ صلہ مجرور، جملہ مجرور ظرف لہ متعلق ہوئے، مَاسٍ تَقْتَلِينَ بالناقل و متعلق شیعہ جملہ خبریہ جملہ خبریہ جملہ اسمیہ فاعلیہ ہوں۔

إِنَّ حَرْفٌ تَقْتَلِينَ ناخبر اس کا مَجَلَّتْنَا فعل ناخبر فاعل علی حرف جملہ فُلٍ بھم مَرْكَبٍ انسانی مجرور، جملہ مجرور ظرف مستقر کَلِمَاتٍ کے متعلق ہو کر مفعول ہے ثانی مقدم اَكْبَتْهُ مفعول بہ اول مؤخر اَنْ حَرْفٌ معدی و نصب يَقْتَلُونَ فعل ناخبر مفعول بہ جَمِيرٌ مفعول بہ جنس لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہے، جَمِيرٌ مفعول بہ اول مؤخر اَنْ حَرْفٌ معدی و نصب يَقْتَلُونَ فعل ناخبر مفعول بہ جَمِيرٌ مفعول بہ جنس لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہے، جَمِيرٌ مفعول بہ اول مؤخر اَنْ حَرْفٌ معدی و نصب يَقْتَلُونَ فعل ناخبر مفعول بہ جَمِيرٌ مفعول بہ جنس لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہے، جَمِيرٌ مفعول بہ اول مؤخر اَنْ حَرْفٌ معدی و نصب يَقْتَلُونَ فعل ناخبر مفعول بہ جَمِيرٌ مفعول بہ جنس لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہے۔

واو عاقلہ فِی حَرْفٍ جَاءَ اَلْاَنْعَامُ مَرْكَبٍ انسانی مجرور، جملہ مجرور بواسطہ عطف کے جَعَلْنَا کا مفعول ثانی مقدم ہُوَ عَقُوْبًا بواسطہ عطف کے جَعَلْنَا کا مفعول ہے اول مؤخر ہے واو عاقلہ یَسْتَمِیْنُ اِن حَرْفٌ شرط قَدْ عَلٌ فعل ناخبر مَشْتَرَا فاعل ہُوَ ضمیر منسوب مفعول بہ اولیٰ اَلْهٰذِی جملہ مجرور ظرف لہ متعلق ہوئے، مَعْدُوْلٍ لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہے، مَعْدُوْلٍ لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہے، جَمِيرٌ مفعول بہ اول مؤخر اَنْ حَرْفٌ معدی و نصب يَقْتَلُونَ فعل ناخبر مفعول بہ جَمِيرٌ مفعول بہ جنس لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہے۔

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ لَا تُوِيْءُ اِخْذُ هُمْ بِمَا كَسَبُوْا الْعَجَلُ لَهُمُ الْعَذَابُ اَبَلٌ لَّهُمْ هُوَ عِدٌّ لَنْ يَّجِدَ وَاَمِنْ ذُوْنِهٖ هُوَ بَلَا ۝

آیت فصیحہ ۱۸ ہوا و استیغاثہ فِی رَبِّكَ مَرْكَبٍ انسانی مبتدأ الْغَفُوْرُ خبر اول ذُو الرَّحْمَةِ مَرْكَبٍ انسانی خبر ثانی مبتدأ خبرین جملہ اسمیہ خبریہ مستند ہوں۔ اَنْ حَرْفٌ شرط اِخْذُ فعل ناخبر مَشْتَرَا فاعل ہُوَ ضمیر مستقر فاعل ہُوَ ضمیر منسوب مفعول بہ مبتدأ حرف جملہ مَعْدُوْلٍ کہ تُوِيْءُ اِخْذُ فعل ناخبر فاعل اَنْ حَرْفٌ معدی و نصب یَسْتَمِیْنُ اِن حَرْفٌ شرط قَدْ عَلٌ فعل ناخبر مَشْتَرَا فاعل ہُوَ ضمیر منسوب مفعول بہ اولیٰ اَلْهٰذِی جملہ مجرور ظرف لہ متعلق ہوئے، مَعْدُوْلٍ لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہے، مَعْدُوْلٍ لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہے، جَمِيرٌ مفعول بہ اول مؤخر اَنْ حَرْفٌ معدی و نصب يَقْتَلُونَ فعل ناخبر مفعول بہ جَمِيرٌ مفعول بہ جنس لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہے۔

وَتِلْكَ الْقُرْاٰی اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا كَلَّمُوْا وَاَوْجَعْنَا لِهٰمْ لِحْمٰتِهِمْ هُوَ عِدٌّ ۝ آیت فصیحہ ۲۵ ہوا و اعجازہ تِلْكَ الْقُرْاٰی موصول بہ صحت یا سبب متبادل یا مبین یا عطف بیان مبتدأ مَا كَلَّمْنَا فعل ناخبر فاعل ہُوَ ضمیر منسوب مفعول بہ لَمَّا یعنی جنین حَرْفٌ زمان مَضَّافٌ كَلَّمْنَا فعل ناخبر فاعل ہُوَ ضمیر فاعل مَضَّافٌ لِهٰمْ مفعول بہ، فعل ناقص اَوْجَعْنَا مفعول بہ جَمِيرٌ مفعول بہ اول مؤخر اَنْ حَرْفٌ معدی و نصب يَقْتَلُونَ فعل ناخبر مفعول بہ جَمِيرٌ مفعول بہ جنس لکڑی کا جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول ہے۔

معطوف خبر ہے، مبتدایا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ویکل العنکوب معطوف ہے۔

﴿۹﴾ رکوع نمبر ۹

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْنِهِ لَا آتِيحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿۱۰﴾

**آیت نمبر ۱۰:** او ایستینا فی اذ عرف زمان مضاف قال فعل مؤنسی مرفوع تقدیر انا فعل لا حرف جار قتنہ مرکب اضافی مجرور، جار با مجرور متعلق ہونے، فعل با انا فعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قول، لا آتیح فعل ناقص انا ضمیر مشترک اس کا اسم حقیقی حرف غایت و جر اس کے بعد انا مقدم ہے، ابلغ فعل انا ضمیر مشترک قائل مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر معطوف علیہ، اَوْ عاطفہ اَلَمْضِيَ فعل انا ضمیر مشترک قائل حُقُبًا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف تا و دلیل مصدر مجرور، جار با مجرور ظرف مستقر سائرہ کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر مقولہ، قول با مقولہ مضاف الیہ، مضاف با مضاف الیہ مفعول بہ ہے فعل مخدوف اذ کو کا اذ کو فعل امر اکت مستقر قائل و مفعول بہ سے مل کر جملہ انشائیہ امریہ مستانفہ ہوا۔

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَيِّدُكُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿۱۱﴾

**آیت نمبر ۱۱:** قاء عاطفہ لکن ظرفی متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم بلغ فعل الف ضمیر قائل مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا مرکب اضافی مفعول بہ، پاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط نسیا فعل الف ضمیر قائل حُوتَهُمَا مرکب اضافی مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ معافہ اتخذ فعل هو ضمیر مشترک قائل سَيِّدُكُ مرکب اضافی ذوالحال فی الْبَحْرِ ظرف مستقر کائنا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال با حال مفعول بہ، اول سر بجا مفعول بہ ثانی، فعل با انا فعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہو کر قال پر معطوف ہے۔

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتْنِهِ اِنِّيَا عَدَا عَنَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿۱۲﴾

**آیت نمبر ۱۲:** قاء عاطفہ لکن ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فیہ مقدم جاوَزَا فعل الف ضمیر قائل، فعل با انا فعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قال فعل هو ضمیر مشترک قائل، لا حرف جارہ قتنہ مرکب اضافی تقدیر انا مجرور، جار با مجرور متعلق ہونے، فعل با انا فعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، انا فعل امر اکت ضمیر مشترک قائل اِنِّيَا ضمیر مفعول بہ، اول عَدَا انا مرکب اضافی مفعول بہ ثانی، فعل با انا فعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط با جزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ لا حرف موطن القسم اور قسم مخدوف ہے قَدْ علامت فعل لَقِينَا فعل ناقص ضمیر قائل میں حرف جار سَفَرِنَا مرکب اضافی موصوف ہلذا صفت، موصوف با صفت مجرور، جار با مجرور ظرف نحو متعلق ہونے نصبًا مفعول بہ (از فقیر) اور بعض نے تمیز بتایا ہے، فعل با انا فعل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ قسم کا جواب، قسم با جواب جملہ مستانفہ مطلقہ ہوا۔

قَالَ اَرَا عَيْتٍ اِذْ اَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطٰنُ

اَن اذ كره كره ۱۲ وَ اتخذ سيدك في البحر صلب عجبًا ﴿۱۳﴾

**آیت نمبر ۱۳:** قال فعل هو مستقر قائل، دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ہمہ ذہ حرف استفہام اَرَا عَيْتٍ فعل ناقص تاکہ معطوفہ ضمیر

فاعل اس کا مفعول مخدوف ہے حالانکہ پھر حال کیا ڈھال ہے باذی صرافاً اَوْ كَيْفَا فاعل نا ضمیر فاعل اِلَى الصَّخْرَةِ جہد باجر و در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مضارع ایہ پھر مرکب اضافی کا کئیٹا کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال مخدوف بحال مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ اضافیہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لقاہ استثنائیہ اِنْ حرف تحقیق تاکہ ضمیر اس کا اسم تیسینٹ فعل تاکہ مضمومہ ضمیر فاعل الخَوْثِ مبدل من اَنْ حرف مصدری و نصب اذْکُو فاعل انا ضمیر مستتر فاعل اے ضمیر منصوب مفعول بہ، تینوں مل کر تارویل مصدر بدل مبدل منہ با بدل تیسینٹ کا مفعول بہ فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ بن کر خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ ہو۔

واو اعتراضیہ تاکہ فی اَمَلِی نون و تاقیہ کا، یاء ضمیر منصوب مفعول بہ اذل اے ضمیر منصوب مفعول بہ ثانی، اِلَا حرف استثناء الشَّيْطٰنِ مستثنیٰ مفرغ فاعل، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مترشحہ ہو لقاہ عاقل اَخَذَ فاعل اے ضمیر مستتر فاعل سَبِيْلَهُ مرکب اضافی ذوالحال فی البَحْرِ ظرف مستقر کا کئیٹا کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال بحال مفعول بہ اذل عَجَبًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ اِنِّی تیسینٹ پر معطوف ہے۔

### قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبِيْعُ مِنْ قَارِئِدَا عَلٰى اَنْ اَرٰهُمَا قَصَصًا ۝

آیت نمبر ۲۳: قَالَ فاعل اے ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اذل اے اسم اشارہ مبتدأ مع اسم موصول کُنَّا فاعل ناقص نا ضمیر اس کا اسم تَبِيْعُ یہ اصل میں تَبِيْعِي ہے تخفیف کی وجہ سے رسم الخط میں یہ مخدوف ہے تَبِيْعُ فعل تَحْوِنُ مستتر فاعل، دونوں مل کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول با صلہ خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لقاہ عاقل اَرٰهُمَا فاعل اے ضمیر ذوالحال قَصَصًا مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہو کر حال، ذوالحال بحال فاعل علی حرف جہد اَنْ اَرٰهُمَا مرکب اضافی باجر و جہد باجر و در طرف لغو متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ قَالَ پر معطوف ہے۔

### فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنُهُ مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

آیت نمبر ۲۵: فقاء عاقل و وجدَا فاعل اے ضمیر فاعل عَبْدًا موصوف، مین حرف جار عبادنا مرکب اضافی باجر و جہد باجر و در طرف مستقر کا کئیٹا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت ذوالحال، اٰتَيْنَا فاعل نا ضمیر فاعل اے ضمیر منصوب مفعول بہ اذل و حَمِيَّةٌ موصوف مین حرف جار عبادنا مرکب اضافی باجر و در طرف مستقر کا کئیٹا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ واو عاقل عَلَّمْنَا فاعل نا ضمیر فاعل اے ضمیر مفعول بہ اذل، مین حرف جار لَدُنَّا مرکب اضافی باجر و جہد باجر و در طرف لغو متعلق ہوئے عَلَّمْنَا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف عَبْدًا کا حال ہے یا اس کی صفت ثانیہ ہے، ذوالحال بحال و وجدَا کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَوْ كَيْفَا پر معطوف ہے۔

### قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلْ اَتَيْتَكَ عَلٰى اَنْ تَعْلِمَنِيْ مِمَّا عَلَّمْتَنِيْ رُشْدًا ۝

آیت نمبر ۲۶: قَالَ فاعل لہ جہد باجر و در طرف متعلق ہوئے مُوسٰى مرفوع تقدیر فاعل، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، کھل حرف استفہام اَتَيْتَ فاعل انا ضمیر مستتر فاعل کا و ضمیر منصوب مفعول بہ علی حرف جہد اَنْ حرف مصدری و نصب تَعْلِمُوْهُ فاعل اذک تے ضمیر مستتر فاعل نون

وقایہ کا یہاں مخدوف ضمیر مفعول بہ اول میں حرف جار کا مصدر یہ جُئِنتِ فعل مجہول تاکہ مفتوحہ ضمیر نائب فاعل، دونوں مل کر بتولیں مصدر مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے، وھذا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و متعلق و مفعولین بتولیں مصدر مجرور، جار مجرور متعلقا پر اس کے متعلق ہو کر اَنْبِئُكَ مفعول بہ سے حال ہے، اَنْبِئُكَ فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

### قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۱۰

**آیت نمبر ۱۰:** قَالَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۱۰: قَالَ فعل ہو ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اِنَّ حرف مشبہ بالفعل کاف ضمیر اس کا اسم لَنْ تَسْتَطِيعَ فعل اِنَّک متستر ذوالحال، معی مرکب اضافی ماہیثیہ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال فاعل صَبْرًا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِنَّ کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

### وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۝۱۱

**آیت نمبر ۱۱:** وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۝۱۱: وَ حرف عطف کَیْفَ اسم متغیر کا اِنْتَا کا مفعول نہ ہو کر حال مقدم تَصْبِرُ فعل اَنْتَ ضمیر متستر فاعل علی حرف جار مَا اسم موصول لَمْ تُحِطْ فعل اَنْتَ ضمیر متستر فاعل یہ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، اَنْتَا مفعول مطلق میں غیر لغتہ، فعل بافاعل و متعلق و مفعول مطلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول، صلہ جار مجرور، جار مجرور تَصْبِرُ کے متعلق ہوئے، فعل بافاعل و متعلق جملہ اضافیہ ہو کر اِنَّ پر معطوف ہے۔

### قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّ لَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ۝۱۲

**آیت نمبر ۱۲:** قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّ لَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ۝۱۲: قَالَ فعل ہو ضمیر متستر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول میں علامت فعل تَجِدُنِيْ فعل اَنْتَ ضمیر متستر فاعل نون وقایہ کا یہاں ضمیر منسوب مفعول بہ اول صَابِرًا مفعول بہ ثانی، فعل بافاعل و مفعولین مقولہ، قول با مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لیں حرف شرط هٰذَا اللّٰهُ فعل بافاعل جملہ فعلیہ خبریہ شرط اور جزاء مخدوف ہے تَجِدُنِيْ صَابِرًا جس پر جملہ سابقہ وال سے شرط باجزاء جملہ معترضہ ہو لہذا عطف لَمْ اَعْصِيْ فعل اَنَا ضمیر متستر فاعل لَكَ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے اَمْرًا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سَتَجِدُنِيْ پر معطوف ہے یاغْتَبِرُ خاص کی بتولیں میں ہو کر صَابِرًا پر معطوف ہے۔

### قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۱۳

**آیت نمبر ۱۳:** قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۱۳: قَالَ فعل ہو ضمیر متستر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، فَاَدْ جزائیہ اور اس کی شرط مخدوف ہے اِنْ اَتَّبَعْتَنِيْ اَلصَّبْرُ بان حرف شرط اَتَّبَعْتَنِيْ فعل تَا مفعول بہ اول صَابِرًا مفعول بہ ثانی، تَسْأَلْنِيْ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط معاقہ جزائیہ لَا تَسْأَلْنِيْ فعل ثانی اَنْتَ ضمیر متستر فاعل نون وقایہ کا یہاں ضمیر مفعول بہ، حَتّٰى شیء جو جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، حَتّٰى حرف غایت و جزا اور اس کے بعد اَنْ مقتدر ہے اُحْدِثُ فعل اَنَا ضمیر متستر فاعل لَكَ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مِنْهُ جار مجرور و ظرف متستر کا اِنْتَا کے متعلق ہو کر حال مقدم ذِكْرًا ذوالحال مؤخر، ذوالحال باحال اُحْدِثُ کا مفعول بہ، فعل بافاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ تاویل مصدر مجرور، جار مجرور لَا تَسْأَلْنِيْ کے متعلق جملی ہوئے، فعل بافاعل و مفعول بہ دو متعلقین جملہ اضافیہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو کر شرط مخدوف کی

۱۷ء شرط محذوف باجزاء مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

﴿وَكُلُّ نَفْسٍ﴾

فَانطَلَقًا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَتْ فِي السَّفِينَةِ حَرَقَهَا ؕ قَالَ اٰخَرَتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ؕ لَقَدْ

جِئْتُ شَيْئًا اِمْرًا ﴿۱۸﴾

**آیت نمبر ۱۷:** فَأَمَّا نَفْسٌ مِّنْ اِنطَلَقَ فعل ضمیر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ حَتَّىٰ ابتدائیہ اذا شرطیہ مفعول فی مقدم رُكِبَتْ فعل الف ضمیر فاعل فی السَّفِينَةِ جہاد با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و متعلق و مفعول فی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط حَتَّىٰ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ۱۷ء شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔ قَالَ فعل ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول غمزہ حرف استفہام حَرَقَتْ فعل نیکہ مفتوحہ ضمیر فاعل هَا ضمیر مفعول بہ، لآء جارہ تطیلیہ اور اس کے بعد ان مقدم ہے تُغْرِقُ فعل اکت ضمیر مستتر فاعل اَهْلَهَا مرکب انسانی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ بتا ویل مصدر مجرور، جارہ با مجرور متعلق ہوئے، فعل با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لآء موطئہ القسم اور قسم محذوف ہے قَدْ علامت فعل جِئْتُ فعل ثناء مفتوحہ ضمیر فاعل هَيْئًا امر مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، قسم با جواب جملہ انشائیہ قسمیہ ہو۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿۱۹﴾

**آیت نمبر ۱۸:** قَالَ فعل ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ہمزہ حرف استفہام اَلَمْ اَقُلْ فعل انا ضمیر مستتر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اِنَّ حرف مشبہ بالفعل کاف ضمیر منصوب اس کا اسم لَنْ تَسْتَطِيْعَ فعل اکت ضمیر مستتر ذوالحال معی مرکب انسانی مآثیثیا کا مفعول فیہ ہو کر حال، ذوالحال با حال فاعل صَبْرًا مفعول بہ، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، اِنَّ با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفعول، قول با مفعول پہلے قول کا مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

قَالَ لَا تَوَاخِجْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا ﴿۲۰﴾

**آیت نمبر ۱۹:** قَالَ فعل ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لَا تَوَاخِجْنِي فعل نمی اکت ضمیر مستتر فاعل نون و تاقیہ کا یہاں ضمیر مفعول بہ، بہاء حرف جارہ مآصولہ نَسِيتُ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل، فعل با فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول با صلہ مجرور، جارہ با مجرور لَا تَوَاخِجْنِي کے متعلق ہوئے، فعل نمی با فاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لَا تُرْهِقْ فعل نمی اکت ضمیر مستتر فاعل نون و تاقیہ کا یہاں ضمیر مفعول بہ، اِثْلُ وین اَمْرِي جارہ با مجرور ظرف مستقر کائینا کے متعلق ہو کر حال مقدم عُسْرًا ازوالحال مؤخر، ذوالحال با حال مفعول بہ عَاطِي، فعل نمی با فاعل و مفعول بہ جملہ انشائیہ نہیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف مفعول، قول با مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔

فَانطَلَقًا حَتَّىٰ اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ؕ قَالَ اَقْتَلْتَنَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتُ

**شَيْئًا نُّكْرًا ۝**

**آیت نمبر ۴۲:** فَانطَلَقَا کی ترکیب اوپر گزر چکی ہے حقیقی ابتدائیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم لِقَبِيْلًا فعل الف ضمیر فاعل عَلِمْنَا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ بَعْدَ عَاطِفٍ فَكُنْتُ فعل ھُوَ ضمیر فاعل ؤ ضمیر مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ بمعطوف شرطیہ قَالَ فعل ھُوَ مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ھَمْزِہٖ ہا حرف استہمام فَكُنْتُ فعل تاء مفتوحہ ضمیر زوال لیل، بئاء حرف جار ھُنَّ نَفْسٍ مرکب انسانی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَالِیَمَانِ کے متعلق ہو کر حال، ذوال لیل باحال فاعل نَفْسًا بِرَبِّیَّةٍ مرکب توصیفی مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول، قول یا مفعولہ جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہو لکن چھٹت شَيْئًا نُّكْرًا کی ترکیب لَقَدْ چھٹت شَيْئًا اِمْرًا کی طرح ہے جو ابھی آیت نمبر ۴۱ میں گزری ہے۔

**قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝**

**آیت نمبر ۵۵:** قَالَ فعل ھُوَ ضمیر مستتر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول، ھَمْزِہٖ ہا حرف استہمام اَلَمْ اَقُلْ فعل اَنَا ضمیر مستتر فاعل لَكَ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہونے، تیوں مل کر جملہ ابتدائیہ ہو کر قول اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا کی ترکیب آیت نمبر ۴۲ میں گزر چکی ہے اور یہ مفعول ہے، قول یا مفعولہ قول اول کا مفعولہ ہے، پھر وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔

**قَالَ اِنْ سَأَلْتِكِ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُدْوًا ۝**

**آیت نمبر ۶۲:** قَالَ فعل ھُوَ ضمیر مستتر فاعل دونوں مل کر قول اِنْ حرف شرطیہ سَأَلْتِكِ فعل تاء مضمومہ ضمیر فاعل کَانَ ضمیر منسوب مفعول بہ عَنْ شَيْءٍ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہونے بَعْدَ ہا مرکب انسانی مفعول فیہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطیہ بَعْدَ ہا جزائیہ لَا تُصَحِّبِیْ فعل نئی اَنْتَ ضمیر مستتر فاعل نون برائے وقایہ یاء ضمیر مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ ابتدائیہ جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہو کر مفعول، قول یا مفعولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لکن علامت فعل بَلَغْتَ فعل تاء مفتوحہ ضمیر فاعل مِنْ حرف جار لَدُنِّيْ مرکب انسانی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کَانَ کے متعلق ہو کر حال مقدم، عُدْوًا ذوال لیل مؤخر، دونوں مل کر مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مطلقہ ہو ل۔

**فَانطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا اَتَيَا اَهْلًا قَرْيَةٍ اسْتَظَعَمَا اَهْلَهَا فَاَبْوَا اَنْ يُصَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جَدَارًا اَبْرِيْدًا اَنْ يَنْقُصَ فَاَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ اجْرًا ۝**

**آیت نمبر ۷۷:** فَآه استہمام فیہ انطَلَقَا فعل الف ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ ہو لکن حقیقی ابتدائیہ إذا شرطیہ مفعول فیہ مقدم اَتَيَا فعل الف ضمیر فاعل اَهْلًا قَرْيَةٍ مرکب انسانی مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطیہ اسْتَظَعَمَا فعل الف ضمیر فاعل اَهْلَهَا مرکب انسانی مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بَعْدَ عَاطِفٍ اَبْوَا فعل واو ضمیر فاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يُصَيِّفُوْهُمَا فعل واو ضمیر فاعل ھُمَا ضمیر مفعول بہ، تیوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتوہل مصدر مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ بمعطوف جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہو ل۔





وَأَمَّا الْعُلْمُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

**آیت نمبر ۸۰:** واؤ عاقلہ آما حرف شرط و تعسیر العُلْمُ مبتدأ قائم مقام شرط، فقاء جزائے کان فعل ناقص ابُوهُ مرکب اضافی اس کا اسم مؤنث و مؤنثین اسم فاعل ہُنَا ضمیر مستتر فاعل، اسم فاعل باقی خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، فقاء عاقلہ خَشِينَا فعل ناقص ہُنَا ضمیر فاعل آن حرف مصدری و نصب یُزْهِقُ فعل ہو ضمیر مستتر فاعل ہُنَا ضمیر منصوب مفعول بہ طُغْيَانًا وَ كُفْرًا معطوف علیہ با معطوف ضمیر فاعل آن حرف مصدری و نصب یُزْهِقُ کے معنی میں ہو کر یُزْهِقُ کے فاعل سے حال ہے، فعل باقی فاعل و مفعول بہ و مفعول بہ خبریہ بتواہل مصدر خَشِينَا کا مفعول بہ ہے، فعل باقی فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، معطوف علیہ با معطوف العُلْمُ کی خبر ہے، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ آما السَّقِيَّةُ پر معطوف ہے۔

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ وَرَحْمًا ۝

**آیت نمبر ۸۱:** فقاء عاقلہ آردنا فعل ناقص تا ضمیر فاعل آن حرف مصدری و نصب یُبْدِلُ فعل ہُنَا ضمیر منصوب مفعول بہ رُبُّهُمَا مرکب اضافی فاعل ناقص خَيْرًا اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر فاعل مِنْهُ جار باجور و متعلق ہوئے زَكَاةً تیز اسم تفضیل باقی فاعل و متعلق و تیز معطوف علیہ، واؤ عاقلہ أَقْرَبَ اسم تفضیل ہو ضمیر مستتر فاعل وَرَحْمًا تیز، اسم تفضیل باقی فاعل و تیز معطوف، معطوف علیہ با معطوف یُبْدِلُ کا مفعول بہ ثانی، فعل باقی فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ بتواہل مصدر آردنا کا مفعول بہ، فعل باقی فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ خَشِينَا پر معطوف ہے۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا حِسْرَةً مِنْ رَبِّكَ ۝

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

**آیت نمبر ۸۲:** واؤ عاقلہ آما حرف شرط و تعسیر الجِدَارُ مبتدأ قائم مقام شرط، فقاء جزائے کان فعل ناقص ہو ضمیر مستتر اس کا اسم لاکر حرف جار غُلَامَيْنِ موصوف یَتِيمَيْنِ صفت اولیٰ، فی الْمَدِينَةِ جار باجور و طرف مستقر کَانِیْنِ کے متعلق ہو کر صفت ثانیہ، موصوف با صفتین مجرور جار باجور کَانِیْنَا کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاقلہ مَکَانَ فعل ناقص تَحْتَهُ مرکب اضافی کَانِیْنَا کا مفعول بہ ہو کر خبر مقدم کَنْزٌ موصوف لهُمَا جار باجور و طرف مستقر کَانَ کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہ صفت اسم مؤنث، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول، واؤ عاقلہ مَکَانَ فعل ناقص ابُوهُمَا مرکب اضافی اس کا اسم صالِحًا خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی، فقاء عاقلہ آراد فعل رَبُّكَ مرکب اضافی فاعل آن حرف مصدری و نصب یَبْلُغَا فعل الف ضمیر فاعل أَشُدَّهُمَا مرکب اضافی مفعول بہ، فعل باقی فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واؤ عاقلہ یَسْتَخْرِجَا فعل الف ضمیر فاعل کَنْزٌ ہُنَا مرکب اضافی مفعول بہ، وَرَحْمَةً موصوف مِنْ حرف جار رَبُّكَ مرکب اضافی مجرور جار باجور کَانِیْنَا کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہ صفت آراد کا مفعول بہ ہے یَسْتَخْرِجَا فعل باقی فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف بتواہل مصدر آراد کا مفعول بہ، فعل باقی فاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثالث، معطوف علیہ با معطوفات ثلاث الجِدَارُ کی خبر ہے قائم مقام جزاء، مبتدأ

باخبر جملہ اسمیہ خبریہ اَمَّا الْعُلْمُ بِمَعْرُوفٍ ہے۔

واو عطف مآثر ہے فَعَلَتْ فعل تام مضموم ضمیر ذوالہل باصل عن حرف جہا نحوئی مرکب انشائی مجرور، جہا مجرور ظرف مستقر مُنْقَرِیْ کا کے متعلق ہو کر حال ہے ذوالہل باصل فاعل ضمیر منصوب مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ اَمَّا الْجِدَارُ بِمَعْرُوفٍ ہے۔ ذلک اسم اشارہ مبتدئہ، تَأْوِيلٌ مضاف مآثر موصول کلمہ تشبیح فعل الکت مستقر فاعل علیہ جہا مجرور متعلق مقدم مبدئہ مصدر، مصدر اپنے متعلق سے مل کر مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ صلہ موصول باصل مضاف الیہ، پھر مرکب انشائی خبر، مبتدئہ باخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

﴿ رُكُوْعٌ ۱۱ ﴾

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْيَتَيْنِ ۚ قُلْ سَأَلْتُوْا عَلَیْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

آیت نمبر ۸۳: ۱۸۵، ۱۸۶: اور استہانہ یَسْأَلُونَ قُلْ اور ضمیر فاعل کان ضمیر مفعول بہ عن حرف جہا ذی القریئین مرکب انشائی مجرور، جہا مجرور متعلق ہونے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ متانفہ ہوں قُلْ فعل امر الکت مستقر فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ اسمیہ ہو کر قول میں بین علامت فعل، اَتَوْا فعل انکا ضمیر فاعل علیکم جہا مجرور متعلق ہونے وینہ جہا مجرور ظرف مستقر کا کینا کے متعلق ہو کر حال مقدم ذکرا ذوالہل مؤخر ذوالہل باصل مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مقولہ قول با مقولہ جملہ انشائیہ اسمیہ ہوں۔

اِنَّا مَكْنَاكُ فِي الْاَرْضِ ۚ وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝ فَاتَّبِعْ سَبَبًا ۝

آیت نمبر ۸۴، ۸۵: ۱۸۵، ۱۸۶: ان حرف تعین کا ضمیر اس کا اسم مکننا فعل نا ضمیر فاعل کہ جہا مجرور متعلق اول فی الارض جہا مجرور متعلق جانی ہونے، فعل باقاعل و متعلقین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عطف اکتینا فعل نا ضمیر فاعل ضمیر مفعول بہ، بین حرف جہا کُنْ شئی ہو مرکب انشائی مجرور، جہا مجرور ظرف مستقر کا کینا کے متعلق ہو کر حال مقدم، سببنا ذوالہل مؤخر ذوالہل باصل مفعول بہ، فعل باقاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، معطوفین جملہ معطوف ہو کر ان کی خبر بیان ہا م و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں۔

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَرْغَبَ الشَّمْسِ ۚ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۚ وَوَجَدَ عِنْدَهَا

قَوْمًا ۚ قُلْنَا اِذَا الْقَرْيَتَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذَّبَ ۚ وَ اِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ۝

آیت نمبر ۸۶، ۸۷: حَتَّىٰ ابتداء ہے اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم بَلَّغَ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل مَرْغَبِ الشَّمْسِ مرکب انشائی مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرط وَوَجَدَ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل حَمِئَةٍ مفعول بہ ذوالہل تَغْرُبُ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل فی حرف جار حَمِئَةٍ مرکب تو سببی مجرور، جہا مجرور ظرف لغو متعلق ہونے، تین مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حال ذوالہل باصل مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عطف وَوَجَدَ فعل ہو ضمیر مستقر فاعل عِنْدَهَا مرکب انشائی مفعول فیہ قَوْمًا مفعول بہ مہا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جزا، شرط با جزا جملہ شرطیہ ہوں۔



**آیت نمبر ۹۰:** حَقٌّ اِتِّمِدَ اِذَا شَرِطِيه مفعول فی مقدمہ بَلَّغَ فاعل ہو مستتر قائل مَطْلَعُ الشَّمْسِ مرکب انسانی مفعول بہ جہدوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو چکا۔ فاعل ہو مستتر قائل ہا ضمیر ذوالحال کَطْلَعُ فاعل ہی مستتر قائل علی حرف جہد کو موصولہ موصوفہ لَجَعَلُ فاعل تَحْنُ مستتر قائل لَهْمُ جہد باجمرد طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ جانی مقدمہ مِنْ حرف جہد کو موصولہ مرکب انسانی مجرور، جہد باجمرد طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر جملہ مقدمہ سُوْرَةُ الْاَوَّلِ اِلٰی سُوْرَةِ الْاٰخِرِ مفعول مل کر مفعول بہ اول مؤخر، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ قیومہ کی صفت، موصوفہ ہفت مجرور، جہد باجمرد کَطْلَعُ کے متعلق ہوئے، فعل ہا قائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ حال ہے، ذوالحال ہا حُنَّ و جَعَلُ کا مفعول بہ، فعل ہا قائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

كَذٰلِكَ ۙ وَاَوْحٰنَا بِمَا لَدَيْهِ حُبْرًا ۝

**آیت نمبر ۹۱:** كَذٰلِكَ جہد باجمرد طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مبتدا محذوف لامؤدی کی خبر ہے مبتدا با خبر جملہ اسمیہ خبریہ اول واو اثنا فی قد علامت فعل اَحْطٰنَا فاعل ہا ضمیر ذوالحال بِمَا حرف جہد ما اسم موصول لَدَيْهِ مرکب انسانی فعل محذوف کَبَّيْتُ کا مفعول فی ہو کر صلہ موصول ہاصلہ مجرور، جہد باجمرد طرف لغو متعلق ہوئے حُبْرًا مفعول بہ، فعل ہا قائل و متعلق و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ مستفہ ہو۔

ثُمَّ اَتَّبِعَ سَبِيًّا ۝

**آیت نمبر ۹۲:** ثُمَّ اَتَّبِعَ سَبِيًّا تکرب آیت نمبر ۸۹ میں دیکھئے اور یہ لامؤدی کَذٰلِكَ جملہ موصوفہ ہے۔

حَقٌّ اِذَا بَلَّغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِنَّ قَوْمًا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝

**آیت نمبر ۹۳:** حَقٌّ اِتِّمِدَ اِذَا شَرِطِيه مفعول فی مقدمہ بَلَّغَ فاعل ہو مستتر قائل بَيْنَ السَّدَّيْنِ مرکب انسانی بواسطہ موصول محذوف مَكَانًا کے مفعول فی ہے، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو چکا۔ فاعل ہو مستتر قائل مِنْ حرف جہد کو موصولہ مرکب انسانی مجرور، جہد باجمرد طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ جانی مقدمہ قَوْمًا موصوفہ لَا يَكَادُوْنَ فاعل متقابہ والا ضمیر اس کا اسم یَفْقَهُوْنَ فاعل والا ضمیر قائل قَوْلًا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل متقابہ باسم و خبر جملہ انشائیہ ہو کر قَوْمًا کی صفت، موصوفہ ہفت و جَعَلُ کا مفعول بہ اول، فعل ہا قائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

قَالُوْا اِيْذَا الْقَرْيٰتِيْنَ اِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَاْجُوجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ

خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ نَّجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

**آیت نمبر ۹۴:** قَالُوْا فاعل والا ضمیر ذوالحال جملہ فعلیہ خبریہ قول، یاہ حرف نداء اَدْعُوا کے قائم مقام، اَدْعُوا فاعل اَنَا مستتر قائل اَلْقَرْيٰتِيْنَ متلاوی مضاعف مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ انشائیہ نداء، اِنَّ حرف تحقیرن یاْجُوجَ وَ مَاْجُوجَ موصوفہ علیہ با موصوفہ اس کا اسم مُفْسِدُوْنَ اسم قائل لَهْمُ ضمیر مستتر قائل فی الْاَرْضِ جہد باجمرد طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر خبر، اِنَّ باسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ عامہ کا جواب، نداء با جواب مقولہ، قول ہا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لَقَاءَ عَالِقِ هَلْ حرف استفہام لَجَعَلُ فاعل تَحْنُ مستتر قائل لَهْمُ جہد باجمرد طرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر مفعول بہ جانی مقدمہ، خَرْجًا مفعول بہ اول مؤخر، علی حرف جہد اَنْ حرف مصدری و نصب لَجَعَلُ فاعل اَلَّت ضمیر

مستتر نازل بیّنکما مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ یَبَيِّنُهُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف کا کائنات کا مفعول فیہ ہو کر مفعول بہ، ثانی مقدم سَدَّ مفعول بہ، اہل مؤخر، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر مجرور، جار مجرور ظرف لغو تَجْعَلُ کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعولین و متعلق جملہ انشائیہ اِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ اس کے لفظ پر معطوف ہے۔

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقَوْلِهِ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝

آیت نمبر ۹۵: قَالَ فعل ہو مستتر نازل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قول ہے، ما اسم موصول مکنن فعل نون برائے دکائیہ فیہ جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، مرکب اضافی قاعل، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ صلہ، موصول باصلہ مبتدأ، خَيْرٌ اسم تفضیل ہو مستتر نازل، دونوں مل کر خبر، مبتدأ جار خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول، قول، باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو، فَاكَمْ فصيحة اور شرط محذوف ہے اِنْ تَكَلَّمْتِ الْعَوْنُ، اَعِينُونَا فعل امر نون دکائیہ یا مفعول ضمیر مفعول بہ بِقَوْلِهِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے، چاروں مل کر جملہ انشائیہ جزم، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اَجْعَلْ فعل آتا مستتر نازل یَبَيِّنُكُمْ مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ یَبَيِّنُهُمْ مرکب اضافی معطوف، معطوف علیہ با معطوف کا کائنات کا مفعول فیہ ہو کر مفعول بہ، ثانی مقدم رَدْمًا مفعول بہ، اہل مؤخر، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ جزم ہے اور شرط محذوف ہے (کیونکہ یہ جواب امر ہے) اِنْ تَعِينُونِي بِقَوْلِهِ شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

اَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ اِحْتَى اِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا اِحْتَى اِذَا جَعَلَهُ

نَارًا ۝ قَالَ اَتُونِي اُقْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۝

آیت نمبر ۹۶: اَتُونِي فعل امر واو ضمیر قاعل نون برائے دکائیہ یا مفعول ضمیر مفعول بہ، اہل زُبَرَ الْحَدِيدِ مرکب اضافی مفعول بہ، ثانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ انشائیہ قَالَ کے متعلق میں داخل ہے یا اَعِينُونِي کا بدل ہے، اِحْتَى ابتدا سے اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم ساوَى فعل ہو مستتر نازل بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ مرکب اضافی مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، قَالَ فعل ہو مستتر نازل سے مل کر قول انْفُخُوا فعل امر واو ضمیر قاعل سے مل کر متعلق، قول، باقاعل جزم ہے، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہوا۔ اِحْتَى ابتدا سے اِذَا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَعَلَهُ فعل ہو مستتر نازل ضمیر مفعول بہ، اہل نَارًا مفعول بہ، ثانی، فعل باقاعل و مقابل ثلاثہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، قَالَ فعل ہو مستتر نازل سے مل کر قول اَتُونِي فعل امر واو ضمیر قاعل نون برائے دکائیہ یا مفعول ضمیر مفعول بہ، اہل قَطْرًا محذوف مفعول بہ، ثانی، چاروں مل کر جملہ انشائیہ متعلق، قول، باقاعل جزم، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو، اُقْرِغْ فعل آتا مستتر نازل عَلَيْهِ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے قَطْرًا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزم اور شرط محذوف ہے اِنْ تَأْتُونِي قَطْرًا، شرط باجزاء جملہ شرطیہ ہو۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا اَنْ يَنْظَهُوْهُ وَا مَا اسْتَطَاعُوا لَهٗ نَقْبًا ۝

آیت نمبر ۹۷: فَا مفعول متاثر ہے اسْتَطَاعُوا فعل واو ضمیر قاعل اَنْ حرف مصدری و نصب يَنْظَهُوْهُ وَا فعل واو ضمیر قاعل ضمیر مفعول بہ، تینوں مل کر بتاویل مصدر مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ، واو عاطفہ اسْتَطَاعُوا فعل واو ضمیر قاعل لَهٗ جار مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے نَقْبًا مفعول بہ، چاروں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، معطوف علیہ با معطوف جملہ معطوف ہو۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

آیت نمبر ۹۸: قَالَ فعل ہو مستتر فاعل دونوں مل کر قول، هَذَا اسم اشارہ مبتدأ خبر حَقَّةٌ موصوفہ ہیں جادوئی مرکب انسانی مجروح، جادو مجروح طرف مستتر کا تین کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہفت خبر، مبتدأ خبر مقول، قول یا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو لفظ جادو عاقل کا شرطیہ مفعول فیہ مقدم جَاءَ فعل وَعْدُ رَبِّي مرکب انسانی فاعل تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط جَعَلَ فعل ہو مستتر فاعل یا ضمیر مفعول بہ ازل دَكَّاءَ مفعول بہ جانی چادوں مل کر جزاء، شرط یا جزاء جملہ شرطیہ ہو اور او عاقلہ کان فعل ناقص وَعْدُ رَبِّي مرکب انسانی اس کا اسم حَقًّا خبر، فعل ناقص یا اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ جملہ شرطیہ پر معطوف ہے۔

وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجٌ فِي بَعْضٍ وَ نَفَخْنَا فِي السُّمُورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا وَ عَزَّضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَزًّا

آیت نمبر ۹۹: ۱۰۰: وَاوَاتَيْنَا يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَزًّا  
يَمُوجٌ فعل ہو مستتر فاعل فی بعض جادو مجروح طرف لغو متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفعول بہ جانی ہے، فعل ناقص اور مفاعیل ثلاث جملہ متانفہ ہو اور او اتینا فی نَفَخْنَا فعل مجہول ہو مستتر بہ فاعل فی السُّمُورِ جادو مجروح متعلق ہوئے، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مقام عاقلہ جَمَعْنَا فعل ناقص ضمیر مفعول بہ جَمَعْنَا مفعول مطلق، چادوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ازل و او عاقلہ عَزَّضْنَا فعل ناقص ضمیر فاعل جَهَنَّمَ مفعول بہ یومئذٍ مرکب انسانی مفعول فیہ لِّلْكَافِرِينَ جادو مجروح طرف لغو متعلق ہوئے عَزًّا مفعول مطلق، فعل ناقص و مفاعیل ثلاث جملہ فعلیہ خبریہ معطوف جانی، معطوف علیہ یا معطوفین جملہ متانفہ ہو۔

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَ كَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا

آیت نمبر ۱۰۱: الَّذِينَ اسم موصول کانت فعل ناقص أَعْيُنُهُمْ مرکب انسانی اس کا اسم فی حرف جادو عطاء موصوف عن جادو ذکری مرکب انسانی مجروح، جادو مجروح طرف مستتر کا تین کے متعلق ہو کر صفت، موصوفہ ہفت مجروح، جادو مجروح طرف مستتر کا تین کے متعلق ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ مواو عاقلہ کَانُوا فعل ناقص واو ضمیر اس کا اسم لَا يَسْتَطِيعُونَ فعل ناقص ضمیر فاعل سَمْعًا مفعول بہ، تینوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، فعل ناقص یا اسم خبر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ہے، معطوف علیہ یا معطوف ملہ، موصول یا اسلہ لِّلْكَافِرِينَ کی صفت ہے، یا اس سے بدل ہے یا اس سے عطف میان ہے یا انما منصوب فعل منصرف ذمیر کا مفعول بہ ہے۔

﴿ رُكُوعٌ ۱۳ ﴾

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِرِينَ نَزْلًا

آیت نمبر ۱۰۲: هَذِهِ حرف استفہام قادم اتینا فی، اور علامہ زخمیری کی رائے ہے لفظ عاقلہ ہے اور معطوف علیہ مفرد ہے اور اصل عبارت ہے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اموصول یا اسلہ فاعل اَن حرف معدی و نصب یَتَّخِذُوا فعل ناقص واو

ضمیر قائل عبادی مرکب انسانی مفعول بہ اذال میں حرف جار جو فی مرکب انسانی مجرور، جار مجرور طرف مستقر کلثمتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم اور آیاتہ ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ جانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ بتولی مصدر حسب کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقاعل و مفعولین جملہ انشائیہ متانفہ ہو اور یا مفعول علیہ مخذوف کا مفعول بہ اِن حرف تحقیق کا ضمیر اس کا اسم اَحْتَدَتْ اِن فعل کا ضمیر قائل جَہَنَّمَ مفعول بہ اذال لیکھو لیں جار مجرور طرف مستقر کلثمتہ کے متعلق ہو کر حال مقدم ہو گا ذوالحال مؤخر ذوالحال باحال مفعول بہ جانی، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِن کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ متانفہ ہو۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿۳۰﴾

آیت نمبر ۳۰: اِن فعل امر اکت مستقر قائل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر قول، ہَل حرف استفہام نُنبئُ فعل لُحْن مستقر قائل کُم ضمیر منصوب مفعول بہ، تاہم حرف جار اَلْأَخْسَرِينَ اسم تفضیل ہُم ضمیر مستقر قائل اَعْمَالًا تفسیر، تینوں مل کر مجرور، جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے، فعل باقاعل و مفعول بہ و متعلق جملہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ امریہ ہو۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿۳۱﴾

آیت نمبر ۳۱: اَلَّذِينَ اسم موصول ضَلَّ فعل سَعْيُهُم مرکب انسانی ذوالحال فی حرف جار اَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا مرکب تو صیغی مجرور، جار مجرور طرف مستقر کلثمتہ کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال باحال قائل، فعل باقاعل صلہ موصول باصلہ اَلْأَخْسَرِينَ کی صفت ہے، یا اس سے بدل ہے، یا عطف بیان ہے، یا ہُم ضمیر مخذوف کی خبر یا مفعول منصوب فعل مخذوف اَذَعُوا مفعول بہ ہے اور احوالی ہُم ضمیر مبتدہ یَحْسَبُونَ فعل واو ضمیر قائل اِن حرف تحقیق ہُم ضمیر اس کا اسم یَحْسَبُونَ فعل واو ضمیر قائل صُنْعًا مفعول بہ، فعل باقاعل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر اِن کا اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ یَحْسَبُونَ کے دو مفعول کے قائم مقام، فعل باقاعل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدہ یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ سَعْيُهُم کی ہُم ضمیر سے حال ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴿۳۲﴾

آیت نمبر ۳۲: اُولَئِكَ اسم اِشْرہ مبتدہ اَلَّذِينَ اسم موصول كَفَرُوا فعل واو ضمیر قائل تاہم حرف جار اِيَاتِ رَبِّهِمْ مرکب انسانی مفعول علیہ، واو عاطف لِقَائِهِ مرکب انسانی مفعول، مفعول علیہ یا مفعول مجرور، جار مجرور طرف لغو كَفَرُوا کے متعلق ہوئے، فعل باقاعل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ مفعول علیہ بقاہ عاطف حَبِطَتْ فعل اَعْمَالُهُم مرکب انسانی قائل، فعل باقاعل جملہ فعلیہ خبریہ مفعول، مفعول علیہ یا مفعول صلہ موصول باصلہ خبر، مبتدہ یا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفعول علیہ بقاہ عاطف لَا نُقِيمُهُ فعل لُحْن مستقر قائل لَہُمْ جار مجرور طرف لغو متعلق ہوئے یَوْمَ الْقِيَامَةِ مرکب انسانی مفعول فیہ وَزَنًا مفعول بہ، فعل باقاعل و متعلق و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ اُولَئِكَ الَّذِينَ ہے۔

ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الْبَيْتَ وَرُسُلَهُ هُرُوعًا ﴿۳۳﴾



**آیت نمبر ۱۰۶:** ذَلِكُمْ مِمَّا جَاءَ مِنْ رَبِّكَ مُبَدَّلٌ مِنْهُ لِيُخَوِّفَ مِنْهُ رُءُوسَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ۗ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوَكُمْ إِلَى الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۗ وَإِذْ قَالَ ابْنُ مَرْثَدَةَ لِقَوْمِ إِخِيانِهِ إِنَّكُمْ مَعِيَ وَلَا تُؤْتُونَنِي مِنْكُمْ شَيْئًا وَلَا تَسْمَعُونَ لِيَ ۗ لَئِنْ دُعِيتُمْ إِلَى الْكُفْرِ أَتَيْتُكُمْ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَفِّرُوا بِكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ ۗ

بآء حرف جملہ مصدریہ کفروا فعل باء واو ضمیر قائل بنا وائل مصدر مجرور، جملہ باجرور جوڑا آدم مصدر کے متعلق ہے، واو عاطفہ اَتَّخَذُوا فعل واو ضمیر قائل الیق مرکب انسانی معطوف علیہ، واو عاطفہ وَسَمِعُوا مرکب انسانی معطوف، دونوں مل کر معقول بہ لائل هُوَ وَا مفعول بہ ثانی، فعل باقائل و مفعولین جملہ فعلیہ خبریہ کفروا پہ معطوف ہے۔

**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ**

**آیت نمبر ۱۰۷:** إِنَّ حَرْفِ تَحْقِيقِ الَّذِينَ آمَنُوا موصول آمنوا فعل واو ضمیر قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ وَعَمِلُوا فعل واو ضمیر قائل الصَّالِحَاتِ بواسطہ موصوف محذوف اَلَا عَمَلًا کے معقول بہ، تینوں مل کر معطوف، معطوف علیہ با معطوف صلہ، موصول با صلر ان کا نام کائنات فعل ناقص لَهْمُ جملہ باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر خبر مقدم جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ مرکب انسانی و ذوالحال نُزُلًا بواسطہ مضاف محذوف حَوَاتٍ کے حال، ذوالحال باحال اسم مؤخر، فعل ناقص با اسم خبر مقدم جملہ فعلیہ خبریہ ان کی خبر بیان با اسم و خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

**حُلِيِّبِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۖ**

**آیت نمبر ۱۰۸:** حُلِيِّبِينَ اسم قائل هُمْ مستقر قائل فِيهَا جملہ باجرور متعلق ہوئے، اسم قائل باقائل و متعلق لَهْمُ کی ضمیر ہفہ سے حال ہے لَا يَبْغُونَ فعل واو ضمیر قائل عَنْهَا جملہ باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر حال مقدم حِوَلًا ذوالحال مؤخر، دونوں مل کر معقول بہ، فعل باقائل و مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ حُلِيِّبِينَ کی ضمیر قائل سے حال ہے۔

**قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَتِي رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ**

**جِئْتَنَا بِبَيْتِلِهِ مَدَدًا ۖ**

**آیت نمبر ۱۰۹:** قُلْ فعل امر آتت مستقر قائل سے مل کر قول لَوْ حرف شرط کان فعل ناقص الْبَحْرُ اس کا اسم مبداء کا موصوف لآء حرف جملہ کَلِمَتِي رَبِّي مرکب انسانی مجرور، جملہ باجرور ظرف مستقر کائنات کے متعلق ہو کر صفت، موصوف ہفت خبر، فعل ناقص با اسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط لآء جوابیہ نَفَذَ فعل الْبَحْرُ قائل قَبْلَ مضاف آن حرف مصدری و نصب تَنْفَذَ فعل كَلِمَتِي رَبِّي مرکب انسانی قائل، فعل باقائل جملہ فعلیہ خبریہ بنا وائل مصدر مضاف الیہ، پھر مرکب انسانی نَفَذَ کا مفعول فیہ، فعل باقائل و مفعول فیہ جملہ فعلیہ خبریہ جزاء، شرط باجزاء جملہ شرطیہ مفعولہ، قول با مقبولہ جملہ انشائیہ ہو۔ واو حالیہ لَوْ شرطیہ جِئْتَنَا فعل ناقص ضمیر قائل بآء حرف جملہ بَيْتِلِهِ مرکب انسانی مجرور، جملہ باجرور ظرف لغو متعلق ہوئے مَدَدًا کثیر، فعل باقائل و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جزاء محذوف ہے لَنَفَذَ الْبَحْرُ، شرط باجزاء حال ہے الْبَحْرُ سے پہلے مستانفہ ہے۔

**قُلْ إِنَّمَا آتَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ**

**رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝**

**آیت نمبر ۱۰۰:** فَكُلْ مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهَا نَاضِجًا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخٰشِعِينَ  
 مفت، موصوف باصفت خبر، مبتدأ با خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول یا مقولہ جملہ انشائیہ ہوں۔ یُوْتٰی فعل مجہول اِنّی جار با مجرور ظرف لغو متعلق ہوئے۔ اَنْ حرف تحقیق، مَا کان اِلَیْہِ لَمَّا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، وَاجِدُ مرکب تو صیغی خبر، مبتدأ با خبر بتاویل مصدر، تَجِبُ تاقول، فعل مجہول با تَجِبُ تاقول و متعلق جملہ فعلیہ خبریہ اِنّاکِ جار مجلی ہے یا جملہ متانفہ ہے۔

فَاذِکَ اِسْتِثْنَاءٌ فِی مَعْنٰی اِسْمِ شَرْطٍ مَبْتَدَاً کَانَ فَعْلٌ تَائِقٌ مَوْضِعٌ مِمَّا یَسْتَعْرِضُ اسْمًا یَسْتَعْرِضُ فَعْلٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ لِقَاعِ رَبِّهِ مَرْکَبٌ اِضْطِنَاقٌ مَفْعُولٌ بِهِ، تَمِیْزٌ لِّ اِسْمِ شَرْطٍ جَمَلٌ فَعْلِیّہِ خَبَرِیّہِ شَرْطٌ مَقْدَامٌ جَزَائِیّہِ لِيَعْمَلَ فَعْلٌ اِسْمٌ هُوَ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ عَمَلًا صَالِحًا مَرْکَبٌ تَوَصِیّی مَفْعُولٌ مَطْلُوقٌ، فَعْلٌ بِاِقَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ مَطْلُوقٌ جَمَلٌ اِضْطِنَاقٌ اِمْرِیّہِ ہُوَ مَرْکَبٌ مَعْفُوفٌ عَلَیْہِ ہُوَ اِذِ عَاطِفٌ لَا یُشْرِكُ فَعْلٌ نَهْیٌ اَلَّتْ مُسْتَقَرٌّ قَاعِلٌ بِمَاءِ حَرْفِ جَرِّ عِبَادَةِ رَبِّہِ مَرْکَبٌ اِضْطِنَاقٌ مَجْرُورٌ، جَدَارٌ مَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ ہُوَ اَحَدٌ مَفْعُولٌ بِهِ، فَعْلٌ نَهْیٌ بِاِقَاعِلٌ وَ مُتَعَلِّقٌ وَمَفْعُولٌ بِهِ جَمَلٌ اِضْطِنَاقٌ نَهْیٌ ہُوَ مَرْکَبٌ مَعْفُوفٌ عَلَیْہِ بِاِصْطِفَافٍ جَزَاءِہِ شَرْطٌ جَدَارٌ جَزَاءِہِ جَمَلٌ شَرْطِیّہِ ہُوَ مَرْکَبٌ، مَبْتَدَاً بِاِخْبَرِ جَمَلٌ اِسْمِیّہِ خَبَرِیّہِ مُتَانَفِہِ ہُو۔



www.kitabosunnat.com

مکتبۃ الرحمانیہ  
 ۹۹۔۔۔ عے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور  
 لیسر

# أحاديث السبئية

(مسن - حليش معزيب)

لفظ المحدثين الناقد مولانا ظفر احمد العثماني الصحافي المعروف

بالتحرير والتشريح بواسطة:

# أحاديث السبئية

مولانا عليم احمد  
مدرس، جامعہ تہذیب الدعا، کراچی

مکتبہ ممدانیہ  
شماره ۱۰۰، کراچی